


یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔



منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان



۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD
Version

لبیک یا حسینؑ

نذر عباس
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad
Sindh, Pakistan.

www.sabeelesakina.page.fl

sabeelesakina@gmail.com

Presented by www.ziaraat.com

www.ziaraat.com

NOT FOR COMMERCIAL

رسول اللہ
محمد

طبقات ابن سعد

جلد سوم

مُصَنَّفٌ
مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ بْنِ
(المتوفى ۲۳۰ھ)

مکتبۃ المدینہ

نفس اکر دو بازار کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

حصہ پنجم

تابعین و تبع تابعین

یہ کتاب اس عہد سے متعلق ہے جب اسلامی معاشرہ عروج پر تھا اور طاقت ربانی کا سرچشمہ ریگزار عرب سے پھوٹ کر نہ صرف دوسرے ملکوں بلکہ دوسرے براعظموں کو بھی سیراب کر رہا تھا۔ اس حصہ میں تابعین اور تبع تابعین کے حالات بیان کئے گئے ہیں جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ دیکھا۔ اسی طرح تابعین وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور دیکھا اور تبع تابعین وہ حضرات ہیں جنہوں نے تابعین کے عہد کا مشاہدہ کیا۔ یہی وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جن کے زمانے میں اندلس سے انڈونیشیا تک نصف کرہ ارض کے افق پر اسلام کا سورج چمکنے لگا۔

مصنف

محمد بن سعد (المتوفی ۲۳۰ھ)

ترجمہ

علامہ عبداللہ العمادی

نفسِ اکیسی
اُردو بازار، کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت
چومدنی طارق اقبال گامندری
مالک ”نفیس اکیسی“ محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ پنجم)
مصنف علامہ محمد بن سعد المتوفی ۲۴۰ھ
مترجم علامہ عبداللہ العبادی مرحوم
اضافہ عنوانات و حواشی مولانا عبدالمنان صاحب
ناشر نفیس اکیسی اردو بازار - کراچی
قیمت /- روپے

نفیس اکیسی
اردو بازار، کراچی

قصرِ اسلام کے ستون

چوہدری محمد اقبال سلیم گامہداری

رسول اللہ ﷺ کی گود میں آنکھ کھولنے والے خلفائے راشدین کے سائے میں پروان چڑھنے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نگرانی میں تربیت پانے کے بعد اسلامی معاشرے نے جوانی کی منزل میں قدم رکھا۔ جوانی، لغزش، جس کی فطرت ہے اور عزم و استقلال جس کا جوہر۔ جو نیند میں ہو تو شور قیامت بھی نہ چونکا سکے اور جاگنے پر آئے تو زاہد شب زندہ دار رشک کرے۔ سہل پسندی پر آمادہ ہو تو حشر کی پرواہ نہ کرے اور جہد کی منزل میں قدم رکھے تو پہاڑوں کو پیچھے دھکیل دے۔

طبقات ابن سعد کا حصہ پنجم اسی عہد سے متعلق ہے جب اسلامی معاشرہ جوان ہو چکا تھا اور طاقت ربانی کا سرچشمہ ریگزار عرب سے پھوٹ کر نہ صرف دوسرے ملکوں بلکہ دوسرے براعظموں کو بھی سیراب کر رہا تھا اس حصہ میں تابعین اور تبع تابعین کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی یہ اہمیت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کا زمانہ دیکھا اور ان سے رشد و ہدایت کا سبق لیا اسی طرح تابعین وہ برگزیدہ ہستیاں ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دور دیکھا اور تبع تابعین وہ حضرات جنہوں نے تابعین کے عہد کا مشاہدہ کیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جب منافقین نے مصلحت کا لبادہ اتار کر کھلم کھلا مفاد پرستی کو اپنا شعار بنا لیا تھا لیکن ان بزرگوں نے اسلام دشمنی کے طوفانوں کی زد پر دین کامل کا چراغ جلانے رکھا اور یہ انہی کی پامردی اور استقلال کا ثبوت تھا کہ سنگین تنظیمی کمزوریاں اور شدید اندرونی اختلافات پیدا ہو جانے کے باوجود تبلیغ اور فتوحات کا سیل رواں بڑھتا رہا حتیٰ کہ اندلس سے انڈونیشیا تک نصف کرہ ارض کے افق پر اسلام کا سورج چمکنے لگا۔

اس عہد کے بارے میں جتنی تواریخ اور تذکرے ہمارے پاس موجود ہیں ان میں ابو عبد اللہ محمد بن سعد المتوفی ۲۴۰ھ کی تصنیف طبقات الکبریٰ بنیادی اہمیت رکھتی ہے اور متاخرین نے ہمیشہ اس سے استفادہ کیا ہے۔ ابو عبد اللہ بن سعد کی وفات ۲۴۰ھ میں ہوئی۔ ان کا دور ہارون الرشید اور مائون الرشید کا عہد تھا جو علم کی اشاعت کا سنہرے زمانہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کتاب کے متعدد نسخے بغداد کی تاریخی کے دوران ضائع ہو گئے لیکن کسی طرح ایک نسخہ ہندوستان پہنچا اور اس کا انقدر تصنیف کا کچھ حصہ پہلی مرتبہ انیسویں صدی عیسوی میں آگرہ سے طبع ہوا۔ بعد میں بڑے اہتمام سے بیروت میں اس کی اشاعت ہوئی اور اب تو پوری عرب دنیا میں اس کے متعدد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ تقریباً نایاب ہے۔ چنانچہ علم التواریخ کے شائقین و محققین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے نفس

اکیڑی نے زر کثیر صرف کر کے نہایت اعلیٰ پیمانے پر اس کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ چار حصے بیشتر شائع ہو چکے ہیں جن میں پہلے دو حصے اخبار النبی ﷺ کے عنوان سے تیسرا حصہ خلفائے راشدین کے اور چوتھا مہاجرین و انصار کے نام سے شائع ہوا ہے۔ اور اب پانچواں حصہ تابعین و تبع تابعین پیش خدمت ہے۔

طبقات ابن سعد کے حصہ پنجم میں جن عظیم ہستیوں کا ذکر ہے ان میں عبدالرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہم ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خواہش ظاہر کی تھی کہ کاش رسول اللہ ﷺ سے میرے دس بیٹے ہوتے اور ہر بیٹا عبدالرحمن رضی اللہ عنہم کے مثل ہوتا۔ اس میں سلیمان بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہیں خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے حکم کے مطابق مسجد نبوی میں خواتین کو ترویج پڑھانے کی اہم خدمت سونپی گئی تھی۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہم ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور سب سے زیادہ ہم سے مشابہ ہے۔ محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہم ہیں جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا فرمان ہے کہ تم تمام بنی آدم سے جو اس وقت موجود ہیں بہتر ہو۔ ان برگزیدہ لوگوں میں مالک بن ابی عامر رضی اللہ عنہم ہیں جن کی زبان کو پورے عرب میں سند کا درجہ حاصل تھا، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے مقام ابراہیم پر قدم رکھنے پر جہاں جیسے جا رہا تھا کو ڈانٹ دیا تھا۔

ان میں علی اصغر بن حسین رضی اللہ عنہم ہیں جو عرصہ دراز تک اہل بیت کے قافلہ سالار رہے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہم ہیں جو اگرچہ تابعین میں شامل تھے مگر اپنی بندگی اور علم و فضل کے باعث صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں بھی فتویٰ دیا کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے بارے میں جس قدر بھی معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان میں بیشتر کے راوی وہی تھے۔ پھر انہی میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہم ہیں جنہوں نے اپنے عہد خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہم کے دور کی یاد تازہ کر دی تھی۔

ان عظیم ہستیوں کے حالات کا مطالعہ اسلامی نظام و معاشرے کو سمجھنے اور اس عہد سے آج کے دور کا موازنہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ خاص کر آج کل جبکہ ملک کا دستور مرتب کیا جا رہا ہے اس کتاب کا مطالعہ قطعاً ناگزیر ہے۔

طبقات ابن سعد کے حصہ ششم، ہفتم اور ہشتم کا ترجمہ جامعہ عثمانیہ نے شائع نہیں کیا۔ ہم نے ان تینوں حصوں کا اردو ترجمہ مولوی نذیر الحق میرٹھی اور مولانا راغب رحمانی دہلوی سے کروا لیا ہے۔ جو سلسلہ وار شائع کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو شرف قبول بخشے۔

فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ پنجم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۳	کثیر بن الصلت <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۹	طبقة اول: تابعین اہل مدینہ
۳۵	عبدالرحمن بن الصلت <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۰	عبدالرحمن بن سعد بن ربیع الحزومی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۵	عاصم بن عمر بن الخطاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۰	عبدالرحمن بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۵	عبداللہ بن عمر بن الخطاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۰	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> کے ہاں پرورش
۳۵	شہادت فاروق اعظم <small>رضی اللہ عنہ</small> پر آپ کی جذباتی کیفیت	۳۰	دیگر صحابہ <small>رضی اللہ عنہم</small> سے قرابت
۳۶	شکر معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small> میں شمولیت	۳۰	عبدالرحمن بن الاسود <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸	جنگ صفین میں شراکت	۳۱	صبیحہ بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸	تجہیز و تکفین	۳۱	رفاقت صدیقی <small>رضی اللہ عنہ</small> میں سفر کی سعادت
۳۹	ابو حمزہ محمد بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱	نیار بن کرم الاسلمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۹	عبداللہ بن نوفل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱	عبداللہ بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۹	عبداللہ بن نوفل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱	عبداللہ بن عامر کے گھر حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی تشریف آوری
۳۹	مغیرہ بن نوفل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۲	ابو جعفر الانصاری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۹	سعید بن نوفل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۲	ابوہبل الساعدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۹	عبداللہ بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۲	اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۹	یحییٰ بن سعادت	۳۲	حضرت ابو بکر <small>رضی اللہ عنہ</small> سے ملاقات
۳۹	خاندان اور اولاد	۳۳	حضرت اسلم <small>رضی اللہ عنہ</small> کا قبیلہ
۳۳	سلیمان بن ابی حمزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۳	بہنی مولائے عمر بن الخطاب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۳	زمانہ فاروقی میں عورتوں کی امامت	۳۳	مالک الدار <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۳	ربیعہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۳	ابوقرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۳	مکدر بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۳	زبید بن الصلت <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۳	ام المؤمنین سیدہ عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> کی خدمت میں	۳۳	قریش کے ساتھ معاہدہ
۳۳	عبداللہ بن عیاش <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۳	

۶۰	بصرہ کی امارت	۴۵	حارث بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۶۱	فتوحات ابن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بصرہ کی گورنری
۶۲	حضرت سیدنا علی المر قاضی <small>رضی اللہ عنہ</small> سے باہمی تعلق	۴۶	سعید بن العاص <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سامی خدمات	//	آل واولاد کی تفصیل
۶۳	جنگ صفین میں عدم شراکت	۴۷	وفات نبوی کے وقت آپ کی عمر
//	وفات	//	حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> سے مکالمہ
//	عبید اللہ بن عدی الاکبر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> سے قرابت
//	عبدالرحمن بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۴۸	بحیثیت عامل کوفہ
۶۵	عبدالرحمن بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۴۹	اہل کوفہ کی بغاوت
۶۶	محمد بن طلحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۰	حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کا دفاع
	نام رکھنے کے لئے حضور <small>ﷺ</small> کی خدمت میں پیش کیا	//	جنگ جمل سے قبل عوام سے خطاب
۶۷	جانا	۵۱	حضرت مغیرہ بن شعبہ <small>رضی اللہ عنہ</small> کی طرف سے آپ کی تائید
۶۸	جنگ جمل میں شرکت	//	مروان بن الحکم
۶۹	ابراہیم بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نام و نسب اور خاندان
۷۰	مالک بن اوس <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۲	ابتدائی حالات
//	عبدالرحمن بن عبد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حضرت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کا کریمانہ سلوک
//	ابراہیم بن قارظ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حضرت عائشہ <small>رضی اللہ عنہا</small> سے مکالمہ
۷۱	عبداللہ بن عقبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۳	باغیان خلافت سے مقابلہ
//	نوفل بن ایاس الہبذی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شہادت عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small> کے بعد
//	حارث بن عمرو الہبذی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۴	مدینہ کی گورنری
۷۲	عبداللہ بن ساعدۃ الہبذی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	واقعہ حرہ اور مروان
//	نضر بن سفیان الہبذی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۵	ابن زیاد کی سازش
//	علقمہ بن وقاص <small>رضی اللہ عنہ</small>	۵۷	خالد بن یزید سے بدسلوکی
//	عبداللہ بن شداد	۵۸	مروان کی موت
//	جعونہ بن شعوب	//	حضرت علی <small>رضی اللہ عنہ</small> کی پیشینگوئی
۷۳	حماس اللیشی	۵۹	عبداللہ بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبداللہ بن ابی احمد	۶۰	حضور <small>ﷺ</small> کا شفیقانہ برتاؤ

۸۳	محمود بن لبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۳	بلخ بن عوف السلمی
۸۴	سائب بن ابی الباہہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سین ابو جلیلہ
//	عبدالرحمن بن عویم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مالک بن ابی عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سويد بن عویم	۷۴	عبداللہ بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایوب بن ہبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرحمن بن حاطب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ثعلبہ بن ابی مالک القرظی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن الاشعث
۸۵	ولید بن عبادہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن حنظلہ الغسلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۵	غزوہ اُحد کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی
۸۶	عباد بن حمیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ایام حرہ میں اہل مدینہ کی قیادت
//	محمد بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۶	اہل مدینہ سے خطاب
//	سعد بن الجارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شہرہ کی بے حرمتی کرنے والوں سے شدید جنگ
//	ابو امامہ بن سہل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	جرات مندانہ شہادت
۸۷	عبدالرحمن بن ابی عمرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۷	شہادت کے بعد خواب میں زیارت
//	عبدالرحمن بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
۸۸	محب بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۸	نام رکھنے میں حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> سے مشاورت
//	ابوسعید المقبری <small>رضی اللہ عنہ</small>	۷۹	عمارہ بن خزیمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۸۹	ابوعبید سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یحییٰ بن خلد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو کثیر الفلج <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۰	حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> نے آپ کا نام رکھا
//	عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمرو بن سلیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شماس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حنظلہ بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
۹۰	سائب بن خباب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۱	ابو ہارون مسعود بن الحکم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبید بن ام کلاب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مخلد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابن مرسا <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن ابی طلحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوسعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سید الانبیاء <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کی گود میں
//	ہرمزان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۸۲	محمد بن ابی ابن کعب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بارگاہ فاروقی میں پیشی	۸۳	طفیل بن ابی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۹۲	قبول اسلام کا عجیب واقعہ	//	ربیع بن ابی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۰۱	ابوعامر سلیم کی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات	۹۲	محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما
//	ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ابن الحنفیہ کو بیعت نہ کرنے کی ہدایت	//	محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کی والدہ
//	اہل کوفہ کے نام محمد بن حنفیہ کا پیغام	//	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نام و کنیت کی اجازت
۱۰۲	مکہ پر مختار کی لشکر کشی	۹۳	کنیت کے بارے میں اقوال
۱۰۳	قریضہ حج کی ادائیگی	//	اولاد اور خاندان
//	میدان عرفات میں ابن زبیر اور ابن حنفیہ کا اجتماع	۹۴	جنگ جمل میں علمبرادری
۱۰۴	محمد بن جبیر کی ابن حنفیہ سے ملاقات	//	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسم و کفارہ
//	محمد بن جبیر کی ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ملاقات	//	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناراضگی
//	ابن جبیر کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات	//	جنگ صفین میں شرکت
//	ابن جبیر کی بی امیہ کے گروہ سے ملاقات	۹۵	اہل بیت کے عالی حیداروں کو تنبیہ
۱۰۵	مختار کے بارے میں حضرت ابن عباس اور ابن حنفیہ کا خیال	//	مہدی کہہ کر پکارنے والے کو جواب
//	محمد بن علی رضی اللہ عنہ کا مکہ سے اخراج	//	وجہ فضیلت
//	مختار کی موت کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی ابن الحنفیہ کو	//	ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کا خطبہ
۱۰۶	دعوت بیعت	۹۷	حرم میں سکونت کی تاکید
//	ابن الحنفیہ کا عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو جواب	//	شیعوں سے ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کی بیزاری
۱۰۷	عروہ کی ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے سفارش	//	اللہ کی رحمت کا حقدار
//	عبد الملک بن مروان کی ابن الحنفیہ کو امداد کی پیشکش	۹۸	نیت پر اجر
//	عبد الملک کی دعوت پر ابن الحنفیہ کی شام روانگی	//	مختار بن ابی عبید کی عراق روانگی
۱۰۸	عبد الملک کی ابن الحنفیہ کو دعوت بیعت	۹۹	ابن الحنفیہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش
//	ابن الحنفیہ کا عبد الملک کو جواب	//	ابن الحنفیہ کی بیعت کے لئے خفیہ مہم
//	ابن الحنفیہ کی مراجعت	//	حقیقت جاننے کے لئے عراقی وفد کی ابن الحنفیہ سے
۱۰۹	مکہ میں داخلہ کی ممانعت	//	ملاقات
//	ابن الحنفیہ کی مدینہ واپسی	//	جعلی خط اور جھوٹے گواہ
۱۱۰	ابن الحنفیہ کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم	۱۰۰	ابن زیاد کا قتل
//	حجاج کی طرف سے دعوت بیعت	//	محمد بن علی المہدی کے نام مختار کا خط
III	حجاج کی ذمہ داری اور ابن حنفیہ کا جواب	//	یزید کا انتقال اور اہل بیت کی مکہ روانگی
//	عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت	//	ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت سے انکار

۱۲۳	اسیری کے دوران تکالیف	۱۱۱	عبدالملک کا عہد و میثاق
//	ابوبکر بن عبدالرحمن اور ابن مسیب رضی اللہ عنہما کے مابین گفتگو	۱۱۲	ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ اور عبدالملک کی ملاقات
۱۲۴	رہائی کا حکم	//	عبدالملک کا ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے حسن سلوک
//	دورانِ نبوی اور تواضع	۱۱۳	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار
//	دین دشمنوں کی رسوائی کے لئے بدعا	//	حجاج کے خلاف شکایت
۱۲۵	سرکاری وظیفہ لینے سے انکار	//	حجاج اور ابن الحنفیہ کی گفتگو
//	شاہی قاصد اور آپ کی شان بے نیازی	۱۱۴	محمد ابن الحنفیہ کی پوشاک و لباس وغیرہ
۱۲۶	ولید کے ساتھ ملنے سے انکار	۱۱۵	ابن حنفیہ کی وفات
//	بنی امیہ کے بارے میں رائے	//	عمر اکبر بن علی رضی اللہ عنہ
//	نماز کا خصوصی شغف و اہتمام	۱۱۶	عبید اللہ بن علی رضی اللہ عنہ
۱۲۷	گوشہ نشینی	//	مختار کی بدسلوکی
//	ایامِ حرہ میں مسجد نبوی میں قیام	//	بنی سعد کے ہاں قیام
۱۲۸	تقویٰ و پرہیزگاری	۱۱۷	بیعت کے معاملہ سے برأت
۱۲۹	عیب دار کی پردہ پوشی	//	سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ
//	عبادت کی حقیقت	//	سعید کے دادا حزن
//	ابن زبیر اور ابن مروان کے متعلق رائے	//	سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا سن و ولادت
۱۳۰	سلامتی کے لئے دعا	۱۱۸	حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابن المسیب رضی اللہ عنہ کی روایات
//	ختیہ النساء سے بچنے کی تلقین	۱۱۹	شرفِ تلمذ
//	ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی بددعا کا اثر	//	حالاتِ فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ سے واقفیت
۱۳۱	شعائرِ اسلامی کا احترام و تکریم	//	حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی نظر میں
//	ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح	۱۲۰	قوتِ حافظہ
//	عمامہ و دستار	//	ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے پر کوڑوں کی سزا
۱۳۲	پوشاک و لباس	//	ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر
۱۳۳	ایامِ عیال میں نماز کا اہتمام	۱۲۱	تعبیرِ خواب کے دلچسپ واقعات
//	وصیت اور آخری کلمات	۱۲۲	ولید و سلیمان کی بیعت سے انکار
۱۳۴	بستر کو قبلہ رخ کرنے کا واقعہ	//	انکارِ بیعت پر جبر و تشدد کا سامنا
//	دارِ فانی سے رحلت	۱۲۳	عبدالملک کی معذرت اور آپ کا جواب

۱۵۲	اسامیل بن سعد	۱۳۵	عبداللہ بن مطیع الشیبانی
//	عبدالرحمن بن سعد	۱۳۸	عبدالرحمن بن مطیع الشیبانی
۱۵۳	ابراہیم بن نعیم الشیبانی	۱۳۹	سلیمان بن مطیع الشیبانی
//	محمد بن ابی الجہم	//	عبدالرحمن بن سعید الشیبانی
//	عبدالرحمن بن عبداللہ	//	عمرو بن عثمان الشیبانی
۱۵۴	عبدالرحمن بن حویطب	//	عمر بن عثمان الشیبانی
//	ابوسفیان بن حویطب	۱۴۰	ابان بن عثمان الشیبانی
//	عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ	۱۴۱	سعید بن عثمان الشیبانی
۱۵۵	سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ	//	حمید بن عبدالرحمن الشیبانی
//	عبداللہ بن یسار الشیبانی	۱۴۲	ابوسلمہ بن عبدالرحمن الشیبانی
//	عبدالملک بن یسار الشیبانی	۱۴۳	مصعب بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ
۱۵۶	فراقصہ بن عمیر الشیبانی	۱۴۵	طلحہ بن عبداللہ الشیبانی
//	قبیصہ بن ذویب الشیبانی	۱۴۶	موسیٰ بن طلحہ الشیبانی
//	ابوعطفان بن طریف الشیبانی	۱۴۸	عیسیٰ بن طلحہ الشیبانی
//	ابومرہ الشیبانی	//	یحییٰ بن طلحہ الشیبانی
//	جعفر بن عبداللہ	//	یعقوب بن طلحہ الشیبانی
//	عبداللہ بن عتبہ	۱۵۰	زکریاء بن طلحہ الشیبانی
۱۵۷	ولید بن ابی الولید الشیبانی	//	اسحاق بن طلحہ الشیبانی
۱۵۷	طبقة ثانیہ: تابعین اہل مدینہ	//	عمران بن طلحہ الشیبانی
	راویان اسامہ و ابن عمرو و جابر و خدری و رافع و ابن عمر و ابی ہریرہ و سلمہ و ابن عباس و عائشہ و ام سلمہ و میمونہ رضی اللہ عنہم	//	محمد بن سعد الشیبانی
۱۵۷	عروۃ بن الزبیر الشیبانی	۱۵۱	عامر بن سعد الشیبانی
//	نام و نسب کنیت و خاندان	//	عمر بن سعد الشیبانی
//	روایت حدیث میں ثقاہت	//	عمرو بن سعد
۱۵۸	عادات و خصائل	//	عمیر بن سعد
		۱۵۲	مصعب بن سعد الشیبانی
		//	ابراہیم بن سعد الشیبانی
		//	یحییٰ بن سعد

۱۷۱	وفات	۱۵۹	منذر بن الزبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۱	تجہیز و تکفین	۱۶۰	مصعب بن الزبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۱	عبداللہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۰	جعفر بن الزبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۱	عبید اللہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۱	خالد بن الزبیر
۱۷۲	حمزہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۱	عمر بن الزبیر
۱۷۲	زید بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۲	عبیدہ بن الزبیر
۱۷۲	بلال بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۲	حمزہ بن الزبیر
۱۷۳	واقد بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۳	قاسم بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۳	محمد بن جبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۳	گفتگو میں احتیاط
۱۷۳	نافع بن جبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۳	قدریہ کی مذمت
۱۷۴	ابوبکر بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۴	خودداری کا عجیب واقعہ
۱۷۵	عکرمہ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۴	صحابہ <small>رضی اللہ عنہم</small> کے باہمی اختلاف کے متعلق بہترین رائے
۱۷۵	محمد بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۴	خصائل اور لباس کی تفصیل
۱۷۶	مغیرہ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۶	عبداللہ بن محمد
۱۷۶	ابوسعید بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۶	عبداللہ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	طبقة ثانیہ: تابعین	۱۶۷	عبداللہ بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	علی بن الحسین <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۷	سالم بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	میدان کربلا میں	۱۶۷	نام و نسب و کنیت
۱۷۷	پناہ دینے والے کا عجیب سلوک	۱۶۷	نمازی مسلمان کے قتل سے انکار
۱۷۸	ابن زیاد کے سامنے پیشی	۱۶۸	عبداللہ بن عمر <small>رضی اللہ عنہما</small> کی نظر میں آپ کا مقام
۱۷۸	یزید کا ابن حسین سے سلوک	۱۶۸	انگوٹھی کا نقش
۱۷۹	تقیہ سے برأت اور تقیہ بازوں کی مذمت	۱۶۸	سر اور داڑھی کے بال
۱۷۹	حب اہل بیت کی ترغیب	۱۶۹	لباس و پوشاک
۱۸۰	مردان کا سلوک	۱۷۰	سچ کی تلقین
۱۸۱	نماز میں کمال درجہ خشیت الہی	۱۷۰	منکرین تقدیر پر لعنت
۱۸۱	چہ و دستار	۱۷۰	خودنمائی سے اجتناب
۱۸۱		۱۷۰	غذا اور خوراک

۱۹۹	مغیرہ بن ابی بردہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۲	عادات و خصائل
//	عبداللہ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۳	مظلومیت کا شکوہ
//	عبدالرحمن بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۴	کمالات و محاسن
//	معاذ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۵	بے ریا سخاوت و فیاضی
//	عثمان بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالملک بن المغیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۰	نوفل بن مسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوبکر بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عیاض بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۶	عثمان بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عثمان بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالملک بن مروان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۷	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں
//	شعب بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ایام حرمہ میں مدینہ سے اخراج
۲۰۱	عثمان بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۸	امارت سے پہلے کی حالت
//	ہشام بن اسماعیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۸۹	عمرو بن سعید کا قتل
//	محمد بن عمار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۰	سکون پر نقش کارواج
//	حزہ بن صہیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۱	فریضہ حج کی ادائیگی
//	صفی بن صہیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	جاہرا بن عبداللہ کی عبدالملک سے ملاقات
۲۰۲	عمارہ بن صہیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۲	حج سے واپسی پر مدینہ میں خطاب
//	عبداللہ بن خباب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۳	عبدالعزیز بن مروان کی معزولی کا ارادہ
//	محمد بن اسامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۵	علمی حیثیت
//	حسن بن اسامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	وفات
۲۰۳	جعفر بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۶	عبدالعزیز بن مروان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زرقان بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن مروان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایاس بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۷	عمرو بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن حزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شہادت حسین کے وقت والی مدینہ
//	عبدالرحمن بن جربہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یحییٰ بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	طارق بن ابی مخاشن الاسلمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۹۸	عبیدہ بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۰۴	ابوعثمان بن سندہ الخزاعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عطاء بن یزید اللدنی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>

٢٠٨	سهل بن رافع <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٣	عمارة بن اكيمه <small>رضي الله عنه</small>
//	رفاع بن رافع <small>رضي الله عنه</small>	//	حميد بن مالك <small>رضي الله عنه</small>
٢٠٩	عبيد بن رافع <small>رضي الله عنه</small>	//	سنان بن ابي سنان الدكي <small>رضي الله عنه</small>
//	حرام بن سعد <small>رضي الله عنه</small>	//	عبيد الله بن عبد الله <small>رضي الله عنه</small>
//	شملة بن ابي شمله <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٥	يحيى بن عبد الرحمن <small>رضي الله عنه</small>
//	عمر ومحمد يزيد ابنا ثابت <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الله بن عبد الرحمن <small>رضي الله عنه</small>
//	صالح بن خوات <small>رضي الله عنه</small>	//	خطله <small>رضي الله عنه</small>
//	حبيب بن خوات <small>رضي الله عنه</small>	//	عياض بن خليفة الخراعي <small>رضي الله عنه</small>
//	عمر بن خوات <small>رضي الله عنه</small>	//	عوف بن الطفيل <small>رضي الله عنه</small>
٢١٠	يحيى بن مجمع <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الرحمن بن مالك <small>رضي الله عنه</small>
//	عبيد الله بن مجمع <small>رضي الله عنه</small>	//	ربيع بن برة <small>رضي الله عنه</small>
//	يزيد بن ثابت <small>رضي الله عنه</small>	//	عبيد بن السباق الشقي <small>رضي الله عنه</small>
//	محمد بن جبر <small>رضي الله عنه</small>	//	عبيد بن سفيان الحضرمي <small>رضي الله عنه</small>
//	عبد الملك بن جبر <small>رضي الله عنه</small>	//	سائب بن مالك الكناني <small>رضي الله عنه</small>
//	ابو البدر بن عاصم <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٦	صفوان بن عياض <small>رضي الله عنه</small>
//	عماد بن عاصم <small>رضي الله عنه</small>	//	ملح بن عبد الله السعدي <small>رضي الله عنه</small>
//	خارجة بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	عراك بن مالك الغفاري <small>رضي الله عنه</small>
٢١١	سعد بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	محرر بن ابي هريرة <small>رضي الله عنه</small>
//	سليمان بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	عمر بن ابي سفيان <small>رضي الله عنه</small>
//	يحيى بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	نهار بن عبد الله القيسي <small>رضي الله عنه</small>
٢١٢	اسماعيل بن زيد <small>رضي الله عنه</small>		
//	سليط بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٧	النصار كما يعني طبقه
//	عبد الرحمن بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	عباد بن ابي نائلة
//	عبد الله بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	//	زيد بن محمد <small>رضي الله عنه</small>
//	زيد بن زيد <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٨	عبد الله بن رافع <small>رضي الله عنه</small>
//	عبد الرحمن بن حسان <small>رضي الله عنه</small>	//	عبيد الله بن رافع <small>رضي الله عنه</small>
٢١٣	عمارة بن عقبة <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الرحمن بن رافع <small>رضي الله عنه</small>

۲۱۸	نعمان بن ابی عیاشؓ	۲۱۳	محمد بن عیبطؓ
//	معاذ بن ابی عیاشؓ	//	عبدالملک بن عیبطؓ
//	سلیمان بن ابی عیاشؓ	//	جناح بن عمروؓ
//	بشیر بن ابی عیاشؓ	//	عبدالرحمن بن ابی سعید الخدریؓ
۲۱۹	فروہ بن ابی عبادہؓ	//	حمزہ بن ابی سعید الخدریؓ
//	عقبہ بن ابی عبادہؓ	۲۱۴	سعید بن ابی سعید الخدریؓ
//	مسعود بن عبادہؓ	//	بشیر بن ابی مسعودؓ
//	ثابت بن قیسؓ	//	محمد بن النعمانؓ
//	عمر بن خالدہ الزرقانیؓ	//	یزید بن النعمانؓ
۲۲۰	عمر بن ثابت الخزرجیؓ	//	محمد بن عبداللہؓ
//	اسحاق بن کعبؓ	//	عبدالرحمن بن عبداللہؓ
//	محمد بن کعبؓ	۲۱۵	خلاد بن السائبؓ
//	ابوعفیرؓ	//	عباس بن سہلؓ
//	عمر بن الحکمؓ	//	حمزہ بن ابی اسیدؓ
۲۲۰	طبقة ہذا کے موالی	۲۱۶	منذر بن ابی اسید الساعدیؓ
//	بسر بن سعیدؓ	//	عبداللہ بن کعبؓ
۲۲۱	عبید اللہ بن ابی رافعؓ	//	عبید اللہ بن کعبؓ
//	محمد بن عبدالرحمنؓ	//	معبد بن کعبؓ
//	حمران بن ابانؓ	//	عبدالرحمن بن کعبؓ
//	عبدالرحمن بن ہرمز الاعرجؓ	۲۱۷	عبداللہ بن ابی قتادہؓ
۲۲۲	یزید بن ہرمزؓ	//	عبدالرحمن بن ابی قتادہؓ
//	سعید بن یسارؓ	//	ثابت بن ابی قتادہؓ
//	سلمان ابو عبداللہ الاغرؓ	//	یزید بن ابی الیسرؓ
//	ابو عبداللہ القراطؓ	//	عبدالرحمن بن جابرؓ
//	عبداللہ بن عبید اللہؓ	۲۱۸	محمد بن جابرؓ
//	سعید ابن مرجانہؓ	//	عبید بن رفاعہؓ
//		//	معاذ بن رفاعہؓ

۲۳۰	محمد بن فلح <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۳	عبید بن حنین <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمر و بن رافع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن حنین <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۱	نافع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوجبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جراح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عکرمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سالم بن شوال <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۶	تبحر علمی، وسعت علمی
//	سالم الیراد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۶	لباس و خوراک کی تفصیل
//	سالم ابو عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۷	انتقال
//	سالم بن سلمہ ابوسمرۃ الہذلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کریب بن ابی مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سالم بن سرج <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۸	ابومعبد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سالم ابو العیث <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شعبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سالم بن سلمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ذقیف <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۲	ابوصالح السمان <small>رضی اللہ عنہ</small> (کھی والے)	//	ابوعبید اللہ مولائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
//	ابوصالح باذام <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح السمع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مقسم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۹	ذکوان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح الغفاری <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابویونس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح میدسرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابولبابہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح مولائے ضباعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نبہان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوصالح مولائے سعد بنین <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نصاح بن سرجس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مسلم بن یسار <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن رافع <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۳	بشیر بن یسار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۰	ناعم بن اجمیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	نافع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	وہیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	الومیمونہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حرملہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کثیر بن افح <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زید ابو عیاش <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرحمن بن افح <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۳۹	عباس بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۳	حمید بن نافع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جعفر بن تمام <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۴	راغب بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن معبد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زیاد بن ابی زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۰	عبد اللہ بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسحاق بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عجلان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صلت بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عجلان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	جرمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۱	زید بن حسن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نبی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن حسن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو السائب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۲	محبت اہل بیت میں غلو کی ممانعت	۲۳۵	ابوسفیان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایک رافضی سے مکالمہ	//	ثابت الاحنف <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۳	ابو جعفر محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۶	عبد الرحمن بن یعقوب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۴	عبد اللہ بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	نعیم بن عبد اللہ الحمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۵	عمر بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شرحیل بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زید بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	داؤد بن فریح مولائے قریش <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۶	حسین الاصفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالولید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۷	عبد اللہ بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو حسن البراد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن دارۃ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عطاء <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۸	معاویہ بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حکم بن مینا <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۷	زیاد بن مینا <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمر بن عبد العزیز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سحید بن مینا <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حضرت عمر بن عبد العزیز کی آرزو	//	
۲۴۹	عمر بن عبد العزیز کے بارے میں نصیف کا خواب	//	
//	عبد العزیز بن مروان کا نکاح	//	
//	عمر بن عبد العزیز بحیثیت والی مدینہ	۲۳۸	علی بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات	۲۳۹	عباس بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
			عبد اللہ بن عبید اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>

تابعین اہل مدینہ کا طبقہ ثالث

۲۶۰	غیر ضروری سامان کی قیمت راہ خدا میں	۲۵۰	عبادت میں انہماک
۲۶۱	سماجی و دفاعی اقدامات	//	ابن مسیب <small>رضی اللہ عنہ</small> کی رائے
//	وظائف کا تعین	۲۵۱	اہل بیت رسول سے عقیدت و محبت
//	وظائف کی تقسیم	//	فقہاء مدینہ کو ہدایات
۲۶۲	الجار کے غلہ کی تقسیم کا طریقہ کار	//	خلافت سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق
//	ادائے حقوق کے لئے شب بیداری	۲۵۲	نماز کی اطلاع کا اہتمام
//	زکوٰۃ کی تقسیم	//	سلیمان بن عبد الملک کی علالت
۲۶۳	ابن سیرین <small>رضی اللہ عنہ</small> کے وظیفہ کی بحالی	۲۵۳	سلیمان بن عبد الملک کی وصیت
//	قیدیوں کے لیے وظائف	//	امارت و سلطنت سے گریز
//	مقروض کی طرف سے قرض کی ادائیگی	۲۵۴	سلیمان بن عبد الملک کی رحلت
۲۶۴	مالِ خمس کو مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام	//	حضرت عمر بن عبد العزیز <small>رضی اللہ عنہ</small> کی بیعت
//	نومسلموں سے حسن سلوک	۲۵۵	سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین
۲۶۵	مرد کی سزا کا نفاذ	//	شاہی سواری استعمال کرنے سے انکار
//	سنگین جرائم پر کڑی سزائیں	//	عبد العزیز بن ولید کی آمد
//	ظالم اور فریبی کی سزا	۲۵۶	امارت و حکومت سے پہلو تہی کی کوشش
//	قیدی عورت سے نکاح کی ممانعت	//	یزید کی ولی عہدی کی وصیت
۲۶۶	مسلم اور ذمی جاسوسوں کو سزا	//	نوحہ و زاری سے ممانعت
//	قاصد اور وکیل کا مال غنیمت کا حق	۲۵۷	حضرت عمر بن عبد العزیز <small>رضی اللہ عنہ</small> کا خطبہ خلافت
۲۶۷	مسلم قیدیوں کی رہائی کے لئے فدیہ کی ادائیگی	//	سرکاری سامان استعمال کرنے سے انکار
//	چور و زانی کی سزا	//	مدینہ کی ولایت ابو بکر بن محمد کے سپرد کرنا
//	شرابی کو کوڑوں کی سزا	۲۵۸	عمال کا تقرر و تبدیلی
۲۶۸	مجاہدین کو ہدایات	//	مظلومین کے حقوق کی واپسی کا فرمان
//	مسلمان کو امان دینے کا حق ہے	//	عراق کی غضب شدہ جاسید کی واپسی
//	کھیتیاں برباد کرنے کی ممانعت	۲۵۹	امر اور عایا میں مساوات کا اہتمام
//	نومسلم سے جزیہ نہ لینے کا حکم	//	بدعات کی روک تھام
//	قیدیوں سے حسن سلوک	//	عوام کو دربار خلافت میں حاضری کی آسانی
۲۶۹	عورتوں کے حمام جانے کی ممانعت	۲۶۰	بنی مروان کا احتجاج

۲۸۱	فکر آخرت	۲۶۹	باغی خوارج سے جنگ کا حکم
۲۸۲	اہل کوفہ کے لئے اصلاحی فرمان	۲۷۰	قیدی خوارج کے لیے فرمان
//	حجاج کی بھیڑوں کو فروخت کرنے کا حکم	//	زمانہ خلافت میں نماز کا اہتمام
۲۸۳	عرب و موالی میں مساوات	۲۷۱	فطری حیاء اور طہارت
//	سپہ سالار کے لئے احکامات	۲۷۲	بذات خود نماز کی امامت
//	احیاء سنت کا عزم اور عملی جدوجہد	//	جمعہ کے دو خطبے
۲۸۴	کاغذ کے ٹکڑے کی واپسی	//	عمیدین میں معمولات
//	قیدیوں اور غلاموں کے بارے میں فرمان	۲۷۳	صدقہ فطر دینے کی تلقین
//	پلوں اور گزرگاہوں کے ٹیکس کا خاتمہ	۲۷۴	قسامتہ میں قسم کھانے والوں کی سزا
۲۸۵	غریب اور مسافروں کے لئے دارالطعام	//	عالم حج کو ہدایات
//	گستاخ رسول کی سزا	//	منی میں تعمیرات کی ممانعت
//	عاجزی و انکساری	//	شراب پر سخت پابندی
۲۸۶	ٹیکس وصول کرنے والوں کو ہدایات	۲۷۵	شرابیوں کو سزا میں
//	مشکلہ کی سخت ممانعت	//	جانور سے بدکاری کی سزا
//	خراج کی وصولی میں عدل اور نرمی	//	حق شفعہ کے متعلق احکام
۲۸۷	رعایا سے حسن سلوک کا حکم	۲۷۶	تقدی خوف خدا
//	کینیز کے لباس کے لیے حکم	//	خوراک میں سادگی
//	والی یمن کے نام فرمان	۲۷۷	بیت المال کے مشک کی خوشبو سے اجتناب
//	عذاب آخرت کا خوف	//	سہلا فرمان: حق دار کا حق ادا کرو
۲۸۸	گا کر اذان دینے کی ممانعت	۲۷۸	بیت المال میں احتیاط
//	خچر فروخت کرنے کی وجہ	//	قاضی کے اوصاف
//	صحابہ کرام نبی اللہ ﷺ کا احترام	//	خلافت کے زمانہ میں آپ کی جسمانی حالت
//	صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی سزا	۲۷۹	محمد بن کعب کا مشورہ
//	اہل بصرہ کو خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم	//	رات کو عوام سے ملاقات کا معمول
۲۸۹	عالمین کو عدل و احسان کی تلقین	۲۸۰	اطاعت خداوندی کی ترغیب
//	نومسلموں سے جزیہ لینے کی ممانعت	//	موت کو کثرت سے یاد رکھنے کی ہدایت
//	منکرین تقدیر کے بارے میں رائے	۲۸۱	سفارش کرنے پر پھوپھی کو جواب

۲۹۹	سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کو مشعل راہ بنانا	۲۸۹	امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی پر سزا
//	آزادی کے اختیار پر کئیوں کا رونا	۲۹۰	سچے گواہ کو دھمکانے پر سزا
۳۰۰	احساس ذمہ داری	//	مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں تاخیر گوارا نہ تھی
//	خوف خدا سے گریہ و زاری	۲۹۱	ذمیوں کو دعوت اسلام
//	موت سے بے خوفی	//	ذمیوں کا قبول اسلام
۳۰۱	خوشبو سلگانے کی رسم کا سد باب	//	مثالی امن و امان
//	کبھی جھوٹ نہ بولا	۲۹۲	اہل بیت سے والہانہ محبت
//	غلام آزاد کرنے کا واقعہ	//	باغ فدک
۳۰۲	کفایت شعاری	//	باغ فدک پر مروان کا قبضہ
//	مرتے دم تک عدل کرتے رہنے کی تمنا	//	باغ فدک پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا قبضہ
//	احتساب نفس	۲۹۳	فدک کے سلسلہ میں والی مدینہ کو خط
//	مردار کی ہڈیوں سے بنی اشیاء	//	باغ فدک کی واپسی
۳۰۳	خوداک و لباس کا حال	۲۹۴	فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما کا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے نام خط
//	تقیص کی قیمت	//	فاطمہ بنت حسین کے لئے وظیفہ کا حکم
//	امیر المؤمنین کا باوقار لباس	۲۹۵	اولاد عبدالطلب کا اظہار طہانیت
۳۰۴	قبر کی زمین کی قیمت	//	آل عبدالطلب میں مال کی تقسیم
۳۰۵	ایام علالت	//	فارس کے باغات پر عشر کے متعلق حکم
//	یزید بن عبدالملک کو وصیت	۲۹۶	بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت
//	پانچ کپڑوں میں کفن	//	لہو و لعب کو ترک کرنے کا حکم
۳۰۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال و ناخن کفن میں رکھنے کی وصیت	//	اہلبیت کا قیمتی ہیرا بیت المال میں جمع کرادیا
//	عدل کے بے تاج بادشاہ کی رحلت	۲۹۷	ایک قبیح رسم کا خاتمہ
//	قبر میں چہرہ روشن اور قبلہ رخ ہونا	//	صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات پر سکوت
۳۰۷	مدت خلافت و تاریخ وفات	۲۹۸	زمین پر بسم اللہ لکھنے کی ممانعت
//	طبقة سادسہ	//	شوق شہادت
//	عبداللہ بن الہریرہ رضی اللہ عنہ	//	گورنری اہلبیت
۳۰۸	محمد بن یحییٰ رضی اللہ عنہ	۲۹۹	فضول خرچی پر تنبیہ

۳۱۴	قاسم بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۰۸	عبد المجید بن ابی عس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مغیرہ بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابی بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	خالد بن القاسم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۱۵	عبد المہمن بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعید بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایوب بن النعمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۰۹	ابن ابی حنیبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عثمان بن الضحاک <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کثیر بن عبد اللہ بن عوف <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ضحاک بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یزید بن عیاض <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہشام بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسامہ بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قاسم بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۱۶	عبد الرحمن بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱۰	عبد الرحمن بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	داؤد بن خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	شمیل بن خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	یحییٰ بن خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	عبد العزیز بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	در اوردی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یوسف بن یعقوب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد العزیز بن ابی حازم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد الرحمن بن ابی الموالم
//	ابوعاتقہ الفردی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱۱	فلح بن سلیمان
//	ابراہیم بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد الرحمن بن ابی الزناد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حاتم بن اسماعیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو القاسم بن ابی الزناد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۱۷	محمد بن عمر الواقدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱۲	محمد بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہارون الرشید کے لئے مقامات مقدسہ کی زیارت کا اہتمام	//	ابو معشر حجاج <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ بن خالد کی پیشکش اور امام واقدی کا سفر	۳۱۳	اسلمیل بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۲۱	فقر وفاقدی کی زندگی اور ایک عجیب واقعہ	//	محمد بن مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۲۲	دارقانی سے رحلت	//	محمد بن مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسین بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حبل بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۱۴	سلیمان بن بلال <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۲۳	عامر بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن عبد العزیز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	

طبقة سابعة

۳۲۸	عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ	۳۲۳	عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہ
//	عبداللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ	//	ابن ابی ثابت الاعرج رضی اللہ عنہ
//	حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ	//	ابن الطویل رضی اللہ عنہ
۳۲۹	عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ	//	ابوضمرہ رضی اللہ عنہ
//	عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ	۳۲۵	محمد بن معن رضی اللہ عنہ
//	خالد بن العاص رضی اللہ عنہ	//	ابراہیم بن جعفر رضی اللہ عنہ
//	قیس بن السائب رضی اللہ عنہ	//	زکریا بن منظور القرظی رضی اللہ عنہ
//	عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ	//	معن بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ
۳۳۰	خالد بن اسید رضی اللہ عنہ	//	محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہ
//	حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ	//	عبداللہ بن نافع الصامخ رضی اللہ عنہ
//	عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہ	//	ابوبکر الاعشى رضی اللہ عنہ
//	عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ	//	اسماعیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
//	شعیبہ الحاجب رضی اللہ عنہ	۳۲۶	مطرف بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
//	نضیر بن الحارث رضی اللہ عنہ	//	عبدالعزیز بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
۳۳۱	ابوالسائب بن یعلک رضی اللہ عنہ	//	عبداللہ بن نافع رضی اللہ عنہ
//	صفوان بن أمیہ رضی اللہ عنہ	//	مصعب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
//	ابومخزومہ رضی اللہ عنہ	//	عتیق بن یعقوب رضی اللہ عنہ
//	مطیع بن الاسود رضی اللہ عنہ	//	عبدالجبار بن سعید رضی اللہ عنہ
۳۳۲	ابوجہم بن حدیفہ رضی اللہ عنہ	//	ابوعزیزہ رضی اللہ عنہ
//	ابوقحافہ رضی اللہ عنہ	۳۲۷	ابومصعب رضی اللہ عنہ
۳۳۳	مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ	//	یعقوب بن محمد رضی اللہ عنہ
//	مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ	//	محمد بن عبید اللہ
//	سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ	//	ابراہیم بن حمزہ رضی اللہ عنہ
//	عبداللہ بن السعدی رضی اللہ عنہ	//	عبدالملک بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ
//	حویطب بن عبدالعزیٰ		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو مکہ میں مقیم ہو گئے تھے
۳۳۴	ضرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ	۳۲۸	
//	ابوعبدالرحمن الفہرکی رضی اللہ عنہ	//	ابوسبرہ بن ابی رہم رضی اللہ عنہ

۳۳۷	علی بن ماجدة الکعبیؓ	۳۳۴	عقبہ بن ابی لہب رضی اللہ عنہ	
//	عبید بن عمیرؓ	//	معب بن ابی لہب رضی اللہ عنہ	
۳۳۸	ابوسلمہ بن سفیانؓ	//	یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ	
//	حارث بن عبد اللہؓ	//	حجیر بن ابی اہاب رضی اللہ عنہ	
//	نافع بن علقمہؓ	۳۳۵	عمیر بن قتادہ رضی اللہ عنہ	
//	عبداللہ بن ابی عمارؓ	//	ابوعقرب رضی اللہ عنہ	
//	سباع بن ثابتؓ	//	عمرو بن ابی عقرب رضی اللہ عنہ	
//	ہشام بن خالد الکعبیؓ	//	ابو الطفیل رضی اللہ عنہ	
//	عبداللہ بن صفوانؓ	//	کلدہ بن حنبل رضی اللہ عنہ	
//	سعید بن الحویرثؓ	//	بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ	
//	خثیمؓ	//	کرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ	
۳۳۹	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> طبقہ ثانیہ </div>		//	حمیم بن اسد رضی اللہ عنہ
//	مجاہد بن جبرؓ	۳۳۶	اسود بن خلف رضی اللہ عنہ	
//	عطاء بن ابی رباحؓ	//	بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ	
۳۴۱	یوسف بن ماہکؓ	//	ابوشریح الکعبی رضی اللہ عنہ	
//	مقسمؓ	//	نافع بن عبد الجارث رضی اللہ عنہ	
//	عبداللہ بن خالدؓ	//	علقمہ بن الفجاءہ رضی اللہ عنہ	
۳۴۲	عبدالرحمن بن عبداللہؓ	//	محرش الکعبی رضی اللہ عنہ	
//	عبداللہ بن عبید اللہؓ	//	عبداللہ بن حبشی النعمی رضی اللہ عنہ	
//	ابوبکر بن عبید اللہؓ	//	عبدالرحمن بن صفوان رضی اللہ عنہ	
//	الوزیرؓ	۳۴۷	لقیط بن صبرۃ العقیلی رضی اللہ عنہ	
//	ابونجیحؓ	//	ایاس بن عبد المزیٰنی رضی اللہ عنہ	
۳۴۳	عبداللہ بن عبید اللہؓ	//	کیسان رضی اللہ عنہ	
//	عمرو بن عبداللہؓ	//	مسلم رضی اللہ عنہ	
//	صفوان بن عبداللہؓ	//	عبدالرحمن بن ابزی مولا لے خزاعہ رضی اللہ عنہ	
//	یحییٰ بن حکیمؓ	//	اہل مکہ کا وہ طبقہ اولیٰ جس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کی ہے	

۳۳۷	عبد اللہ بن عمرو القاریؓ	۳۳۳	عکرمہ بن خالدؓ
۳۳۸	قیس بن سعدؓ	۳۳۴	محمد بن عبادؓ
۳۳۹	عبد اللہ بن ابی نوحؓ	۳۳۵	ہشام بن یحییٰؓ
۳۴۰	سلیمان الاحولؓ	۳۳۶	مسافع بن عبد اللہ الاکبرؓ
۳۴۱	عبد الحمید بن رافعؓ	۳۳۷	عبد الحمید بن جبیرؓ
۳۴۲	ہشام بن جبیرؓ	۳۳۸	عبد الرحمن بن طارقؓ
۳۴۳	ابراہیم بن میسرہؓ	۳۳۹	نافع بن سرجسؓ
۳۴۴	عبد الرحمن بن عبد اللہؓ	۳۴۰	مسلم بن یزیدؓ
۳۴۵	خلاد بن اشجؓ	۳۴۱	ایاس بن خلیفہ الکبریٰؓ
۳۴۶	عبد اللہ بن کثیر الداریؓ	۳۴۲	ابو المنہالؓ
۳۴۷	اسماعیل بن کثیرؓ	۳۴۳	ابو یحییٰ الاعرجؓ
۳۴۸	کثیر بن کثیرؓ	۳۴۴	ابو العباس الشاعرؓ
۳۴۹	صدیق بن مویؓ	۳۴۵	عطاء بن یزیدؓ
۳۵۰	صدوقہ بن یسارؓ	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> طبقہ ثالثہ </div>	
۳۵۱	عبد اللہ بن عبد الرحمنؓ	۳۴۶	امیہ بن عبد اللہؓ
۳۵۲	عمر بن سعیدؓ	۳۴۷	ابراہیم بن ابی خداشؓ
۳۵۳	عثمان بن ابی سلیمانؓ	۳۴۸	محمد بن المرتفعؓ
۳۵۴	حمید بن قیس الاعرجؓ	۳۴۹	ابن الرہینؓ
۳۵۵	عمر بن قیسؓ	۳۵۰	قاسم بن ابی بزہؓ
۳۵۶	منصور بن عبد الرحمنؓ	۳۵۱	حسن بن مسلمؓ
۳۵۷	سعید بن ابی صالحؓ	۳۵۲	عمر و بن دینارؓ
۳۵۸	عبد اللہ بن عثمانؓ	۳۵۳	ابو الزبیرؓ
۳۵۹	داؤد بن عاصمؓ	۳۵۴	عبد اللہ بن ابی یزیدؓ
۳۶۰	مزاحم بن ابی مزاحمؓ	۳۵۵	ولید بن عبد اللہؓ
۳۶۱	مصعب بن شیبہؓ	۳۵۶	عبد الرحمن بن ایمنؓ
۳۶۲	یحییٰ بن عبد اللہؓ	۳۵۷	عبد الرحمن بن معبدؓ
۳۶۳	وہیب بن الوردؓ		

۳۵۲	محمد بن عبد الرحمن الشیبانی	۳۵۰	عبد الجبار بن الورد الشیبانی
//	ابراہیم بن یزید الخوزی الشیبانی	//	خالد بن مفرس الشیبانی
//	رباح بن ابی معروف الشیبانی	۳۵۱	سلیمان الشیبانی
//	عبد اللہ بن لاحق الشیبانی	//	عمرو بن یحییٰ الشیبانی
//	ابراہیم بن نافع الشیبانی	//	یعقوب بن عطاء الشیبانی
//	عبد الرحمن بن ابی بکر الشیبانی	//	عبد اللہ الشیبانی
//	سعید بن مسلم الشیبانی	//	عبد الرحمن بن فروخ الشیبانی
//	حزام بن ہشام الشیبانی	//	بنو بن ابی سلیمان الشیبانی
//	عبد الوہاب بن مجاہد الشیبانی	//	وردان صالح الشیبانی
//	ابن ابی سارہ الشیبانی	//	زُرَّار الشیبانی
۳۵۳	طبقة خامسه	//	عبد الواحد بن امین الشیبانی
//	سفيان بن عيينه الشيباني	//	محمد بن شريك الشيباني
۳۵۵	داؤد بن عبد الرحمن العطار الشیبانی	۳۵۲	طبقة رابعة
//	زنجی الشیبانی	//	عثمان بن الاسود الحبحي الشيباني
//	محمد بن عمران الحبحي الشيباني	//	ثني بن الصباح الشيباني
۳۵۶	محمد بن عثمان الخزوي الشيباني	//	عبيد الله بن ابی زياد الشيباني
//	یحییٰ بن سلیم الطائفی الشیبانی	//	عبد الملک بن عبد العزیز الشیبانی
//	فضیل بن عیاض التیمی الشیبانی	۳۵۳	خطله بن ابی سفیان الشیبانی
//	عبد اللہ بن رجاء الشیبانی	//	زکریا بن اسحاق الشیبانی
//	بشر بن السری الشیبانی	//	عبد العزیز بن ابی رواد الشیبانی
//	عبد الجید بن عبد العزیز الشیبانی	//	سیف بن سلیمان الشیبانی
//	عبد اللہ بن الحارث الخزوي الشيباني	//	طلحه بن عمرو الحضرمي الشيباني
//	حمزة بن الحارث الشیبانی	//	نافع بن عمر الحبحي الشيباني
//	ابو عبد الرحمن المقرئ الشیبانی	//	عبد اللہ بن المومل الخزوي الشيباني
//	عثمان بن الیمان الشیبانی	//	سعید بن حسان الخزوي الشيباني
//	مومل بن اسماعیل الشیبانی	//	عبد اللہ بن عثمان الشیبانی

۳۶۳	سفیان بن عبد اللہ الثقفی رضی اللہ عنہ	۳۵۲	علاء بن عبد الجبار القطری
//	حکم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ	۳۵۷	سعید بن منصور القطری
//	ابو ہیر بن معاذ الثقفی	//	احمد بن محمد القطری
//	کردم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ	//	عبد اللہ بن الزبیر الحمیدی القطری
//	وہب بن خویلد رضی اللہ عنہ		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جنہوں نے
۳۶۴	وہب بن امیہ رضی اللہ عنہ		طائف کی سکونت اختیار کر لی تھی
//	ابو یحییٰ بن حبیب رضی اللہ عنہ	//	
//	حکم بن حزن الکلفی رضی اللہ عنہ	//	عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ
//	زفر بن حرتان رضی اللہ عنہ	۳۵۸	ابو یحییٰ بن عروہ رضی اللہ عنہ
//	مقرس بن سفیان رضی اللہ عنہ	//	قارب بن الاسود رضی اللہ عنہ
//	یزید بن الاسود العامری رضی اللہ عنہ	۳۵۹	حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ
۳۶۵	عبید اللہ بن معیہ السوائی رضی اللہ عنہ	//	غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ
//	ابوزین العقبلی رضی اللہ عنہ	//	شرحبیل بن غیلان رضی اللہ عنہ
//	ابوطریف رضی اللہ عنہ	//	عبد یاسیل بن عمرو رضی اللہ عنہ
//	طائف کے حسب ذیل فقہاء و محدثین	//	کنانہ بن عبد یاسیل رضی اللہ عنہ
//	عمرو بن الشرید بن سوید الثقفی رضی اللہ عنہ	//	حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ
//	عاصم بن سفیان الثقفی رضی اللہ عنہ	۳۶۰	نافع بن الحارث رضی اللہ عنہ
//	ابو ہندیہ رضی اللہ عنہ	//	علاء بن جاریہ رضی اللہ عنہ
//	عمرو بن اولس رضی اللہ عنہ	//	عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ
//	عبدالرحمن بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ	۳۶۱	حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ
۳۶۶	وکج بن عدس رضی اللہ عنہ	//	اولس بن عوف الثقفی رضی اللہ عنہ
//	یعلیٰ بن عطاء رضی اللہ عنہ	//	اولس بن حدیفہ الثقفی رضی اللہ عنہ
//	عبد اللہ بن یزید الطائی رضی اللہ عنہ	۳۶۲	اولس بن اولس الثقفی رضی اللہ عنہ
//	بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ	//	حارث بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ
//	ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہ	۳۶۳	حارث بن اولس الثقفی رضی اللہ عنہ
//	عطیف بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ	//	شرید بن سوید الثقفی رضی اللہ عنہ
//		//	نمیر بن خرشہ الثقفی رضی اللہ عنہ

۳۷۰	حارث و نعیم فرزندان عبدکلال و نعمان	۳۶۱	عبد بن سعد
//	قیل ذی ریحین رضی اللہ عنہ	//	محمد بن ابی سدید
۳۷۱	مالک بن مرارہ الرہادی رضی اللہ عنہ	//	ابو بکر بن ابی موسیٰ بن ابی شیخ
//	مالک بن عبادہ رضی اللہ عنہ	//	سعید بن السائب الطاکمی
//	عقبہ بن نمر رضی اللہ عنہ	//	عبداللہ بن عبد الرحمن
//	عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ	//	یونس بن الحارث الطاکمی
//	زرارہ بن قیس رضی اللہ عنہ	۳۶۷	محمد بن عبداللہ
۳۷۲	ارطاط بن کعب رضی اللہ عنہ	//	محمد بن ابی سعید اشقی
//	ارقم بن یزید رضی اللہ عنہ	//	محمد بن مسلم
//	دربین یحسین رضی اللہ عنہ	//	یحییٰ بن سلیم الطاکمی
۳۷۳	فیروز بن الدیلمی رضی اللہ عنہ		رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اصحاب جو یمن میں رہتے تھے
//	داذویہ رضی اللہ عنہ	//	ابن یحییٰ بن حمال المازنی رضی اللہ عنہ
//	نعمان رضی اللہ عنہ	//	فروہ بن مسیک رضی اللہ عنہ
۳۷۴	یمن کے حسب ذیل محدثین	//	قیس بن کثوح رضی اللہ عنہ
//	طبقہ اولی	۳۶۸	عمر و بن معدی کرب رضی اللہ عنہ
//	مسعود بن الحکم اشقی	//	صرد بن عبداللہ الازدی رضی اللہ عنہ
//	سعد الاعرج	۳۶۹	نمط بن قیس رضی اللہ عنہ
//	عبدالرحمن بن النیلمانی	//	حدیفہ بن الیمان الازدی رضی اللہ عنہ
//	حجر المدری	//	صحیح الغامدی الازدی رضی اللہ عنہ
//	ضحاک بن فیروز الدیلمی	//	قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ
//	ابوالاشعث الصنعانی	//	عبداللہ بن عبدالمدان رضی اللہ عنہ
//	حفش بن عبداللہ الصنعانی	۳۷۰	یزید بن عبدالمدان رضی اللہ عنہ
//	شہاب بن عبداللہ الجولانی	//	یزید بن المحمل رضی اللہ عنہ
//	وہب الذماری	//	شداو بن عبداللہ القنانی رضی اللہ عنہ
۳۷۵	طبقہ ثانیہ	//	عبداللہ بن قراد رضی اللہ عنہ
//	طاؤس بن کیسان	//	زرعدوزین الحمیری رضی اللہ عنہ

۳۸۰	ابرارہیم بن الحکم بن ابان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۷۵	عادات وخصائل
//	غوث بن جابر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۷۷	مرض الموت اور وفات
۳۸۱	اسماعیل بن عبدالکریم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	وہب بن منبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
	رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب جو یمامہ	۳۷۸	ہمام بن منبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	میں رہتے تھے	//	معقل بن منبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جماعہ بن مرارہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمر بن منبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸۲	شامہ بن ابناہل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عطاء بن مرکبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علی بن شیبان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مغیرہ بن حکیم الصنعانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸۳	طلق بن علی الجعفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سماک بن الفضل الخولانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہر ماس بن زیاد الباہلی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمرو بن مسلم الجندی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸۴	جاریہ ابوہریران <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زیاد بن الشیخ <small>رضی اللہ عنہ</small>
	یمامہ کے حسب ذیل فقہاء و محدثین	۳۷۹	طبقة ثالثة
۳۸۵	ضمضم بن حوس الہفانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن طاؤس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہلال بن سراج <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حکم بن ابان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو کثیر الغمری <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلم الصنعانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبداللہ بن اسود <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسماعیل بن شروس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوسلام <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	معمر بن راشد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ بن ابی کثیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۳۸۰	یوسف بن یعقوب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عکرمہ بن عمار الجعفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بکار بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۳۸۶	ایوب بن عتقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالصمد بن معقل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبداللہ بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	طبقة رابعة
//	خالد بن الہیثم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	رباح بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن جابر الجعفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مطرف بن مازن <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ایوب بن النجار الیمامی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہشام بن یوسف <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمر بن یونس الیمامی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرزاق بن ہمام <small>رضی اللہ عنہ</small>

۳۹۰	شہاب بن المتمر وک بنی النضر		رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب جو
۳۹۱	عمر و بن عبد قیس بنی النضر		بحرین میں تھے
//	طریف بن ابان بنی النضر	۳۸۶	اشح عبد قیس بنی النضر (منذر بن عائد)
//	عمر و بن شعیث بنی النضر	//	جارود بنی النضر
//	جاریہ بن جابر بنی النضر	۳۸۸	صحار بن عباس العبدی بنی النضر
//	ہمام بن ربیعہ بنی النضر	۳۸۹	سفیان بن خولی بنی النضر
//	خریمہ بن عبد عمر و بنی النضر	۳۹۰	محارب بن مزیدہ بنی النضر
۳۹۲	عامر بن عبد قیس بنی النضر	//	عبدیدہ بن مالک بنی النضر
//	عقیبہ بن جرودہ بنی النضر	//	زارع بن الوازع العبدی بنی النضر
//	مطر بنی النضر	//	ابان العبدی بنی النضر
//	سفیان بن ہمام بنی النضر	//	جابر بن عبد اللہ العبدی بنی النضر
//	عمر و بن سفیان بنی النضر	//	معتز بن حیان العبدی بنی النضر
//	حارث بن جندب العبدی بنی النضر	//	عمر و بن المرحوم بنی النضر
//	ہمام بن معاویہ بنی النضر	//	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

طبقہ اولیٰ تابعین اہل مدینہ

عبدالرحمن بن سعد بن یربوع المخزومی رضی اللہ عنہما:

روایت ہے کہ ایک قافلے میں لوگوں نے شب بسر کرنے کے بعد جب صبح کو روانگی کا ارادہ کیا تو آپ بھی ساتھ چلے وہ حالت میری نظر میں ہے کہ آپ اپنے اونٹ کو چھڑی سے مار رہے تھے اور آپ کی ران کھل گئی تھی۔ سفیان بن عیینہ نے سعد بن عبدالرحمن بن یربوع رضی اللہ عنہما کو اسی طرح کہا: مگر یہ ان کے نسب میں وہم و غلطی ہے، وہ تو عبدالرحمن بن سعد بن یربوع المخزومی تھے۔
عبدالرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہما:

ابن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم یقظ بن مرہ۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت الولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔

عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو محمد تھی، نبی ﷺ کی وفات کے وقت دس سال کے تھے ان کے والد حارث کی وفات ۱۸ھ میں عمواس ملک شام کے طاعون میں ہوئی، ان کی بیوی فاطمہ بنت الولید بن المغیرہ سے جو عبدالرحمن بن الحارث کی والدہ تھیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے نکاح کر لیا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں پرورش:

عبدالرحمن عمر رضی اللہ عنہ کی پرورش میں تھے، کہا کرتے تھے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بہتر (یتیم کا) پرورش کرنے والا نہیں دیکھا، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے مدینے میں ان کا بہت بڑا مکان تھا، عبدالرحمن بن الحارث رضی اللہ عنہ کی وفات معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔

وہ شریف نخی اور بامروت آدمی تھے، جنگ جمل میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں کہ مجھے بصرے جانے سے اپنے گھر میں بیٹھ رہنا زیادہ پسند تھا کہ رسول اللہ ﷺ سے میرے دس لڑکے ہوتے جن میں سے ہر لڑکا عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہما کے مثل ہوتا۔

ابی بکر بن عثمان المخزومی سے جو آل یربوع میں سے تھے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہما کا نام ابراہیم تھا، جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ولایت کے زمانے میں یہ ارادہ کیا کہ جن لوگوں کے نام انبیاء کے نام پر ہیں ان کے نام بدل دیں تو وہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے ان کا نام بدل کر عبدالرحمن رضی اللہ عنہ رکھا، یہی نام آج تک باقی رہا۔

دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم سے قرابت:

پھر عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ کے یہاں محمد اکبر پیدا ہوئے، جن کا کوئی پسماندہ نہ تھا، انہیں سے ان کی کنیت تھی، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جن کو راہب قریش کہا جاتا ہے، عمر و عثمان و عکرمہ و خالد و محمد اصغر اور حنتمہ جن کے یہاں عبداللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما سے اولاد ہوئی اور ام حنین و ام حکیم و سودہ و رملہ ان سب کی والدہ فاخرت بنت عبد بنتمہ بن عبد شمس بن عبد ود بن نضر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوئی تھیں۔

عیاش بن عبدالرحمن، عبداللہ بن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور ابو سلمہ جو بچپن ہی میں بغیر پس ماندہ چھوڑے مر گئے، حارث جو بغیر پس ماندہ چھوڑے مر گئے، اسماء عاتکہ جن سے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا، ام سعید و ام کلثوم و ام الزبیر ان سب کی والدہ ام الحسن بنت الزبیر بن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں، ام الحسن کی والدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔

مغیرہ بن عبدالرحمن و عوفاء و زینب و ریظہ جن کے یہاں عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے اولاد ہوئی، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ان سے ان کی بہن (حنتمہ کی وفات) کے بعد نکاح کیا تھا، اور فاطمہ و حفصہ ان سب کی والدہ سعدی بنت عوف بن خارجہ بن شان بن ابی حارث بن مرہ بن نشیہ بن غیظ بن مرہ تھیں۔

ولید بن عبدالرحمن، ابوسعید اور ام سلمہ جن سے سعید بن العاص بن سعید بن العاص نے نکاح کیا، اور قریبہ ان سب کی والدہ ام رکن بنت الحارث بن عبداللہ بن الحصین ذی الغصہ (غصے والے) بن یزید ابن شداد بن قنان بن سلمہ بن وہب بن ربیعہ بن الحارث بن کعب تھیں۔

سلمہ بن عبدالرحمن و عبید اللہ و ہشام مختلف ام ولد سے تھے۔
زینب بنت عبدالرحمن، کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مریم تھا، ان کی والدہ مریم بنت عثمان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ تھیں۔
عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ:

ابن عبد یغوث بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ امیہ بنت نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب تھیں۔
عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ کے یہاں محمد و عبدالرحمن پیدا ہوئے، ان دونوں کی والدہ امتمہ بنت عبداللہ بن وہب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں۔

عبداللہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عمر ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔
عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق و عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، مدینے میں چھلنی اور تلوار والوں کے پاس ان کا مکان تھا۔

صبیحہ بن الحارث رضی اللہ عنہ:
ابن جبیلہ بن عامر بن کعب بن سعد تیم بن مرہ۔ ان کی والدہ زینب بنت عبداللہ بن ساعدہ بن مشنوء بن عبد بن جتر خزاعہ میں سے تھیں۔

صبیحہ بن الحارث کی اولاد میں اجش، معبد، عبداللہ اکبر، ایک بیٹی زبیدہ اور ام عمر کبریٰ تھیں، ان کی والدہ عاتکہ بنت بھر بن خالد بن معروف بن صخر بن المقیاس بن صخر تھیں۔

عبدالرحمن، عبداللہ اصغر جن کی کنیت ابو الفضل تھی، ام عمرو صفریٰ، ان کی والدہ امتہ بنت عمرو بن عبدالعزیٰ بن عمنین بن عبدالعزیٰ بن عامرہ بن عمیرہ ابن ودیعہ بن الحارث بن فہر تھیں۔

عبداللہ ام صالح، ام جمیل و ام عبید، ان سب کی والدہ زینب بنت وہب ابن ابی التوالم بذیل میں سے تھیں۔ حبیبہ بنت صبیحہ جن سے کلیب بن عوف کے معبد ابن عروہ نے نکاح کیا اور ان سے ان کے یہاں اولاد ہوئی۔

صبیحہ کی اولاد میں سب سے زیادہ شریف عبدالرحمن بن صبیحہ تھے مدینہ میں بنجرے والوں کے پاس ان کا مکان تھا۔ عبدالرحمن بن صبیحہ کی اولاد میں محمد و موسیٰ تھے ان کی والدہ بنت راشد آل ابی التوالم کے بذیل میں سے تھیں روایت ہے کہ وہ ام علی بنت ہلال بن عمرو بن عامر تھیں جو بذیل پھر بنی حطیطہ میں سے تھیں۔

صخر بن عبدالرحمن، ان کی والدہ ام یحییٰ بنت جمیر بن عمرو بن ابی فاکد خزاعہ میں سے تھیں۔

رفاقت صدیقی رضی اللہ عنہ میں سفر کی سعادت

عبدالرحمن بن صبیحہ التیمی نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے صبیحہ تمہارا عمرے کو جی چاہتا ہے۔ میں نے کہا جی ہاں انہوں نے کہا کہ اپنی سواری قریب لاؤ۔ میں اسے قریب لایا تو ہم دونوں عمرے کے لیے روانہ ہوئے، صبیحہ نے اس سفر میں ان کے کچھ افعال بیان کیے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جنہوں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ سفر کیا اور ان سے حدیث سن کر یاد رکھی وہ عبدالرحمن بن صبیحہ تھے شاید وہ اور ان کے والد صبیحہ دونوں مل کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گئے اور دونوں نے ان سے حکایت کی۔

عبدالرحمن ثقہ (جن کی روایت حدیث معتبر ہے) اور قبیل الحدیث تھے (جنہوں نے بہت کم حدیثیں روایت کی ہیں)۔

نیار بن مکرم الاسلمی رضی اللہ عنہما:

ان چار اصحاب میں سے تھے جنہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کو دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی اور ان کی قبر میں اترے۔ نیار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے (حدیث) سنی ہے ثقہ اور قبیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما:

ابن ربیعہ بن مالک بن عامر بن ربیعہ بن حجر بن مسلمان بن مالک بن رفیدہ ابن عمر بن وائل بن قاسط بن وہب بن انصعی بن دغی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ بن ربیعہ بن نزار جو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے والد الخطاب بن نفیل کے حلیف تھے۔

عبداللہ کی کنیت ابو محمد تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت پانچ یا چھ سال کے تھے۔ عبداللہ ابن عامر کے گھر حضور علیہ السلام کی تشریف آوری:

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں آئے، میں چھوٹا بچہ تھا کھیلتا ہوا نکلا تو والدہ

نے کہا کہ اے عبداللہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دوں گی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم نے انہیں کیا دینے کا ارادہ کیا ہے، عرض کی ایک کھجور دینے کا ارادہ ہے، فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو گی تو تم پر ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اپنی صفحہ سنی کی وجہ سے عبداللہ بن عامر نے رسول اللہ ﷺ سے یہ کلام یاد رکھا ہو انہوں نے ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم سے یاد رکھا اور ان لوگوں سے اور اپنے والد سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے دو خلفاء یعنی ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو پایا جو غلام کو افترا (یعنی کسی پر زنا کی تہمت لگانے میں بجائے اسی کے) پر چالیس تازیانے مارتے تھے۔

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کے بعد کے خلفاء کو غلام کی تہمت زنا میں چالیس تازیانے مارتے ہوئے پایا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی وفات ۸۵ھ میں عبدالملک بن مروان کے زمانہ خلافت میں مدینے میں ہوئی، وہ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابو جعفر الانصاری رضی اللہ عنہ:

نام ہم سے نہیں بیان کیا گیا۔

ابی جعفر الانصاری سے مروی ہے کہ میں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کا سراور داڑھی (خضاب کی سرخی سے) مثل بول کی چنگاری کے تھی۔

ابو سہل الساعدی رضی اللہ عنہ:

ہم سے ان کا نام نہیں بیان کیا گیا۔

ابی سہل الساعدی سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے ان کی قراءت کا طریقہ بیان کیا۔

اسلم رضی اللہ عنہ:

مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کنیت ابوزید تھی۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے ۱۲ھ میں خریدا، اسی سال اشعث بن قیس کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا، ان کا پابہ زنجیر ہونا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے گفتگو کرنا میری نظروں میں ہے، وہ کہتے تھے کہ اے خلیفہ رسول اللہ اپنی جنگ کے لیے مجھے آگے کر دیجئے اور اپنی بہن سے میرا نکاح کر دیجئے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے یہ استدعا قبول کر لی، ان پر احسان کیا (کہ آزاد کر دیا) اور اپنی بہن ام فروہ بنت قنفذہ سے نکاح کر دیا، ان کے یہاں ان سے محمد بن الاشعث پیدا ہوئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے ان کو اپنی زبان کا کنارہ پکڑ کر یہ

کہتے ہوئے دیکھا کہ اسی نے مجھے بہت سے مقامات میں اتارا، اسلم نے عمرو عثمان رضی اللہ عنہما وغیرہما سے بھی روایت کی ہے۔
حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کا قبیلہ:

اسامہ بن زید بن اسلم سے مروی ہے کہ ہم لوگ اشعریوں کی قوم میں سے ہیں لیکن ہم لوگ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے احسان کا انکار نہیں کر سکتے۔

عثمان بن عبد اللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے بتائے کہ اسلم مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کن لوگوں میں سے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بجاہ کے حبشی تھے عثمان بن عبد اللہ نے کہا کہ اسی طرح میں نے اپنے والد کو بھی کہتے سنا کہ اسلم حبشی بجاہی تھے۔

زید بن اسلم سے خود ان کی روایت کی ہوئی ایک حدیث میں ہے کہ اسلم مولائے عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو زید تھی اسلم مولائے عمر رضی اللہ عنہ کی وفات مدینے میں عبد الملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی۔
یعنی مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ:

عمر بن عمیر بن ہنی نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زمین کے اندازے (بڑے اور بہت پانی کے کنوئیں) کے سوا اور کسی چیز کی حفاظت نہیں کرتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی حفاظت کرتے دیکھا ہے وہ اس کی ان گھوڑوں کے لیے حفاظت کرتے تھے جن پر (سوار ہو کے) جہاد کیا جاتا تھا، زکوٰۃ کے اونٹ جو دبلے لئے جاتے تھے انہیں ربذہ اور اس کے مضافات میں چرنے کے لیے بھیج دیتے تھے ان کے لیے وہ کسی چیز کی حفاظت نہ کرتے تھے کنوئیں والوں کو حکم تھا کہ جو ان کے پاس آ کر پانی پئے اور چرائے اس کو نہ روکیں۔

پھر جب عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہوئے اور لوگوں کی کثرت ہوئی اور انہوں نے شام و عراق و مصر لشکر بھیجے تو ربذہ کی حفاظت کی اور مجھے اس کی حفاظت پر عامل بنایا۔
مالک الدار رضی اللہ عنہ:

مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وہ لوگ جملان حمیر کی طرف منسوب تھے مالک الدار نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ان سے ابو صالح السمان (گھی والے) نے روایت کی مشہور آدمی تھے۔
ابو قرہ رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن المغیرہ الحزومی ثقہ اور قلیل الحدیث تھے۔ ابی قرہ مولائے عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ تقسیم کی میرے لیے بھی وہی حصہ لگایا جیسا کہ میرے آقا کے لیے۔

محمد بن اسماعیل نے ابن ابی ذئب سے روایت کی کہ ابو قرہ کے آقا بنی مخریہ کے ایک شخص تھے جو ان کے علاوہ تھے جنہوں نے ان کو آزاد کیا تھا۔

زید بن الصلت رضی اللہ عنہ:

ابن معدی کرب بن ولیعہ بن شریحیل بن معاویہ بن حجرہ القرظی بن الحارث الولادہ ابن عمرو بن معاویہ بن الحارث الاکبر بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن معاویہ بن کندہ اور وہ (کندہ) کنذی بن عفیر بن عدی بن الحارث بن مرہ بن اود بن زید بن یثجب ابن عریب بن زید بن کہلان بن یثجب بن یعرب بن قحطان۔

حارث کا نام الولادہ محض ان کی کثرت اولاد کی وجہ سے ہوا حجر کا نام القرظ رکھا گیا القرظ ان کی زبان میں سخی اور بخشش کرنے والے کو کہتے ہیں حارث الولادہ حجر بن عمرو آکل المرار (درخت تلخ کھانے والے) کے بھائی تھے۔

ملوک اربعہ (چاروں بادشاہ) محوس و مشرح و مجد و انفعہ فرزند ان معدی کرب بن ولیعہ تھے بطور وفد کے اشعث بن قیس کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام لائے پھر اپنے شہروں کو گئے اور مرتد ہو گئے یوم البیتر میں قتل کیے گئے وہ لوگ ملوک (بادشاہ) اسی وجہ سے کہلائے کہ ان میں سے ہر ایک شخص کی ایک ایک وادی (دو پہاڑوں کے درمیان کا میدان) تھا اور وہ اس کی ہر چیز کا مالک تھا۔

قریش کے ساتھ معاہدہ:

کثیر وزید و عبد الرحمن فرزند ان صلت نے مدینے کی جانب ہجرت کی وہیں سکونت اختیار کر لی قریش کے بنی جمح بن عمرو سے معاہدہ حلف کر لیا ان لوگوں کا دیوان و دعوت (دفتر وظیفہ و فوج میں نام) انہیں لوگوں کے ساتھ رہا یہاں تک کہ جب امیر المؤمنین المہدی کا زمانہ ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کو بنی جمح سے نکال کر حلفائے عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم میں داخل کیا آج ان کی دعوت ان کے ساتھ ہے اور ان کے عیال اب تک بنی جمح میں ہیں۔

زید بن الصلت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اگر میں کسی چور کو گرفتار کرتا تو میں یہ پسند کرتا کہ اللہ اس کی پردہ پوشی کرے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ زید بن الصلت رضی اللہ عنہ نے عمرو عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی ہے اور وہ قلیل الحدیث تھے۔ ان کے بھائی: کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ:

ابن معدی کرب بن ولیعہ بن شریحیل بن معاویہ بن حجر القرظی بن الحارث الولادہ۔

نافع سے مروی ہے کہ کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ کا نام قلیل تھا عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کثیر رکھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ انہوں نے عمرو عثمان و زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہم سے روایت کی ہے۔ خود اپنی ذات سے بزرگ اور نیک حال تھے مدینے کی عید گاہ میں ان کا بہت بڑا مکان تھا ان کے پہلے عیدین کی عید گاہ اسی (مکان) کے پاس تھی وہ (مکان) بطحاء الوادی کے راستے میں تھا جو وسط مدینہ میں تھی۔

کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ کی اولاد میں محمد بن عبد اللہ بن کثیر تھے جو سخی اور بامروت اور نقیعہ تھے حسن بن زید بن الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم کو جب ابو جعفر نے والی مدینہ بنایا تو انہوں نے ان کو قاضی بنایا پھر جب مہدی والی خلافت ہوئے تو انہوں نے

عبد الصمد بن علی کو مدینے سے معزول کر دیا اور محمد بن عبداللہ بن کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ کو اس کا والی بنا دیا۔

ان دونوں کے بھائی:

عبدالرحمن بن الصلت رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن بن الصلت رضی اللہ عنہ برادر کثیر بن الصلت رضی اللہ عنہ سے ان کے کچھ افعال مروی ہیں۔ راوی نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ انہوں نے کسی اور سے بھی کوئی حدیث روایت کی ہے۔

عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ:

ابن نفیل بن عبدالعزی بن رباح بن عبداللہ بن قمرط بن زراح بن عدی بن کعب ان کی والدہ جمیلہ بنت عاصم بن ثابت بن قیس تھیں، اور وہ ابوالفتح بن عصمہ ابن مالک بن امیہ بن ضبیعہ بن زید تھے جو انصاری عمرو بن عوف میں سے تھے۔
نافع سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاصم کی والدہ کا نام بدل دیا، ان کا نام عاصیہ (نافرمان) تھا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نہیں بلکہ جمیلہ۔

ایوب سے مروی ہے:

عبید اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ:

الحیرة اور وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے مدینے میں قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ عبید اللہ نے کہا کہ میں نے انہیں تلوار ماری، جب انہوں نے تلوار کی آجٹ پائی تو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان سختی پیدا کر لی، عبید اللہ چلے گئے اور ابولؤلؤ کی لڑکی کو جو اسلام کا دعویٰ کرتی تھی قتل کر دیا۔

شہادت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر آپ کی جذباتی کیفیت:

عبید اللہ نے اس روز یہ ارادہ کیا تھا کہ مدینے کے (غلام) قیدیوں کو بغیر قتل کیے نہ چھوڑیں گے، مہاجرین اولین جمع ہوئے، عبید اللہ کا یہ ارادہ سخت گراں گزرا، ان پر سختی کی اور قیدیوں کے قتل سے روکا۔
عبید اللہ نے کہا کہ واللہ میں ان کو اور دوسروں کو بھی ضرور قتل کروں گا۔ دوسروں سے ان کی مراد بعض مہاجرین تھے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ خوشامد کرتے رہے یہاں تک کہ ان سے تلوار لے لی۔

ان کے پاس سعد رضی اللہ عنہ آئے، دونوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کا سر پکڑ کر باہم پیشانی پکڑنے لگا مگر لوگ حائل ہو گئے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے، ابھی لوگوں نے ان سے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا سر پکڑ لیا، دونوں میں بیچ بچاؤ کر دیا گیا، اس روز زمین لوگوں پر تاریک ہو گئی اور سب اس واقعے سے بہت غمگین ہوئے، عبید اللہ نے جفیہ و ہرمزان اور دختر ابی لؤلؤ کو قتل کر دیا تو لوگوں کو اندیشہ ہوا کہ انہیں سزا دی جائے۔

ابی دجزہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے اس روز عبید اللہ کو اس حالت میں دیکھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ اور وہ ایک دوسرے کی پیشانی پکڑ رہے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ کہتے تھے خدا تجھے غارت کرے تو نے ایسے شخص کو قتل کیا جو نماز پڑھتا تھا تو نے ایک

چھوٹی پٹی کو اور ایک اور شخص کو جو رسول اللہ ﷺ کی پناہ میں تھا قتل کیا، حق کو تیرے چھوڑنے کی گنجائش نہیں، پھر مجھے عثمان بنی اللہ سے تعجب ہوا کہ جس وقت وہ والی ہوئے انہیں کیونکر چھوڑ دیا لیکن مجھے معلوم ہوا کہ عمرو بن العاص بنی اللہ نے اس معاملے میں مداخلت کر کے انہیں اپنی رائے سے پھیر دیا۔

عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ بن عمر بنی اللہ نے ہرمزان اور دختر ابولولؤ کو قتل کیا تو سعد بن ابی وقاص بنی اللہ، عبید اللہ بن عمر بنی اللہ کی پیشانی پکڑ کر کھینچنے لگے، سعد بنی اللہ ان کی پیشانی پکڑ کے گھسیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ:

لا اسد الا انت تنهت واحدا وغالت اسود الارض عنك الغوائل

”سوائے تمہارے شیر نہیں ہیں کہ تم تہاؤ نکارتے ہو (جتنا بہت سے شیر مل کے ڈنکارتے ہیں) روئے زمین کے شیروں نے تمہاری جانب سے مفاہد مٹا دیئے۔“

یہ شعر کلاب بن علاط برادر حجاج کا ہے، عبید اللہ نے کہا کہ:

تعلم انی لحم ما لا تسبیغہ فکل من عشاہ الارض ماکت آکلا

”تم جانتے ہو کہ میں اس چیز کا گوشت ہوں جو تمہارے حلق سے نہیں اتر سکتا۔ لہذا تم جب تک کھا سکو زمین کے کیڑے مکوڑے کھاتے رہو۔“

پھر عمرو بن العاص بنی اللہ آئے، عبید اللہ سے گفتگو شروع کی اور خوشامد کر کے ان سے تلوار لے لی، وہ قید خانے میں قید کر لیے گئے، جب عثمان بنی اللہ والی ہوئے ان کو رہا کر دیا۔

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ اس روز عبید اللہ ایک جنگجو درندے کی شکل میں تھے، جو عجیبوں کو تلوار سے روکتے تھے یہاں تک کہ قید خانے میں قید کر دیئے گئے، میں خیال کرتا تھا کہ اگر عثمان بنی اللہ والی ہوں گے انہیں قتل کر دیں گے، اس لیے کہ میں نے وہ سب دیکھا تھا جو انہوں نے ان کے ساتھ کیا تھا، اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے وہ اور سعد بنی اللہ سب سے زیادہ ان پر سخت تھے۔

مطلب بن عبید اللہ بن حطب سے مروی ہے کہ علی بنی اللہ نے عبید اللہ بن عمر بنی اللہ سے پوچھا کہ جس وقت تم نے ابولولؤ کی لڑکی کو قتل کیا تو اس کا کیا گناہ تھا، عثمان بنی اللہ نے علی بنی اللہ سے مشورہ کیا تو علی بنی اللہ کی رائے اور رسول اللہ ﷺ کے اکابر اصحاب کی رائے ان کے قتل کی ہوئی، لیکن عمرو بن العاص بنی اللہ نے عثمان بنی اللہ سے اتنی بحث کی کہ انہوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ علی بنی اللہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں عبید اللہ بن عمر بنی اللہ پر قادر ہوتا اور مجھے سلطنت ملتی میں ضرور ان سے قصاص لیتا۔

عکرمہ مولائے ابن عباس سے مروی ہے کہ علی بنی اللہ کی رائے تھی کہ اگر عبید اللہ بن عمر بنی اللہ پر قادر ہوں تو انہیں قتل کر دیں۔

زہری سے مروی ہے کہ جب عثمان بنی اللہ خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے مہاجرین و انصار کو بلایا اور کہا کہ مجھے اس شخص کے قتل کے بارے میں مشورہ دو، جس نے دین میں رخنہ ڈالا، مہاجرین و انصار متفق ہو کر عثمان بنی اللہ کو ان کے قتل پر جرات دلاتے تھے، اکثر لوگوں نے کہا کہ اللہ ہرمزان اور حنیفہ کو دور کرے کہ عبید اللہ کو ان کے والد کے پیچھے بھیج دینا چاہتے ہیں۔ اس قول کی کثرت ہو

گئی، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین یہ امر (قتل) اس کے قبل ہوا کہ آپ کو لوگوں پر سلطنت حاصل ہو لہذا آپ ان سے درگزر کیجئے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے کلام سے لوگ منتشر ہو گئے۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے مشورہ کیا تو لوگوں نے دونوں (مقتولین جھبیہ و ہرمزان) کے خون بہا پر اتفاق کیا اور اس پر بھی متفق ہوئے کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو ان دونوں کے بدلے قتل نہ کیا جائے، دونوں مسلمان ہو گئے تھے اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔

لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ میں شمولیت:

جب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیعت کی گئی تو انہوں نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قتل کا ارادہ کیا، وہ بھاگ کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے انہیں کے ساتھ رہے اور جنگ صفین میں قتل ہوئے۔

یزید بن یزید بن جابر کہتے تھے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ علی رضی اللہ عنہ جس حالت میں ہیں تم دیکھتے ہو کہ بکر بن وائل ان کی مہمان داری کرتے ہیں، کیا تمہاری رائے ہے کہ تم الشہباء جاؤ، انہوں نے کہا ہاں، عبید اللہ اپنے خیمے میں واپس آئے اور ہتھیار پہنے سوچا خوف ہوا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ اپنے حال پر قتل کر دیئے جائیں گے۔

ایک مولیٰ (آزاد کردہ غلام) نے کہا کہ میرے باپ آپ پر قربان ہوں، معاویہ رضی اللہ عنہ صرف موت کے لیے آپ کو آگے کرتے ہیں، اگر آپ کو فتح ہوئی تو وہ والی ہو جائیں گے اور اگر آپ قتل کر دیئے گئے تو انہیں آپ سے اور آپ کے ذکر سے فرصت مل جائے گی، لہذا میرا کہنا مانئے اور عذر کر دیجئے، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے تم نے جو کچھ کہا میں سمجھ گیا، بحر یہ بنت ہانی ان کی بیوی نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ تمہیں عجلت کرتے دیکھتی ہوں، انہوں نے کہا کہ مجھے امیر نے حکم دیا ہے کہ الشہباء جاؤں، کہنے لگیں، واللہ وہ مثل اس صندوق کے ہے جو کوئی اس کو اٹھاتا ہے وہ ضرور قتل کر دیا جاتا ہے، تم قتل کر دیئے جاؤ گے اور جو شخص (یہ) چاہتا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خاموش رہو واللہ میں آج تمہاری قوم میں بہت کشت و خون کروں گا۔

بیوی نے کہا کہ (میری قوم کا کوئی) مقتول نہ ہوگا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے تمہیں فریب دیا ہے، اور تمہیں خود تمہیں سے دھوکا دیا ہے، ان پر تمہارا ہونا گراں ہے، عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اور انہوں نے آج سے پہلے اس کے متعلق تمہارے بارے میں فیصلہ کر لیا تھا، اگر تم علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتے یا اپنے گھر میں بیٹھتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، تمہارے بھائی نے یہی کیا ہے، حالانکہ وہ تم سے بہتر ہیں، انہوں نے کہا، خاموش رہو بات کرتے اور مسکراتے جاتے تھے، کہنے لگے کہ تم اپنی قوم کے قیدیوں کو اسی خیمے کے گرد دیکھو گی۔

بیوی نے پھر کہا، واللہ مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے قوم کے پاس جاؤں گی کہ تمہارا جسم مانگ کر اسے دفن کروں، تمہیں فریب دیا گیا ہے، تم ایسی قوم سے بھڑتے ہو جو موٹی گردن والے ہیں، ان میں ایسا سرکش بھی ہے کہ لوگ اسے اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہلاکت کی طرف دیکھتے ہوں، وہ اگر لوگوں کو کھانا پینا ترک کرنے کا حکم دے تو لوگ اسے نہ چکھیں، انہوں نے کہا کہ ملامت کو کم کرو کیونکہ ہمارے نزدیک تمہاری بات نہیں مانی جائے گی۔

جنگ صفین میں شراکت:

پھر عبید اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ نے الشہباء کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ بارہ ہزار تھے اور آٹھ ہزار اہل شام کو بھی ان کے ماتحت کیا، ان میں ذوالکلاع مع قبیلہ حمیر کے تھے۔

ان لوگوں نے جنگ کی ٹھان لی اور ارادہ کیا کہ علی رضی اللہ عنہ تک پہنچ جائیں جب انہیں قبیلہ ربیعہ نے دیکھا تو گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور نیزہ بازی شروع کر دی، چاروں طرف سے گھیر کے ان پر چھپے اور ایسا شدید قتال کیا کہ سوائے نیزوں اور تلواروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ عبید اللہ قتل کر دیئے گئے اور ذوالکلاع بھی مارے گئے، جس نے عبید اللہ کو قتل کیا وہ زیاد بن حصفہ التیمی تھا۔

تجہیز و تکفین:

معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ کی بیوی سے کہا کہ اگر تم اپنی قوم میں جا کر ان لوگوں سے عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی لاش کے بارے میں گفتگو کرتیں تو بہتر ہوتا وہ سوار ہو کے ان کے پاس گئیں، ہمراہ وہ بھی تھا جو انہیں پناہ دے۔

وہ ان لوگوں کے پاس آئیں اور اپنا نسب بیان کیا، لوگوں نے کہا کہ ہم نے پہچان لیا، تمہیں مرحبا بتاؤ کیا کام ہے انہوں نے کہا کہ یہ لاش جسے تم لوگوں نے قتل کیا ہے اسے لے جانے کی اجازت دو۔

بکر بن وائل کے نوجوان کھڑے ہوئے، لاش کو خچر پر رکھ کر باندھ دیا، بیوی نے لشکر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رخ کیا، معاویہ رضی اللہ عنہ نے لاش کو ایک تابوت میں رکھا، قبر کھودی اور ان پر نماز پڑھ کے دفن کر دیا، پھر رونے لگے، کہتے تھے کہ ابن فاروق رضی اللہ عنہ قتل کر دیا گیا، زندگی و موت میں وہ تمہارے خلیفہ کا فرماں بردار رہا لہذا اس کے لیے دعائے رحمت کرو، اگرچہ اللہ نے اس پر رحمت کی تھی اور اسے خیر کی توفیق دی تھی۔

بحر یہ بھی ان پر رو رہی تھیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا تھا جب انہیں معلوم ہوا تو کہنے لگیں کہ تمہیں تو ہو کہ ان کے لوگوں کو یتیم کرنے اور ان کی جان لینے میں عجلت کی، ان پر بعد کے امر عظیم کا پورا خوف تھا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھتے نہیں، یہ عورت کیا کہتی ہے، اور جو کچھ سنا تھا بیان کر دیا۔

عمرو نے کہا کہ واللہ تم پر تعجب ہے تم نہیں چاہتے کہ لوگ کچھ کہیں۔ واللہ لوگوں نے تو ان لوگوں کے بارے میں کہا ہے جو ہم سے اور تم سے بہتر تھے، تو وہ لوگ تمہارے بارے میں نہ کہیں گے۔ اے شخص اگر اس سے چشم پوشی (صبر) نہ کرو گے جو تم دیکھتے ہو تو تم خود اپنی طرف سے غم میں رہو گے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ یہی رائے مجھے اپنے والد سے میراث میں ملی ہے۔

عبید اللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں ہم سے اختلاف کیا گیا ہے۔ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ انہیں قبیلہ ربیعہ نے قتل کیا اور کوئی کہتا ہے کہ ہمدان کے کسی شخص نے قتل کیا، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ انہیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور کوئی کہتا ہے کہ بنی حنفیہ کے کسی شخص نے قتل کیا۔

ابی الحسن سعد مولائے حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں جنگ صفین کی رات کو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نکلا، ہمدان کے پچاس آدمی ساتھ تھے اور چاہتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ سے جا ملیں، وہ دن ایسا تھا کہ فریقین کے درمیان بہت شر ہوا تھا۔

ہم لوگ ہمدان کے ایک کانے آدمی کے پاس سے گزرے جس کا نام مذکور تھا اس نے اپنے گھوڑے کی پچھاڑی ایک مقتول کے پاؤں سے باندھی تھی، حسن بن علی رضی اللہ عنہما اس کے پاس ٹھہر گئے سلام کیا اور کہا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں ہمدان کا آدمی ہوں پوچھا تم یہاں کیا کرتے ہو اس نے کہا کہ اول شب میں نے اس مقام پر اپنے ساتھیوں کو چھوڑا تھا میں ان کی واپسی کا منتظر ہوں انہوں نے کہا کہ یہ مقتول کون ہے اس نے کہا کہ مجھے اس کے سوا کچھ معلوم نہیں کہ یہ ہم پر بہت سخت تھا ہمیں سخت شکست دیتا تھا اور کہتا تھا کہ میں طیب بن الطیب ہوں جب تلوار مارتا تھا تو کہتا تھا کہ میں ابن الفاروق رضی اللہ عنہ ہوں اللہ نے اسے میرے ہاتھ سے قتل کیا۔

حسن رضی اللہ عنہ اتر کے اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تھے ان کے ہتھیار اس شخص کے آگے تھے وہ اسے علی رضی اللہ عنہ کے پاس لائے، علی رضی اللہ عنہ نے ان کا سامان اسے دے دیا اور اس کی چار ہزار درہم قیمت لگا کے (اسے دے دی)۔

ابی زرین سے مروی ہے کہ میں صفین میں اپنے مولیٰ کے ہمراہ تھا چہارم شب گزر جانے کے بعد میں نے علی رضی اللہ عنہ کو گشت کرتے دیکھا لوگوں کو حکم دیتے تھے اور منع کرتے تھے لوگوں نے جمعہ کی صبح کی تو مقابلہ کیا اور شدید قتال کیا، عمار بن یاسر اور عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی مقابلہ کیا عبید اللہ نے کہا کہ میں طیب بن الطیب ہوں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما نے جواب دیا کہ تم خبیث بن الطیب ہو۔ پھر عمار رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا اور کہا کہ انہیں حضرمیوں میں سے کسی نے قتل کیا۔

محمد بن عمر نے کہا مجھے دوسری سند اور دوسرے راوی سے معلوم ہوا کہ عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس روز عمار رضی اللہ عنہ کا کان کاٹ ڈالا، لیکن ہمارے نزدیک زیادہ ثابت یہ ہے کہ عمار رضی اللہ عنہ کا کان جنگ یمامہ میں کاٹا گیا۔

ابو حمزہ محمد بن ربیعہ رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی۔ کنیت ابو حمزہ تھی ان کی والدہ جمانہ بنت ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ابن عبد مناف بن قصی تھیں۔

محمد بن ربیعہ رضی اللہ عنہما یہاں حمزہ پیدا ہوئے انہیں سے ان کی کنیت تھی ان کے علاوہ قاسم و حمید و عبد اللہ اکبر تھے کہ وہی عائد اللہ تھے۔ عائد اللہ کی والدہ جویریہ اس ابو حمزہ شاعر کی بیٹی تھیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری کے ساتھ غزوہ احد میں قتل کیا، ابو حمزہ کا نام عمرو بن عبد اللہ ابن عمیر بن اہیب بن حذافہ بن محم تھا۔

ایک بیٹے عبد اللہ تھے اور ایک جعفر بن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا علاوہ ان کے حارث و عثمان و ام کلثوم و ام عبد اللہ تھیں ان سب کی والدہ امۃ اللہ بنت عدی بن النخار بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

علی و محمد ام ولد سے تھے ام عبید اللہ اور ایک دوسری بیٹی بھی ام ولد سے تھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت محمد بن ربیعہ دس سال سے زائد تھے ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی ہے، البتہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملے تھے اور ان سے روایت کی ہے۔

محمد بن ربیعہ بن الحارث سے مروی ہے انہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بال لے لے تھے یہ ذوالحلیفہ میں ہوا محمد نے

کہا کہ میں اپنی اونٹنی پر تھا اور ذی الحجہ میں حج کا ارادہ کر رہا تھا، مجھے انہوں نے حکم دیا کہ سر کے بال کترادوں میں نے قمیل کی۔
محمد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عبدالرحمن الاعرج (لنگڑے) محمد بن ربیعہ بن الحارث کے آزاد غلام تھے۔

عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والدہ ضریبہ بنت سعید بن القشب تھیں، قشب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نضلہ بن محصب بن صعوب بن مبشر بن دہمان تھا جو الازد میں سے تھے، ضریبہ کی والدہ حکیم بنت سفیان بن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف تھیں جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی خالہ تھیں، سعد رضی اللہ عنہ کی والدہ حمندہ بنت سفیان بن امیہ بن عبدشمس تھیں۔

عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ کی اولاد (معلوم نہ ہو سکی)۔

عبداللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے۔

ابوالغیث سے مروی ہے کہ ۴۲ھ میں جب پہلی مرتبہ مروان بن الحکم معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف سے والی مدینہ ہوا تو اس نے عبداللہ بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب کو مدینے کا قاضی بنایا، میں نے ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ یہ پہلے قاضی ہیں جن کو میں نے اسلام میں دیکھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے ساتھیوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ عبداللہ بن نوفل بن الحارث مروان بن الحکم کی جانب سے مدینے کے پہلے قاضی تھے، حالانکہ ان کے اہل بیت ان کے یا اور کسی بنی ہاشم کے قاضی مدینہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اہل بیت نے کہا کہ ان کی وفات معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد بھی زمانہ دراز تک زندہ رہے۔ اور ۸۴ھ عبدالمملک بن مروان کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔

عبید اللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم۔

علی بن زید بن جدعان سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن نوفل و سعید بن نوفل و مغیرہ بن نوفل سب قرآن قریش میں سے تھے اور جب سورج نکلتا تھا تو صبح ہی کو جمعہ کی نماز کے لیے چلے جاتے تھے اس سے وہ اس ساعت کو چاہتے تھے جس میں (مغفرت کی) امید کی جاتی ہے۔ عبید اللہ بن نوفل رضی اللہ عنہ سو گئے تو انہیں (بیدار کرنے کے لیے) جھنجھوڑا گیا (یا ان کی پیٹھ میں دھکا دیا گیا) اور کہا گیا کہ یہی وہ ساعت ہے جس کو تم چاہتے ہو، انہوں نے سزاٹھایا (اور اس طرح مسجد کی طرف بھاگے) کہ وہ مثل اس ابر کے تھے جو آسمان پر چڑھتا ہے، یہ اس وقت ہوا کہ آفتاب ڈھل گیا تھا۔

مغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ ضریبہ بنت سعید بن القشب تھیں، قشب کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع

بن نضله بن حصب بن صعوب بن مبشر بن دہمان تھا جو الازد میں سے تھے۔

مغیرہ کے یہاں ابوسفیان پیدا ہوئے جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا ان کی والدہ آمنہ بنت ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔

عبدالملک اور عبدالواحد ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

سعید ولوط و اسحاق و صالح و ربیعہ و عبدالرحمن مختلف ام ولد سے تھے۔

عبداللہ و عون بھی ام ولد سے تھے۔

امامہ و ام المغیرہ ان دونوں کی والدہ بنت ہمام بن مغرب بن عقیل میں سے تھیں۔

علی بن الحسین سے مروی ہے کہ کعب نے مغیرہ بن نوفل کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ قیامت میں میری شفاعت کرنا انہوں نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور کہا کہ میں کیا ہوں میں تو مسلمانوں میں سے ایک شخص ہوں انہوں نے پھر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے خوب زور سے پکڑ لیا اور کہا کہ آل محمد کا کوئی مومن ایسا نہیں جسے قیامت میں شفاعت کا حق نہ ہو پھر کہا کہ اسے (یعنی شفاعت کو) اس کے (یعنی حدیث کے) بدلے یاد رکھنا۔

عبدالملک بن المغیرہ بن نوفل رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے والد نے بیان کیا کہ کعب الاحبار نے میرا ہاتھ پکڑا زور سے دبا یا اور کہا کہ میں اسے تمہارے پاس چھپاتا ہوں تاکہ تم اسے قیامت میں یاد کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں اس میں سے کیا یاد کروں گا انہوں نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن درجہ بدرجہ اپنے قرابت داروں سے شفاعت شروع کریں گے۔

سعید بن نوفل رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ ضریرہ بنت سعید بن القشب تھیں جن کا نام جندب بن عبداللہ بن رافع بن نضله بن حصب بن صعوب بن مبشر بن دہمان تھا ازد میں سے تھے۔

سعید بن نوفل رضی اللہ عنہما کے یہاں اسحاق اکبر و حنظلہ اور ولید و سلیمان و اشعث و ام سعید جن کا نام امتمہ تھا پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام الولید بنت ابی خریشہ ابن الحارث بن مالک بن المسیب خزاعہ کے بنی خبشہ میں سے تھیں۔

اسحاق اصغر و یعقوب و ام عبداللہ و ام اسحاق یہ سب مختلف ام ولد سے تھے۔ رقیہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت جعفر بن ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔ سعید بن نوفل رضی اللہ عنہما فقیر و عابد تھے۔

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما:

ابن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والدہ ہند بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبدشمس بن عبدمناف ابن قصی تھیں۔

بچپن میں سعادت:

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے تو ان کی والدہ ہند بنت ابی سفیان جن کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی ﷺ تھیں انہیں لائیں رسول اللہ ﷺ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے تو پوچھا کہ اے ام حبیبہ رضی اللہ عنہا یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے چچا اور میری بہن کا بیٹا ہے یہ حارث بن نوفل بن الحارث ابن عبدالمطلب اور ہند بنت ابی سفیان بن حرب کا بیٹا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور دعا فرمائی۔

خاندان اور اولاد:

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما کی اولاد میں عبداللہ بن عبد اللہ محمد بن عبد اللہ تھے ان دونوں کی والدہ خالدہ بنت مغربہ بن ابی لہب بن عبدالمطلب تھیں خالدہ کی والدہ عاتکہ بنت ابی سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔ عاتکہ کی والدہ ام عمرو بنت المقوم بن عبدالمطلب تھیں۔

اسحاق بن عبد اللہ و عبید اللہ بن عبد اللہ عبید اللہ الارجو ان تھے فضل بن عبد اللہ اور ام الحکم بنت عبد اللہ جن کے یہاں محمد بن علی بن عبد اللہ بن عباس بن عبدالمطلب سے بیچی و محمد کہ لا ولد مر گئے اور عالیہ فرزند ان محمد بن علی پیدا ہوئے ام الحکم کے والد کی والدہ عبد اللہ کی بیٹی تھیں اور زینب بنت عبد اللہ و ام سعید بنت عبد اللہ و ام جعفران سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت العباس بن ربیعہ ابن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔

عبدالرحمن بن عبد اللہ ان کی والدہ بنت محمد بن صلی بن ابی رفاعہ بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ عون بن عبد اللہ ان کی والدہ ام ولد تھیں ضریبہ بنت عبد اللہ بھی ام ولد سے تھیں خالدہ بنت عبد اللہ بھی ام ولد سے تھیں اور ام عمرو و ہند دختران عبد اللہ بھی ام ولد سے تھیں۔

عبداللہ بن الحارث سے مروی ہے کہ وہ زمانہ عثمان رضی اللہ عنہ میں کے پرامیر تھے۔

عبداللہ بن الحارث بن نوفل سے مروی ہے کہ میرے والد نے عثمان رضی اللہ عنہ کی امارت میں نکاح کیا انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اصحاب کی دعوت کی صفوان بن امیہ آئے جو بہت بوڑھے تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ گوشت کو دانتوں سے نوچو کیونکہ وہ زیادہ لذیذ و عمدہ (طریقتہ) ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن الحارث کی کنیت ابو محمد تھی۔ انہوں نے الجابیہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے خطبہ سنا ہے۔ اور عثمان بن عفان و ابی بن کعب و حذیفہ ابن الیمان و عبد اللہ بن عباس اور ابن والد حارث بن نوفل رضی اللہ عنہم سے بھی (حدیث) سنی ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما اپنے والد کے ساتھ بصرے منتقل ہو گئے تھے وہاں انہوں نے مکان بنا لیا تھا ان کا لقب بیہ تھا جب مسعود بن عمرو کا زمانہ آیا اور عبید اللہ ابن زیاد بصرے سے نکل گیا اور لوگوں نے آپس میں آمد و رفت کی اور قبائل و عشائر نے باہم بلایا تو ان سب نے اپنے معاملے میں اتفاق کر کے عبداللہ بن الحارث بن نوفل رضی اللہ عنہما کو اپنی نماز اور اپنے مال غنیمت کا والی

بنادیا اس کے متعلق عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کو لکھ دیا کہ ہم لوگ ان سے راضی ہو گئے ہیں عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے انہیں بصرے پر برقرار رکھا۔

عبداللہ بن الحارث بن نوفل رضی اللہ عنہما منبر پر چڑھے اور لوگوں سے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت لی یہاں تک کہ انہیں غنودگی آگئی، مگر وہ لوگوں سے بیعت لیتے رہے حالانکہ اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے سو رہے تھے۔ حمیم بن وثیل الیربوعی نے شعر کہا:

بایعت ایقظا و اوفیت بیعتی وبتة قد بايعته و نائم

”میں نے بیدار لوگوں سے بیعت کی اور میں نے اپنی بیعت کو پورا کر دیا۔ اور بہ سے میں نے اس حالت میں بیعت کی وہ سو رہے تھے۔“

عبداللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما ایک سال تک بصرے کے عامل رہے پھر معزول کر دیئے گئے حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ الحزرمی عامل ہوئے اور عبداللہ بن الحارث بن نوفل رضی اللہ عنہما چلے گئے یہاں ان کی وفات ہو گئی۔

سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہما:

ابن حذیفہ غانم بن عامر (بن عبداللہ) بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب ان کی والدہ شفاء بنت عبداللہ بن عبد شمس بن خلف بن صدار بن عبداللہ بن قریظ بن رزاح بن عدی بن کعب تھیں۔

سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہما کے یہاں ابو بکر و عمر و محمد پیدا ہوئے ان سب کی والدہ امہ اللہ بنت المسیب بن صفی بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔

عثمان بن سلیمان ان کی والدہ میمونہ بنت قیس بن ربیعہ بن ریحان بن حریثان ابن نصر بن عمرو بن ثعلبہ بن کنانہ بن عمرو بن قین بن فہم تھیں۔

زمانہ فاروقی میں عورتوں کی امامت:

سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہما کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالغ تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں عورتوں کی امامت کا حکم دیا تھا اور انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے (حدیث) سنی ہے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سلیمان بن ابی حشمہ رمضان میں عورتوں کی امامت کرتے تھے۔

ابی بکر بن سلیمان بن ابی حشمہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابی حشمہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں کو تراویح پڑھائیں۔

عمر بن عبداللہ العنسی سے مروی ہے کہ ابی بن کعب اور تمیم الداری دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تراویح کے لیے کھڑے ہو کر مردوں کو نماز پڑھاتے تھے اور سلیمان بن ابی حشمہ مسجد کے صحن میں عورتوں کو تراویح پڑھاتے تھے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عورتیں اور مرد ایک ہی قاری سلیمان بن ابی حشمہ رضی اللہ عنہما پر جمع ہو گئے، عورتوں کو حکم دیتے، وہ رک جاتیں یہاں تک کہ مرد گزر

جاتے، پھر انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا۔

ربیعہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن الہدیٰ بن عبد العزیٰ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سمیہ بنت قیس بن الحارث بن نضله بن عوف بن عبید بن عتوج بن عدی بن کعب تھیں۔

ربیعہ بن عبد اللہ کے یہاں عبد اللہ و ام جمیل ایک ام ولد سے پیدا ہوئے۔

عبد الرحمن و عثمان و ہارون و عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ و صالح مختلف ام ولد سے پیدا ہوئے۔

ربیعہ بن عبد اللہ بن الہدیٰ بن عبد العزیٰ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سمیہ بنت قیس بن الحارث بن نضله بن عوف بن عبید بن عتوج بن عدی بن کعب تھیں۔

ابن المنکدر سے مروی ہے کہ ربیعہ بن عبد اللہ بن الہدیٰ کو کہتے سنا کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو زینب بنت جحش

رضی اللہ عنہا کے جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا۔

ان کے بھائی:

منکدر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن الہدیٰ بن عبد العزیٰ بن عامر بن الحارث بن حارثہ بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سمیہ بنت قیس بن الحارث بن نضله بن عوف بن عبید بن عتوج بن عدی بن کعب تھیں۔

منکدر بن عبد اللہ کے یہاں عبید اللہ اور ام عبید اللہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ سعدہ بنت عبید اللہ عبد اللہ بن شہاب بنی زہرہ میں سے تھیں۔

محمد بن المنکدر رقیہ اور عمر و ابو بکر و ام یحییٰ مختلف ام ولد سے تھیں۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں:

ابی معشر سے مروی ہے کہ منکدر بن عبد اللہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے انہوں نے پوچھا کہ تمہارے اولاد ہے؟ عرض کی نہیں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اگر میرے پاس دس ہزار درہم ہوتے تو میں وہ سب تمہیں ہیہ کر دیتی، شام ہوتے ہوتے معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس مال بھیجا عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اس قدر جلد بٹلا ہوگی منکدر کو دس ہزار درہم بھیج دیئے انہوں نے اسی سے ایک لونڈی خریدی وہی محمد و عمر و ابو بکر کی ماں تھیں۔ یعنی ام ولد تھیں۔

عبد اللہ بن عیاش رضی اللہ عنہ:

ابن ابی ربیعہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ اسماء بنت سلامہ بن مخزومہ بن حنظل بن ابیر بن نہشل بن دارم تھیں۔

عبد اللہ بن عیاش رضی اللہ عنہ کے یہاں حارث اور ام عبد اللہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ ہند بنت مطرف بن سلامہ بن مخزومہ بن حنظل بن ابیر بن نہشل بن دارم تھیں۔

عبداللہ بن عیاش رضی اللہ عنہما ملک حبشہ میں پیدا ہوئے، ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت کی ہے، البتہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے مدینے میں ان کا ایک مکان تھا۔

حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی ربیعہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

حارث بن عبداللہ کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام عبدالغفار بنت عبداللہ بن عاصر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس تھیں۔

عبدالعزیز و عبدالملک و عبدالرحمن و ام حکیم و حنتمہ ان سب کی والدہ حنتمہ بنت عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام تھیں۔
محمد و عمرو و سعد و ابوبکر و ام فروہ و قریبہ و ابیہ و اسماء ان سب کی والدہ عائشہ بنت محمد بن الاشعث بن قیس بن معدی کرب بن معاویہ بن جبلہ کنہ میں سے تھیں۔

عیاش بن الحارث ایک ام ولد سے تھے اور عمر ایک ام ولد سے۔

ام داؤد ام الحارث ان دونوں کی والدہ ام ابان بنت قیس بن عبداللہ ابن الحسین ذی النصفہ بن یزید بن شداد بن قحان الحارثی تھیں۔

ام محمد و امتمہ الرحمن ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

عبدالرحمن و عبداللہ اکبر ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت صفوان ابن امیہ بن خلف الحنظلی تھیں۔

بصرہ کی گورنری:

عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بصرے کا عامل بنایا تھا، بہت تیز بولنے والے آدمی تھے بصرے کے پیمانے پر نظر پڑی تو کہا کہ یہ بڑا پیانا بہت اچھا ہے (قباع صالح ہے) لوگوں نے ان کا لقب القباع (احق) رکھ دیا۔
واعظ اور پارساتھے رنگ میں سیاہی تھی اس لیے کہ ان کی والدہ ایک حبشی عیسائی تھیں وہ مرگئیں تو حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ ان کے پاس آئے ساتھ بغرض تعزیت اور لوگ بھی آئے مگر سب کنارے رہے ان کے دین والے لوگ آئے اور ان کا انتظام کیا ان لوگوں کی بہت بڑی جماعت ان کے پاس آئی اور وہ سب علیحدہ تھے۔

حارث بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بارے میں ابوالاسود الدؤلی نے (اشعار ذیل میں) عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے کہا ہے:

امیر المؤمنین ابابکر ارحنا من قباع بنی المغیرہ

”اے ابوبکر! اے امیر المؤمنین! ہمیں قبیلہ بنی مغیرہ کے قباع سے نجات دلائیے۔“

حمد ناہ و لمناہ فاعیا علینا مایمرلنا زبرہ

ہم انہیں اچھا بھی سمجھے اور قابل ملامت بھی ان کے معاملے نے تو ہمیں عاجز و حیران کر دیا۔

سوی ان الفقی تکح اکول وسہاک محاطہ کثیرہ

یہ اور بات ہے کہ وہ جوان ہیں خوب نکاح کرتے ہیں۔ خوب کھاتے ہیں اور تیز بولنے والے ہیں جن کا کلام بہت ہے۔

کانا حین جنناہ اطمینا بضیعان تورط فی خطیرہ

جس وقت ہم لوگ ان کے پاس آتے ہیں تو گویا ایک ایسے بچے کے قریب آتے ہیں جو گھر میں گھس آیا ہو۔

عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے انہیں بصرے سے معزول کر دیا، ان کی ولایت ایک سال رہی، ان کے بجائے مصعب بن الزبیر کو عامل بنایا، وہ بصرے آئے مختار بن ابی عبید کے مقابلے کے لیے جانے کی تیاری کی۔

سعید بن العاص رضی اللہ عنہ:

ابن سعید ابی اجمہ بن العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، ان کی والدہ ام کلثوم بنت عمرو بن عبداللہ بن قیس بن عدود بن نصر بن مالک ابن حسل بن عامر بن لوی تھیں، کلثوم کی والدہ ام حبیب بنت العاص بن امیہ ابن عبد شمس تھیں۔

آل واولاد کی تفصیل:

سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے یہاں عثمان اکبر پیدا ہوئے جو لا ولد مر گئے، محمد و عمر پیدا ہوئے، عبداللہ اکبر اور حکم دونوں لا ولد مر گئے، ان سب کی والدہ ام البنین بنت الحکم بن ابی العاص بن امیہ تھیں۔

عبداللہ بن سعید کی والدہ ام حبیب بنت جبیر بن مطعم بن عدی بن نوفل تھیں۔

یحییٰ بن سعید اور ایوب جو لا ولد مر گئے، ان دونوں کی والدہ عالیہ بنت سلمہ بن یزید مشجعہ بن الحکم بن مالک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن جحفی بن سعد العشیرہ نذرج میں سے تھیں۔

ابان بن سعید اور خالد اور زبیر جو دونوں لا ولد مر گئے، ان سب کی والدہ جویریہ بنت سفیان بن عوف بن عبداللہ بن عامر بن ہلال بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبد مناة بن کنانہ تھیں۔

عثمان اصغر بن سعید و داؤد سلیمان و معاویہ و آمنہ ان سب کی والدہ ام عمرو بنت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھیں۔ ام عمرو کی والدہ رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ ابن عبد شمس تھیں۔

سلیمان اصغر بن سعید ان کی والدہ ام سلمہ بنت حبیب بن بھیر بن عامر ابن مالک بن جعفر بن کلاب تھیں۔

سعید بن سعید ان کی والدہ مریم بنت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھیں، مریم کی والدہ ناکلہ بنت الفرافصہ بن الاحوص قبیلہ کلب سے تھیں۔

عنبنہ بن سعید ایک ام ولد سے تھے۔ عقبہ بن سعید اور مریم دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ ابراہیم بن سعید ان کی والدہ بنت سلمہ بن قیس بن علاشہ بن عوف بن الاحوص بن جعفر بن کلاب تھیں۔

جریر بن سعید و ام سعید بنت سعید ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت جریر بن عبداللہ الجبلی تھیں۔

رملہ بنت سعید و ام عثمان بنت سعید و امیمہ بنت سعید ان سب لڑکیوں کی والدہ امیمہ بنت عامر بن عمرو بن ذبیان بن ثعلبہ بن عمرو بن یثغر بجیلہ میں سے تھیں اور بجیلہ ابی اراکہ کی بہن تھیں اور وہ الرواح بنت جریر بن عبداللہ الجبلی تھیں۔

حفصہ بنت سعید اور عائشہ کبریٰ وام عمرو ام یحییٰ وفاختہ وام حبیب کبریٰ ام حبیب صفریٰ وام کلثوم و سارہ وام داؤد وام سلیمان وام ابراہیم و حمیدہ یہ سب لڑکیاں مختلف ام ولد سے تھیں۔

عائشہ صفریٰ بنت سعید ان کی والدہ ام حبیب بنت حجر عامر بن مالک بن جعفر ابن کلاب تھیں۔

وفات نبوی کے وقت آپ کی عمر:

جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو سعید نو یا قریب نو سال کے تھے یہ اس لیے کہ ان کے والد عاص بن سعید بن العاص بن امیہ جنگ بدر میں بحالت کفر مارے گئے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مکالمہ

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں بے رخی کرتے دیکھتا ہوں، گویا تمہارا گمان یہ ہے کہ میں نے ہی تمہارے والد کو قتل کیا ہے۔ میں نے اسے قتل نہیں کیا اسے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اگر میں اسے قتل کرتا تو میں ایک مشرک کے قتل سے عذر نہ کرتا۔ میں نے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔

سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ ہی قتل کرتے تو آپ حق پر تھے اور وہ باطل پر تھا، عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات نے ان سے خوش کر دیا۔

عمرو بن سعید یحییٰ بن سعید الاموی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر البلاط والے مکان اور اپنے چچاؤں کی زمین کے قطعات میں جو رسول اللہ ﷺ کے پاس تھے زیادہ کرنے کو کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صبح کی نماز ہمارے ساتھ پڑھنا، سویرے آنا اور مجھے اپنی حاجت یاد دلانا۔

انہوں نے کہا کہ میں نے یہی کیا، جب وہ واپس ہوئے تو میں نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میری وہ حاجت جس کے متعلق آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اسے آپ کو یاد دلاؤں، وہ میرے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا کہ اپنے مکان کی طرف چلو، میں اس کے پاس پہنچا، انہوں نے میرے لیے زمین میں اضافہ کر دیا اور اپنے پاؤں سے نشان کر دیا۔

عرض کی یا امیر المؤمنین اور زیادہ دیجئے، کیونکہ میرے متعلقین اولاد بہت بڑھ گئی ہے۔ فرمایا تمہیں یہ کافی ہے یہ بات اپنے ہی تک پوشیدہ رکھنا کہ میرے بعد وہ شخص والی امر ہوگا جو تمہارے ساتھ صلہ رحم (سلوک) کرے گا۔ اور تمہاری حاجت پوری کرے گا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرابت:

میں خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ میں ٹھہرا رہا یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے۔ انہوں نے خلافت کو شوری و رضامندی سے حاصل کیا، میرے ساتھ صلہ رحم کیا اور احسان کیا، میری حاجت پوری کی اور اپنی امانت میں شریک کیا۔

لوگوں نے کہا کہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی قرابت کی وجہ سے انہیں کے نواح میں رہے، جب عثمان

نبی ﷺ نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو کوفے سے معزول کر دیا تو سعید بن العاص نبی ﷺ کو بلا کر انہیں عامل بنایا، کوفے میں آئے تو اس وقت تک نوجوان ناز پروردہ نا تجربہ کار تھے انہوں نے کہا کہ میں منبر پر تا وقتیکہ وہ خوب پاک صاف نہ کیا جائے نہ چڑھوں گا۔

حکم ہوتے ہی منبر دھویا گیا، سعید بن العاص نبی ﷺ اس پر چڑھے اہل کوفہ کو خطبہ سنایا جس میں ان لوگوں کو قصور وار بتایا، نا اتفاقی اور اختلاف کی طرف منسوب کیا اور کہا کہ یہ بستی قریش کے بچوں کا باغ ہے۔

لوگوں نے عثمان نبی ﷺ سے ان کی شکایت کی، انہوں نے کہا کہ جب کبھی تم میں سے کوئی شخص اپنے امیر سے ذرا سی بھی سختی دیکھتا ہے تو وہ ہم سے خواہش کرتا ہے کہ ہم اسے معزول کر دیں۔

سعید بن العاص نبی ﷺ مدینے وفد کے طور پر عثمان نبی ﷺ کے پاس آئے بڑے بڑے مہاجرین و انصار کے پاس تحفے اور چادریں بھیجیں۔ علی بن ابی طالب نبی ﷺ کو بھی بھیجا، جو کچھ انہیں بھیجا تھا وہ انہوں نے قبول کیا اور کہا کہ بنی امیہ نے مجھے میراث محمد ﷺ میں کسی قدر فوقیت دی ہے واللہ اگر میں زندہ رہا تو اس کی وجہ سے ان لوگوں کو اس طرح کھرچوں گا جس طرح قصاب کندے (یعنی تیرہ کوٹنے کی لکڑی) سے میلے گوشت کو کھرچتا ہے۔

بحیثیت عامل کوفہ:

سعید بن العاص نبی ﷺ کوفے واپس آئے اور وہاں کے باشندوں کو سخت نقصانات پہنچائے، چند مہینے کم پانچ سال تک عامل رہے۔

ایک مرتبہ انہوں نے کوفے میں کہا کہ تم میں سے کس نے چاند دیکھا ہے؟ یہ عید الفطر کا واقعہ ہے قوم نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا۔ ہاشم بن عقبہ بن ابی وقاص نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے۔ سعید بن العاص نبی ﷺ نے ان سے پوچھا کیا ساری قوم میں سے صرف تم نے اپنی اس کانی آنکھ سے دیکھا ہے۔ ہاشم نے کہا کہ تم مجھے میری آنکھ سے عیب لگاتے ہو حالانکہ وہ اللہ کی راہ میں گئی ہے ان کی آنکھ پر جنگ یرموک میں چوٹ لگی تھی۔

ہاشم نے اپنے مکان میں بغیر روزے کے صبح کی اور اپنے ساتھ لوگوں کو ناشتہ کرایا، سعید بن العاص نبی ﷺ کو معلوم ہوا تو ان کو بلا بھیجا، مارا اور ان کا مکان جلا دیا۔

ام الحکم بنت عقبہ بن ابی وقاص جو مہاجرات میں سے تھیں اور نافع بن ابی وقاص کوفے سے روانہ ہوئے مدینے آئے اور سعید بن العاص نے ہاشم کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اسے سعید بن ابی وقاص نبی ﷺ سے بیان کیا، سعید بن العاص عثمان نبی ﷺ کے پاس آئے اور ان سے یہ واقعہ بیان کیا، عثمان نبی ﷺ نے کہا کہ ہاشم کے بدلے سعید بن العاص تمہارے لیے ہیں تم انہیں مارنے کے عوض میں مارو۔ سعید بن العاص کا مکان ہاشم کے مکان کے بدلے تمہارے لیے ہے لہذا اسے جلا دو جیسا کہ انہوں نے ان کا مکان جلا دیا۔

عمر بن سعد جو اس زمانے میں پتے تھے دوڑتے ہوئے گئے اور سعید بن العاص کے مکان میں جو مدینے میں تھا آگ لگادی، یہ خبر عائشہ نبی ﷺ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے سعید بن ابی وقاص نبی ﷺ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے باز رہنے کی درخواست کی، جس سے وہ باز آ گئے۔

مالک بن الحارث الاشری، یزید بن کفیف، ثابت بن قیس، کمیل بن زیاد النخعی، اور زید و صعصعہ فرزند ان صوحان العبیدی اور حارث بن عبداللہ الاموری، جنڈب ابن زہیر الذدی ابو زینب الازدی اور اصغر بن قیس الحارثی نے کوفے سے عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب کوچ کیا اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے کی درخواست کی۔

سعید بھی بطور وفد عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، ان لوگوں کے ساتھ ساتھ پہنچے۔ پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے سعید رضی اللہ عنہ کو معزول کرنے سے انکار کیا اور اپنے عمل پر واپس جانے کا حکم دیا۔

اہل کوفہ کی بغاوت:

اشتر اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ اسی شب کو روانہ ہوا، دس رات میں کوفے پہنچا اور قبضہ کر لیا۔ منبر پر چڑھ کر کہا کہ یہ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تمہارے پاس آیا ہے جو گمان کرتا ہے کہ یہ بستی قریش کے لڑکوں کا باغ ہے حالانکہ یہ بستی تم لوگوں کے سروں کے گرنے کا مقام ہے، تمہارے نیزوں کا مرکز ہے اور تمہاری اور تمہارے باپ دادا کی غنیمت ہے جو شخص اپنے آپ کو اللہ کا حق سمجھتا ہے وہ الجرحہ تک اٹھ کر جائے۔

لوگ روانہ ہوئے الجرحہ میں جو کوفے اور حیرہ کے درمیان تھا لشکر قائم کیا۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ آئے العذیب میں اترے۔ اشتر نے یزید بن قیس الارحسی اور عبداللہ بن کنانہ العبیدی کو بلایا، دونوں بڑے جنگجو تھے، ان کو پانچ پانچ سواروں پر امیر بنایا اور کہا کہ تم کو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس جانا ہے تم اسے نکال دو اور اس کے صاحب (عثمان رضی اللہ عنہ) سے ملا دو، اگر وہ انکار کرے تو اس کی گردن مار کے اس کا سر میرے پاس لے آؤ۔

وہ دونوں سعید رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے کہا کہ اپنے صاحب (عثمان رضی اللہ عنہ) کی جانب کوچ کرو، انہوں نے کہا کہ میرے اونٹ پیاسے ہیں، چند روز انہیں چارہ دوں گا، ہم مصر میں آئیں گے، اپنی ضروریات خریدیں گے تو شہ لیں گے، پھر میں کوچ کروں گا، ان دونوں نے کہا کہ نہیں، واللہ ایک ساعت بھی نہیں۔ تمہیں ضرور ضرور کوچ کرنا ہو گا یا ہم لوگ تمہاری گردن مار دیں گے۔ جب انہوں نے ان دونوں کا اصرار دیکھا تو عثمان رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے کوچ کیا، اور وہ دونوں اشتر کے پاس آئے اور اسے خبر دی، اشتر اپنی چھاؤنی سے کوفے واپس گیا، منبر پر چڑھا، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور کہا کہ اے اہل کوفہ واللہ مجھے تمہارے اور اللہ ہی کے لیے غصہ آیا، ہم نے اس شخص (سعید رضی اللہ عنہ) کو اس کے صاحب (عثمان رضی اللہ عنہ) سے ملا دیا، میں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو تمہاری نماز اور تمہاری سرحد کا اور حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو تمہاری غنیمت پر والی بنایا ہے۔

وہ اتر اور کہا کہ اے ابو موسیٰ تم منبر پر چڑھو، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں تا وقتیکہ تم لوگ آؤ، امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت کرو اور اپنی گردنوں میں انہیں کی بیعت کی تجدید کرو۔

لوگوں نے ان کی یہ بات قبول کر لی۔ انہوں نے ان کی ولایت قبول کر لی اور ان لوگوں کی گردنوں میں عثمان رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تجدید کی، انہوں نے جو کچھ کیا تھا وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا، عثمان رضی اللہ عنہ کو اس سے تعجب ہوا اور وہ سرور ہوئے۔ اہل کوفہ کے شاعر عقبہ بن الوعلی نے کہا کہ:

تصدق علينا ابن عفان واحتسب وامر علينا الاشعري ليا ليا

”اے عثمان بن عفان جی اللہ سے ہمارے ساتھ نیکی کرو اور احسان کرو اور ہم پر چند راتوں کے لیے الاشعری جی اللہ کو امیر بنا دو“۔

عثمان جی اللہ نے کہا ہاں۔ اگر میں زندہ رہا تو مہینوں اور برسوں کے لیے انہیں امیر بنا تا ہوں۔

جو کچھ کہ اہل کوفہ نے سعید بن العاص جی اللہ کے ساتھ کیا تو جس وقت عثمان جی اللہ پر جرات کی گئی ہے تو یہ سب سے پہلی

کمزوری تھی جو ان میں آگئی۔

کونے پر ابو موسیٰ عثمان جی اللہ کی طرف سے والی رہے یہاں تک کہ عثمان جی اللہ شہید کر دیے گئے۔

حضرت عثمان جی اللہ کا دفاع:

سعید بن العاص جی اللہ جس وقت کونے سے واپس آئے تو دینے ہی میں رہے یہاں تک کہ لوگ عثمان جی اللہ کے مقابلے

کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اور ان کا محاصرہ کر لیا سعید جی اللہ مکان میں برابر ان لوگوں کے ہمراہ عثمان جی اللہ کے ساتھ رہے جو ان

کے ہمراہ تھے وہ ان سے جدا نہ ہوئے اور ان کے لیے قتال کرتے رہے۔

عبداللہ بن ساعدہ سے مروی ہے کہ سعید بن العاص جی اللہ، عثمان جی اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے امیر المؤمنین کب

تک آپ ہمارے ہاتھوں کو روکیں گے ہم لوگوں کو کہا یا جارہا ہے یہ وہ قوم ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہم پر تیر اندازی کی

ہے اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں پتھر مارے ہیں اور ان میں وہ بھی ہے جو اپنی تلوار نیام سے باہر کیے ہوئے ہے لہذا ہمیں آپ

حکم دیجئے۔

عثمان جی اللہ نے کہا کہ واللہ میں ان لوگوں کا قتال نہیں چاہتا، اگر میں ان کا قتال چاہتا تو مجھے امید تھی کہ ان سے محفوظ

ہو جاتا، لیکن میں انہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں اور انہیں بھی اللہ کے سپرد کرتا ہوں جو ان لوگوں کو ہمارے پاس لائے ہیں۔ مختصر یہ ہم

لوگ اپنے رب کے پاس جمع ہوں گے رہا قتال تو میں واللہ تمہیں قتال کا حکم نہیں دوں گا۔

سعید جی اللہ نے کہا کہ واللہ ہم کسی کو کبھی آپ سے نہ پوچھیں گے انہوں نے نکل کر قتال کیا یہاں تک کہ ان کا سر پھٹ گیا۔

مصعب بن محمد بن عبداللہ بن ابی امیہ سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جس نے اس روز سعید بن

العاص جی اللہ کو قتال کرتے دیکھا تھا کہ اس روز انہیں ایک شخص نے ایک ایسی تلوار ماری جس نے دماغ کو زخمی کر دیا، میں نے انہیں

اس حالت میں دیکھا ہے کہ وہ جب جنگ کا شور سنتے تھے تو ان پر یہوشی طاری ہو جاتی۔

جنگ جمل سے قبل عوام سے خطاب:

لوگوں نے بیان کیا کہ مکے سے جب طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم بصرے کے ارادے سے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ سعید بن

العاص جی اللہ اور مروان بن الحکم اور عبدالرحمن بن عتاب بن اسید اور مغیرہ بن شعبہ بھی تھے جب یہ لوگ مراظہر ان میں اترے جس کو

ذات عرق کہا جاتا ہے تو سعید بن العاص کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا:

اما بعد! عثمان جی اللہ دنیا میں پسندیدہ ہو کے زندہ رہے اور اس سے گئے تو ان کی کمی محسوس کی جا رہی ہے انہوں نے نیکی و

شہادت کی وفات پائی اللہ ان کے حسنا کو بڑھائے اور ان کے سینا کو گھٹائے ان کے درجات کو ان انبیاء و شہداء و صدیقین و صالحین کے ساتھ بلند کرے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے اور رفاقت کے لیے یہی لوگ اچھے ہیں۔

اے لوگو! تمہارا دعویٰ ہے کہ تم لوگ خون عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کے لیے نکلے ہو اگر تم لوگ یہی چاہتے ہو تو قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ انہیں سواریوں کے آگے اور پیچھے ہیں لہذا اپنی تلواروں سے ان پر ٹوٹ پڑو ورنہ اپنے اپنے گھر واپس جاؤ اور مخلوق کی رضامندی میں اپنے آپ کو قتل نہ کرو لوگ قیامت میں کچھ بھی تمہارے کام نہ آسکیں گے۔

مروان بن الحکم نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے ہم ان کے بعض کو بعض سے ماریں گے ان میں سے جو قتل کر دیا جائے گا اس میں کامیابی ہو جائے گی اور اس سے فرصت مل جائے گی اور جو بچنے والا بچ جائے گا تو ہم اسے اس حالت میں تلاش کریں گے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے قتل کی وجہ سے ست و کمزور ہوگا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آپ کی تائید:

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ رائے تو وہی مناسب ہے جو سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے سوچی ہے جو قبیلہ ہوازن کا ہوا اور میرے ساتھ ہونا چاہے تو وہ ایسا کرے ان میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو گئے۔

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ طائف میں اترے اور وہیں رہے تاکہ جنگ جمل و صفین کا وقت گزر گیا۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہ مع ان لوگوں کے جنہوں نے ان کی پیروی کی روانہ ہوئے مکے میں اترے اور وہیں رہے یہاں تک کہ جنگ جمل و صفین کا وقت گزر گیا۔

طلحہ وزیر و عائشہ رضی اللہ عنہم اور ان کے ہمراہ عبدالرحمن بن عتاب بن اسید و مروان بن الحکم اور قریش وغیرہ میں سے ان کے تابعین بھرے روانہ ہو گئے۔ جنگ جمل میں شریک ہوئے جب معاویہ رضی اللہ عنہ والی خلافت ہوئے تو مروان بن الحکم کو والی مدینہ بنایا پھر انہیں معزول کر دیا اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو والی بنایا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی وفات ان کی اسی ولایت میں ۵۰ھ میں مدینہ میں ہوئی ان پر سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔

مروان بن الحکم

نام و نسب اور خاندان:

ابن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام عثمان یعنی آمنہ بنت علقمہ بن صفوان بن امیہ بن محرز بن خثلم بن شق بن رقبہ بن مخزوم بن حارث بن ثعلبہ بن مالک بن کنانہ تھیں۔ آمنہ کی والدہ صعبہ بنت ابی طلحہ بن عبد العزی بن عثمان بن عبدالدار بن قصی تھیں۔

مروان بن الحکم کے یہاں تیرہ بیٹا بیٹی پیدا ہوئے عبدالملک کہ انہیں سے ان کی کنیت تھی اور معاویہ و ام عمرو ان کی والدہ عائشہ بنت معاویہ ابن المغیرہ بن ابی العاص بن امیہ تھیں۔

عبدالعزیز بن مروان اور ام عثمان ان دونوں کی والدہ لیلی بنت زبان ابن الاصغ بن عمرو بن ثعلبہ بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب کی تھیں۔

بشر بن مروان اور عبدالرحمن جو لا ولد مر گیا ان دونوں کی والدہ قطیبہ بنت بشر بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب تھیں۔

ابان بن مروان و عبید اللہ و عبید اللہ کہ لا ولد مر گیا اور ایوب و عثمان و داؤد و رملہ ان سب کی والدہ ام ابان بنت عثمان بن

عفان بن ابی العاص ابن امیہ تھیں۔ ام ابان کی والدہ رملہ بنت شیبہ بن زبیبہ بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصی تھیں۔

عمرو بن مروان و ام عمرو ان کی والدہ زینب بنت ابی سلمہ بن عبد الاسد ابن ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔

محمد بن مروان اور ان کی والدہ زینب ام ولد تھیں۔

ابتدائی حالات:

لوگوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت مروان بن الحکم آٹھ سال کے تھے اپنے والد کے ساتھ مدینے

ہی میں رہے۔ یہاں تک کہ ان کے والد حکم بن ابی العاص کی وفات مدینے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں

ہوئی۔ پھر مروان اپنے چچا زاد بھائی عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ان کے کاتب تھے۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا کریمانہ سلوک:

ان کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے مالوں کا حکم دیا اس بارے میں اپنے صلہ قرابت اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی و احسان کی

تاویل کرتے لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے انہیں مقرب بنانے اور ان کی بات ماننے پر سخت کٹھ چینی کرتے اور خیال کرتے کہ ان امور کا اکثر

حصہ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے مروان کا ہے یہ محض مروان کی رائے ہے نہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی۔

عثمان رضی اللہ عنہ جو کچھ مروان کے ساتھ کرتے اور انہیں مقرب بناتے لوگ اس پر معترض تھے مروان انہیں ان کے اصحاب

اور لوگوں پر برا بھانتے کرتے لوگ ان کے بارے میں جو گفتگو کرتے اور ان کی وجہ سے جو ہمکنی دیتے وہ سب انہیں پہنچاتے تھے اور

یقین دلاتے تھے کہ وہ اس کے ذریعے سے ان سے تقرب حاصل کرتے ہیں۔

عثمان رضی اللہ عنہ کریم و سلیم و حمید تھے وہ ان باتوں میں سے بعض میں ان کی تصدیق کرتے اور بعض کا ان سے انکار کر

دیتے مروان ان کے سامنے اصحاب رسول اللہ ﷺ سے جھگڑا کرتے وہ انہیں اس سے روکتے اور ڈانٹتے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مکالمہ:

جب عثمان رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے تو مروان ان کے لیے سخت قتال کر رہے تھے اسی زمانے میں عائشہ رضی اللہ عنہا نے حج کا ارادہ

کیا مروان و زید بن ثابت و عبدالرحمن ابن عتاب بن اسید بن ابی العیص ان کے پاس آئے اور سب نے عرض کی کہ اے ام المومنین

اگر آپ قیام کرتیں تو خوب ہوتا۔ کیونکہ امیر المومنین جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں محصور ہیں آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جس

سے اللہ ان کے پاس (محاصرے کو) دور کر دے گا۔

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میں اپنی سواری پر بیٹھ چکی اور اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیا میں قیام کرنے پر قادر نہیں ہوں۔

ان لوگوں نے پھر اسی بات کو دہرایا اور انہوں نے جو جواب دیا تھا اسی کا اعادہ کیا، مروان یہ کہتے ہوئے اٹھے:

و حرق قیس علی البلاد حتی اذا ما استعورت اجدنا

”اور قیس نے شہروں کو آگ لگا دی یہاں تک کہ جب وہ بھڑک جائے گی تو اسے گل کرے گا۔“

عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اشعار کو مجھ پر صادق کرنے والے! اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھی کے جن کے معاملے نے تمہیں مشقت میں ڈالا ہے دونوں کے پاؤں میں چکی (بندھی) ہو اور تم دونوں سمندر میں ڈوبتے ہو تب بھی مجھے مکے جانا پسند ہے۔
باغیان خلافت سے مقابلہ:

عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ یوم الدار میں مروان سخت قتال کر رہے تھے اس روز ان کے منحنے میں ایسی تلوار لگی جس سے یہ گمان ہوتا کہ وہ اس زخم سے مر جائیں گے۔

ابن حصہ مولائے مروان سے مروی ہے کہ اس روز مروان بن الحکم رجز پڑھتے تھے اور کہتے تھے کہ کون مجھ سے قتال کرے گا۔ مقابلے پر عروہ ابن شمیم بن البیاع اللبیشی آیا، لبیشی نے گدی پر تلوار ماری جس سے مروان اپنے منہ کے بل گر پڑا عبید بن رفاعہ بن رافع الرزقی اٹھ کر جو چھری ان کے پاس تھی وہ لے کے اس کے پاس گئے کہ اس کا سر کاٹ دیں ان کی رضائی ماں فاطمہ الثقفیہ جو ابراہیم بن العزبی حاکم یمامہ کی داوی تھیں اٹھ کر گئیں اور کہا کہ اگر تم اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو قتل تو کر چکے اب گوشت کاٹ کے کیا کرو گے عبید بن رفاعہ شرمائے اور چھوڑ دیا۔

عیاش بن عباس سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے بیان کیا جو اس روز ابن البیاع کے پاس موجود تھا۔ ابن البیاع مروان بن الحکم سے قتال کر رہا تھا اس کی قبامیری نظر میں ہے جس کے دامن اس نے کمر بند کے نیچے کر لیے تھے اور قبا کے نیچے زرہ تھی اس نے مروان کی گدی پر ایک ضرب ماری جس نے اس کی گردن کی رگیں کاٹ دیں اور وہ اوندھے منہ گر پڑا لوگوں نے یہ قصد کیا کہ اس کا کام تمام کر دیں کہا گیا کہ کیا تم لوگ گوشت کاٹو گے تو اسے چھوڑ دیا گیا۔

عبید بن رفاعہ سے مروی ہے کہ مجھ سے یوم الدار (قتل عثمان رضی اللہ عنہ) کے بعد والد نے جو مروان بن الحکم کا ذکر کر رہے تھے کہا کہ اے اللہ کے بندو! میں نے اس کے منحنے پر ایسی تلوار ماری کہ میں تو یہی خیال کرتا تھا کہ وہ مر گیا، لیکن ایک عورت نے مجھے غیرت دلائی اور کہا کہ تم اس کا گوشت کاٹ کے کیا کرو گے مجھے غیرت آئی اور چھوڑ دیا۔

نافع سے مروی ہے کہ یوم الدار میں مروان کو ایسی تلوار ماری گئی جس نے ان کے دونوں کان کاٹ دیئے ایک شخص آیا جو چاہتا تھا کہ ان کا کام تمام کر دے اس کی ماں نے اس سے کہا کہ سبحان اللہ کیا تم میت کے جسم کا مثلہ (قطع اعضا) کرو گے؟ اس نے انہیں چھوڑ دیا۔

شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد:

لوگوں نے کہا کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور طلحہ و زبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم خون عثمان رضی اللہ عنہ کے انتقام کی طلب میں بصرے گئیں تو مروان بن الحکم ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہوا اور اس روز بھی اس نے سخت قتال کیا جب اس نے لوگوں کو بھاگتے اور طلحہ بن

عبید اللہ بن عبد اللہ کو کھڑے دیکھا تو کہا واللہ عثمان بن عفان کے خون کا ذمہ دار یہی ہے، یہی سب سے زیادہ ان پر سخت تھا، میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی علامت تلاش نہ کروں گا۔ ایک تیر نکال کے مارا اور قتل کر ڈالا۔

مروان نے اتنا قتال کیا کہ اسے بحالت زخم اٹھا کے عنبرہ کی ایک عورت کے مکان پر پہنچایا گیا، ان لوگوں نے اس کا علاج کیا اور اس کی نگرانی کی، مروان کے متعلقین ان لوگوں کا اس امر پر برابر شکر یہ ادا کرتے رہے۔

اصحاب جمل بھاگ گئے، مروان چھپ گیا، اس کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے امان لی گئی، انہوں نے امان دے دی، مروان نے کہا کہ مجھے اس وقت تک نہ قرار آئے گا جب تک کہ میں ان سے بیعت نہ کروں۔ وہ ان کے پاس آیا اور بیعت کی۔
مدینہ کی گورنری:

اس کے بعد مروان بن الحکم مدینے چلا گیا اور وہیں رہا یہاں تک کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ والی خلافت ہوئے۔ ۴۲ھ میں انہوں نے مروان بن الحکم کو والی مدینہ بنا دیا، پھر اسے معزول کر دیا اور سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو والی بنا دیا۔ انہیں بھی معزول کر کے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو والی بنایا۔ وہ اس کی وفات تک مدینے کے والی رہے، مروان ان کے زمانے میں مدینے سے معزول تھا۔

واقعہ حرہ اور مروان:

یزید نے ولید بن عتبہ کے بعد عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو والی مدینہ بنایا، ایام حرہ میں اہل مدینہ نے حملہ کیا تو انہوں نے عثمان بن محمد اور بنی امیہ کو مدینہ سے نکال دیا اور ان لوگوں کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا، انہیں میں مروان بن الحکم بھی تھا۔ انہوں نے ان لوگوں سے قسمیں لیں کہ وہ اہل مدینہ کے پاس واپس نہ آئیں گے اور اگر قادر ہوں گے تو اس لشکر کو واپس کرانے پر قادر ہوں گے۔ جو مسلم بن عقبہ المری کے ہمراہ اہل مدینہ کی جانب روانہ کیا گیا ہے۔ یہ لوگ مسلم بن عقبہ کے سامنے آئے اسے سلام کیا، وہ ان لوگوں سے مدینہ و اہل مدینہ کو دریافت کرنے لگا، مروان اسے خبر دینے لگا اور اسے لوگوں کے خلاف پراہیجیتہ کرنے لگا۔

مسلم نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کی کیا رائے ہے، امیر المومنین کے پاس جاتے ہو یا میرے ساتھ چلتے ہو، ان لوگوں نے کہا کہ ہم امیر المومنین کے پاس جاتے ہیں، البتہ مروان نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مروان اس کے ساتھ معین و مددگار بن کے واپس ہوا اور اہل مدینہ پر فتح پائی، لوگ قتل کیے گئے، مدینہ تین مرتبہ لوٹا گیا۔ مسلم بن عقبہ نے یہ واقعہ یزید کو لکھا۔ مروان بن الحکم کا شکر یہ لکھا، اپنے ساتھ اس کی مدد اس کی خیر خواہی اور اس کے قیام کا بھی ذکر کیا۔ مروان یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس شام میں آیا، یزید نے اس کا شکر یہ ادا کیا، اپنا مقرب بنایا اور نزدیکان صحبت میں سے کیا، مروان یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات تک شام میں رہا۔

یزید نے اپنے بعد اپنے بیٹے معاویہ بن یزید کو ولی عہد نامزد کیا تھا، لوگوں نے اس سے بیعت کر لی اور اس کے پاس تمام آفاق سے بیعت کی خبر آگئی، سوائے اس اختلاف کے جو ابن الزبیر اور اہل مکہ کی طرف سے ہوا۔

معاویہ بن یزید تین مہینے اور کہا جاتا ہے کہ چالیس رات والی رہے وہ برابر گھر ہی میں رہے لوگوں کے پاس نہ آسکے کیونکہ علییل تھے۔ دمشق میں ضحاک بن قیس الفہری کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دیتے تھے جب معاویہ بن یزید سخت علییل ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ اگر آپ کسی کو ولی عہد اور خلیفہ بنا دیتے تو بہتر ہوتا۔

معاویہ نے کہا کہ واللہ مجھے اس خلافت نے زندگی میں کوئی نفع نہ دیا جو میں اسے مرنے کے بعد بھی اپنی گردن میں ڈالوں، اگر وہ خیر ہوتی تو آل ابی سفیان نے اس سے بہت سی خیر اس طرح جمع کر لی ہوتی کہ بنی امیہ اس کی حلاوت نہ لے جاتے اور میں اس کی تلخی کو اپنی گردن میں نہ ڈالتا۔ واللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی اس کی باز پرس نہ کرے گا (کہ تم نے کسی کو ولی عہد یا خلیفہ کیوں نہیں بنایا)۔

جب میں مرجاؤں تو ولید بن عتبہ بن ابی سفیان مجھ پر نماز پڑھیں اور ضحاک بن قیس لوگوں کو بچگانہ نماز پڑھائیں یہاں تک کہ لوگ اپنے لیے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں اور کوئی شخص خلافت کو قائم کرے۔

معاویہ بن یزید دفن کر دیئے گئے تو مروان بن الحکم ان کی قبر پر کھڑا ہوا اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے کس کو دفن کیا، لوگوں نے کہا کہ معاویہ بن یزید کو اس نے کہا کہ یہ ابولیلی ہیں، ازہم انقراری نے کہا۔

انی اری فتناً تغلی مرا جھلھا فالملک بعد ابی لیلی لمن غلبا

”میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی دیکیں ابلتی ہیں۔ ابولیلی کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو غالب آئے گا۔“

شام میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ امرائے لشکر میں سے سب سے پہلے جس نے مخالفت کی اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو دعوت دی وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ تھے جو محض میں تھے اور زفر بن الحارث کہ قسریں میں تھے دمشق میں خفیہ طور پر ضحاک بن قیس نے دعوت دی۔ پھر انہوں نے لوگوں کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت کی علامیہ دعوت دی، سب نے ان کی یہ دعوت قبول کر لی اور ان کی بیعت کر لی۔

ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو معلوم ہوا تو انہوں نے ضحاک بن قیس کو شام کی عہدہ داری کے لیے لکھ دیا، ضحاک بن قیس نے ان امرائے لشکر کو لکھا جنہوں نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت کی طرف دعوت دی تھی وہ ان کے پاس آئے۔

ابن زیاد کی سازش:

مروان نے یہ دیکھا تو وہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ارادے سے بکے روانہ ہوا کہ ان سے بیعت کرے اور ان سے بنی امیہ کے لیے امان لے لے۔ اس کے ساتھ عمرو بن سعید بن العاص بھی روانہ ہوا، یہ لوگ اذرعات میں تھے جو اب شہر البیثیہ ہے کہ عراق سے آتا ہوا عبید اللہ بن زیاد ملا، اس نے مروان سے کہا کہ کہاں کا قصد ہے اس نے اپنا ارادہ بیان کیا، عبید اللہ نے کہا، سبحان اللہ کیا تم اپنے لیے اس بات پر راضی ہو، تم ابی حذیب سے بیعت کرو گے، حالانکہ بنی عبد مناف کے سردار ہو؟ واللہ تم ان سے زیادہ خلافت کے مستحق ہو۔

مروان نے اس سے کہا، پھر کیا رائے ہے؟ اس نے کہا کہ رائے یہ ہے کہ واپس چلو اور اپنی بیعت کی طرف دعوت دو۔ میں

قریش اور ان کے موالی کا تمہارے لیے ذمہ دار ہوں، ان میں سے کوئی تمہاری مخالفت نہ کرے گا۔ عمرو بن سعید نے کہا کہ عبید اللہ نے سچ کہا، بے شک تم قریش کی جڑ، ان کے شیخ اور ان کے سردار ہو، لوگ صرف اس لڑکے خالد بن یزید بن معاویہ کی طرف نظر کریں گے تو تم اس کی ماں سے نکاح کر لو، وہ تمہاری تربیت میں ہو جائے گا، اور اپنی طرف دعوت دو، میں تم سے اہل یمن کا ذمہ دار ہوں، وہ لوگ میری مخالفت نہ کریں گے۔ عبید اللہ کو وہ لوگ مانتے تھے، عبید اللہ نے کہا کہ اس شرط پر کہ تم اپنے بعد میرے لیے بیعت لینا۔ اس نے کہا ہاں۔

مروان و عمرو بن سعید اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے واپس ہوئے۔ عبید اللہ بن زیاد جمعہ کو دمشق میں آیا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی پھر نکلا اور باب القرا دیس میں اتر، روزانہ سوار ہو کے ضحاک بن قیس کے پاس جاتا، سلام کرتا پھر اپنے مکان واپس آ جاتا۔ اس نے ایک روز ان سے کہا کہ اے ابوانیس تم پر تعجب ہے کہ شیخ قریش ہو کر ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف دعوت دیتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑتے ہو، حالانکہ لوگوں کے نزدیک تم ان سے زیادہ پسندیدہ ہو، لہذا تم اپنی طرف دعوت دو۔

انہوں نے تین دن تک اپنی طرف دعوت دی، اس پر لوگوں نے ہا کہ تم ہماری بیعت و عہد ایک شخص کے لیے لے چکے، پھر بغیر اس کے اس نے کوئی حادثہ پیدا کیا، تم اس کی معزولی کی طرف دعوت دیتے ہو۔ ضحاک نے یہ دیکھا تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف دعوت دینے پر واپس ہوئے۔ اس واقعے نے لوگوں کے نزدیک انہیں مفید بنا دیا اور ان سے بدل کر دیا۔

عبید اللہ بن زیاد نے کہا کہ جس نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت کا ارادہ کیا اس نے ان کے ساتھ مکر کیا۔ وہ مدائن اور الحصون میں جنگ کرنے اور اپنے پاس لشکر جمع کرنے نہیں آئے (یعنی ان مقامات میں) ان کے لیے جو بیعت ہوئی وہ محض تمہاری وجہ سے ہوئی، اب تم کیا چاہتے ہو، تم دمشق سے نکلو اور لشکروں کو اپنے ساتھ لو۔

ضحاک نکلے اور المرح میں اترے، عبید اللہ دمشق میں اور مروان و بنی امیہ مدینہ میں، عبید اللہ و خالد فرزند ابن یزید بن معاویہ الجلبیہ میں اپنے ماموں حسان بن مالک بن بحدل کے پاس رہے۔

عبید اللہ نے مروان کو لکھا کہ میں لوگوں کو تمہاری بیعت کی دعوت دیتا ہوں، تم حسان بن مالک کو لکھو کہ وہ تمہارے پاس آئے، وہ تمہاری بیعت سے تمہیں ہرگز نہیں بچھرے گا۔ پھر تم ضحاک کے پاس جاؤ، اس نے تمہارے لیے میدان تیار کر دیا ہے۔ مروان نے بنی امیہ اور ان کے موالی کو دعوت دی، ان لوگوں نے اس سے بیعت کر لی، اس نے (زوجہ یزید) والدہ خالد بنت ابی ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ سے نکاح کر لیا۔ اور حسان بن مالک بن بحدل کو لکھ کر دعوت دی کہ اس سے بیعت کرے اور اس کے پاس آئے، مگر اس نے انکار کیا۔

مروان کو کوئی تدبیر بن نہ پڑی تو اس نے عبید اللہ کو بلا بھیجا، عبید اللہ نے لکھا کہ تم اپنے ہمراہ بنی امیہ کو لے کے اس کے مقابلے کے لیے نکلو، مروان اور کل بنو امیہ حسان بن مالک کے مقابلے کے لیے نکلے، وہ الجلبیہ میں تھا، جو لوگ وہاں تھے آپس میں اختلاف کر رہے تھے، مروان نے اسے اپنی بیعت کی دعوت دی۔

حسان نے کہا کہ واللہ اگر تم لوگ حسان سے بیعت کر لو گے تو تم پر کوڑے کا بندھن اور جوتے کا تسمہ اور درخت کا سایہ بھی

حد کرے گا۔ کیونکہ مروان اور آل مروان قیس کے اہل بیت ہیں، چاہتے ہیں کہ مروان دس کا بھائی ہو اور دس کا باپ یا اس کا ہمہ اگر تم نے اس سے بیعت کر لی تو تم لوگ ان کے غلام ہو جاؤ گے، لہذا تم لوگ میرا کہنا مانو اور خالد بن یزید سے بیعت کرو۔

روح بن زیناع نے کہا کہ بڑے سے (یعنی مروان سے) بیعت کرو اور چھوٹے کو (یعنی خالد کو) جو ان ہونے دو۔

حسان بن مالک نے خالد سے کہا کہ اے میرے بھانجے میری خواہش تو تمہارے ہی بارے میں ہے مگر لوگوں نے تمہاری کم سنی کی وجہ سے انکار کیا ہے اور مروان ان لوگوں کے نزدیک تم سے اور ابن الزبیر سے زیادہ محبوب ہے، خالد نے کہا کہ لوگوں نے میری بیعت سے انکار نہیں کیا بلکہ تم عاجز ہو کہ میرے لیے بیعت لو، اس نے کہا ہرگز نہیں۔

حسان اور اہل اردن نے مروان سے اس شرط پر بیعت کر لی کہ مروان سوائے خالد بن یزید کے اور کسی کے لیے بیعت نہ لے گا۔ خالد کے لیے حمص کی امارت ہوگی اور عمرو بن سعید کے لیے دمشق کی امارت ہوگی۔

الجلبیہ میں مروان کی بیعت ۱۵ رذی القعدہ ۶۳ھ یوم دو شنبہ کو ہوئی، عبید اللہ بن زیاد نے اہل دمشق سے مروان بن الحکم کے لیے بیعت لی، اس کے متعلق مروان کو لکھ دیا تو مروان نے کہا کہ اگر اللہ چاہے تو وہ میرے لیے ایسی مکمل خلافت کر دے گا کہ اس کی مخلوق میں سے کوئی شخص مجھے اس سے نہ روک سکے گا، حسان بن مالک نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔

مروان الجلبیہ سے چھ ہزار لشکر کے ہمراہ روانہ ہوا اور مرج راہط میں اترا، اس کے ساتھیوں میں سے جو دمشق وغیرہم کے لشکریوں میں سے تھے سات ہزار آدمی اس سے مل گئے، اب وہ تیرہ ہزار کے ساتھ ہو گیا جن میں اکثر زیادہ تھے، مروان کے لشکر میں صرف اسی آزاد غلام تھے جن میں چالیس عباد بن زیاد کے تھے اور چالیس باقی لوگوں کے۔

مروان کے مہینے پر عبید اللہ بن زیاد (امیر) تھا اور میسرے پر عمرو بن سعید، ضحاک بن قیس نے امرائے لشکر کو لکھا، سب اس کے پاس المرج میں پہنچ گئے اور وہ تیس ہزار کے ساتھ ہو گیا۔

ان لوگوں نے وہاں بیس روز اس طرح قیام کیا کہ روزانہ قتال کرتے، ضحاک بن قیس اور اس کے ساتھ قبیلہ قیس کے بہت سے آدمی مارے گئے، ضحاک بن قیس مارا گیا اور لوگ بھاگ گئے تو مروان اور جو لوگ اس کے ہمراہ تھے دمشق آئے، اس نے اپنے عاملوں کو لشکروں پر مقرر کر کے بھیج دیا، تمام اہل شام نے اس کی بیعت کر لی۔

خالد بن یزید سے بد سلوکی:

مروان نے خالد بن یزید بن معاویہ کو کسی قدر حکومت کا لالچ دلایا تھا، پھر اسے مناسب معلوم ہوا تو اپنے دونوں بیٹوں عبدالملک اور عبدالعزیز بر فرزند ان مروان کو اپنے بعد خلافت کے لیے نامزد کیا، اس نے یہ چاہا کہ خالد کی قدر گھٹا دے، اس کے مرتبے میں کمی کر دے اور لوگوں کو اس سے بے رغبت کر دے، حالانکہ وہ جب اس کے پاس آتا تھا تو اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھالیتا تھا۔

خالد ایک روز اس کے پاس آیا اور حسب معمول اس مجلس میں بیٹھنے لگا جس میں وہ اسے اکثر بٹھاتا تھا، مروان نے اسے جھڑک دیا اور کہا کہ او تر سرین والے کے بیٹے (تج) دور ہو، اللہ میں نے تجھ میں ذرا بھی عقل نہ پائی۔

خالد اسی وقت غضبناک ہو کر واپس اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا کہ تو نے مجھے رسوا کیا، تو نے میرے ساتھ قصور کیا، مجھے

سرنگوں اور ذلیل کیا۔ پوچھا کیا بات ہے اس نے کہا، تو نے اس شخص کے ساتھ نکاح کیا جس نے میرے ساتھ یہ کیا اور جو کچھ مروان نے کہا تھا اس سے اسے آگاہ کیا۔

ماں نے کہا کہ یہ بات تم سے کوئی اور نہ سننے پائے اور نہ مروان کو معلوم ہونے پائے کہ تم نے مجھے کچھ بتایا ہے، تم جس طرح میرے پاس آتے تھے آتے رہو اور اس وقت تک اس بات کو پوشیدہ رکھو جب تک کہ اس کا انجام نہ دیکھ لو میں اس کے لیے تمہیں کافی ہوں اور میں اس سے تمہاری حفاظت کروں گی۔

خالد خاموش ہو گیا اور اپنے مکان چلا گیا۔

مروان کی موت:

مروان آیا اور ام خالد بنت ابی ہاشم بن عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا جو اس کی بیوی تھی اس سے کہا کہ خالد نے تم سے کیا کہا، میں نے آج اس سے کیا کہا، اور اس نے میری جانب سے تم سے کیا بیان کیا، اس نے کہا کہ خالد نے مجھ سے کچھ نہیں بیان کیا اور نہ مجھ سے کچھ کہا۔

مروان نے کہا کہ کیا اس نے تم سے میری شکایت نہیں کی، میری تقصیر جو اس کے ساتھ ہوئی اور جو گفتگو میں نے اس سے کی وہ اس نے تم سے بیان نہیں کی، اس نے کہا یا امیر المؤمنین تم خالد کی نظر میں بہت بزرگ ہو، وہ تمہاری تعظیم میں اس سے بہت زیادہ ہے کہ تمہاری طرف سے کچھ بیان کرے یا تم کچھ کہو تو وہ اس سے رنج کرے، تم تو اس کے والد کے قائم مقام ہو۔

مروان جھک گیا اور یہ سمجھا کہ معاملہ اسی طرح ہے جس طرح اس نے اس سے بیان کیا ہے اور اس نے سچ کہا ہے، وہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ جب اس کے بعد کا وقت ہوا اور قبیلے لے کا وقت آیا تو وہ اس کے پاس سو گیا۔

والدہ خالد زوجہ مروان اور اس کی باندیاں اٹھیں، دروازے بند کر دیئے، اس نے ایک تکیے کا ارادہ کیا اور اسے اس کے منہ پر رکھ دیا، پھر وہ اور اس کی باندیاں اسے بیہوش کرتی رہیں یہاں تک کہ وہ مر گیا۔

وہ کھڑی ہوئی اور اس نے اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور اپنی باندیوں اور خدمت گاروں کو بھی حکم دیا، انہوں نے بھی چاک کیا اور اس پر چیخ چیخ کر روئیں اور کہا کہ امیر المؤمنین یکا یک مر گئے۔

یہ واقعہ یکم رمضان ۶۵ھ کو ہوا اور مروان اس روز چونتیس سال کا تھا، اس کی ولایت شام و مصر پر آٹھ مہینے سے نہ بڑھی اور کہا جاتا ہے کہ چھ مہینے سے زیادہ نہ رہی (پہلے یہ روایت آجیگی ہے کہ ۱۵۱ھ از ذی القعدہ ۶۴ھ کو مروان سے بیعت کی گئی، اس حساب سے اس کی ولایت پورے ساڑھے نو مہینے رہی)۔

حضرت علی بن ابی طالب کی پیشینگوئی:

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ایک روز اسے دیکھا تو کہا کہ یہ اپنی کاکلیں سفید ہونے کے بعد ضرور ضرور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے گا اور اس کے لیے ایک مرتبہ اس طرح حکومت ہوگی جس طرح کتنا اپنی ناک چاٹتا ہے۔

اس کے بعد اہل شام نے عبدالملک بن مروان سے بیعت کر لی، شام و مصر عبدالملک کے قبضے میں رہے، جس طرح اس کے

والد کے قبضے میں تھے عراق و حجاز ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے قبضے میں رہے اور دونوں کے درمیان سات سال تک فتنہ رہا۔ پھر کے میں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما ۱۷ جمادی الاولیٰ ۶۰ھ یوم شنبہ کو قتل کیے گئے جو اس وقت بہتر سال کے تھے ان کے بعد عبدالملک ابن مروان کی حکومت پورے طور قائم ہو گئی۔

مروان نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جس نے کوئی چیز صلہ رحم (قربت) کے لیے بہہ کی تو وہ اس میں

رجوع نہ کرے۔

عثمان اور زید بن ثابت اور بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی ہے۔ مروان نے سہل بن سعد الساعدی سے بھی

روایت کی ہے۔

مروان اپنی ولایت مدینہ کے زمانے میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع کر کے ان سے مشورہ لیتا اور جس چیز پر وہ اتفاق کرتے اسی پر عمل کرتا اس نے پیمانہ (صاع) جمع کیے ان سب کو جانچا اور اسے اختیار کیا جو سب سے زیادہ درست تھا اس نے حکم دیا کہ اس سے ناپا جائے وہ صاع مروان کہلایا حالانکہ وہ صاع مروان نہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صاع تھا لیکن مروان نے سب صاعوں کو جانچا تھا اور ان میں جو سب سے زیادہ درست تھا اسی پر پیمائش قائم کر دی تھی۔

عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما:

ابن کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور والدہ ربیعہ بنت اسماء بن الصلت بن حبیب بن حارثہ ابن ہلال بن جزام بن مال بن عوف بن امرئ القیس بن بہشہ بن سلیم بن منصور تھیں۔

عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہما کے بارہ لڑکے اور چھ لڑکیاں پیدا ہوئیں۔

عبدالرحمن ام ولد سے تھے جو لا ولد یوم الجمل میں مقتول ہوئے۔

عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے پہلے ہی وفات پا گئے اور عبدالملک و زینب ان سب کی والدہ کثیرہ بنت الحارث بن کریز بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس تھیں۔ کثیرہ کی والدہ بنت ارطاة بن عبد شریج بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی تھیں اور بنت ارطاة کی والدہ اروی بنت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

عبدالکرم و عبدالحمید دونوں کی والدہ ام حبیب بنت سفیان بن عویف بن عبداللہ بن عامر بن ہلال بن عامر بن عوف بن الحارث بن عبدمناة بن کنانہ تھیں۔

عبدالجید ام ولد سے تھے۔

عبدالرحمن اصغر کہ ابوالسائب تھے اور عبدالسلام جو لا ولد مر گئے ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

عبدالرحمن بھی جو ابوالنضر تھے ام ولد سے تھے۔

عبدالکریم و عبدالجبار اور امتہ الحمید ان سب کی والدہ ہند بنت سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں ہند کی والدہ حنفاء بنت ابی جہل بن ابی ہشام بن المغیرہ تھیں اور حنفاء کی والدہ اروی بنت اسید بن ابی العیص

بن امیہ تھیں۔

ام کلثوم بنت عبد اللہ ان کی والدہ امۃ اللہ بنت الوارث ابن الحارث بن ربیعہ بن خویلد بن نفیل بن عمرو بن کلاب تھیں۔

امۃ الغفار بنت عبد اللہ ان کی والدہ ام ابان بنت مکلہ بن جابر بن امین بن عمرو بن سنان بن عمرو بن ثعلبہ بن یربوع بن الدول بن حنفیہ قبیلہ ربیعہ سے تھیں۔

عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ اور امۃ الواحد ام ولد سے تھیں۔

ام عبد الملک ان کی والدہ بنی عقیل میں سے تھیں۔

حضور علیہ السلام کا شفیقانہ برتاؤ:

لوگوں نے بیان کیا کہ عبد اللہ بن عامر ہجرت کے چار سال بعد مکے میں پیدا ہوئے، کچھ عرصے میں جب عمرہ قضا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ تشریف لائے تو ابن عامر کو جو تین سال کے تھے آپ کے پاس لایا گیا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور چپا کے ان کے نالو میں لگا دی، انہوں نے زبان نکال کے اسے چاٹا اور اپنا منہ کھول دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا اور فرمایا کیا یہ سلمیہ کا بیٹا ہے، لوگوں نے عرض کی جی ہاں، فرمایا یہ ہمارا بیٹا ہے اور تم سب سے زیادہ ہمارے مشابہ ہے، وہ سیراب ہوگا۔ عبد اللہ ہمیشہ شریف رہے، سخی کریم اور بہت مال و اولاد والے تھے تیرہ سال کے تھے جب ان کے یہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے۔

بصرہ کی امارت:

لوگوں نے کہا کہ جب عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما والی خلافت ہوئے تو انہوں نے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کو چار سال تک بصرے کی امارت پر برقرار رکھا جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اشعری کے بارے میں وصیت کی تھی، پھر انہیں معزول کر دیا اور بصرے پر اپنے ماموں زاد بھائی عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس کو والی بنایا جو پچیس سال کے تھے۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ میں نے تمہیں کمزوری و خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا تم کو عامل بنانے کا زمانہ یاد ہے مجھے تمہاری فضیلت معلوم ہے تم مہاجرین اولین میں سے ہو، لیکن میں عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہما کا حق قرابت ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ تمہیں تیس ہزار درہم دے دیں۔

ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھے بصرے سے اس حالت میں معزول کیا کہ میرے پاس نہ کوئی دینا رکھتا نہ درہم، یہاں تک کہ مدینے سے میرے عیال کے وظیفے آئے، میں اس وقت تک بصرہ چھوڑنے کے قابل نہ ہوا جب تک کہ میرے پاس اہل و عیال کے مال میں سے دینا رو درہم نہ ہو گیا۔ انہوں نے ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں لیا۔

ان کے پاس ابن عامر رضی اللہ عنہما آئے اور کہا کہ اے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی کی اولاد میں مجھ سے زیادہ آپ کی فضیلت کا جاننے والا کوئی نہیں ہے، اگر آپ قیام کریں تو آپ ہی اس شہر کے امیر ہیں اور اگر آپ کوچ کریں تو آپ کے ساتھ احسان کیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر کوچ کرنے کی جانب کوچ کیا۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما بہادر اپنی قوم اور اپنے قرابت داروں کے ساتھ احسان کرنے والے، ان لوگوں میں محبوب اور رحیم تھے بسا

اوقات جہاد کرتے، لشکر میں کجاوہ گر پڑتا تو اتر کر اس کی اصلاح کرتے۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے عبدالرحمن بن سمرہ بن حبیب بن عبد شمس کو بھجوانا روانہ کیا۔ انہوں نے اسے اس صلح پر فتح کیا کہ وہاں نیولے اور ساہی کو نہیں مارا جائے گا، یہ شرط وہاں والے پھندارہناب کے ہونے کی وجہ سے ہوئی، کیونکہ یہ دونوں انہیں کھا جاتے ہیں۔

فتوحات ابن عامر رضی اللہ عنہما:

ابن عامر رضی اللہ عنہما مقام الداور گئے اور اسے بھی فتح کیا، ابن عامر ملک البارز اور قلعبہ ہائے فارس پر جنگ کرتے رہے، علاقہ اصخر کے البیضاء کے باشندے اس پر غالب آ گئے تھے، ابن عامر رضی اللہ عنہما ادھر بھی گئے اور اسے دوبارہ فتح کیا انہوں نے جور کو اور علاقہ دارا بجر کے انکاریاں اور الفسجان کو بھی فتح کیا۔

پھر ان کے دل میں خراسان کی خواہش پیدا ہوئی، ان سے کہا گیا کہ وہاں یزدجرد بن شہریار بن کسریٰ ہے اور اس کے پاس فارس کے کنگن ہیں، جس وقت اہل نہادند کو شکست ہوئی تو وہ لوگ خزانے کسریٰ کے پاس اٹھالے گئے تھے، انہوں نے اس کے بارے میں عثمان رضی اللہ عنہما کو لکھا، عثمان رضی اللہ عنہما نے جواب دیا اگر تم جاہو تو وہاں جاؤ۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے تیاری کی، لشکر بھیجے اور خود بھی روانہ ہوئے، بھرے میں نماز پڑھانے پر ابوالاسود الدولی کو مامور کیا اور خراج پر راشد الجدی کو جو الازد میں سے تھے پھر وہ اصخر کے راستے پر روانہ ہوئے اور خراسان و کرمان کا درمیانی راستہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ جنگ طسین کے لیے (جو خراسان کے دو شہر ہیں) نکلے اور دونوں کو فتح کر لیا، مقدمہ لشکر پر قیس بن الہیثم ابن اسماء بن الصلت السلمی تھے، ان کے ہمراہ عرب کے نوجوان تھے۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے مرو کی طرف توجہ کی، اور حاتم بن العثمان الباہلی اور تافع بن خالد الطاحی کو روانہ کیا، دونوں نے آدھا آدھا شہر فتح کر لیا، قوت و غلبے کے ساتھ اس کے دیہات کو بھی فتح کر لیا، شہر کو ان دونوں نے صلح سے فتح کیا۔ یزدجرد پہلے ہی قتل کیا جا چکا تھا، شکار کے لیے نکلا تھا، ایک چکی میں دانت بنانے والے کے پاس سے گزرا تو اس نے اسے مارا۔ دانت بنانے والا اسے برابر کلباڑی سے مارتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس کا بھیجہ گزادیا۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے مرو اور روز کا قصد کیا اور عبداللہ بن سوار بن ہمام العبیدی کو روانہ کیا، انہوں نے اسے فتح کیا، یزید الجرشى کو زام و باخرز و جویں کی جانب روانہ کیا، ان سب کو انہوں نے قوت و غلبے کے ساتھ فتح کیا، عبداللہ بن خازم کو سرخس کی جانب بھیجا، ان لوگوں کے رئیس (مرزبان) نے صلح کر لی۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے ابرشہر، ملوس، طخارستان، میشا پور، بوش، باذغیس، ایور و پنج، الطالقان اور الفاریاب کو بھی طاقت سے فتح کیا، پھر صبرہ بن شیمان الازدی کو ہرات کی جانب بھیجا، انہوں نے دیہات فتح کر لیے، شہر پر قابو نہ چلا، عمران بن الفضیل البرجمی کو مائل کی جانب بھیجا، انہوں نے اسے فتح کر لیا۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے احنف بن قیس کو خراسان میں چھوڑا، چار ہزار آدمیوں کے ہمراہ مرد میں اترے، پھر حج کا احرام

باندھا۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھ کر ڈرایا، انہیں کمزور بنایا اور کہا کہ تم نے مصیبت کو چھیڑ لیا۔

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے باہمی تعلق:

عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ اپنی قوم قریش کے ساتھ احسان کرو جو انہوں نے کیا، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تین ہزار درہم اور کپڑے بھیجے، جب درہم وغیرہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا الحمد للہ ہم دیکھتے ہیں کہ میراث محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) انہیں رکھتے ہیں۔

عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ تمہاری رائے کو سوا کرے، کیا تم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو تین ہزار درہم بھیجتے ہو انہوں نے کہا کہ میں نے بہت زیادہ دینا پسند نہ کیا اور آپ کی رائے معلوم نہ تھی، انہوں نے کہا کہ اور زیادہ دو، ابن عامر رضی اللہ عنہ نے میں ہزار درہم اور وہ چیز جو ان درہموں کے ساتھ تھی بھیجی۔

علی رضی اللہ عنہ شام کی مسجد میں گئے اور اپنے حلقے میں پہنچے اہل حلقہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے قبیلہ قریش کے ساتھ احسانات کا تذکرہ کر رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لو جو اتان قریش کے سردار ہیں، جن کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ انصار نے بھی گفتگو کی، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ احسان کرنے سے ان کو مجبور کر کے اسلام لانے والوں نے محض عداوت کی وجہ سے انکار کیا۔

عثمان رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بلا کے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن اپنی آبرو بچاؤ، انصار نے گشت کیا، ان کی زبانیں تمہیں بھی معلوم ہیں، انہوں نے انصار میں بھی خوب احسانات کیے اور کپڑے تقسیم کیے، لوگوں نے ان کی تعریف کی۔

عثمان رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ اپنے کام پر واپس جاؤ، وہ اس حالت میں واپس ہوئے کہ لوگ کہہ رہے تھے، ”ابن عامر نے کہا، ”اور ”ابن عامر نے کیا، ”ابن عامر نے کہا کہ جب کمائی حلال ہوتی ہے تو خرچ بھی پاک ہوتا ہے۔ اہل بصرہ جب ان کی تاب نہ لائے تو عثمان رضی اللہ عنہ کو لکھ کر جہاد کی اجازت چاہی، انہوں نے اجازت دے دی۔

ابن عامر نے ابن سمرہ کو آنے کو لکھا، وہ آئے بست اور اس کے مضافات کو فتح کیا، کابل و زابلستان گئے اور ان دونوں کو بھی فتح کر لیا، غنائم ابن عامر کے پاس بھیج دیئے۔

لوگوں نے بیان کیا کہ ابن عامر خراسان پر بتدریج قبضہ کرتے رہے یہاں تک کہ ہرات، بوش، سرخس، ابرشہر، طالقان، فاریاب اور بلخ فتح کر لیا، یہی خراسان تھا جو ابن عامر و عثمان رضی اللہ عنہما کے زمانے میں تھا۔

ابن عامر رضی اللہ عنہ بصرے ہی کے امیر رہے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حکم سے عامر ابن عبد قیس الغفری کو بصرے سے شام بھیجا، بصرے میں بازار بنائے جس کے لیے مکانات خرید کے منہدم کیے اور بازار بنائے۔

سماجی خدمات:

وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے بصرے میں خرز (سوت ریشم ملا ہوا کپڑا) پہننا، خاکی رنگ کا جبہ پہننا تو لوگوں نے کہا کہ امیر نے ریشم کی کھال پہن لی، سرخ جبہ پہننا تو لوگوں نے کہا، کہ امیر نے لال کرتہ پہننا۔ وہ پہلے شخص ہیں کہ عرفات میں حوض بنائے، ان حوضوں تک نہر جاری کی، اور لوگوں کو سیراب کیا، جو آج تک جاری ہے۔

عمال کی شکایتیں جب زائل ہو گئیں اور عثمان رضی اللہ عنہ ان سب سے راضی ہو گئے تو ان شرائط میں جو لوگوں سے کہیں یہ بھی تھا کہ ابن عامر رضی اللہ عنہما کو ان لوگوں میں محبوب ہونے اور ان کے اس قبیلہ قریش کے ساتھ احسان کرنے کی وجہ سے انہیں بصرے پر برقرار رکھے۔

لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے معاملے میں الجھ گئے تو ابن عامر رضی اللہ عنہما نے مجاشع بن مسعود کو بلایا اور ایک لشکر عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب ان کی مدد کے لیے نامزد کیا، لوگ روانہ ہوئے، بلاد حجاز کے قریبی حصوں میں تھے کہ ان کے ساتھیوں میں سے ایک جماعت نکلی، ان کو ایک شخص ملا دریافت کیا کہ کیا خبر ہے، اس نے کہا معاذ اللہ اللہ کا دشمن پیر دراز ریش (یعنی عثمان رضی اللہ عنہ) قتل کر دیا گیا، یہ ان کے بال ہیں، زفر بن الحارث نے جو اس زمانے میں غلام تھے اور مجاشع ابن مسعود کے ساتھ تھے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، وہ پہلا مقتول تھا جو خون عثمان رضی اللہ عنہما میں قتل کیا گیا، مجاشع بصرے واپس گئے۔

ابن عامر رضی اللہ عنہما نے یہ دیکھا تو جو کچھ بیت المال میں تھا سب لا لیا، بصرے پر عبداللہ بن عامر الحضرمی کو قائم مقام بنایا اور خود کے کی طرف روانہ ہو گئے، وہاں طلحہ وزبیر و عائشہ رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچے جو شام کا ارادہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ لوگ بصرے آئیے وہاں لوگوں پر میرے احسانات ہیں، وہ مال کی جگہ ہے اور اس میں لوگوں کی ایک تعداد ہے، واللہ اگر میں چاہتا تو اس سے نہ نکلتا یہاں تک کہ بعض کو بعض سے لڑا دیتا، طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے کیوں نہ ایسا کیا، کیا تم شیم کے کندھوں پر ڈر گئے۔

سب کی رائے بصرے جانے پر متفق ہو گئی، ابن عامر ان لوگوں کو بصرے لائے جب جنگ جمل میں جو ہونا تھا وہ ہوا، لوگوں کو شکست ہو گئی، عبداللہ ابن عامر زبیر کے پاس آئے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے ابو عبداللہ میں تمہیں امت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے بارے میں قسم دیتا ہوں، کیونکہ آج کے بعد یہ امت اندیشہ ہے کہ باقی نہ رہے گی۔ زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دونوں لشکروں کو پریشان ہونے کے لیے چھوڑ دو، کیونکہ خوف شدید کے ساتھ امیدیں ہوتی ہیں۔

ابن عامر شام کے لشکر میں شامل ہو گئے، دمشق میں اترے، ان کے بیٹے عبدالرحمن جنگ جمل میں مارے گئے، انہیں سے ان کی کنیت تھی۔

حارث بن بدر ابوالعباس الغدانی نے ابن عامر کی روانگی دمشق کے بارے میں اشعار ذیل کہے:

اثانی من الابناء ان ابن عامر اناخ والقی فی دمشق المراسیا

”میرے پاس خبر آئی کہ ابن عامر نے دمشق میں قیام کیا اور (وہیں) لنگر ڈال دیے۔“

یطیف بحمامی دمشق و قصرہ بعیشک ان لم باتک القوم راضیا

دمشق کے دونوں حمام اور اس کے ایوان کا طواف کر رہا ہے۔ تیری زندگی کی قسم اگر قوم کو خوش نہ کر سکا تو کیا ہوگا۔

رأی یوم انقاء الفراض و قیعة وکان الیہا قبل ذلك داعیا

وہ ایک ہنگامے کو خود دیکھ رہا ہے یہ وہی ہنگامہ ہے جس کے برپا ہونے کی پہلے خود اس نے دعوت دی تھی۔

کان السریجات فوق رؤسہم بوارق غیث راح اوظف دانیا

ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے سروں پر تلواریں اس طرح چمک رہی ہیں جیسے ابر میں برق تاباں ہو یا چمکنے کے قریب ہو۔

فتد ندید الم یوالناس مثله وکان عراقیفا صبح شامیا

اس نے ایسی نظیر دکھائی جیسی کسی نے نہ دیکھی تھی۔ وہ پہلے عراقی مسلک کا تھا مگر اب شامی ہو گیا۔
جنگ صفین میں عدم شراکت:

ابن عامر بن عبد اللہ بصرے سے چلے گئے تو علی بن ابی طالب نے وہاں عثمان بن حنیف الانصاری کو بھیجا، وہ وہیں تھے کہ عائشہ وطلحہ و زبیر بن ابی العاصم ان کے پاس آئے، عبداللہ بن عامر بن عبد اللہ شام میں معاویہ بن ابی سفیان سے پاس تھے، جنگ صفین میں ان کا کوئی ذکر نہیں سنا گیا۔

البتہ جب حسن بن علی بن ابی طالب نے معاویہ بن ابی سفیان سے بیعت کر لی تو انہوں نے بسر بن ابی ارطاة کو والی بصرہ بنایا پھر معزول کر دیا، ان سے ابن عامر نے کہا کہ وہاں ایک قوم کے پاس میری کچھ امانتیں ہیں، اگر آپ مجھے والی بصرہ نہ بنائیں گے تو وہ چلی جائیں گی، انہوں نے تین سال تک ابن عامر کو والی بصرہ بنایا۔

وفات:

ابن عامر کی وفات معاویہ بن ابی سفیان سے ایک سال پہلے ہوئی۔ معاویہ بن ابی سفیان نے کہا کہ اللہ ابو عبد الرحمن پر رحمت کرے جن پر ہم فخر کرتے تھے اور ناز کرتے تھے۔

عبد اللہ بن عدی الاکبر رضی اللہ عنہ:

ابن الخیار بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی۔ ان کی والدہ ام قتال بنت اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

عبد اللہ بن عدی کے یہاں مختار پیدا ہوئے، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

حمید بنت عبد اللہ کی والدہ میمونہ بنت سفیان بن فہم تھیں، عبد اللہ کی ایک بیٹی اور تھیں جن کی والدہ بھی قبیلہ فہم سے تھیں۔

عبد اللہ بن عدی نے عمر و عثمان بن ابی سفیان سے روایت کی ہے۔ مدینے میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس ان کا مکان تھا، عبد اللہ بن عدی کی وفات مدینے میں ولید بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔ ثقہ اور قلیل الحدیث تھے۔

عبد الرحمن بن زید بن ابی سفیان:

ابن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد اللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن ان کی والدہ لبابہ بنت ابی لبابہ بن عبد المنذر بن رفاعہ بن زہر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف انصار میں سے تھیں۔

عبد الرحمن بن زید کے یہاں عمر پیدا ہوئے، ان کی والدہ ام عمار بنت سفیان بن عبد اللہ بن ربیعہ بن الحارث بن حبیب بن الحارث بن مالک بن حطیط ابن حشم بن قصی تھیں۔

عبد اللہ بن عبد الرحمن اور ایک اور لڑکے دونوں کی والدہ فاطمہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں، فاطمہ کی والدہ ام حکیم بنت

الحارث بن ہشام ابن المغیرہ تھیں۔

عبدالعزیز اور عبدالحمید جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی طرف سے والی کوفہ تھے اور ام جمیل و ام عبداللہ ان سب کی والدہ میمونہ بنت بشر بن معاویہ بن ثور بن عبادہ بن البرکاء بنی عامر بن صعصعہ میں سے تھیں۔

اسید و ابوبکر و محمد و ابراہیم ان سب کی والدہ سودہ بنت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما تھیں۔

عبدالملک اور ام عمرو و ام حمید و حفصہ و ام زید یہ سب مختلف ام ولد سے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت عبدالرحمن بن زید ابن الخطاب رضی اللہ عنہما چھ سال کے تھے انہوں نے عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ سے (حدیث) سنی۔

عبدالرحمن بن زید بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں اور عاصم بن مراہ بن الخطاب رضی اللہ عنہما دریا میں بحالت احرام تھے وہ

میرا سر پانی میں ڈبو دیتے اور میں ان کا سر پانی میں ڈبو دیتا، حالانکہ عمر رضی اللہ عنہما ساحل سے دیکھ رہے تھے۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما نے عبدالحمید کے والد کی طرف دیکھا جن کا نام محمد تھا۔ ایک

شخص انہیں کہہ رہا تھا کہ اے محمد اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے اور یہ کرے اور یہ کرے عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص کو گالی دیتے سنا تو کہا کہ

اے امین زید قریب آؤ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے سبب سے رسول اللہ ﷺ کو یا فرمایا محمد رضی اللہ عنہما کو گالی دی جاتی ہے۔ واللہ جب

تک میں زندہ ہوں تمہیں محمد نہیں پکارا جائے گا، ان کا نام انہوں نے عبدالرحمن رکھا۔

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے عبدالرحمن بن زید بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے حنوط (عطر میت) لگایا، انہیں کفن دیا،

اٹھایا اور مسجد میں گئے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا، محمد بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ عبدالرحمن بن زید نے عبداللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما

کے زمانے میں وفات پائی۔

عبدالرحمن بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن زید بن زید بن معاویہ کی طرف سے

والی مکہ تھے وہ اس کے پاس گئے اور سات روز ٹھہرے ایک سفید بیٹھانی اور سفید پاؤں والے گھوڑے پر وہ اس طرح بھگاتے ہوئے

نکلے کہ ان کے ہاتھ پر ایک باز تھا، میں نے کہا کہ جو ان کے پاس ہے بہتر ہے، میں ان کے قریب گیا اور ان سے کلام کیا تو ان کی عقل

میں فتور پایا، زید نے انہیں کئے واپس کر دیا۔ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت پسند کی۔ زید کو یہ معلوم

ہوا تو انہیں کے سے معزول کر دیا اور حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کو اس کا والی بنایا۔

عبدالرحمن بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن زید بن عمرو بن نفیل بن عبدالعزیز بن رباح بن رباح بن قرظ بن زراح ابن عدی بن کعب ان کی والدہ امامہ بنت الدجاج

قبیلہ غسان کی تھیں۔

عبدالرحمن بن سعید کے یہاں زید پیدا ہوئے اور سعید جن کا کوئی پیل مانہ نہ تھا اور فاطمہ ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔

عمرو بن عبدالرحمن کی والدہ بنی حنظلہ میں سے تھیں ایک روایت یہ ہے کہ ان کی والدہ ام ثابت تھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ام

اناس بنت ثابت ابن قیس بن شماس تھیں۔

ابوبکر بن عثمان سے جو آل یربوع میں سے تھے مروی ہے کہ عبدالرحمن ابن سعید بن زید بن عمرو العدوی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کا نام موسیٰ تھا انہوں نے ان کا نام عبدالرحمن رکھا جو آج تک قائم ہو گیا یہ اس وقت ہوا جب عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ جو لوگ انبیاء کے ہم نام ہیں ان کے نام بدل دیں۔

نافع سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو عبدالرحمن بن سعید بن زید بن عمرو بن نفیل کی طرف بلایا گیا وہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنے کپڑوں میں عود کی دھونی دے رہے تھے ان کے پاس گئے ہم لوگ بھی ساتھ ہو لیے ان کے حکم سے میں نے عبدالرحمن بن سعید رضی اللہ عنہما کو غسل دیا ابن عمر رضی اللہ عنہما پانی ڈالتے رہے ایک شخص نے ان کے سر کے اگلے حصے اور چہرے کو غسل دیا، نتھنوں اور منہ میں پانی ڈالا ان کی گردن اور سینے اور شرم گاہ کو غسل دیا۔

برہنہ کرنے سے پہلے ان کی شرم گاہ کو کپڑے سے ڈھانک کے غسل دیا قدموں تک پہنچے تو انہیں پلٹ دیا اور پیچھے کے حصے کو غسل دیا جیسا کہ ہم نے ان کے آگے کے حصے کو غسل دیا تھا پھر اس نے ان کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا اور ایک شخص نے ان کے شانے پکڑ لیے پیٹ تجڑا ایک شخص ان پر پانی ڈالتا جاتا تھا۔

ایک مرتبہ پانی سے غسل دیا دوبارہ بیری کے کے پانی سے تیسری مرتبہ بھی پانی سے اور اس پر کافور چھڑکتا جاتا تھا یہ تین غسل ہوئے پھر انہیں کسی کپڑے سے پوچھا نتھنوں میں منہ اور کانوں میں اور مقام اجابت میں روئی رکھ دی۔

کفن لایا گیا جو پانچ کپڑے تھے انہیں کرتہ پہنایا گیا جس میں گھنڈیاں نہ تھیں آگے کے حصے میں اور سر اور چہرے کے پاس حنوط (عطر میت) لگایا گیا تا آنکہ ان کے پاؤں تک پہنچ گیا جو بڑھا وہ پاؤں پر لگا دیا گیا چہرہ اور سر عمامے میں لپیٹا گیا پھر تین چادروں میں رکھا گیا وہ ان میں اس طرح اور اس طرح داخل کیے گئے گرہ نہیں لگائی گئی۔ نافع نے کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور عبدالرحمن بن سعید بن زید اور واقد بن عبداللہ بن عمر کو اسی طرح غسل دیا گیا۔

عبدالرحمن ثقہ قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

ابن سعید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ حمنہ بنت حمش بن رباب تھیں حمنہ کی والدہ امیمہ بنت عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبدمناف بن قصی تھیں۔

محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے یہاں ابراہیم الاعرج پیدا ہوئے جو شریف و بہادر تھے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے خراج عراق کا والی بنایا تھا اور سلیمان بن محمد انہیں سے ان کی کنیت تھی اور داؤد و اوم القاسم ان سب کی والدہ خولہ بنت منظور بن زبان ابن سیار بن عمر بن جابر بن عقیل بن ہلال بن سبی بن ہازن بن فزارہ تھیں ان لوگوں کے اخیانی بھائی حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب تھے جن کی والدہ بھی خولہ بنت منظور بن زبان تھیں۔

نام رکھنے کے لئے حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا جانا:

ابراہیم بن محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب حنظلہ بنت جحش رضی اللہ عنہا کے یہاں محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تو انہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس لائیں اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ان کا نام رکھ دیجئے، فرمایا ان کا نام محمد اور کنیت ابوسلیمان ہے، میں اپنے نام اور اپنی کنیت کو ان کے لیے جمع نہیں کروں گا۔

محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما کی دایہ سے مروی ہے کہ جب محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تو ہم انہیں نبی ﷺ کے پاس لائے۔ آنحضرت ﷺ نے پوچھا کہ تم لوگوں نے ان کا کیا نام رکھا، عرض کی محمد فرمایا یہ میرے ہمنام ہیں ان کی کنیت ابوالقاسم ہے۔ ابوبکر بن حفص بن عمر بن سعد سے مروی ہے کہ محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما اور محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبد اللہ بن محمد بن عمران بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ جو لوگوں میں سے اور ان کے اہل بیت میں سے تھے کہتے تھے کہ محمد بن طلحہ کی کنیت ابوالقاسم تھی انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی یہی کنیت رکھی اور ان کا نام بھی محمد رکھا، ان کے والد محمد بن عمران بن ابراہیم پہلی کنیت لیتے تھے ابوسلیمان محمد بن طلحہ کی وہ کنیت تھی جو پہلے ہم سے روایت کی گئی، ان کے اہل بیت اسی کو بیان کرتے تھے اور اسی کو روایت کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبد الحمید کے والد کی طرف دیکھا، ان کا نام محمد تھا، ایک آدمی انہیں کہہ رہا تھا کہ اللہ تمہارے ساتھ یہ کرے اور وہ کرنے انہیں گالیاں دینے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا کہ اے امین زید میرے قریب آؤ، کیا میں نہیں دیکھتا کہ محمد کہ تمہارے سبب سے گالی دی جاتی ہے، واللہ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں محمد نہیں پکارا جائے گا۔ انہوں نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا۔

امیر المومنین نے طلحہ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کو بلا بھیجا جو اس زمانے میں سات تھے، ان کے بڑے اور سردار محمد بن طلحہ تھے، چاہا کہ ان کا نام بدل دیں تو محمد بن طلحہ نے کہا کہ یا امیر المومنین میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ واللہ جنہوں نے میرا نام محمد رکھا وہ محمد رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اٹھ جاؤ، اس کی طرف کوئی گنجائش نہیں جس کا نام محمد رضی اللہ عنہ نے رکھا۔

محمد بن عثمان العمری نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کو ضرر نہ ہوگا اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین ہوں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ محمد بن طلحہ کی ذاتی فضیلت اور ان کی عبادت کی وجہ سے ان کا نام سجاد (بہت سجدے کرنے والا) رکھ دیا گیا تھا، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت سنی ہے، انہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا زوجہ رسول اللہ ﷺ کی قبر میں اترنے کا حکم دیا تھا، والد کے ہمراہ جنگ جمل میں موجود تھے اور اسی روز شہید ہوئے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

جب لوگ بصرے آئے تو انہوں نے بیت المال کو لے لیا جس پر طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما نے مہر لگا دی تھی، نماز کا وقت آ گیا تو طلحہ وزبیر رضی اللہ عنہما ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، قریب تھا کہ نماز فوت ہو جائے، پھر اس پر صلح ہوئی کہ ایک نماز عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما

پڑھائیں اور ایک نماز محمد بن طلحہ۔

پہلی نماز میں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما آگے بڑھے تو انہوں نے محمد بن طلحہ نے پیچھے کر دیا، محمد بن طلحہ آگے بڑھے تو انہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے پیچھے کر دیا، دونوں نے قرعہ ڈالا تو محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما نے قرعہ میں انہیں غالب کر دیا، وہ آگے بڑھے اور نماز میں یہ سورۃ پڑھی: ﴿سَالِ سَائِلٌ بَعْدَ مَا وَقَعَ﴾

جنگ جمل میں شرکت:

لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں محمد بن طلحہ نے نہایت شدید قتال کیا۔ جب معاملہ مضبوط ہو گیا اور اونٹ کے پیر کاٹ ڈالے گئے اور ہر وہ شخص قتل کر دیا گیا جس نے اس کی ٹیکل پکڑی، تو محمد بن طلحہ آگے بڑھے، انہوں نے اونٹ کی ٹیکل پکڑی جس پر عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا: اے ام المؤمنین آپ کی کیا رائے ہے، انہوں نے کہا کہ میری رائے ہے کہ تم تمام بنی آدم سے (جو اس وقت موجود ہیں) بہتر ہو وہ پکڑے رہے۔

عبداللہ بن مکعب جو بنی عبداللہ بن غطفان کا ایک شخص تھا اور بنی اسد کا حلیف تھا سامنے آیا ان پر نیزے سے حملہ کر دیا، اس سے محمد نے کہا کہ میں تجھے ”حم“ یاد دلاتا ہوں، مگر اس نے انہیں نیزہ مار کے قتل کر دیا۔

کہا جاتا ہے کہ جس نے انہیں قتل کیا وہ ابن مکعب الازدی تھا، بعضوں نے کہا کہ معاویہ بن شداد العبسی تھا اور بعضوں نے کہا کہ عصام بن المقشعر النصری تھا۔

محمد رضی اللہ عنہما کو سجاد (بہت سجدہ کرنے والا) کہا جاتا تھا، وہ سب سے زیادہ طویل نماز پڑھنے والے تھے، ان کے قاتل نے اشعار ذیل کہے:

واشعت قوام بآيات ربه قليل الاذى فيما ترى العين مسلم

”وہ پریشان حالت والے کہ اپنے پروردگار کی آیتوں پر نہایت درجہ قائم رہنے والے تھے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے بہت کم آزار مسلمان تھے۔“

هتكت له بالرمح حبيب قميصه فخر صريعا للدين وللضم

میں نے نیزہ سے ان کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا۔ وہ اپنے ہاتھوں اور منہ کے بل پچھڑ کے گرے۔

يذكر في حتم والرمح شارع فهلا تلاحم قبل التقدم

مجھے اس وقت حم یاد دلاتا ہے جب کہ نیزہ بازی شروع ہوگی۔ اس نوبت آنے سے پہلے خود حم کیوں نہ پڑھی۔

منى غير شئ غيران ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق يندم

وہ کسی امر حق پر نہیں ہے جو علی کے تابع نہیں ہے اور جو حق کے تابع نہیں ہوتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔“

لوگوں نے بیان کیا کہ جنگ جمل میں لوگ تیرہ ہزار مقتول چھوڑ بھاگے، اسی شب کو علی رضی اللہ عنہ اپنے ہمراہ روشنی لے کے مشق لین میں گئے تو محمد بن طلحہ بن عبید اللہ کی لاش پر گزرے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی طرف اپنا سر پھیر کر کہا کہ اے حسن! رب کعبہ کی قسم

جیسا کہ تم دیکھتے ہو سجاد (محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما) مقتول ہیں ان کے والد نے انہیں میدان میں پھانسا، اگر ان کے والد نہ ہوتے اور ان کے ساتھ ان کی نیکی نہ ہوتی تو وہ اپنے تقوے اور بزرگی کی وجہ سے اس میدان میں نہ لگتے۔

حسن رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ آپ کو انہوں نے اس سے بے نیاز نہیں کیا تھا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے حسن! نہ میرے لیے ہے نہ تمہارے لیے، حالانکہ وہ اس سے پہلے ان سے کہہ چکے تھے کہ اے حسن! تمہارے والد کو یہ پسند تھا کہ وہ اس دن سے بیس سال پہلے مر چکے ہوتے۔

ابراہیم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ ام کلثوم بن عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قصی تھیں، ام کلثوم کی والدہ اروی بنت کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس ابن عبد مناف بن قصی تھیں اور اروی کی والدہ ام حکیم یعنی بیضاء بنت عبد المطلب ابن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابراہیم بن عبد الرحمن کے یہاں قریر اور ام القاسم اور شفیہ جو الشفاء تھیں پیدا ہوئیں، ان سب کی والدہ ام القاسم بنت سعد بن ابی وقاص بن اہیب ابن عبد مناف بن زہرہ تھیں۔

عمرو المسور و سعد و صالح زکریا و ام عمرو ان سب کی والدہ ام کلثوم بنت سعد بن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں۔

عقیق و حفصہ کی والدہ بنت مطیع بن الاسود بن حارثہ بن نضله بن عوف ابن عبید بن عویج بن عدی بن کعب تھیں۔

اسحاق بن ابراہیم کی والدہ ام موسیٰ بنت عبد اللہ بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں۔ عثمان بن ابراہیم ان کی والدہ علیاء بنت معروف بن عامر بن خرق تھیں۔

ہود بن ابراہیم و شفیہ صغریٰ دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

زبیر بن ابراہیم اور ام عباد دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

ام عمرو صغریٰ بھی ام ولد سے تھیں۔

ولید بن ابراہیم بھی ام ولد سے تھے۔

ابراہیم کی کنیت ابو اسحاق تھی۔

سعد بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے رویشدا نقسی کا گھر جلا دیا جو شراب کی دکان تھی

عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں منع کیا تھا، میں نے اسے آگ کی چنگاری کی طرح بھڑکتے ہوئے دیکھا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سوائے ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کے کسی لڑکے کا عمر رضی اللہ عنہ سے سن کر یاد دیکھ کر روایت کرنا ہمیں

نہیں معلوم۔

ابراہیم بن عبد الرحمن نے اپنے والد اور عثمان و علی و سعد بن ابی وقاص و عمرو بن العاص و ابی بکرہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کی

ہے ابراہیم بن عبد الرحمن کی وفات ۷۷ھ میں پچھتر سال کی عمر میں ہوئی۔
مالک بن اوس رضی اللہ عنہ۔

ابن الحداد جو بنی نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن مضر میں سے تھے۔
لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں گھوڑے کی سواری کی قدیم (مسلمان) تھے لیکن اپنے اسلام میں دیر کی
ہمیں معلوم نہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو اور آپ سے کچھ روایت کی ہو، عمر بن الخطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما سے
روایت کی ہے۔ ۷۷ھ میں مدینہ میں وفات ہوئی۔
عبد الرحمن بن عبد رضی اللہ عنہ۔

القاری بنی قارہ میں سے تھے قارہ محلم بن غالب بن عانذہ بن شعیب بن لیح بن الہون بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر
کے بیٹے تھے ان لوگوں کا نام قارہ صرف اس لیے رکھا گیا کہ یمر الشد اخ بن عوف اللیشی نے چاہا کہ ان لوگوں کو قبیلہ کنانہ کی شاخوں
میں تقسیم کر دیں تو ان میں سے ایک شخص نے کہا:

دعوننا قارۃ لا تنفرونا فنجعل مثل جفال الظلم

”ہمیں قارہ (چھوٹی پہاڑی) پر چھوڑ دو۔ ہمیں بھگاؤ نہیں کہ ہم شتر مرغ کی طرح بھاگیں“۔

اس وجہ سے ان لوگوں کا نام قارہ رکھا گیا، انہیں لوگوں کے بارے میں ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اس نے قارہ سے انصاف
کیا جس نے باہم ان سے تیر اندازی کی، وہ لوگ تیر انداز تھے، قارہ حائش میں سے تھے حائش میں سے حارث بن عبد مناة بن کنانہ
اور مطلق تھے، جن کا نام جذیمہ تھا اور حیا تھے، جن کا نام عامر تھا، یہ دونوں سعد خزاعی کے فرزند تھے اور غصیل تھے، قارہ الہون بن خزیمہ
کی اولاد میں سے تھے، غصیل ہی ابن الدیش بن محلم تھے۔

ان لوگوں کا نام احائش اس لیے رکھا گیا کہ وہ سب بخش تھے یعنی جمع تھے اور سب بنی بکر کے پاس خلفائے قریش تھے اور
کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ایک پہاڑ پر جس کا نام حبشی تھا معاہدہ حلف کیا تھا جو کسے سے دس میل کے فاصلے پر تھا، اسی سبب سے وہ
لوگ احائش کہلائے، قارہ نے بنی زہرہ بن کلاب میں معاہدہ حلف کیا تھا جو جاہلیت میں حلف صحیح تھا اور انہوں نے بنی زہرہ میں
جہاں چاہا نکاح کیا، ان کی اکثر مائیں بنی زہرہ میں سے ہیں۔

عبد الرحمن بن عبد القاری نے عمر بن رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ان سے عروہ بن الزبیر نے روایت کی ہے، عبد الرحمن کی
وفات ۸۰ھ میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں مدینہ میں ہوئی، اس زمانے میں ابان بن عثمان بن عفان مدینے
کے امیر تھے وفات کے دن عبد الرحمن بن عبد اٹھتر سال کے تھے۔

ابراہیم بن قارظ رضی اللہ عنہ۔

ابن ابی قارظ نام خالد بن الحارث بن عبید بن تیم بن عمرو بن الحارث ابن مبذول بن الحارث بن عبد مناة بن کنانہ تھا۔
ابو قارظ مکے میں داخل ہوئے، خوبصورت تھے اور شاعر تھے، قریش نے کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہمارے معاہدہ ہمارے بھائی

اور ہمارے مددگار ہیں ہم سب ان کے مددگار ہیں سب نے انہیں بلایا کہ ٹھہرائیں اور کاح کریں، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے تین دن کی مہلت دو۔

کوہ حراء پر گئے اور تین دن تک اس کی چوٹی پر عبادت کی اترے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قریش میں سب سے پہلے جو شخص ملے گا اس سے مخالفت کر لیں گے سب سے پہلے انہیں جو صاحب ملے وہ عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن زہرہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دادا تھے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا دونوں روانہ ہوئے اور مسجد میں آئے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور معاہدہ حلف کیا عبدعوف نے ان کے لئے حلف کو مضبوط کر دیا۔

ابراہیم بن قارظ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (روایت) سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ مجھے اہل کوفہ نے اس طرح تنگ کیا کہ نہ وہ کسی امیر سے خوش ہیں اور نہ کوئی امیر ان سے خوش ہے۔

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن مسعود بن نافع بن حبیب بن شیح بن فار بن مجزوم بن صابہ بن کابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل جو بنی زہرہ بن کلاب کے حلفا تھے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عتبہ کو بازار پر عامل بنایا انہیں حکم دیا کہ سوتی کپڑے سے محصول لیا کریں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے بعد کو وہ کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں رہے کوفہ ہی میں عبدالملک بن مروان کی خلافت اور بشر بن مروان کی ولایت عراق میں ان کی وفات ہوئی۔

ثقفہ و عالی قدر و کثیر الحدیث و کثیر الفتویٰ و فقیہ تھے۔

نوفل بن ایاس الہمدلی رضی اللہ عنہ:

نوفل بن ایاس الہمدلی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بزمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں (تراویح کے لیے) گروہ گروہ ہو کر یہاں اور یہاں کھڑے ہوتے تھے لوگ زیادہ خوش آواز کی طرف جھکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے واللہ اگر مجھ سے ہو سکا تو ضرور اس طریقے کو بدل دوں گا وہ صرف تین ہی رات ٹھہرے کہ ابی بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ سب سے آخری صف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ بدعت ہے تو کیسی اچھی بدعت ہے۔

حارث بن عمرو الہمدلی رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کیں جن میں نماز کے بارے میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے نام ان کا فرمان بھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی روایت کی ہے۔ حارث بن عمرو کی وفات ۷۷ھ میں ہوئی۔

اور ہمارے مددگار ہیں، ہم سب ان کے مددگار ہیں، سب نے انہیں بلایا کہ ٹھہرائیں اور نکاح کریں، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے تین دن کی مہلت دو۔

کوہ حراء پر گئے اور تین دن تک اس کی چوٹی پر عبادت کی، اترے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قریش میں سب سے پہلے جو شخص ملے گا اس سے مخالفت کر لیں گے، سب سے پہلے انہیں جو صاحب ملے وہ عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن زہرہ، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دادا تھے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، دونوں روانہ ہوئے اور مسجد میں آئے، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور معاہدہ حلف کیا، عبدعوف نے ان کے لئے حلف کو مضبوط کر دیا۔

ابراہیم بن قارظ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (روایت) سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ مجھے اہل کوفہ نے اس طرح تنگ کیا کہ نہ وہ کسی امیر سے خوش ہیں اور نہ کوئی امیر ان سے خوش ہے۔

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن مسعود بن نائل بن حبیب بن شیح بن فار بن مخزوم بن صالحہ بن کامل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ذبیل جو بنی زہرہ بن کلاب کے حلفا تھے ان کی کنیت ابو عبدالرحمن تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عتبہ کو بازار پر عامل بنایا، انہیں حکم دیا کہ سوتی کپڑے سے محصول لیا کریں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، بعد کو وہ کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں رہے، کوفہ ہی میں عبدالملک بن مروان کی خلافت اور بشر بن مروان کی ولایت عراق میں ان کی وفات ہوئی۔ ثقہ و عالی قدر و کثیر الحدیث و کثیر الفتویٰ و فقیہ تھے۔

نوفل بن ایاس الہذلی رضی اللہ عنہ:

نوفل بن ایاس الہذلی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بزمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں (تراویح کے لیے) گروہ گروہ ہو کر یہاں اور یہاں کھڑے ہوتے تھے، لوگ زیادہ خوش آواز کی طرف جھکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے، واللہ اگر مجھ سے ہوسکا تو ضرور اس طریقے کو بدل دوں گا، وہ صرف تین ہی رات ٹھہرے کہ ابی بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ سب سے آخری صف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ بدعت ہے تو کیسی اچھی بدعت ہے۔

حارث بن عمرو الہذلی رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کیں جن میں نماز کے بارے میں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے نام ان کا فرمان بھی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی روایت کی ہے۔ حارث بن عمرو کی وفات ۷۰ھ میں ہوئی۔

عبداللہ بن ساعدۃ الہذلی رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو محمد تھی، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

ابن ساعدۃ الہذلی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب تجارت بازار میں غلے کے پاس جمع ہو جاتے تو انہیں اپنے درہ سے مارتے یہاں تک کہ وہ اسلم کی گلیوں میں گھس جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارا راستہ بند نہ کرو ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

نضر بن سفیان الہذلی رضی اللہ عنہ:

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

علقمہ بن وقاص رضی اللہ عنہ:

ابن حصین بن کلدہ بن عبد یاسیل بن طریف بن عتوارہ عامر بن لیث بن بکر بن عبد مناتہ بن کنانہ۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ مدینے میں بنی لیث میں ان کا مکان تھا اور وہیں ان کے پیس ماندگان تھے ان کی اولاد میں سے محمد بن عمرو بن علقمہ بن وقاص وہ شخص ہیں جنہوں نے ابی مسطح سے روایت کی ہے۔ علقمہ بن وقاص کی وفات مدینے میں عبد الملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔

عبداللہ بن شداد:

ابن اسامہ بن عمرو الہادی بن عبداللہ بن جابر بن عبداللہ بن جابر بن بشر بن عتوارہ ابن عامر بن لیث، ان کی والدہ سلمی بنت عمیس خواہرا سماء بنت عمیس الخثعمیہ تھیں، عمر و کا نام الہادی اس لیے رکھا گیا کہ رات کے وقت راستہ چلنے والوں اور مہمانوں کے لیے روشنی کیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن شداد نے عمر بن الخطاب اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث اور شیعی تھے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ عبداللہ بن شداد بنت حمزہ کے اخیانی بھائی تھے۔ عبداللہ بن شداد بن الہادی سے مروی ہے کیا تم جانتے ہو کہ بنت حمزہ کا مجھ سے کیا رشتہ تھا وہ میری اخیانی بہن تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن شداد بکثرت کوفہ آیا کرتے اور پھر ہیں رہتے تھے وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نکلے جو عبدالرحمن بن محمد بن الاشعث کے ساتھ نکلے تھے، جنگ و جیل میں مشغول ہوئے۔

جعونہ بن شعوب:

اسود بن عبد شمس بن مالک بن جعونہ بن عویرہ بن شیح بن عامر بن لیث کی اولاد میں تھے۔ شعوب قبیلہ خزاعہ کی ایک عورت تھیں جو اسود کی والدہ تھیں، اسود ابی سفیان بن حرب کے حلیف تھے اور بحالت کفران کے ساتھ احد میں آئے تھے یہ وہی شخص ہیں کہ یوم احد میں جب حظلہ غسیل (ملائکہ) کو شہید کیا تو انہیں چھڑایا۔

جعونہ بن شعوب نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے (حدیث) سنی ہے۔

حماس اللدیشی:

بنی کنانہ میں سے تھے ابو عمرو بن حماس کے جو انہیں لوگوں میں سے تھے والد تھے مدینے میں ان کا مکان تھا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، قلیل الحدیث شیخ تھے۔

عبداللہ بن ابی احمد:

ابن جحش بن رباب بن یحییٰ بن صبرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد بن خزیمہ جو بنی عبد شمس بن عبد مناف کے حلفا تھے۔

ملیح بن عوف السلمی:

ملیح بن عوف السلمی سے مروی ہے کہ کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان کے دروازے پر ایک دروازہ بنا لیا ہے اور اپنے محل پر ایک بانس کا چھپر ڈال لیا ہے انہوں نے محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور مجھے بھی ان کے ہمراہ جانے کا حکم دیا۔ میں بستیوں کا رہبر تھا، ہم دونوں روانہ ہوئے۔

امیر المؤمنین نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اس دروازے اور چھپر کو جلا دیں اور سعد رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ کے لیے ان کی مسجد میں کھڑا کریں یہ اس لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو بعض اہل کوفہ سے خبر ملی کہ سعد رضی اللہ عنہ نے قمیص کی بیج میں نرمی کی ہے۔

ہم لوگ سعد رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے انہوں نے دروازہ اور چھپر جلا دیا اور سعد رضی اللہ عنہ کو کوفہ کی مساجد میں کھڑا کیا لوگوں سے سعد رضی اللہ عنہ کا حال پوچھنے لگے اور کہنے لگے کہ امیر المؤمنین نے انہیں اس کے متعلق حکم دیا ہے، مگر کوئی ایسا شخص نہ ملا جو سوائے نیکی کے ان کے متعلق کچھ کہتا۔

سنین ابو جمیلہ:

بنی سلیم کے ایک شخص تھے ان کی چند حدیثیں ہیں جو انہوں نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنیں، صالح بن کیسان کی حدیث میں جو زہری سے مروی ہے انہوں نے سنین ابو جمیلہ السلمی سے روایت کی ہے ان کا مکان العمیق میں تھا۔

زہری سے مروی ہے کہ انہوں نے ابو جمیلہ سنین کو کہتے سنا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک بڑا ہوا بچہ پایا میرے عریف (پروردہ) نے اس کا ذکر ان سے کیا تو انہوں نے مجھے بلا بھیجا اور کہا کہ ہر لڑکا آزاد ہے اس کی میراث تمہارے لیے ہے اور رضاعت ہمارے ذمے۔

مالک بن ابی عامر رضی اللہ عنہما:

ابن عمرو بن الحارث بن غیمان بن ضیل بن عمرو بن الحارث ذوالصحیح بن عوف ابن مالک بن زید بن عامر بن ربیعہ بن بنت بن مالک بن زید بن کہلان بن سبا بن معرب، محض ان کی فصاحت کی وجہ سے ان کا نام معرب رکھا گیا، اس لیے کہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے زبان عربی کو قائم کیا، ابن مہرم قحطان بن البسبع ابن جیم بن قیس بن بنت بن اسماعیل بن ابراہیم۔

ابو بکر بن عبداللہ بن ابی اویس بن عم مالک بن انس نے مجھ سے ان کا نسب اسی طرح بیان کیا، مالک بن انس فقیہ اہل مدینہ مالک بن ابی عامر کی اولاد سے تھے۔

ربیع بن مالک بن ابی عامر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ حج یا عمرے میں مکے کے راستے پر ایک درخت کے نیچے تھے کہ مجھ سے عبدالرحمن ابن عثمان بن عبید اللہ نے کہا کہ اے مالک میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا کیا تمہیں وہ کام منظور ہے جس کی طرف ہمیں اوروں نے بلایا مگر ہم نے ان سے انکار کر دیا میں نے کہا کس کام کی طرف انہوں نے کہا کہ اس امر کی طرف کہ ہمارا خون تمہارا خون ہو اور ہمارا خون رائگان تمہارا خون رائگان ہو قسم ہے اللہ کی جو کہتا ہے کہ دریا نے ایک بال بھی تر نہ کیا مالک نے کہا کہ میں نے ان کی یہ بات منظور کر لی اسی سبب سے آج تک ان لوگوں کا شمار بنی تیم میں ہے۔

مالک بن ابی عامر سے مروی ہے کہ میں جمرہ کے پاس (منیٰ میں) عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے قریب اس وقت موجود تھا جب ان کے ایک پتھر لگا جس سے ان کے خون نکل آیا ایک آدمی نے ایک آدمی کو پکارا کہ یا خلیفہ قبیلہ شعم کے ایک شخص نے کہا کہ واللہ تمہارے خلیفہ گئے کہ ان کے تو خون نکل آیا اور ایک آدمی پکارتا ہے یا خلیفہ آئندہ سال عمر رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔

مالک بن ابی عامر نے عمرو عثمان وطلحہ بن عبید اللہ وانی ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے وہ ثقہ تھے اور ان کی احادیث صحیح ہیں۔

عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما:

ابن الحضرمی جو خلفائے بنی امیہ میں سے تھے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سن کر روایت کی ہے۔

سائب بن یزید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن الحضرمی اپنے ایک غلام کو جس نے چوری کی تھی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس لائے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن حاطب رضی اللہ عنہما:

ابن ابی بلتعہ نخم میں سے تھے بنی راشدہ بن اذب بن جزیلہ بن نخم کے ایک فرد تھے اور بنی عمرو بن امیہ بن الحارث بن اسد بن عبد العزی کے حلفا تھے عمرو بن امیہ مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔ عبدالرحمن کی کنیت ابو یحییٰ تھی بنی سلمیٰ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں پیدا ہوئے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ۶۸ھ میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن الاشعث:

ابن قیس بن معدی کرب بن معاویہ بن جبلہ بن عدی بن ربیعہ بن معاویہ الاکرمین ابن الحارث بن معاویہ بن الحارث الاکبر بن معاویہ بن ثور بن مرثع (بن معاویہ) ابن کندی بن عفیر ان کی والدہ ام فروہ بنت ابی قحافہ عثمان (بن عامر) بن عمرو ابن کعب بن سعد بن تیم تھیں۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ محمد بن الاشعث کی کنیت ابو القاسم تھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے لوگوں نے ان کی کنیت ابو القاسم رکھ دی محمد بن الاشعث نے عمرو عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے ان دونوں سے اپنی یہودیہ پھوپھی کو دریافت کیا جو مرگئی تھی۔

عبداللہ بن حنظلہ الغسلی رضی اللہ عنہما:

ابن ابی عامر الراہب ان کا نام محمد عمرو بن صبیح بن العمان بن مالک ابن امیہ بن ضبیحہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو

بن عوف بن مالک بن الاوس تھا ان کی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول بنی الحلیلی میں سے تھیں۔

عبداللہ بن حنظلہ بنی حنظلہ کے یہاں عبدالرحمن و حنظلہ پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ اسماء بنت ابی صیفی بن ابی عامر بن صیفی تھیں۔

عامر و الحکم کی والدہ فاطمہ بنت الحکم بنی ساعدہ میں سے تھیں۔

انس و فاطمہ کی والدہ سلویٰ بنت انس بن مدرک خثعم میں سے تھیں۔

سلیمان و عمرو امۃ اللہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت وحوح بن الاسلت بن خثعم بن وائل بن زید جعادہ اوس میں سے تھیں۔

سوید و معمر عبداللہ و الحمر و محمد و ام سلمہ و ام حبیب و ام القاسم و قریبہ و ام عبداللہ ان سب کی والدہ ام سوید بنت خلیفہ خزاعہ کے بنی عدی بن عمرو میں سے تھیں۔

غزوہ اُحد کے بعد آپ کی پیدائش ہوئی:

حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ نے جب (جہاد کے لیے) احد جانے کا ارادہ کیا تو اپنی بیوی جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی بن سلول سے صحبت کی، ہجرت کے بتیسویں مہینے شوال میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ ان کے حمل میں آگئے، حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ اسی روز شہید ہو گئے انہیں ملائکہ نے غسل دیا ان کے بیٹے کو فرزند غسل ملائکہ کہا جاتا ہے۔

جمیلہ کے یہاں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہما اس کے نو مہینے کے بعد پیدا ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو وہ سات برس کے تھے، بعضوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے اور عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن حنظلہ بن الراہب سے مروی ہے کہ ہمیں عمر رضی اللہ عنہ نے نماز مغرب پڑھائی، اس طرح کہ پہلی رکعت میں کچھ نہ پڑھا، دوسری رکعت میں فاتحہ القرآن اور ایک سورۃ پڑھی، پھر دوبارہ فاتحہ القرآن اور ایک سورۃ پڑھ کے نماز پوری کی، اس سے فارغ ہوئے تو دو تہجد سے کیے اور سلام پھیرا۔

ایام حرہ میں اہل مدینہ کی قیادت:

عبداللہ بن زید و غیر ہم سے مروی ہے کہ شب ہائے حرہ میں اہل مدینہ اٹھ کھڑے ہوئے تو انہوں نے بنی امیہ کو مدینے سے نکال دیا اور یزید بن معاویہ کا عیب اور اس سے اختلاف ظاہر کیا، سب نے عبداللہ بن حنظلہ پر اتفاق کیا اور اپنا معاہلہ ان کے سپرد کر دیا، انہوں نے ان لوگوں سے موت پر بیعت کر لی اور کہا:

”اے قوم! اللہ سے ڈرو جو یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، واللہ ہم لوگ اس وقت تک یزید کے مقابلے پر نہیں نکلے جب تک کہ ہمیں یہ خوف نہ ہو کہ آسمان سے ہم پر پتھر برسائیں جائیں گے، وہ ایسا شخص ہے جو ماؤں بیٹیوں اور بہنوں سے نکاح کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور نماز ترک کرتا ہے، واللہ اگر میرے ساتھ ایک شخص بھی نہ ہو تو میں (جہاد میں) اللہ کے لیے امتحان لوں گا۔“

لوگ ہر طرف سے جوق در جوق آ رہے تھے اور بیعت کر رہے تھے، ان راتوں میں عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سوائے مسجد

کے اور کوئی خواب گاہ نہ تھی۔ غذا میں قدرے ستوپینے پر اضافہ نہ کرتے جس سے روزہ افطار کر کے دوسرے دن تک اسی طرح گزارتے وہ برابر روزہ رکھتے تھے اور تواضع کی وجہ سے انہیں آسمان کی طرف سزاٹھاتے نہیں دیکھا گیا۔

اہل مدینہ سے خطاب:

اہل شام جب وادی القرئی کے قریب آگئے تو عبد اللہ بن حنظلہ نے لوگوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، منبر پر چڑھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا کہ اے لوگو! تم محض اپنے دین کی وجہ سے ناراض ہو کے نکلے ہو لہذا اللہ کو اچھا امتحان دو کہ وہ اس کی وجہ سے تمہارے لیے اپنی مغفرت واجب کر دے اور اس کی وجہ سے تم پر اپنی خوشنودیاں اتارے، مجھے اس شخص نے خبر دی ہے جو اس تاریک مزاج قوم کے ساتھ اترا ہے کہ آج ذی حجب اس قوم کی منزل ہے اور ان کے ہمراہ مروان بن الحکم بھی ہے، ان شاء اللہ اس کے اس عہد و پیمانہ کو توڑنے کی وجہ سے جو اس نے رسول اللہ ﷺ کے منبر کے پاس کیا تھا اللہ اسے نیک راستہ نہ دکھائے گا۔

لوگوں نے شور بلند کیا اور مروان کو گالیاں دینے لگے، کہنے لگے کہ وہ بزدل کا بیٹا بزدل ہے، ابن حنظلہ لوگوں کو خاموش کرنے لگے اور کہنے لگے کہ گالی کوئی چیز نہیں، البتہ سچائی سے ان کا مقابلہ کرو، واللہ جو قوم سچائی کرتی ہے وہ اللہ کی قدرت سے مدد کو گھیر لیتی ہے، انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور قبلہ رو ہو کے کہا کہ اے اللہ ہم لوگ تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، تجھی پر ایمان لائے ہیں اور تجھی پر ہمارا توکل ہے، تیری ہی طرف ہم نے اپنی پشتوں کا سہارا لگایا ہے، یہ کہا اور منبر پر سے اتر آئے۔

شہر نبی کی بے حرمتی کرنے والوں سے شدید جنگ:

اس قوم نے مدینے میں صبح کی اہل مدینہ نے ان سے شدید قتال کیا، لیکن شامیوں کی کثرت ان پر غالب آگئی، مدینے کے تمام اطراف سے ان کا دخول ہو گیا۔ عبد اللہ بن حنظلہ نے اس روز دوزر ہیں پہنچیں اور اپنے ساتھیوں کو قتال پر ابھارنے لگے، لوگ قتال کرنے لگے اور اس قدر مقتول ہوئے کہ سوائے عبد اللہ بن حنظلہ ہی کے جھنڈے کے اور کچھ نظر نہ آتا تھا، اس جھنڈے کو وہ اپنے ساتھیوں کی مختصر جماعت کے ہمراہ تھامے ہوئے تھے۔

ظہر کا وقت آ گیا تو انہوں نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ تم میری پشت کی حفاظت کرو۔ میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے چار رکعت نماز ظہر اطمینان کے ساتھ پڑھی، جب نماز ادا کر لی تو ان کے مولیٰ نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن کوئی باقی نہ رہا، ہم کب تک ٹھہریں، ان کا جھنڈا قائم تھا جسکے گرد پانچ آدمی تھے، مولیٰ سے کہا کہ تم پر افسوس ہے، ہم تو صرف اس پر نکلے ہیں کہ مرجائیں گے۔

نماز سے فارغ ہو گئے، بدن پر بہت سے زخم تھے، تلوار گلے میں ڈالی اور زرہ اتار دی، ریشم کے دو کلائی کے خول پہنے اور لوگوں کو قتال پر ابھارا، حالانکہ اہل مدینہ کھد بڑے ہوئے جو پایوں کی طرح تھے اور اہل شام انہیں ہر طرف سے قتل کر رہے تھے۔

جرات مند انہ شہادت:

جب لوگوں کو شکست ہو گئی تو ابن حنظلہ نے زرہ پھینک دی بالکل بہتے ہو گئے اور بلا زرہ کے قتال کرنے لگے یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اہل شام میں سے کسی نے ایک تلوار ایسی ماری جس سے ان کے دونوں شانے کٹ گئے پھیچھرا نکل آیا اور وہ گر کر شہید ہو گئے۔

سرف اپنے گھوڑے پر مقتولین میں گھومنے لگا، ہمراہ مروان بن الحکم بھی تھا۔ عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما پر گذر ہوا وہ اپنی انگشت شہادت پھیلائے ہوئے تھے۔ مروان نے کہا کہ واللہ اگر تم نے اسے مرنے کے بعد کھڑا کیا ہے تو (تعجب نہیں کیونکہ) تم نے زمانہ دراز تک اسے زندگی میں بھی کھڑا کیا ہے۔

عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما شہید ہو گئے تو لوگوں کے لیے ٹھہرنا ممکن نہ تھا وہ ہر طرف بھاگے عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما کے قتل کے ذمہ دار وہ شخص تھے کہ انہیں نے ابتدا کی اور ان کا سر کاٹا ان میں سے ایک اسے مسرف کے پاس لے گیا اور کہنے لگا کہ یہ امیر قوم کا سر ہے۔ مسرف نے اپنے گھوڑے ہی پر سے سجدے کا اشارہ کیا اور کہا کہ تم کون ہو اس نے کہا میں بنی فزارہ کا ایک شخص ہوں پوچھا تمہارا نام کیا ہے اس نے کہا مالک۔ پھر پوچھا تم نے ان کا قتل اور ان کا سر کاٹنا اپنے ذمے لیا۔ اس نے کہا ہاں۔ ایک دوسرا شخص آیا جو اہل حمص کے السلکون میں سے تھا نام سعد بن الجون تھا اس نے کہا اللہ امیر کی اصلاح کرے ہم دونوں نے انہیں اپنے نیزوں سے مارنا شروع کیا نیزے ان کے بھونک دیئے اور اپنی تلواروں سے انہیں مارا یہاں تک کہ وہ جس چیز سے لگتی تھیں اسے ان کی بارہیں الٹ دیتیں۔

فزاری نے کہا کہ غلط ہے سکونی نے کہا کہ اسے طلاق و حریت کی قسم دو یعنی یہ قسم دو کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کی بیویوں پر طلاق اور اس کے تمام مملوک آزاد فزاری نے قسم کھانے سے انکار کیا سکونی نے جس طور پر کہا تھا قسم کھالی۔ مسرف نے کہا کہ امیر المؤمنین (یزید) تمہارے معاملے میں فیصلہ کریں گے۔

اس نے ان دونوں کو روانہ کر دیا جو یزید کے پاس اہل حرہ اور ابن حظلہ کے قتل کی خبر کے ساتھ آئے اس نے ان دونوں کو بڑے بڑے انعامات دیئے اور شرف بخشا اس کے بعد حصین بن نمیر کے پاس واپس کر دیا۔ دونوں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے محاصرے میں قتل کیے گئے۔

واقعه حرہ ذی الحجہ ۱۳ھ میں ہوا۔

شہادت کے بعد خواب میں زیارت:

عبداللہ بن ابی سفیان سے مروی ہے کہ والد کو کہتے سنا کہ میں نے عبداللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما کو شہید ہونے کے بعد اس طرح خواب میں دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت تھے پاس ان کا جھنڈا بھی تھا میں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن کیا تم مقتول نہیں ہوئے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں میں اپنے پروردگار سے ملا تو اس نے مجھے جنت میں داخل کر دیا میں اس کے میوؤں میں جہاں چاہتا ہوں جاتا ہوں میں نے کہا کہ آپ کے ہمراہیوں کے ساتھ کیا کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے ساتھ میرے اسی جھنڈے کے گردا گرد ہیں جس کی گرہ قیامت تک نہیں کھولی جائے گی۔ میں نیند سے ہوشیار ہوا تو سمجھا کہ وہ بہت بہتر ہے جو میں نے ان کے لیے دیکھا۔

محمد بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن خرم بن زید بن لؤذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک ابن النجار کنیت ابو عبد الملک تھی ان کی والدہ عمرہ بنت

عبداللہ بن الحارث ابن جہاز غسان کے بنی حبالہ بن غنم میں سے تھیں کہ خزرج کے بنی ساعدہ کے حلیف تھے۔

محمد بن عمرو کے یہاں عثمان اور ابو بکر فقیہ اور ام کلثوم پیدا ہوئیں ان کی والدہ کبشہ بنت عبدالرحمن بن سعد بن زرارہ بن عدس بنی مالک بن النجار میں سے تھیں۔

عبدالملک بن محمد اور عبداللہ و عبدالرحمن اور ام عمرو کی والدہ شیبہ بنت النعمان بن عمرو بن النعمان بن خلدہ بن عمرو بن امیہ بن عامر بن بیاضہ تھیں۔

نام رکھنے میں حضور ﷺ سے مشاورت:

رسول اللہ ﷺ نے عمرو بن حزم کو نجران یمن پر عامل بنایا۔ وہاں ان کے یہاں رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھا اور کنیت ابوسلیمان رسول اللہ ﷺ کو لکھا تو آنحضرت ﷺ نے انہیں لکھا کہ نام محمد رکھا اور کنیت ابو عبدالملک۔ ابن حزم نے ایسا ہی کیا۔

ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے تمام لڑکوں کو جمع کیا جن کا نام کسی نبی کا نام تھا اور انہیں گھرا لائے کہ نام بدل دیں ان لوگوں کے والد آئے اور اس پر شہادت دی کہ ان میں سے اکثر کا نام رسول اللہ ﷺ نے رکھا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے والد بھی انہیں میں تھے۔

محمد بن عمرو نے کہا کہ محمد بن عمرو نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے ان سے روایت کی ہے وہ ثقہ و قلیل الحدیث تھے محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک خنز (سوت ریشم ملے ہوئے کپڑے) کی چادر سات سو درہم میں خریدی اور اسے اوڑھتے تھے۔

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ محمد بن عمرو نے ایام حرمہ میں اہل شام کو بہت قتل کیا وہ ان لوگوں کے لشکر پر حملہ کر کے ان کی جماعت کو پراگندہ کر دیتے وہ سوار تھے اہل شام میں سے کسی نے کہا کہ اس نے ہمیں جلا دیا اور ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ اپنے گھوڑے پر بیٹھا چائے گا۔ لہذا اس پر ایک ساتھ حملہ کر دو کسی نہ کسی سے تو شکست کھا جائے گا۔ کیونکہ ہم اسے تجربہ کار اور بہادر سمجھتے ہیں۔

لوگوں نے ان پر حملہ کر کے نیزوں پر پرو لیا وہ مر کے گر پڑے اہل شام کا ایک شخص ان کے گلے میں چمٹ گیا دونوں گر پڑے محمد بن عمرو شبید ہو گئے تو لوگ ہر طرف بھاگے اور مدینے میں داخل ہو گئے شامیوں کے لشکر اس میں گشت کر کے لوٹتے اور قتل کرتے تھے۔

محمد بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ محمد بن عمرو بن حزم نے یوم الحمرہ میں نماز پڑھی حالانکہ ان کے زخم خون بہا رہے تھے اور وہ صرف نیزوں میں پرو کے قتل کیے گئے۔

خالد بن القاسم نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے محمد بن عمرو کو اس حالت میں دیکھا کہ سر پر خود تھا جب نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو اسے اپنے پہلو میں رکھ دیا اور غیر مسلح ہو کے نماز پڑھی۔

ابراہیم بن یحییٰ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ اس روز محمد بن عمرو اپنی بلند آواز سے کہہ رہے تھے کہ اے گروہ انصار ان

لوگوں کو بہادری سے مارو کیونکہ وہ لوگ ایسے ہیں جو طمع دنیا پر قائل کرتے ہیں اور تم لوگ وہ ہو جو آخرت پر قائل کرتے ہو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے لشکروں پر حملہ کر کے انہیں منتشر کرنے لگے یہاں تک کہ وہ قتل کر دیئے گئے۔

عبداللہ بن ابی سفیان مولائے ابن ابی احمد بن جحش نے اپنے والد سے روایت کی کہ بدکار مسرف بن عقبہ اپنے گھوڑے پر مقتولین میں گشت کر رہا تھا، ہمراہ مروان بن الحکم بھی تھا، محمد بن عمرو بن حزم پر گذرا۔ دیکھا تو منہ کے بل پیشانی زمین پر رکھے ہوئے مردہ پڑے تھے، مروان نے کہا کہ واللہ اگر تم مرنے کے بعد اپنی پیشانی کے بل (یعنی سر بسجود) ہو تو تم نے بہت زمانے تک زندگی میں بھی اسے فرش کیا ہے۔ مسرف نے کہا واللہ میں تو ان لوگوں کو اہل جنت ہی سمجھتا ہوں۔ مگر اہل شام تم سے یہ بات نہ سن لیں کہ تم انہیں فرمانبرداری سے تردد میں ڈال دو، مروان نے کہا کہ ان لوگوں نے (یعنی اہل مدینہ نے دین کو) متغیر کر دیا اور بدل دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جنگ حرہ مدینے میں ذی الحجہ ۶۳ھ میں یزید بن معاویہ کی خلافت میں ہوئی۔ محمد بن عمرو بن حزم کے پس ماندگان مدینے اور بغداد میں تھے۔

عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الفا کہ بن ثعلبہ بن ساعدہ بن عامر بن غیان بن عامر بن حنظلہ ان کا نام عبداللہ بن حشم بن مالک بن الاوس بن حارث تھا وہ انصار میں سے تھے ان کی والدہ صفیہ بنت عامر بن طعمہ بن زید خطمی تھیں۔

عمارہ بن خزیمہ کے یہاں اسحاق پیدا ہوئے جو والد مر گئے ان کی والدہ عبیدہ بنت عبداللہ بن ثابت بن الفا کہ بن ثعلبہ بن ساعدہ تھیں۔

محمد اور صفیہ دونوں کی والدہ ودیجہ بنت عبداللہ بن مسعود بن عبداللہ بن عمرو خطمی تھیں۔

منیجہ بنت عمارہ اور سعادہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عمارہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اپنے والد سے کہتے تھے کہ تمہیں کیا ہوا کہ تم اپنی زمین فروخت نہیں کرتے، عمرو بن العاص سے اور اپنے والد سے بھی سنا ہے ان کے والد خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین (دو شہادت والے یعنی اکیلے بجائے دو گواہوں کے قرار دیئے گئے) تھے۔

عمارہ کی کنیت ابو محمد تھی ان کی وفات مدینے میں ولید بن عبدالملک کی ابتدائے خلافت میں ہوئی۔ اس وقت پچھتر سال کے تھے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

یحییٰ بن خلاد رضی اللہ عنہما

ابن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق خزرج میں سے تھے۔

یحییٰ بن خلاد کے یہاں مالک و علی و عائشہ و عثیمہ پیدا ہوئیں جن کی والدہ ام ثابتہ بنت قیس بن عمرو بن رباب بن بکر تھیں۔

ام کلثوم و حمیدہ ان کی والدہ ام یحییٰ بنت عامر بن عمرو بن خالد بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔

رملہ ان کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔

حضور ﷺ نے آپ کا نام رکھا:

علی بن یحییٰ بن خلاد سے مروی ہے کہ جب یحییٰ بن خلاد پیدا ہوئے تو انہیں نبی ﷺ کے پاس لایا گیا، آپ نے کھجور چبا کے ان کے حلق میں لگا کی اور فرمایا کہ میں ان کا ایسا نام رکھوں گا کہ یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے بعد نہیں رکھا گیا۔ آنحضرت ﷺ نے ان کا نام یحییٰ رکھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ یحییٰ بن خلاد نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔
عمر بن سلیم رضی اللہ عنہما:

ابن عمرو بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق، خزرج میں سے تھے، ان کی والدہ النوار بنت عبد اللہ بن الحارث بن جہاز حلیف بنی ساعدہ تھیں، جہاز غسان کے قبائل بن غنم میں سے تھے۔
عمر بن سلیم کے یہاں عثمان اور نعمان پیدا ہوئے، ان کی والدہ حبیبہ بنت النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن عجلان بن عمرو بن عامر بن زریق النصار میں سے تھیں۔

سعد و ایوب دونوں کی والدہ ام البنین بنت ابی عبادہ سعد بن عثمان ابن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔
عمر بن سلیم نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، وہ بالغ ہونے کے قریب تھے، نیز انہوں نے ابو قتادہ الانصاری اور ابو حمید الانصاری سے بھی روایت کی ہے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔
حظللہ بن قیس رضی اللہ عنہما:

ابن عمرو بن حصن بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق، ان کی والدہ ام سعد بنت قیس بن حصن بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔
حظللہ بن قیس کے یہاں محمد و ام جمیل پیدا ہوئیں، دونوں کی والدہ ام ہمیلی بنت عبد اللہ بن ہشام بن زہرہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ قریش میں سے تھیں۔

عمر بن حظللہ کی والدہ ام عثمان بنت عمرو بن عبد اللہ بن عمرو بن حصن بن خلدہ بن مخلد بن عامر بن زریق تھیں۔
عمر و اصفران کی والدہ ام ولد تھیں۔
عبد اللہ ان کی والدہ ام موسیٰ بنت الحارث بن عتبہ بن عبید بن المعلى ابن لوذان بن حارثہ غنصہ بن جسم بن الخزرج کی اولاد میں تھیں۔

عبید اللہ و سعد فرزند ان حظللہ ان دونوں کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔
زہری سے مروی ہے کہ میں نے انصار میں سے کسی کو حظللہ بن قیس الزرقی سے زیادہ ہوشیار اور عمدہ رائے والا نہیں دیکھا، گویا وہ قیس کے آدمی تھے۔
محمد بن عمر نے کہا کہ حظللہ بن قیس نے عمرو و عثمان و رافع بن خدیج رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے اور زہری نے ان سے روایت کی ہے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابو ہارون مسعود بن الحکم رضی اللہ عنہما:

ابن الربیع بن عامر بن خالد بن عامر بن زریق، ان کی والدہ حبیبہ بنت شریق بن ابی حثمہ ہذیل میں سے تھیں۔ مسعود بن الحکم کے یہاں ابراہیم عیسیٰ و ابو بکر و سلیمان و موسیٰ و اسماعیل و داؤد و یعقوب و عمران و ایوب اکبر و ام ابراہیم پیدا ہوئے، ان سب کی والدہ میمونہ بنت ابی عبادہ سعد بن عثمان بن خلدہ بن مغلد بن عامر بن زریق تھیں۔ ایوب اصغر و سارہ کی والدہ ام عمرو بنت الحشاشی بن حکیم بن بنیہ بن ربیعہ ابن ریاح بن عوف بن ربیعہ بن ہلال بن شمع بن فزارہ تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ مسعود بن الحکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوئے، کنیت ابو ہارون تھی، بڑے شریف با مروت اور ثقہ تھے۔ عمرو عثمان و علی بن ابی سلمہ سے روایت کی ہے اور ان سے محمد بن المنکدر اور ابو الزناد نے روایت کی ہے۔

مغلد رضی اللہ عنہما:

ابو الحارث بن مغلد الزرقی، کتاب نسب الانصار میں سے ہم ان کے نسب پر اتنا واقف نہ ہوئے جتنا ہم چاہتے تھے۔ مغلد نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔

عبداللہ بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہما:

نام زید بن اسہل بن الاسود بن حرام بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار تھا، ان کی والدہ ام سلیم بنت لجان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں جو انس بن مالک کی والدہ تھیں۔

عبداللہ بن ابی طلحہ کے یہاں قاسم ام ولد سے پیدا ہوئے۔

عمیر و زید و اسماعیل و یعقوب و اسحاق و عبیدہ و ام ابان، ان کی والدہ شہیدہ بنت رفاعہ بن رافع بن مالک بن العجلان الزرقی تھیں۔

محمد بن عبداللہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عبداللہ بن عبداللہ اور کلثوم ام ولد سے تھے۔

ابراہیم و رقیہ و ام عمرو ان کی والدہ عائشہ بنت جابر بن صخر بن امیہ ابن خنساء بنی سلمہ میں سے تھیں۔

عمر بن عبداللہ اور معمر و عمارہ ان کی والدہ ام کلثوم بنت عمرو بن حزم بن زید بنی مالک بن النجار میں سے تھیں۔

جنگ حنین میں عبداللہ ام سلیم کے حمل میں تھے، وہ حنین میں موجود تھیں۔ عبداللہ مدینے میں ابو طلحہ ہی کے مکان میں رہے۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ فرزند ابی طلحہ بیمار تھے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے، بچے کی وفات ہو گئی، واپس آئے تو

پوچھا کہ میرا بیٹا کیسا ہے، ام سلیم نے کہا کہ جیسا وہ تھا اس سے اب بہت سکون میں ہے، وہ ان کے پاس شب کا کھانا لائیں، انہوں نے

کھایا، پھر ان سے صحبت کی، جب فارغ ہوئے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بچے کو دفن کرو۔

سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں:

ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو خبر دی، فرمایا کہ کیا آج شب کو تم نے صحبت کی ہے۔

عرض کی جی ہاں فرمایا: اے اللہ ان دونوں کے لیے برکت کر۔ ام سلیم کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا پھر مجھ سے (یعنی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے) ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسے یاد رکھنا تاکہ ہم اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس لائیں۔

وہ اسے نبی ﷺ کے پاس لے گئے اور اس کے ساتھ چند کھجوریں بھی بھیجیں، نبی ﷺ نے بچے کو لے لیا اور پوچھا، کیا اس کے ساتھ کچھ ہے، لوگوں نے عرض کی جی ہاں کھجوریں ہیں، نبی ﷺ نے کھجوریں لیں انہیں چبایا اور اپنے منہ سے لے کر بچے کے منہ میں کر دیا اس کے تالو میں لگایا اور اس کا نام عبد اللہ رکھا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ام سلیم کا ایک لڑکا جو ابو طلحہ سے تھا سخت بیمار ہو گیا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ مسجد چلے گئے اس لڑکے کی وفات ہو گئی، ام سلیم رضی اللہ عنہا نے اس کی ضروریات مہیا کر لیں اور کہا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کو بیٹے کی موت کی خبر نہ کرنا، وہ مسجد سے واپس آئے تو بیوی نے شام کا کھانا جس طرح تیار کرتی تھیں کیا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بچہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جیسا تھا اس سے بہتر ہے۔

ام سلیم شام کا کھانا ان کے پاس لائیں، انہوں نے اور جو احباب ان کے ساتھ تھے سب نے کھایا، پھر وہ اٹھ کر اس کام کو گنیں جس کے لیے عورت جاتی ہے (یعنی زینت کے لیے) انہوں نے اپنی بیوی سے صحبت کی۔ جب آ خرشب ہوئی تو بیوی نے کہا کہ اے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کیا تم فلاں کو دیکھتے نہیں کہ ان لوگوں نے کوئی چیز عاریت لی اور اس سے فائدہ اٹھایا، جب وہ ان سے ماگلی گئی تو یہ ان پر گراں گزرا۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان لوگوں نے انصاف نہیں کیا، بیوی نے کہا کہ تمہارا فلاں بیٹا بھی اللہ کی طرف سے عاریت تھا، اس نے اسے اپنے پاس کر لیا، انہوں نے ”انا للہ الخ“ پڑھا اور الحمد للہ کہا۔

صبح ہوئی تو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا کہ اللہ تم دونوں کی شب میں برکت دے۔ عبد اللہ بن ابی طلحہ ان کے حمل میں آگے وہ رات کو پیدا ہوئے تو انہیں یہ گوارا نہ ہوا کہ بغیر رسول اللہ ﷺ کے اس کے تالو میں کچھ لگائے ہوئے خود اس کے تالو میں کچھ لگائیں۔ انہوں نے اسے رسول اللہ ﷺ کے پاس انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بھیجا۔ انس نے کہا کہ میں نے عجوہ کھجوریں لیں اور رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچا، آنحضرت ﷺ اپنے اونٹوں پر قطر ان لگا رہے تھے، عرض کی آج شب کو ام سلیم کے یہاں بچہ پیدا ہوا، انہوں نے اس کے تالو میں کچھ لگانا بغیر آپ کے لگائے ہوئے پسند نہ کیا، فرمایا، تمہارے ساتھ کچھ ہے، عرض کی، عجوہ کھجوریں ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے ایک کھجور لے کے چبائی اور اپنے لعاب میں ملا کے اس کے منہ میں ڈال دی، بچہ چائے لگا، فرمایا کہ انصار کی پسندیدہ چیز کھجور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس کا نام رکھ دیجئے۔ فرمایا اس کا نام عبد اللہ ہے۔

عبد اللہ ثقہ وقیل الحدیث تھے۔

محمد بن ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ:

ابن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار ان کی والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن المنذر بن سہیل بن عبد نمر قبیلہ دوس کی تھیں۔

محمد بن ابی کے یہاں قاسم اور ابی اور معاذ اور عمر و محمد اور زیاد پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ عائشہ بنت معاذ بن الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بنی مالک بن النجار میں سے تھیں۔

محمد بن ابی کی کنیت ابو معاذ تھی۔ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور ان سے بسر بن سعید نے روایت کی۔ ثقہ اور قلیل الحدیث تھے۔ محمد یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے جو ذی الحجہ ۶۳ھ میں یزید بن معاویہ کی خلافت میں پیش آیا۔

طفیل بن ابی حنیفہ:

ابن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار والدہ ام الطفیل بنت الطفیل بن عمرو بن الممذری بن سبیح بن عبد نهم قبیلہ دوس میں سے تھیں۔

طفیل بن ابی کے یہاں ابی و محمد اور عبد العزیز و عثمان اور ام عمرو پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ام القاسم بنت محمد بن ابی ذرہ بن معاذ بن زرارہ قبیلہ اوس کے بنی ظفر میں سے تھیں۔

طفیل بن ابی کا لقب ابو بطن تھا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے دوست تھے انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما اور اپنے والد اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ثقہ اور درست حدیث والے تھے۔ ان دونوں کے بھائی:

ربیع بن ابی حنیفہ:

ابن کعب بن قیس بن عبید بن زید بن معاویہ بن عمرو بن مالک بن النجار ان سے اور ان کے والد سے بھی مروی ہے کہ نبی ﷺ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تم نے نکاح کیا انہوں نے کہا جی ہاں۔ (بروایت عثمان بن عمر از موسیٰ ابن دہقان)۔ محمود بن لبید رضی اللہ عنہ:

ابن عقبہ بن رافع بن امری القیس بن زید بن عبد الاشہل ان کی والدہ ام منظور بنت محمود بن مسلمہ بن خالد بن عدی قبیلہ اوس کے بنی حارثہ میں سے تھیں۔

محمود بن لبید کے یہاں حفصہ و ام منظور پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عمارہ ام کلثوم ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

شیبہ کی والدہ بنت عمر بن ضمیرہ قیس عیلان کے بنی فزارہ میں سے تھیں۔

ام لبید اور ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

محمود بن لبید رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے انہیں کے والد کے بارے میں یہ رخصت آئی کہ جو روزہ پر قادر نہ ہو وہ مساکین کو کھانا کھلا دے محمود بن لبید نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا ہے ان کے پس ماندگان تھے جو مر گئے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔

محمود بن لبید کی وفات ۹۶ھ میں مدینے میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

سائب بن ابی لبابہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالمزدر بن رفاعہ بن زئیر بن زید بن امیہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالک بن الاوس۔

سائب بن ابی لبابہ کے یہاں حسین و ملیکہ پیدا ہوئے۔ دونوں کی والدہ ام الحسن بنت رفاعہ بن شہران بن خالد بن ثعلبہ بن

العبلان تھیں اور قضاہ حلیف بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔

معاویہ بن السائب اور بشیر اور ام الحسن کی والدہ ام ولد تھیں۔

زینب بنت السائب کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

سائب بن ابی لبابہ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ نبی ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ قلیل الحدیث

اور ثقہ تھے۔

ولید بن عبد الملک کی خلافت میں مدینے میں وفات ہوئی۔

عبد الرحمن بن عویم رضی اللہ عنہما:

ابن ساعدہ بن عائش بن قیس بن العثمان بن زید بن امیہ ان کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔

عبد الرحمن نبی ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے عبد الملک بن مروان کے آخر

زمانہ خلافت میں مدینے میں وفات ہوئی ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ ان کے بھائی:

سوید بن عویم:

ابن ساعدہ ان کی والدہ امامہ بنت بکر بن ثعلبہ بنی غنصہ بن جشم بن الخزرج میں سے تھیں ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں

مقتول ہوئے۔

ایوب بن بشیر رضی اللہ عنہما:

ابن سعد بن العثمان بن اکال بن نوذان بن الحارث بن امیہ بن معاویہ ابن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف انصار کی

شاخ اوس میں سے تھے۔ کنیت ابوسلیمان تھی نبی ﷺ کے عہد میں پیدا ہوئے انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ان سے

زہری نے۔ ثقہ تھے کثیر الحدیث نہ تھے جنگ حرہ میں شریک ہوئے اس میں ان کے بہت سے زخم آئے اس کے دو سال بعد وفات

ہوئی۔ اس وقت پچھتر سال کے تھے ان کی اولاد میں عبد اللہ بن ایوب تھے جو لا ولد مر گئے ان کا کوئی پس ماندہ نہ رہا۔

ثعلبہ بن ابی مالک القرظی رضی اللہ عنہما:

ابو مالک کا نام عبد اللہ بن سام تھا ثعلبہ کی کنیت ابویحییٰ تھی ابو مالک یمن سے آئے اور کہا کہ ہم لوگ کندہ سے ہیں جو دین

یہود پر ہیں انہوں نے ابن سعید کے یہاں شادی کی جو بنی قریظہ میں سے تھے اور انہیں لوگوں سے معاہدہ حلف کر لیا اسی لیے قرظی

کہلائے۔

ثعلبہ نے عمرو عثمان رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے ان کی کنیت ابو جعفر تھی جو داؤد ابن سنان کی روایت سے معلوم ہوئی۔
داؤد بن سنان سے مروی ہے کہ میں نے ثعلبہ کو دیکھا کہ اپنا سر اور داڑھی مہندی سے زرد رنگتے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ
ثعلبہ اپنی وفات تک بنی قریظہ کے امام رہے اور بوڑھے تھے اور قلیل الحدیث تھے۔
ولید بن عبادہ رضی اللہ عنہما:

ابن الصامت بن قیس احرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی صعصعہ
تھیں اور وہ عمرو بن زید بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تھے۔ ولید بن عبادہ کے یہاں خالد پیدا ہوئے ان کی
والدہ قبیلہ طے کی تھیں۔

محمد ان کی والدہ حبیبہ بنت النعمان بن مالک بن ثعلبہ بن اصرم بن فہر بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تھیں۔
عبادہ اور حارث اور مصعب اور عبد اللہ اور مسلمہ ان کی والدہ بزیعہ بنت ابی حارثہ بن اوس بن سکن بن عدی بن عبید بن فہر
بن ثعلبہ بن غنم بن عوف بن عمرو بن عوف بن الخزرج تھیں۔

صالح کی والدہ بنی سعد بن بکر بن ہوازن سے تھیں۔

ہشام کی والدہ ام ولد تھیں۔

یحییٰ کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

ام عیسیٰ اور حکیمہ ان کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

ولید بن عبادہ آخر عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا ہوئے ان کی وفات شام میں خلافت عبدالملک بن مروان کے زمانے میں ہوئی۔

ثقفہ و کثیر الحدیث تھے۔

سعید بن سعد رضی اللہ عنہما:

ابن عبادہ بن دلیم بن حارثہ بن ابی حزیمہ بن ثعلبہ بن طریف بن الخزرج ابن ساعدہ بن کعب بن الخزرج ان کی والدہ
غزویہ بنت سعد بن خلیفہ بن الاشراف ابن ابی حزیمہ ثعلبہ بن ظریف بن الخزرج ابن ساعدہ بن کعب بن الخزرج تھیں۔

سعید بن سعد کے یہاں شرمیل و خالد و اسماعیل و زکریا و محمد و عبدالرحمن و حفصہ و عائشہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ ہشیمہ
بنت ابی الدرداء عویمر بن زید ابن قیس بن عائشہ بن امیہ بن مالک بن عامر بن لوی بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج
تھیں۔

یوسف ان کی والدہ ام یوسف بنت ہمام قبیلہ ہوازن کے بنی نصر بن معاویہ میں سے تھیں۔ یحییٰ و عثمان و غزیہ و عبدالعزیز و
ام ابان و ام البنین مختلف ام ولد سے تھے۔

سعید بن سعد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف پایا ہے بعض روایتوں میں ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی
ہے۔ ثقفہ و قلیل الحدیث تھے۔

عباد بن تمیم رضی اللہ عنہ:

ابن غزیہ بن عمرو بن عطیہ بن خنساء بن مبذول بن عمرو بن عنم بن مازن بن الحارث بن الجارح کی والدہ ام ولد تھیں، دو حقیقی بھائی معمر و ثابت فرزند ان تمیم تھے جو یوم الحمرہ میں ذی الحجہ ۶۳ھ میں مقتول ہوئے۔

موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ عباد بن تمیم المازنی نے کہا کہ میں غزوہ خندق میں پانچ سال کا تھا مجھے کچھ باتیں یاد ہیں، ہم لوگ عورتوں کے ساتھ قلعوں میں تھے اہل قلعہ بجز باری باری کے سوائے نہ تھے اس خوف سے کہ بنی قریظہ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ زہری نے عباد بن تمیم سے روایت کی ہے۔

محمد بن ثابت رضی اللہ عنہ:

ابن قیس بن شماس بن مالک بن امرئ القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج ان کی والدہ جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی ابن سلول بنی الجملی میں سے تھیں ان کے اخیائی بھائی عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر راہب تھے حنظلہ وہی ہیں جو غسبل ملائکہ تھے۔

محمد بن ثابت کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے جو یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے، سلیمان بھی یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے اور یحییٰ بھی ان کی والدہ ام عبداللہ بنت حفص ابن صامت بن حارث بن عدی بن قیس بن زید بن مالک بن الحارث بن الخزرج میں سے تھیں۔

اسماعیل و عائشہ کی والدہ ام کثیرہ بنت النعمان بن العجلان بن النعمان بن عامر ابن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں۔ اسحاق و ابراہیم و یوسف و قریبہ ان کی والدہ امتہ اللہ بنت السائب ابن خلاد بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بن حارثہ بن امرئ القیس بن الحارث بن الخزرج میں سے تھیں۔

عیسیٰ و جمیدہ کی والدہ ام عون بنت عبدالرحمن بن معمر بن عبداللہ بن ابی ابن سلول بنی الجملی میں سے تھیں۔ سعد بن الحارث رضی اللہ عنہ:

ابن الصمہ بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول اور وہ عامر بن مالک بن الحارث تھے ان کی والدہ ام الحکم تھیں، وہ خولہ بنت عقبہ بن رافع بن امرئ القیس بن زید بن عبدالاشہل قبیلہ اوس میں سے تھیں۔

سعد بن الحارث کے یہاں صلت اور ام الفضل پیدا ہوئیں ان کی والدہ جمال بنت قیس بن مخزومہ بن المطلب بن عبدمناف بن قصی قریشی تھیں۔

عمروان کی والدہ ام سعید بنت سہل بن عتیک بن النعمان بن عمرو بن مبذول تھیں۔ سعد بن الحارث صفین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں مقتول ہوئے۔

ابو امامہ بن سہل رضی اللہ عنہ:

ابن حنیف بن واہب بن الحکیم بن ثعلبہ بن مجدعہ بن عمرو بن الخزرج بن عوف بن عمرو بن عوف تھے اور اوس میں سے تھے ان

کی والدہ حبیبہ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن ثعلبہ بن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔ حبیبہ مہایعات میں سے تھیں، ابو امامہ کا نام اسعد اپنے نانا کے نام پر تھا اور کنیت بھی انہیں کی کنیت پر تھی، ان کے نانا اسعد بن زرارہ بن النجار کے نقیب (کفیل و ذمہ دار) تھے۔

ابو امامہ بن سہل کے یہاں محمد و سہل و عثمان و ابراہیم و یوسف بیچی و ایوب و داؤد و حبیبہ و امامہ پیدا ہوئیں، ان سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت عتیک بن الحارث بن عتیک بن قیس بن پیشہ بن الحارث اوس کے بنی معاویہ میں سے تھیں۔ صالح بن ابی امامہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہی تھے جن کی کنیت و نام اپنے نانا کی کنیت و نام پر رسول اللہ ﷺ نے ابو امامہ و اسعد رکھا، ہمیں یہ نہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کچھ روایت کی، عثمان و معاویہ و زید بن ثابت اور اپنے والد سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن ابی عمرہ رضی اللہ عنہما

ابی عمرہ کا نام بشیر بن عمرو بن محسن بن عمرو بن عتیک بن عمرو بن مبذول تھا اور مبذول عامر بن مالک بن النجار تھے، ان کی والدہ ہند بنت القوم بن عبدالمطلب ابن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب قریش کی تھیں، ہند کی والدہ برہ بنت عدی بن رباب بن سہم بھی قریش کی تھیں۔

عبدالرحمن بن ابی عمرہ کے یہاں عبد اللہ بن حمزہ و علقمہ و جہانہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ ام سعد بنت شعبان بن الحارث بن علقمہ بن عمرو بن صفی بن مالک بن مبذول تھیں اور وہ عامر بن مالک بن النجار تھے۔

ابو عمرہ کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ جنگ صفین میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے اور مقتول ہوئے۔ عبدالرحمن بن ابی عمرہ نے عثمان و زید بن خالد الجعفی و ابی ہزیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہما

ابن جاریہ بن عامر بن مجح بن العطف بن ضبیعہ بن زید بن مالک بن عوف ابن عمرو بن عوف اوس میں سے تھے، ان کی والدہ جمیلہ بنت ثابت بن ابی اللاح بن عصمہ بن مالک بن امیہ بن ضبیعہ بن زید بن عمرو بن عوف میں سے تھیں، ان کے اخیا فی بھائی عصم بن عمرو بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔

عبدالرحمن بن یزید کے یہاں عیسیٰ پیدا ہوئے جو یوم الحرہ میں مقتول ہوئے اور اسحاق و جمیلہ اور ام عبد اللہ و ام ایوب و ام عصم پیدا ہوئیں، ان سب کی والدہ حسنہ بنت بکیر بن جاریہ بن عامر بن مجح تھیں۔

جمیل ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عبدالکریم و عبدالرحمن ان دونوں کی والدہ امامہ بنت عبد اللہ بن سعد بن خثمہ بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔

عبدالرحمن بن یزید بنی علی رضی اللہ عنہم کے عہد میں پیدا ہوئے اور قدیم تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی، عمر بن عبدالعزیز

رضی اللہ عنہ کی جانب سے قاضی مدینہ تھے ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں مدینے میں وفات ہوئی، عبد الرحمن بن یزید کی کنیت ابو محمد تھی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

مجمع بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن جاریہ بن عامر بن مجمع بن العطف بن ضبیعہ بن زید ان کی والدہ حبیبہ بنت الجندب بن کنانہ بن قیس بن زہیر بن جذیمہ بن رباح بنی عیس میں سے تھیں۔

مجمع بن یزید کے یہاں اسماعیل و اسحاق و یعقوب و سعدی و ام اسحاق و ام العثمان پیدا ہوئے ان کی والدہ سالمہ بنت عبد اللہ بن ابی حبیبہ بن الازمر بن زید بن العطف بن ضبیعہ بن زید بن عمرو بن عوف میں سے تھیں۔

ابوسعید المقبری رضی اللہ عنہ:

نام کیسان تھا، بنی لیث بن بکر بن عبد مناة بن کنانہ کے بنی جندع کے مولیٰ تھے ان کا مکان مقابر کے پاس تھا اس لیے لوگوں نے مقبری کہا۔

سعید بن ابی سعید المقبری نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں بنی جندع کے ایک شخص کا غلام تھا، اس نے مجھے چالیس ہزار درہم اور ہر عید الاضحیٰ کو ایک بکری پر مکاتب بنا دیا، مال (وقت سے پہلے) مہیا ہو گیا۔ میں اس کے پاس لایا تو اس نے وقت معینہ کے سوا لینے سے انکار کیا۔

میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اے یرفا مال لے کے بیت المال میں رکھ دو، شام کو ہمارے پاس آؤ تو ہم تمہاری آزادی لکھ دیں گے اگر تمہارا مولیٰ چاہے گا تو اسے لے لے گا اور اگر چاہے گا تو چھوڑ دے گا۔ میں مال اٹھا کر بیت المال میں لے آیا، جب میرے مولیٰ کو معلوم ہوا تو اس نے آ کر مال لے لیا، میں اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لایا تو انہوں نے کہا کہ جب سے آزاد ہوئے تم نے کچھ مال لیا، عرض کی نہیں فرمایا اسے واپس لے جاؤ، پہلے ہم سے کچھ لینا پھر بعد کو ہمارے پاس لانا۔

ابی سعید المقبری سے مروی ہے کہ میں مکاتب تھا، اپنے مولیٰ سے کہا کہ میرا بدل کتابت لے لیں، مگر انہوں نے انکار کیا، میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے کہا اے یرفا اس سے مال لے کے بیت المال میں ایک کنارے رکھ دو اور مجھ سے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ میں دوسرے سال ان کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لایا، انہوں نے پوچھا کہ تو نے ہم سے کچھ لیا ہے جو ہم نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، عرض کی نہیں، انہوں نے وہ مال مجھے واپس کر دیا۔

ابی سعید المقبری سے مروی ہے کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس دو سو درہم لایا اور کہا کہ لیجئے یہ میرے مال کی زکوٰۃ ہے۔ فرمایا اے کیسان کیا تم آزاد ہو گئے، میں نے کہا جی ہاں، فرمایا جاؤ اسے خیرات کر دو۔

ولید بن کثیر سے مروی ہے کہ میں نے سعید المقبری کو اپنے والد سے روایت کرتے سنا کہ میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مال کی زکوٰۃ لایا، انہوں نے فرمایا کہ تم نے ہمارے دیوان سے کچھ لیا ہے، میں نے کہا نہیں، فرمایا تو اسے لے جاؤ۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابو سعید نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے وہ ثقہ و کثیر الحدیث تھے ان کی وفات ۷۰ھ میں عمر بن العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی اور ان کے وفات مدینے میں ولید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔
ابو سعید رضی اللہ عنہ:

زہری نے ایک مرتبہ انہیں عبد الرحمن بن ازہر کا مولیٰ کہا دوبارہ دوسرے مقام پر عبد الرحمن بن عوف کا مولیٰ کہا اسی طرح اوروں نے بھی کہا ہے۔

زہری نے کہا کہ وہ قدماء و اہل فقہ میں سے تھے انہوں نے کہا کہ میں عبد بن عمر کے ساتھ حاضر ہوا۔ انہوں نے عثمان و علی و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے نام سعد تھا مدینے میں ۹۸ھ میں وفات ہوئی ثقہ تھے اور ان کی حدیثیں ہیں۔

ابو کثیر فلح رضی اللہ عنہ:

مولائے ابویوب النصارى رضی اللہ عنہ ان کی کنیت ابو کثیر تھی۔

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہ ابو یوب رضی اللہ عنہ نے فلح کو چالیس ہزار درہم پر مکاتب بنایا لوگ فلح کو مبارک باد دینے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو کثیر تمہیں آزادی مبارک ہو جب ابو یوب اپنے متعلقین کے پاس لوٹے تو وہ ان کے مکاتب بنانے پر پشیمان ہوئے ان کو بلا بھیجا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم کتاب (مکاتب نامہ) مجھے واپس کر دو اور اسی حالت پر لوٹ جاؤ جس حالت پر تم تھے۔

ان سے ان کی بیوی بچوں نے کہا کہ کیا تم اس غلام کو واپس لیتے ہو جسے اللہ نے آزاد کر دیا ہے فلح نے کہا کہ واللہ وہ مجھ سے جو مانگیں گے میں انہیں ضرور دوں گا وہ اپنی مکتبہ ان کے پاس لائے اور اسے توڑ دیا جب تک اللہ نے چاہا وہ ٹھہرے پھر ابو یوب رضی اللہ عنہ نے انہیں بلا بھیجا اور کہا کہ تم آزاد ہو اور جو تمہارا مال ہے وہ بھی تمہارا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ فلح عین التمر کے ان قیدیوں میں تھے جنہیں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا تھا میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ فلح کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے سنا اور مدینے میں ان کا مکان تھا ذی الحجہ ۶۳ھ میں بجد خلافت یزید بن معاویہ یوم الحرة میں مقتول ہوئے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبید رضی اللہ عنہ:

مولائے عبید بن المعلى برادر ابی سعید بن معلى الزرقی عبید کی کنیت ابو عبد اللہ تھی عین التمر کے ان قیدیوں میں تھے جنہیں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں گرفتار کر کے مدینے بھیج دیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ عبید بن مرہ بنی نفیس بن محمد بن زید بن عبید تاجر کے دادا تھے وہ اس نفیس محل کے مالک تھے جو حرہ اتم کے نواح میں تھا۔ عبید مولائے عبید بن المعلى کی وفات بزمانہ حرہ ذی الحجہ ۶۳ھ میں ہوئی ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

شماس رضی اللہ عنہ:

مولائے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم سورہ یوسف عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زبان سے سن کر حفظ کی تھی اور اسے نماز میں

پڑھا کرتے تھے ان سے ان کے بیٹے عثمان بن شماس نے روایت کی ہے۔

سائب بن خباب رضی اللہ عنہ:

مولائے فاطمہ بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ میں نے کسی کو یہ بیان کرتے بھی سنا کہ ان کی کنیت ابو مسلم تھی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ انہوں نے عمرو زید بن ثابت سے روایت کی ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات ۷۹ھ میں مدینے میں ہوئی جبکہ وہ بہتر سال کے تھے۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ سائب بن خباب کی وفات ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پہلے ہوئی۔

عبید بن ام کلاب رضی اللہ عنہ:

انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے وہ عبید بن سلمۃ اللیشی تھے جو مدینے سے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کی خبر لے کے نکلے، صرف میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا استقبال کیا اور انہیں ان کے قتل کی اور لوگوں کے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے کو خبر دی، وہ مکہ واپس گئے، عبید علوی تھے۔

ابن مرسان رضی اللہ عنہ:

مولائے قریش تھے جنہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی، قلیل الحدیث تھے۔

ابوسعید رضی اللہ عنہ:

مولائے ابواسید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

ہرمزان رضی اللہ عنہ:

اہل فارس میں سے تھے۔ جب حکو لاء کو مسلمانوں نے فتح کر لیا تو یزدجرد (شاہ ایران) حلوان سے نکل کر اصہبان چلا گیا، پھر اصطر میں آیا۔ اس نے اپنے وزیر ہرمزان کو تہمت بھیجا، انہوں نے اس کی حفاظت کی اور قلعہ میں محفوظ ہو گئے۔ ان کے ہمراہ سونے کے کنگن اور اہل تہمت کا مال کثیر تھا، وہ قلعہ شہر کے منہ پر جبل کے متصل تھا۔ جس کے اطراف پانی کی ایک خندق تھی اور کسی قدر رسد ان کے پاس اصہبان سے آتی تھی۔

بارگاہ فاروقی میں پیشی:

وہ لوگ اسی حالت میں جب تک اللہ نے چاہا ٹھہرے، ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے دو سال تک اور کہا جاتا ہے کہ اٹھارہ مہینے تک ان کا محاصرہ کیا، پھر اہل قلعہ عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر اترے، ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔ ان کے ہمراہ بارہ عجمی قیدی بھی تھے، جن کے بدن پر ریشمی لباس اور سونے کے پتلے اور سونے کے کنگن تھے، ان لوگوں کو ان کی اسی ہیئت میں مدینے لائے، لوگ تعجب کرنے لگے۔ پھر ان لوگوں کو عمر کے مکان پر لائے تو انہیں ان لوگوں نے نہ پایا، ہرمزان نے فارسی میں کہا کہ تمہارے بادشاہ کھو گئے، ان لوگوں سے کہا کہ وہ مسجد میں ہیں۔

یہ لوگ مسجد میں داخل ہوئے تو انہیں اس طرح سوتا پایا کہ اپنی چادر کو تکیہ بنائے ہوئے تھے ہرمزان نے کہا کہ تمہارے بادشاہ یہی ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ یہ خلیفہ ہیں۔ پوچھا کیا ان کے لیے دربان و نگہبان نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کی موت تک اللہ ان کا نگہبان ہے ہرمزان نے کہا کہ یہ سلطنت مبارک ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے ہرمزان کو دیکھا تو کہا کہ میں دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پھر فرمایا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو اور اس کے گروہ کو اسلام کے ذریعے سے ذلیل کر دیا۔

عمر رضی اللہ عنہ نے وفد سے فرمایا کہ اس طرح کلام کرو کہ مجھے حسن کلام و کثرت کلام سے بچاؤ۔ انس بن مالک نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اپنے دین کو عزت دی اور جس نے اسے ناراض کیا اسے بے یار و مددگار کر دیا اور ہمیں ان کی زمین و ملک کا وارث بنا دیا ان کے مال و اولاد ہمیں غنیمت میں دے دیے ہمیں اس طرح ان پر غالب کر دیا کہ ہم جسے چاہیں قتل کریں اور جسے چاہیں زندہ رکھیں۔

عمر رضی اللہ عنہ فرحت سے رونے لگے پھر ہرمزان سے فرمایا کہ تمہارا مال کیا ہوا انہوں نے کہا کہ جو میرے باپ دادا کی میراث ہے وہ تو میرے پاس ہے لیکن جو ملک اور بیت المال کا میرے قبضے میں تھا تو اسے آپ کے عامل نے لے لیا۔ فرمایا کہ اے ہرمزان اللہ نے جو برتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا اسے تم نے کیا سمجھا ہرمزان نے انہیں جواب نہ دیا تو فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ عرض کی کیا میں آپ سے زندہ کا کلام کروں یا مردے کا؟ فرمایا کیا تم زندہ نہیں ہو۔

ہرمزان نے پینے کا پانی مانگا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم پیاس اور قتل کو تم پر جمع نہ کریں گے۔ پھر اس کے لیے انہوں نے پانی منگایا لوگ کٹڑی کے پیالے میں ان کے پاس پانی لائے ہرمزان نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پیو تم پر کوئی خوف نہیں ہے تا وقتیکہ تم اسے پی نہ لو میں تمہیں قتل کرنے والا نہیں ہوں۔

انہوں نے برتن کو اپنے ہاتھ سے پھینک دیا اور کہا کہ اے گروہ عرب جس حالت میں تم غیر دین پر تھے تمہاری یہ حالت تھی کہ ہم تم لوگوں کے ساتھ غلاموں کا سا برتاؤ کرتے تمہارا فیصلہ کرتے اور تمہیں قتل کرتے تھے ہمارے نزدیک تمام اقوام میں تم لوگوں کا حال سب سے بدتر تھا اور ان سب سے کم درجہ تھا پھر جب اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو اللہ کے مقابلے کی طاقت کسی کو نہ تھی۔

عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے مجھے امان نہیں دی ہے۔ فرمایا کیونکر؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ بات کرو تم پر کوئی خوف نہیں آپ نے فرمایا کہ پانی پیو تم پر کوئی خوف نہیں تا وقتیکہ تم اسے پی نہ لو میں تمہیں قتل نہ کروں گا۔ انس بن مالک و ابوسعید الخدری و زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہرمزان نے سچ کہا۔ فرمایا خدا اسے غارت کرے اس نے اس طرح مجھ سے امان لے لی کہ مجھے خبر بھی نہ ہوئی۔

عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تو ہرمزان کے بدن پر جو زیور اور ریشمی کپڑے تھے وہ اتار لیے گئے انہوں نے سراقہ بن مالک بن عیشم رضی اللہ عنہ سے جو بدلے کا لے اور اس طرح سے تکی بانہوں والے تھے کہ گویا وہ دونوں جلی ہوئی ہیں۔ فرمایا کہ ہرمزان کے نکلن پہنوا انہوں نے دونوں نکلن اور ان کے کپڑے پہنے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے کسریٰ اور اس کی قوم سے ان کے زیور اور ان لوگوں کے کپڑے چھین کر سراقہ بن مالک بن عیشم کو پہنادیے۔

قبول اسلام کا عجیب واقعہ

عمر بن الخطابؓ نے ہرمزان اور ان کے ساتھیوں کو اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے انکار کیا، علی بن ابی طالبؓ نے کہا اے امیر المؤمنین! ان لوگوں کے اور ان کے بھائیوں کے درمیان جدائی کر دیجئے۔ عمر بن الخطابؓ نے ہرمزان اور جفینہ وغیرہما کو دریا میں سوار کر دیا اور فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو تھکا دے انہوں نے ارادہ کیا تھا کہ ان لوگوں کو شام کی طرف روانہ کر دیں، انہیں (اللہ کی جانب سے پانی میں گرا کر) تھکا دیا، وہ لوگ غرق نہیں ہوئے اور واپس آ کے اسلام لائے۔ عمر بن الخطابؓ نے ان لوگوں کے لیے (اور مسلمانوں کی طرح) دو دو ہزار سالانہ عطا مقرر کر دی، ہرمزان کا نام عرفطہ رکھا گیا۔

مسور بن مخرمہ نے کہا کہ میں نے روجاء میں ہرمزان کو عمر بن الخطابؓ کے ساتھ حج کے احرام میں اس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر جرے کی چادریں تھیں۔

ابراہیم بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ میں نے روجاء میں ہرمزان کو عمر بن الخطابؓ کے ساتھ حج کے احرام میں اس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر جرے کی چادریں تھیں۔

انس بن مالک بن ابی اسد سے مروی ہے کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا جس کا پیٹ ہرمزان سے زیادہ دبلا اور دونوں شانوں کے درمیان ہرمزان کے شانوں کے درمیانی فاصلے سے زیادہ فاصلہ ہو۔

وہ تابعین کہ عثمان بن عفان و عبد الرحمن بن عوف و طلحہ و زبیر و سعد و ابی بن کعب و سہل بن حنیف و حذیفہ ابن الیمان و زید بن ثابت رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما:

محمد اکبر بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھے۔ ان کی والدہ حنیفہ خولہ بنت جعفر بن قیس بن سلمہ بن ثعلبہ بن یزوع بن ثعلبہ بن الدول بن حنیفہ ابن نجیم بن صعصعہ بن علی بن بکر بن وائل تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ یمامہ کے قیدیوں میں تھیں جو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئیں۔

حسن بن صالح سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن الحسن کو بیان کرتے سنا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محمد ابن الحنفیہ کی والدہ کو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔

محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کی والدہ:

اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کی والدہ کو دیکھا کہ وہ سندھی اور کالی تھیں، وہ بنی حنیفہ کی لونڈی تھیں اور ان لوگوں میں سے نہ تھیں، خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے صرف ان کے غلاموں پر صلح کی تھی اور خود ان لوگوں پر ان سے صلح نہیں کی تھی (یعنی جنگ یمامہ میں اس طرح صلح کی کہ ان لوگوں کے غلام مسلمانوں کو مل جائیں گے اور خود وہ لوگ غلام نہیں بنائے جائیں گے)۔

رسول اللہ ﷺ سے نام و کنیت کی اجازت:

منذر الثوری سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ سے سنا کہ (رسول اللہ ﷺ کی جانب سے آپ کا نام و کنیت ایک

شخص کار کھنے میں) علی بن ابی طالب کے لیے رخصت (اجازت) تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ کے بعد میرے یہاں کوئی لڑکا پیدا ہو تو میں آپ کے نام پر اس کا نام رکھوں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت رکھوں؟ فرمایا ہاں۔

ربیع بن المذراثری نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی وطلحہ بنی نضیر کے درمیان بحث ہوئی تو طلحہ بنی نضیر نے ان سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ پر کوئی تمہاری سی جرات نہ کرے کہ تم نے آپ کا نام بھی رکھ لیا اور آپ کی کنیت بھی رکھ لی، حالانکہ رسول اللہ ﷺ نے اس سے منع کیا ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت میں کوئی ان دونوں کو جمع نہ کرے۔ علی بن ابی طالب نے کہا کہ بے شک گستاخ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر جرات کرے، اے فلاں، جاؤ اور میرے لیے قریش کے فلاں اور فلاں کو بلاؤ۔ وہ لوگ آئے تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ تم لوگ کس امر کے گواہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اس کی شہادت دیتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میرے بعد تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا میں نے اپنا نام اور اپنی کنیت اسے بخش دی، اس کے بعد میری امت میں سے کسی کے لیے حلال نہیں (کہ وہ میرا نام اور کنیت رکھے)۔

کنیت کے بارے میں اقوال:

ابوبکر بن حفص بن عمر بن سعد سے مروی ہے کہ محمد بن علی کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ محمد ابن الحنفیہ کی کنیت ابوالقاسم تھی۔

عبدالاعلیٰ سے مروی ہے کہ محمد بن علی کی کنیت ابوالقاسم تھی۔ وہ بڑے عالم متقی تھے۔

اولاد اور خاندان:

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کے یہاں عبد اللہ پیدا ہوئے جو ابو ہاشم تھے اور حمزہ علی و جعفر اکبر ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔

حسن بن محمد جو بنی ہاشم کے اہل عقل اور خوش مزاج اور ذہین لوگوں میں سے تھے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ارجاء^۱ میں

کلام کیا، ان کا کوئی پس ماندہ نہ تھا، ان کی والدہ جمال بنت قیس بن مخرمہ بن المطلب بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

ابراہیم بن محمد، ان کی والدہ مسرہ بنت عباد بن شیبان بن جابر بن اہیب بن نسیب بن زید بن مالک بن عوف بن الحارث

بن مازن بن منصور بن مکرمہ بن نصفہ بن قیس بن غیلان بن مضر تھیں جو بنی ہاشم کے حلیف تھے۔

قاسم بن محمد و عبد الرحمن جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور ام ایہا، ان سب کی والدہ ام عبد الرحمن تھیں جن کا نام برہ بنت

عبد الرحمن بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم تھا۔

جعفر اصغر و عمون و عبد اللہ اصغر ان سب کی والدہ ام جعفر بنت محمد بن جعفر بن ابی طالب بن عبد المطلب تھیں۔ عبد اللہ بن محمد

رقیہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

۱۔ اس عقیدے کے قائلوں کو مزجیہ کہتے ہیں، یعنی ایمان پورا ہو تو تاخیر عمل اس کو ضرر نہیں پہنچا سکتی۔

جنگ جمل میں علمبرادری:

منذر الثوری سے مروی ہے میں نے محمد ابن الحنفیہ کو جنگ جمل کا ذکر کرتے سنا کہ جب ہم لوگوں نے صف باندھ لی تو علی رضی اللہ عنہ نے جھنڈا مجھے دے دیا، بعض لوگ مقابلے کے لیے بعض کے قریب ہو گئے تو انہوں نے میری جانب سے پہلو تہی دیکھی تو مجھ سے جھنڈا لے لیا اور خود اسے لے کے قتال کیا، اس روز میں نے اہل بصرہ میں سے ایک شخص پر حملہ کیا اور جب اسے دبوچ لیا تو اس نے کہا کہ میں ابی طالب کے دین پر ہوں، وہ چوچا بتاتا تھا جب مجھے معلوم ہو گیا تو میں اس سے باز آ گیا، لوگوں کو شکست ہو گئی تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجروح کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی بھاگنے والے کا تعاقب کرنا۔ انہوں نے ان لوگوں کے ہتھیار اور گھوڑے وغیرہ جن سے قتال کیا گیا تھا، ان لوگوں میں بطور غنیمت تقسیم کر دیئے۔ ہم نے ان لوگوں سے وہ ہتھیار اور گھوڑے شجر وغیرہ لے لیے جو وہ ہمارے مقابلے پر لائے تھے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قسم و کفارہ:

محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد معاویہ اور اہل شام سے جہاد کرنا چاہتے تھے وہ اپنا جھنڈا باندھنے لگے اور قسم کھائی کہ اسے نہ کھولیں گے تا وقتیکہ روانہ نہ ہو جائیں، لوگ انکار کرنے لگے ان کی رائے میں اختلاف پڑ گیا اور بزدلی ظاہر ہونے لگی والد اپنا جھنڈا کھول کے قسم کا کفارہ دینے لگے یہاں تک کہ انہوں نے یہ چار مرتبہ کہا۔ میں ان کا حال دیکھتا تھا، وہ حال دیکھتا تھا جس سے میں خوش نہ تھا، اس روز میں نے مسور بن مخرمہ سے گفتگو کی ان سے کہا کہ تم ان سے کہتے نہیں کہ کہاں جاتے ہیں، ٹھہریں، واللہ مجھے تو ان لوگوں کے پاس کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، مسور نے کہا اے ابو القاسم وہ اس کام کے لیے جاتے ہیں جو مقدر ہو چکا ہے میں نے ان سے گفتگو کی انہیں دیکھا کہ سوائے جانے کے اور ہر چیز سے انکار کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ناراضگی:

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی وہ حالت دیکھی جو دیکھی تو کہا کہ اے اللہ میں نے انہیں بیزار کر دیا ہے اور انہوں نے مجھے بیزار کر دیا ہے، میں نے ان لوگوں کو ناراض کیا ہے اور انہوں نے مجھے ناراض کیا ہے، لہذا مجھے تو ان کے بدلے وہ لوگ دے جو ان سے بہتر ہوں اور انہیں میرے بدلے وہ دے جو مجھ سے بدتر ہو۔ محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ جنگ صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے پیادہ لشکر پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، امیر تھے، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ ان کا جھنڈا اٹھائے تھے۔

جنگ صفین میں شرکت:

عبداللہ بن زرار الغافقی سے جو صفین میں علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھے مروی ہے کہ ایک روز میں نے لوگوں کی وہ حالت دیکھی کہ ہم نے اور اہل شام نے مقابلہ کیا، ہم لوگوں نے ایسا قتال کیا کہ مجھے گمان ہوا اب کوئی نہ بچے گا، اتنے میں ایک پکارنے والے کی آواز سنی کہ اے گروہ مسلمین اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، عورتوں اور بچوں کے لیے کون رہے گا، روم کے لیے کون رہے گا، ترک کے لیے کون رہے گا، ولیم کے لیے کون رہے گا، جو بچ گئے ہیں انہیں میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔

میں نے اپنے پیچھے حرکت محسوس کی، متوجہ ہوا تو دیکھا کہ خود علی بن ابی طالب تھے جو جھنڈے کو حرکت دے رہے تھے اور اسے لے کے دوڑ رہے تھے یہاں تک کہ انہوں نے اسے ٹھہرا دیا، ان سے ان کے بیٹے محمد ملے، میں انہیں ان سے کہتے ہوئے سن رہا تھا کہ اے میرے بیٹے تم اپنے جھنڈے کے ساتھ رہو، کیونکہ میں آگے بڑھ کر قوم میں جاتا ہوں (راوی نے کہا کہ) میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ تلوار مارتے تھے تو ہجوم پھٹ جاتا تھا پھر وہ ان لوگوں میں پلٹتے تھے۔

اہل بیت کے عالی حیداروں کو تنبیہ:

منذر الثوری سے مروی ہے کہ میں محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، انہیں کہتے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کی نجات پر نہ اس کے اہل جنت میں سے ہونے پر شہادت دیتا اور نہ اپنے ان والد پر جن سے میں پیدا ہوا، قوم نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں میں علی بن ابی طالب کے مثل کون ہے جن کے لیے فلاں فضیلت ہے اور فلاں فضیلت ہے۔

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جب الشعب میں تھے کہا کہ اگر میرے والد علی بن ابی طالب اس امر کو پاتے تو یہ ضرور ان کے کوچ کرنے کا مقام ہوتا۔

ابن الحنفیہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے عرب کے دو اہل بیت کو اللہ کا شریک بنا لیا ہے ہمیں اور ہمارے ان چچا زاد بھائیوں کو یعنی بنی امیہ کو۔ محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قریش کے دو اہل بیت اللہ کے شریک بنائے گئے ہیں ہم اور بنو امیہ۔
مہدی کہہ کر پکارنے والے کو جواب:

ابی حمزہ سے مروی ہے کہ لوگ محمد بن علی کو "سلام علیک یا مہدی" (کہہ کر) سلام کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں مہدی (ہدایت یافتہ) ہوں، نیکی و خیر کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، میری کنیت اللہ کے نبی کی کنیت ہے، تم میں سے جب کوئی سلام کرے تو کہے "سلام علیک یا محمد"۔ "السلام علیک یا ابا القاسم"۔

نسہال بن عمرو سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن الحنفیہ کے پاس آیا، اس نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اس نے پوچھا کہ آپ کیسے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی اور کہا کہ تم لوگ کیسے ہو، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہم لوگ کیسے ہیں، اس امت میں ہماری مثال ایسی ہے جیسی بنی اسرائیل کی مثال آل فرعون میں تھی جو ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، یہ لوگ بھی ہمارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں اور بغیر ہماری اجازت کے ہماری عورتوں سے نکاح کرتے ہیں۔

وجہ فضیلت:

عرب نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے لیے عجم پر فضیلت ہے تو عجم نے کہا کہ یہ کیونکر ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تم نے سچ کہا، لوگوں نے کہا کہ قریش نے یہ دعویٰ کیا کہ ان کے لیے عرب پر فضیلت ہے تو عرب نے کہا کہ یہ کاہے سے ان لوگوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، اگر قوم نے سچ کہا تو ہمارے لیے بھی لوگوں پر فضیلت ہے (کیونکہ ہم بھی قریشی ہیں)۔

ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کا خطبہ:

اسود بن قیس سے مروی ہے کہ میں خراسان میں عزمہ کے ایک شخص سے ملا، انہوں نے کہا کہ میں ابن الحنفیہ کا خطبہ تمہارے

سامنے پیش نہ کروں میں نے کہا ہاں انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس پہنچا تو وہ ایک جماعت کے اندر لوگوں سے باتیں کر رہے تھے میں نے کہا کہ السلام علیک یا مہدی انہوں نے کہا وعلیک السلام میں نے کہا مجھے آپ سے کچھ حاجت ہے پوچھا خفیہ یا علانیہ میں نے کہا خفیہ انہوں نے کہا بیٹھو میں بیٹھ گیا۔

انہوں نے ایک گھنٹہ قوم سے باتیں کیں پھر کھڑے ہوئے تو میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا۔ جب وہ اپنے گھر میں گئے تو ان کے ساتھ میں بھی اندر گیا انہوں نے کہا کہ اپنی حاجت بیان کرو۔ میں نے اللہ کی حمد و ثنائیاں کی اور کلمہ شہادت اشہد ان لا اله الا اللہ و اشہد ان محمداً عبداً ورسولہ پڑھا پھر میں نے کہا:

اما بعد! واللہ آپ لوگ قریش میں سب سے زیادہ ہمارے قریب نہ تھے کہ ہم آپ کی قرابت پر آپ سے محبت کرتے البتہ آپ لوگ قریش بھر میں سب سے زیادہ ہمارے نبی ﷺ سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں ہمارے نبی ﷺ سے آپ لوگوں کی اسی قرابت کی وجہ سے ہم نے آپ لوگوں سے محبت کی برابر آپ لوگوں کی محبت میں ہم پر عیب لگایا گیا یہاں تک کہ اس پر گردنیں ماری گئیں اور شہادتیں باطل کی گئیں ہم لوگوں کو شہروں سے دفع کر دیا گیا اور ہمیں اذیت دی گئی یہاں تک کہ میں نے تو یہ ارادہ کر لیا کہ کسی ویران زمین میں چلا جاؤں اور اللہ کی اس وقت تک عبادت کروں کہ اس سے جا ملوں کاش آل محمد ﷺ کا حال مجھ سے مخفی رہتا۔

بالآخر میں نے یہ قصد کیا کہ ان اقوام کے ساتھ جن کی اور ہماری شہادت (یعنی کلمہ شہادت) ایک ہے اپنے ان امراء پر خروج (بغاوت) کروں جو خروج کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں اور ہم لوگ مقیم رہیں اس شخص کی مراد خوارج سے تھی ہمیں پیچھے ہی پیچھے آپ کی جانب سے احادیث پہنچی تھیں میں نے چاہا کہ آپ سے بالمشافہ کلام کروں اور آپ کے متعلق کسی سے نہ پوچھوں۔ میرے دل میں سب لوگوں سے زیادہ آپ کا اعتبار ہے اور آپ مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں کہ میں آپ کی پیروی کروں۔ آپ کی رائے کے مطابق رائے قائم کروں اور جس طرح آپ خلاصی دیکھیں (اسی پر عمل کروں) میں یہی کہتا ہوں اور اپنے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔

محمد بن علی نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور کلمہ شہادت لا اله الا اللہ و محمد عبداً ورسولہ پڑھا پھر کہا کہ اما بعد ان باتوں سے بچو کیونکہ یہ تم پر عیب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اختیار کرو کیونکہ اسی سے تمہارے اول کی ہدایت تھی اور اسی سے تمہارے آخر کو ہدایت کی جائے گی میری جان کی قسم اگر تمہیں ایذا دی گئی (تو کیا تعجب) جو تم سے بہتر تھے انہیں بھی ایذا دی گئی ہے۔

تمہارا یہ کہنا کہ میں نے قصد کر لیا ہے کہ کسی ویران زمین میں چلا جاؤں گا اور اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا تا وقتیکہ اس سے ملوں لوگوں کے معاملات سے الگ رہوں گا کاش آل محمد کے حالات مجھ پر مخفی رہتے۔ تو ایسا نہ کرنا کیونکہ یہ راہوں کی بدعت ہے قسم بے میری جان کی آل محمد کا حال اس آفتاب کے طلوع سے زیادہ واضح ہے۔

تمہارا یہ کہنا کہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ ان اقوام کے ساتھ جن کی اور ہماری شہادت واحد ہے اپنے ان امراء پر خروج کروں جو بغاوت کرتے ہیں اور قتال کرتے ہیں اور ہم لوگ قیام کریں تو ایسا نہ کرنا امت سے جدا نہ ہو اس قوم یعنی بنی امیہ سے ان

کے ان کے تقیہ کے ذریعے سے بچو۔ ان کی ہمراہی میں قتال نہ کرو۔

میں نے کہا کہ ان کا تقیہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کی دعوت پر اپنے آپ کو ان کے پاس حاضر کر دو تو اس کے ذریعے سے اللہ تمہارے خون اور تمہارے دین کو بچا دے گا۔ اور تمہیں اللہ کا وہ مال مل جائے گا جس کے تم ان لوگوں سے زیادہ مستحق ہو۔ میں نے کہا آپ نے اس پر بھی غور کیا کہ مجھے قتال اس طرح گھمائے کہ اس سے چارہ نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے ایک ہاتھ کی دوسرے ہاتھ سے اللہ کے لیے بیعت کرو اور اللہ کے لیے قتال کرو اللہ کچھ اقوام کو ان کی نیتوں کی وجہ سے جنت میں داخل کرے گا اور کچھ اقوام کو ان کی نیتوں کی وجہ سے دوزخ میں داخل کرے گا۔

میں تمہیں اس امر سے اللہ کو یاد دلاتا ہوں کہ تم میری طرف سے وہ بات پہنچاؤ جو تم نے مجھ سے نہیں سنی یا مجھ پر وہ بات لگاؤ جو میں نے نہیں کہی میں اپنی یہی بات کہتا ہوں اور اللہ سے اپنے اور تمہارے لیے مغفرت چاہتا ہوں۔

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بیعت کرو اور اپنی نیت کے موافق قتال کرو۔ محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ بکلی کی سی چمک ہے جسے کچھ بھی قیام نہیں۔

حرم میں سکونت کی تاکید:

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ابی الطفیل سے کہا کہ اسی مکان میں رہو اور حرم کے کبوتروں میں سے ایک کبوتر ہو جاؤ یہاں تک کہ ہمارا حکم آئے کیونکہ ہمارا حکم جب آئے گا تو اس میں کوئی خفا نہ ہوگا جیسا کہ آفتاب میں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہے تو اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا تمہیں کیا معلوم اگر لوگ کہیں کہ وہ مشرق سے آئے گا اور اللہ اسے مغرب سے لے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ لوگ تم سے کہیں کہ وہ مغرب سے آئے گا اور اللہ اسے مشرق سے لے آئے اور تمہیں کیا معلوم کہ شاید وہ ہمارے پاس اس طرح لایا جائے جس طرح دلہن لائی جاتی ہے۔

ریح المندثر الشوری نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن الحنفیہ نے کہا کہ جو ہم سے محبت کرے گا اللہ اسے نفع دے گا۔ اگر چہ وہ دہلیم میں ہو۔

شیعوں سے ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کی بیزاری:

ابن الحنفیہ سے مروی ہے کہ مجھے پسند تھا کہ میں اپنے ان شیعوں سے رہائی حاصل کر لیتا اگر چہ یہ رہائی میرے بعض اعزہ کے خون ہی کے عوض میں کیوں نہ حاصل ہوتی انہوں نے اپنا دہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے جوڑ اور رنگوں پر رکھا اور کہا کہ (میں ان سے کیوں گلو خلاصی چاہتا ہوں) ان لوگوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان لوگوں کے شر پھیلانے کی وجہ سے یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے ماں جس نے اسے جنا ہے اس پر اتنا اور غلا یا جائے کہ وہ قتل کر دی جائے۔

اللہ کی رحمت کا حقدار:

حارث الازدی سے مروی ہے کہ محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس شخص پر اللہ رحمت کرے جس نے اپنے نفس کو بے نیاز کیا اپنا ہاتھ روکا زبان بند کی اور اپنے گھر میں بیٹھ گیا اس کے لیے وہی ہے جو وہ چاہے اور وہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے محبت

کرنے سوائے اس کے کہ بنی امیہ کے اعمال ان لوگوں میں مسلمانوں کی تلوار سے زیادہ تیزی سے گھس رہے ہیں اور سوائے اس کے کہ اہل حق کے لیے ایک دولت ہے جسے اللہ جب چاہے گالائے گا، ہم میں اور تم میں سے جو اس کو پائے گا وہ بڑے بلند مقام میں ہوگا اور جو مر گیا تو جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور بہت پائیدار ہے۔

نیت پر اجز:

ابن الحنفیہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی سے اس کے عدل کی وجہ سے جو اس سے ظاہر ہو محبت کرے حالانکہ وہ شخص اللہ کے علم میں اہل دوزخ میں سے ہو تو اللہ اسے اس کی اس سے محبت پر اجر دے گا جس طرح وہ کسی اہل جنت سے محبت کرتا (تو اسے اجر ملتا) اور جو شخص کسی سے اس کے ظلم کی وجہ سے جو اس سے ظاہر ہو اللہ کے لیے بغض کرے حالانکہ وہ شخص اللہ کے علم میں اہل جنت میں سے ہو تو اللہ اسے اس کے اس شخص سے بغض پر اسی طرح اجر دے گا، جس طرح اس نے کسی اہل دوزخ سے بغض کیا ہوتا (تو اسے اجر ملتا)۔

مختار بن ابی عبید کی عراق روانگی:

ام بکر بنت السبور سے مروی ہے کہ مختار بن ابی عبید عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پہلے محاصرے میں سب سے زیادہ سختی سے ان کے ہمراہ تھا اور انہیں یہ یقین دلاتا تھا کہ وہ ان کا شیعہ ہے، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اس سے متعجب تھے اس پر الزام لگایا جاتا تھا تو وہ اس کے خلاف کوئی کلام نہ سنتے تھے۔ مختار محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھی آمد و رفت رکھتا تھا، محمد کی رائے اس کے بارے میں اچھی نہ تھی، وہ اس کی لائی ہوئی باتوں کا بیشتر حصہ قبول نہ کرتے۔

مختار نے کہا کہ میں عراق جانے والا ہوں، محمد نے اس سے کہا جاؤ، یہ عبد اللہ بن کامل الہمدانی بھی تمہارے ساتھ جائیں گے، انہوں نے عبد اللہ سے کہا کہ اس سے ہوشیار رہنا، تمہیں معلوم رہے کہ وہ زیادہ امانتدار نہیں ہے، مختار ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا جان لیجئے کہ میرا عراق میں ہونا میرے یہاں قیام کرنے سے زیادہ آپ کے لیے مفید ہے، عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اسے اجازت دے دی۔

وہ اور ابن کامل روانہ ہوئے، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو اس کی خیر خواہی میں شک نہ تھا حالانکہ وہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ دعا کرنے پر مصر تھا، یہ دونوں (مختار و ابن کامل) روانہ ہوئے، ان کو ایک شخص العذیب میں ملا، مختار نے کہا کہ ہمیں لوگوں کا حال بتاؤ، اس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ جیسے وہ کشتی گھومتی ہے جس کا کوئی ملاح نہیں ہونا، مختار نے کہا کہ میں اس کشتی کا وہ ملاح ہوں جو اسے قائم کرے گا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مختار جب عراق میں آیا تو اس نے عبد اللہ بن مطیع کے پاس آمد و رفت شروع کی، وہ اس زمانے میں عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے والی کوفہ تھے اس نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی خیر خواہی ظاہر کی اور خفیہ طور پر ان پر عیب لگایا، لوگوں کو ابن الحنفیہ کی طرف (بیعت کی) دعوت دی اور ابن مطیع کے خلاف برا بھانتے کیا، اس نے ایک جماعت کو بڑا لشکر بنانا شروع کیا، جب ابن مطیع نے یہ دیکھا تو وہ اس سے ڈر کے عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس بھاگ گیا۔

ابن الحنفیہ کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش:

اسحاق بن یحییٰ بن طلحہ وغیرہ سے مروی ہے کہ مختار جب کونے میں آیا تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما پر سب سے زیادہ سخت تھا اور سب سے زیادہ ان کا عیب گواہوں کو یہ تعلیم دینے لگا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما پہلے اس امر خلافت کو ابو القاسم ابن الحنفیہ کے لیے طلب کیا کرتے تھے پھر انہوں نے ان پر ظلم کیا، مختار ابن الحنفیہ کا اور ان کے حال اور ان کے تقویٰ کا ذکر کرنے لگا کہ انہوں نے مختار کو کونے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے لیے بیعت کی دعوت دے، اور انہوں نے اسے ایک خط لکھ دیا ہے جسے وہ کسی غیر تک نہ پہنچائے گا اور خط اس شخص کو پڑھ کر سنائے گا جس پر بھروسہ کرے گا۔

ابن الحنفیہ کی بیعت کے لئے خفیہ مہم:

مختار لوگوں کو محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کی بیعت کی دعوت دینے لگا اور لوگ خفیہ طور پر اس سے ان کی بیعت کرنے لگے، جن لوگوں نے اس سے بیعت کی تھی ان میں سے ایک جماعت نے اس کے بارے میں شک کیا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اس شخص کو اپنے عہد دے دیئے جس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ابن الحنفیہ کا قاصد ہے، حالانکہ ابن الحنفیہ کے میں ہیں، وہ نہ ہم سے دور ہیں نہ پوشیدہ، لہذا ہم میں سے ایک جماعت ان کے پاس جائے اور اس امر کو ان سے دریافت کرے جو یہ شخص ان کی جانب سے لایا ہے اگر یہ سچا ہوا تو ہم اس کی مدد کریں گے اور اس کے کام میں اس کی اعانت کریں گے۔

حقیقت جاننے کے لئے عراقی وفد کی ابن الحنفیہ سے ملاقات:

ان کی ایک جماعت روانہ ہوئی، وہ لوگ ابن الحنفیہ سے مکے میں ملے اور انہیں مختار کا معاملہ اور جس کی اس نے لوگوں کو دعوت دی تھی بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ بھی جس طرح تم دیکھتے ہو خیال کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ ناحق کسی مومن کے قتل کے ذریعے سے مجھے سلطنت دینا حاصل ہو، مجھے یہ پسند ہے کہ اللہ اپنی مخلوق میں سے جسے چاہے ہمارا مددگار بنا دے، لہذا تم کذابین سے بچو اور اپنی جانوں اور اپنے دین کا خیال کر دو، اس بات پر وہ لوگ واپس ہوئے۔

جعلی خط اور جھوٹے گواہ:

مختار نے محمد ابن الحنفیہ کی جانب سے ایک خط ابراہیم بن الاشرک کے نام لکھ لیا، ان کے پاس آیا اور ملنے کی اجازت چاہی، کہا گیا کہ مختار آل محمد کا امین اور ان کا قاصد آیا ہے، انہوں نے اسے اجازت دی، دعا دی اور مر جبا کہا، اسے فرس پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ مختار نے گفتگو کی، وہ باتونی تھا، اللہ کی حمد و ثناء بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا پھر کہا کہ تم لوگ وہ اہل بیت ہو کہ اللہ نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا تم کو شرف دیا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ تمہیں بھی معلوم ہے، وہ لوگ محروم کر دیئے گئے، ان کا حق ان سے روکا گیا اور وہ اس حالت تک پہنچ گئے جو تم نے دیکھی، مہدی (ابن الحنفیہ) نے تمہارے نام ایک خط لکھا ہے، یہ لوگ اس پر گواہ ہیں۔

یزید بن انس الاسدی اور احمر بن شمیٹ السجلی اور عبداللہ بن کامل الشاکری اور ابو عمرہ کیسان مولائے بحیلہ نے کہا کہ ہم لوگ گواہ ہیں کہ یہ ان کا خط ہے، جس وقت یہ خط انہوں نے اس کو دیا تھا تو ہم لوگ موجود تھے۔

ابراہیم نے اسے لے کے پڑھا اور کہا کہ میں پہلا شخص ہوں جو اس کو قبول کرتا ہے، ہمیں تمہاری طاعت اور مدد کرنے کا حکم دیا گیا ہے لہذا تمہیں جو مناسب معلوم ہو کہو اور جس چیز کی طرف چاہو دعوت دو ابراہیم ہر روز سوار ہو کے اس کے پاس آتے اس نے لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا کیے، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو بھی خبر پہنچی تو انہیں محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما سے تعجب ہوا۔

ابن زیاد کا قتل:

مختار کا معاملہ روز بروز شدید ہونے لگا اور اس کے پیرو بڑھنے لگے وہ قاتلان حسین رضی اللہ عنہ اور مددگار ان قتل کو تلاش کرنے نہیں تہ تیغ کرنے لگا، اس نے ابراہیم بن الاشتر کو بیس ہزار آدمیوں کے ساتھ عبید اللہ بن زیاد کی طرف روانہ کیا چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا مختار اس کے پاس گیا پھر ابن زیاد کے سر کو ایک ڈبے میں رکھ کے محمد ابن الحنفیہ اور علی بن الحسین اور بقیہ بنی ہاشم کے پاس بھیج دیا۔

علی بن الحسین نے عبید اللہ کا سر دیکھا تو حسین رضی اللہ عنہ پر رحمت بھیجی اور کہا کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا تو وہ ناشتہ کر رہا تھا ہمارے پاس بھی عبید اللہ کا سر لایا گیا تو ہم لوگ ناشتہ کر رہے ہیں بنی ہاشم میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس نے مختار کی شام میں خطبہ نہ پڑھا ہو دعائے کی ہو اور اس کے حق میں تعریف کے کلمات نہ کہے ہوں، حالانکہ ابن الحنفیہ مختار کا حال اور جو کچھ اس کی طرف سے انہیں معلوم ہوتا اسے ناپسند کرتے، اس کے اکثر افعال سے بیزاری ظاہر کرتے، ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے کہ اس نے ہمارا انتقام لے لیا، اس نے ہمارے کنبے کا بدلہ دے دیا۔ اس نے ہمیں ترجیح دی اور ہمارے ساتھ احسان کیا، وہ عوام کے روبرو مختار کی تعریف کرتے۔

محمد بن علی المہدی کے نام مختار کا خط:

مختار کا معاملہ مضبوط ہو گیا تو اس نے محمد بن علی المہدی کے لیے خط لکھا۔

مختار بن ابی عبید کی جانب سے جو آل محمد کے انتقام کا طالب ہے۔ ابا بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے انتقام نہیں لیتا تا وقتیکہ ان کے ساتھ انصاف نہیں کر لیتا، اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو اور فاسقین کی جماعتوں کو ہلاک کر دیا، کچھ باقی رہ گئے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے آخر کو بھی ان کے اوّل سے ملا دے گا۔

یزید کا انتقال اور اہل بیت کی مکہ روانگی:

حسین بن الحسن بن عطیہ العوفی نے اپنے باپ دادا وغیر ہم سے روایت کی کہ جب مدینے میں معاویہ بن ابی سفیان کی خبر مرگ آئی تو اس زمانے میں حسین بن علی رضی اللہ عنہما اور محمد بن الحنفیہ اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما وہیں تھے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے میں تھے، حسین اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے روانہ ہو گئے، ابن الحنفیہ مدینے میں مقیم رہے انہوں نے مسرف کے لشکر کی نزدیکی اور ایام حرہ کا حال سنا تو انہوں نے بھی مکہ کی جانب کی کوچ کیا اور وہ بھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ مقیم ہو گئے۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی بیعت سے انکار:

یزید بن معاویہ کی جب خبر مرگ آئی اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے لیے بیعت لی اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی تو

انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کو بھی اپنی بیعت کی دعوت دی مگر ان دونوں نے ان کی بیعت سے انکار کیا اور کہا کہ اس وقت تک کہ تمہارے لیے شہر جمع ہو جائیں اور لوگ تمہارے لیے منتظم ہو جائیں ہم بیعت نہیں کریں گے یہ دونوں جب تک کہ ہوسکا اسی حالت پر قائم رہے۔

ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کبھی ان دونوں سے ہنسی میں کہتے کبھی وہ ان دونوں سے نرمی کرتے اور کبھی غصہ ظاہر کرتے تھے پھر انہوں نے ان دونوں پر سختی کی ان دونوں کے درمیان سخت کلامی اور جھگڑا ہوا معاملہ شدت پکڑتا گیا یہاں تک کہ ان دونوں کو ان سے سخت خوف پیدا ہوا ان دونوں کے ہمراہ عورتیں اور بچے بھی تھے۔

ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کے ساتھ سختی کی ان کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ایذا دی محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کا قصد کیا ان کی دشنام دہی ظاہر کی اور ان کو عیب لگائے انہیں اور بنی ہاشم کو مکے میں اپنے شعب میں رہنے کا حکم دیا اور ان پر نگران مقرر کر دیئے جو کچھ وہ ان سے کہتے تھے اس میں یہ بھی تھا کہ یا تو تم لوگ ضرور ضرور بیعت کرو گے یا میں تم لوگوں کو ضرور ضرور آگ سے جلا دوں گا جس سے ان لوگوں کو اپنی جانوں کا خوف ہوا۔

ابو عامر سلیم کی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما سے ملاقات:

ابو عامر سلیم نے کہا کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کو زمزم میں اس طرح قید دیکھا کہ لوگوں کو ان کے پاس جانے کی ممانعت تھی میں نے کہا کہ واللہ میں ضرور ان کے پاس جاؤں گا۔ میں داخل ہوا تو پوچھا کہ آپ کا اور اس شخص (ابن الزبیر رضی اللہ عنہما) کا کیا حال ہے؟

ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انہوں نے مجھے بیعت کی دعوت دی تو میں نے کہا کہ میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں جب وہ لوگ تم پر متفق ہو جائیں گے تو میں بھی مثل ایک مسلمان کے ہوں گا مگر وہ مجھ سے اس امر پر راضی نہیں ہوئے تم ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ انہیں میری طرف سے سلام کہو اور کہو کہ تمہارے بھتیجے کہتے ہیں کہ تمہاری کیا رائے ہے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ابن الحنفیہ کو بیعت نہ کرنے کی ہدایت:

سلیم نے کہا کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس گیا جن کی بصارت جا چکی تھی انہوں نے کہا کہ تم کون ہو میں نے کہا کہ ایک انصاری ہوں انہوں نے کہا کہ بہت سے انصاری ایسے ہیں جو ہم پر ہمارے دشمن سے زیادہ سخت ہیں میں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بالکل آپ ہی کے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر بیان کرو میں نے انہیں ابن الحنفیہ کے قول سے آگاہ کیا جواب دیا میرے بھتیجے سے کہو کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی اطاعت نہ کریں اور خوشی سے ان کے فرمانبردار نہ بنیں سوائے اس کے اس پر کچھ اضافہ نہ کرنا۔

اہل کوفہ کے نام محمد بن حنفیہ کا پیغام:

میں ابن الحنفیہ کے پاس آیا اور جو کچھ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا تھا وہ انہیں پہنچایا ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے کوفہ آنے کا قصد کیا مختار کو معلوم ہوا تو اس پر ان کی تشریف آوری شاق گزری اس نے کہا کہ مہدی میں ایک علامت ہے کہ وہ تمہارے اس شہر میں

آئیں گے ایک شخص انہیں بازار میں تلوار مارے گا جو نہ انہیں نقصان پہنچائے گی اور نہ کاٹے گی ابن الحنفیہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ مقیم رہے۔

احباب نے ان سے کہا کہ اگر آپ کو فتنے میں اپنے شیعوں کے پاس قاصد بھیجئے اور انہیں اس حال سے آگاہ کر دیتے جس میں آپ لوگ ہیں تو بہتر ہوتا انہوں نے ابوالطفیل عامر بن وائلہ کو اپنے شیعوں کے پاس کو فتنے بھیجا، وہ ان لوگوں کے پاس آئے اور کہا کہ میں اس جماعت (بنی ہاشم) پر ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے بے خوف نہیں ہوں، اور ان لوگوں کو ان کے اس خوف کی اطلاع دی جس میں وہ مبتلا تھے۔

مکہ پر مختار کی لشکر کشی:

مختار نے مکہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا، اس نے ان میں سے چار ہزار آدمیوں کو نامزد کیا، ابو عبد اللہ المجدلی کو ان لوگوں پر امیر بنایا اور ان سے کہا کہ جاؤ اگر تم بنی ہاشم کو زندہ پانا تو تم اور تمہارے ساتھی ان کے قوت بازو بن جانا اور اس بات کو جاری کرنا جس کا وہ لوگ تمہیں حکم دیں، اور اگر تمہیں معلوم ہو کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو قتل کر دیا ہے تو تم اہل مکہ سے مقابلہ کرنا تا آنکہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما تک پہنچو، اور آل زبیر کا ایک رواد اور ایک ناخن بھی نہ چھوڑنا۔ اس نے مزید کہا کہ اے اللہ کے لشکر اللہ نے تمہیں اس روادگی سے شرف بخشا ہے اور اس طریقے سے تم لوگوں کے لیے دس عمرہ اور دس حج کا ثواب ہے۔

یہ قوم اپنے ساتھ ہتھیار لے کر روانہ ہوئی یہاں تک کہ وہ لوگ مکہ میں اترے، ایک مخبر آیا کہ جلدی کرو مجھے تم لوگ اس حالت میں دکھائی دیتے ہو کہ شاید ان لوگوں کو پا جاؤ، لوگوں نے کہا کہ اے طاقت رکھنے والو جلدی کرو ان میں سے آٹھ سو آدمی منتخب کیے گئے جن کا رئیس عطیہ بن سعد بن جنادہ العونی تھا، یہ لوگ مکہ میں داخل ہوئے انہوں نے ایسی تکمیر کہی کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے سنی تو بھاگ کر دارالندوہ میں گھس گئے اور کہا جاتا ہے کہ کعبے کے پردوں میں لٹک گئے اور کہا کہ میں اللہ سے پناہ مانگنے والا ہوں۔

عطیہ نے کہا کہ پھر ہم لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما اور ان دونوں کے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے جو مکانوں میں تھے، اطراف جلانے کی لکڑیاں دیوار کی چوٹی تک بلند جمع کر دی گئی تھیں، اگر ان میں آگ لگ جاتی تو تا وقتیکہ قیامت قائم نہ ہوتی ان لوگوں میں سے کوئی نظر نہ آتا، ہم نے لکڑی اور ایندھن کو دروازوں سے ہٹایا، علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جو اس زمانے میں بالغ تھے جھلتے کی اور نکلنے کے ارادے سے لکڑیوں ہی میں بھاگے تو ان کی پنڈلیوں سے خون نکل آیا۔

ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھی سامنے آئے، ہم اور وہ لوگ دن بھر مسجد میں صف بستہ رہے، سوائے نماز کے اور کسی امر کے لیے واپس نہ جاتے، یہاں تک کہ صبح ہوئی اور ابو عبد اللہ المجدلی لوگوں کے ہمراہ آئے، ہم نے ابن عباس اور ابن الحنفیہ سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں چھوڑ دیجئے تو ہم ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے لوگوں کو راحت دے دیں (یعنی ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کر دیں)۔

دونوں نے کہا کہ یہ وہ شہر ہے جسے اللہ نے محترم بنایا ہے، اس نے اسے کسی کے لیے حلال نہیں کیا ہے (کہ اس میں خون ریزی کرے) سوائے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وہ بھی ایک ساعت کے لیے نہ آپ سے پہلے اس نے اسے کسی کے لیے حلال کیا اور نہ آپ کے بعد وہ اسے کسی کے لیے حلال کرے گا، بس تم لوگ ہماری حفاظت کرو اور ہمیں پناہ دو۔

عطیہ نے کہا کہ ان لوگوں نے کوچ کیا تو ایک منادی پہاڑ پر نذا دیتا تھا کہ اپنے نبی ﷺ کے بعد کسی لشکر کو غنیمت نہیں ملی اس لشکر کو بھی غنیمت نہیں ملی، لشکر تو سونا چاندی غنیمت میں پاتے ہیں مگر تم لوگوں نے ہمارے خون غنیمت میں پائے، لشکر والے بنی ہاشم کو لے گئے، ان کو منی میں اتارا، جب تک اللہ نے ان لوگوں کا وہاں قیام چاہا مقیم رہے، پھر وہ لوگ طائف روانہ ہو گئے اور وہاں مقیم رہے جب تک کہ رہ سکے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات طائف میں ۱۸ھ میں ہوئی، محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے ان پر نماز پڑھی اور ہم لوگ ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ باقی رہے۔

فریضہ حج کی ادائیگی:

حج کا زمانہ ہوا تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے مکے سے حج کیا، اپنے ساتھیوں کو لے کے عرفات پہنچے۔

ابن الحنفیہ طائف سے اپنے طرفداروں کے ہمراہ پہنچے اور عرفات میں وقوف کیا۔ نجدہ بن عامر الحنفی بھی اپنے خارجی ساتھیوں کو لے کے اسی سال آیا، اس نے بھی ایک کنارے وقوف کیا۔ بنی امیہ نے ایک جھنڈے پر حج کیا، ان لوگوں نے بھی عرفات میں اپنے ہمراہیوں کے ساتھ وقوف کیا۔

شرحیل بن ابی عون نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس سال (۱۸ھ میں) چار جھنڈوں نے عرفات میں وقوف کیا۔ محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ایک جھنڈے پر تھے جنہوں نے جبل المشاة کے پاس قیام کیا تھا، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حج کیا جن کے ساتھ جھنڈا تھا، انہوں نے اس زمانے کے مقام امام میں قیام کیا، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما اپنے ساتھیوں کو آگے لے گئے یہاں تک کہ انہوں نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے مقابل قیام کیا اور نجدہ المحروری اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہنچا، اس کے ہمراہ بھی ایک جھنڈا تھا، اس نے ان دونوں کے پیچھے وقوف کیا۔ بنی امیہ بھی پہنچے اور ان کے ساتھ بھی جھنڈا تھا، انہوں نے ان دونوں کے بائیں جانب وقوف کیا، سب سے پہلا جھنڈا جو لہرا رہا تھا وہ محمد بن الحنفیہ کا تھا، پھر نجدہ نے ان کی پیروی کی اس کے بعد بنی امیہ کا جھنڈا تھا اور آخر کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا جھنڈا تھا اور لوگ ان کے پیرو تھے۔

میدان عرفات میں ابن زبیر اور ابن حنفیہ کا اجتماع:

عبداللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس شب کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما کے لوہنے کے بعد ہی چلے، جب ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے تاخیر کی اور ابن الحنفیہ اور نجدہ اور بنی امیہ گزر چکے تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا ابن الزبیر رضی اللہ عنہما امر جاہلیت کے منتظر ہیں، وہ روانہ ہو گئے تو ان کے پیچھے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما بھی روانہ ہوئے۔

مخرمہ بن سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو کہتے سنا کہ میں عرفات سے واپس ہوا، جب آفتاب غروب ہو گیا اور یہی سنت ہے (کہ غروب کے بعد تاخیر نہ کی جائے) پھر مجھے معلوم ہوا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کہتے تھے محمد نے عجلت کی، محمد نے عجلت کی، نہ معلوم کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے واپسی عرفات میں تاخیر کس سے اختیار کی۔

سعید بن محمد بن جبیر نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس سال ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے حج کو قائم کیا (یعنی وہی منتظم و امام تھے) اور اسی سال محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے بھی الحشیہ کے چار ہزار آدمیوں کے ہمراہ حج کیا، وہ منی کی بائیں گھٹائی میں اترے۔

ثور سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ منیٰ کی بائیں گھاٹی میں دیکھا۔
محمد بن جبیر کی ابن الحنفیہ سے ملاقات:

سعید بن محمد بن جبیر بن مطعم نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے فتنے کا اندیشہ ہوا تو میں اسی کے پاس (یعنی محمد ابن الحنفیہ اور ابن الزبیر اور نجدہ اور بنی امیہ کے پاس) گیا، پہلے محمد ابن الحنفیہ کے پاس آیا، وہ شعب (گھاٹی) میں تھے۔ میں نے کہا: اے ابوالقاسم اللہ سے ڈرو، ہم لوگ مشر حرام (مزدلفہ) اور بلد حرام (حرم محترم) میں ہیں، لوگ اس بیت اللہ کی جانب وفد الہی ہیں۔ لہذا ان کے حج میں فساد نہ کرو۔

انہوں نے کہا کہ واللہ میرا اس کا ارادہ نہیں ہے نہ میں بیت اللہ کے اور کسی شخص کے درمیان حائل ہوں گا اور نہ کوئی حاجی میری جانب سے لایا جائے گا، البتہ میں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے اور جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس سے اپنی جان بچاؤں گا اور اس امر خلافت میں صرف اس کا طالب ہوں کہ مجھ پر دو شخص اختلاف نہ کریں (کہ ایک کہے میں خلیفہ ہوں دوسرا کہے میں خلیفہ ہوں اور پھر شروع خوزیری ہو) تم مجھ سے مطمئن رہو، البتہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ اور ان سے گفتگو کرو، تم نجدہ سے بھی ضرور ملو اور اس سے بھی گفتگو کرو۔

محمد بن جبیر کی ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے ملاقات:

محمد بن جبیر نے کہا کہ پھر میں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، ان سے اسی طرح کی گفتگو کی جس طرح کی ابن الحنفیہ سے کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں وہ شخص ہوں کہ مجھ پر اتفاق کر لیا گیا ہے اور لوگوں نے مجھ سے بیعت کر لی ہے، یہ لوگ (یعنی بنی ہاشم) مخالف ہیں، میں نے کہا کہ آپ کے لیے خوزیری سے رکنا ہی بہتر ہے، انہوں نے کہا کہ میں یہی کروں گا۔

ابن جبیر کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات:

پھر میں نجدہ الحوروی کے پاس آیا، انہیں ان کے ہمراہیوں میں پایا، میں نے عمرہ غلام ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بھی انہیں کے پاس دیکھا، عمرہ سے کہا کہ اپنے صاحب کے پاس جانے کی میرے لیے اجازت مانگو، وہ اندر گئے، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اجازت مل گئی، میں داخل ہوا، اور ان پر معطلی کی عظمت ظاہر کی، ان سے بھی وہی بیان کیا جو ان دونوں شخصوں سے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ امر کہ میں خود کسی سے قتال شروع کروں تو ایسا نہیں ہوگا، البتہ جو شخص ہم سے قتال شروع کرے گا ہم بھی اس سے قتال کریں گے، میں نے کہا کہ میں نے ان دونوں شخصوں کو دیکھا ہے، وہ آپ سے قتال کرنا نہیں چاہتے۔

ابن جبیر کی بنی امیہ کے گروہ سے ملاقات:

اس کے بعد میں بنی امیہ کے گروہ میں آیا، ان لوگوں سے بھی اسی قسم کی گفتگو کی جیسی کہ اس جماعت سے کی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اپنے جھنڈے پر ہیں، ہم کسی سے قتال نہیں کریں گے سوائے اس کے کہ کوئی ہم سے قتال کرے، ان جھنڈوں میں میں نے واپس ہونے میں ابن الحنفیہ کے ساتھیوں سے زیادہ سلیم اور زیادہ ساکن کسی کو نہیں دیکھا۔

محمد بن جبیر نے کہا کہ میں نے اس شب کو محمد ابن الحنفیہ کے پہلو میں وقوف کیا تھا، جب آفتاب غائب ہو گیا تو وہ میری

طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابوسعید واپس چلو، وہ واپس ہوئے اور ان کے ساتھ میں بھی واپس ہوا۔ وہ سب سے پہلے واپس ہوئے۔

شرعیل بن ابی عون نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عرفات میں ابن الحنفیہ کے ساتھیوں کو تلبیہ کہتے دیکھا، ابن الزبیر اور ان کے ساتھیوں کو بھی میں نے دور سے دیکھا تو وہ لوگ آفتاب ڈھلنے تک تلبیہ کہتے رہے پھر بند کر دیا۔ ایسا ہی بنی امیہ نے بھی کیا، لیکن نجد نے حجرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ کہا (یعنی عرفات سے منی تک)۔
مختار کے بارے میں حضرت ابن عباس اور ابن حنفیہ کا خیال:

ابوالعریان الجاشعی سے مروی ہے کہ ہمیں مختار نے دو ہزار سواروں کے ساتھ محمد بن الحنفیہ کے پاس بھیجا، ہم لوگ انہیں کے پاس تھے، ابن عباس رضی اللہ عنہما مختار کا ذکر کرتے کہتے کہ انہوں نے ہمارا انتقام لے لیا، ہمارے قرض ادا کر دیئے اور ہمیں خرچ دیا۔ محمد بن الحنفیہ مختار کے بارے میں کچھ نہ کہتے نہ نیک نہ بد، محمد کو معلوم ہوا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ (مخفی) دینے بہ سید (علم ہے وہ ہم لوگوں میں کھڑے ہوئے اور کہا کہ واللہ ہم لوگ رسول اللہ ﷺ سے کسی چیز (یعنی علم مخفی وغیرہ) کے وارث نہیں ہوئے، سوائے اس کے کہ جو ان دو تختیوں کے درمیان ہے (یعنی قرآن مجید) پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں اس طرح اتروں کہ یہ صحیفہ میری تلوار کے قبضے میں ہو، میں نے پوچھا کہ صحیفے میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ (یہ مضمون ہے کہ) جو شخص کوئی نئی بات کرے یا کسی نئی بات کرنے والے کو (یعنی بدعت کو یا بدعتی کو) پناہ دے (تو اسے یہ یہ عذاب ہوگا وغیرہ)۔
محمد بن علی رضی اللہ عنہ کا مکہ سے اخراج:

ولید الرجاج سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ محمد بن علی رضی اللہ عنہ کے سے نکال دیئے گئے تو شعب علی رضی اللہ عنہ میں اترے، ہم لوگ کوفے سے روانہ ہوئے کہ ان کے پاس آئیں، ہم ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے، ابن عباس رضی اللہ عنہما بھی شعب میں ان کے ہمراہ تھے، انہوں نے ہم سے کہا کہ اپنے ہتھیار اکٹھا کر لو اور عمرہ کا احرام باندھو، پھر بیت اللہ میں داخل ہو اور اس کا اور صفا و مردہ کے درمیان طواف کرو۔

وردان سے مروی ہے کہ میں بھی اس مختصر جماعت میں تھا جو محمد بن علی رضی اللہ عنہ کی طرف (جانے کے لیے) نامزد کی گئی تھی، ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو تا وقتیکہ وہ ان سے بیعت نہ کریں گے میں داخل ہونے سے منع کر دیا تھا اور انہوں نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، ہم لوگ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اہل شام (کے پاس جانے) کا قصد کیا تھا۔ عبدالملک بن مروان نے تا وقتیکہ وہ اس سے بیعت نہ کر لیں انہیں شام میں داخل ہونے سے روکا۔

ہم لوگ جہاں گئے انہیں کے ساتھ گئے، اگر وہ ہمیں قتال کا حکم دیتے تو ہم لوگ ان کی ہمراہی میں ضرور قتال کرتے۔ انہوں نے ایک روز ہمیں جمع کیا اور ہم میں کوئی چیز تقسیم کی جو قبیل تھی اس کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا کہ اپنے کجاووں میں ہی رہو اور اللہ سے ڈرو، اس چیز کو اختیار کرو جسے تم نیکی سمجھتے ہو اور اسے ترک کرو جسے تم بدی سمجھتے ہو، تمہیں صرف اپنے آپ ہی کو امر معروف و نہی منکر کرنا چاہیے، تمہیں اور لوگوں کا معاملہ ترک کرنا چاہیے، ہمارے امر کے منتظر رہو جیسا کہ آسمان و زمین منتظر ہیں۔ کیونکہ ہمارا

مر جب آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ جیسے روشن آفتاب۔

مختار کی موت کے بعد ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی ابن الحنفیہ کو دعوت بیعت:

لوگوں نے کہا کہ مختار بن ابی عبیدہ ۶۱۵ھ میں مقتول ہوا۔ ۶۱۹ھ شروع ہوا تو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے عروہ بن الزبیر کو محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین آپ سے کہتے ہیں کہ میں کبھی آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تا وقتیکہ آپ مجھ سے بیعت نہ کر لیں ورنہ میں آپ کو دوبارہ قید کر دوں گا، اللہ نے اس کذاب کو قتل کر دیا ہے جس کی مدد کا آپ دعویٰ کرتے تھے دونوں عراق والوں نے مجھ پر اتفاق کر لیا ہے لہذا مجھ سے بیعت کر لیجئے ورنہ اگر آپ بیعت سے رکے تو پھر میرے اور آپ کے درمیان جنگ ہے۔

ابن الحنفیہ کا عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو جواب:

ابن الحنفیہ نے عروہ سے کہا کہ تمہارے بھائی کو قطع رحم اور توہین حق کی طرف کس چیز نے مائل کر دیا اور انہیں عذاب الہی کی تعزیر سے حس کی بقاء اور ہیبتگی میں تمہارے بھائی کو بھی شک نہیں، کس نے غافل کر دیا ورنہ وہ تو مجھ سے زیادہ مختار اور اس کی ہدایت کے مداح تھے واللہ میں نے مختار کو داعی یا ناصر بنا کے نہیں بھیجا، مختار جس قدر زیادہ ان سے جدا تھا اس سے زیادہ ہم سے جدا تھا۔ اگر وہ کذاب تھا تو زمانہ دراز تک باوجود اس کے کذب کے انہوں نے اسے مقرب بنایا اور اگر وہ اس کے علاوہ تھا تو وہ اسے زیادہ جانتے ہیں میرے پاس اس کے خلاف (علم) نہیں ہے اور اگر خلاف بھی ہو تو میں نے اس کے پڑوس میں قیام نہیں کیا، میں اس شخص کے پاس گیا جو مجھے دعوت دیتا تھا، میں نے اس امر کے بارے میں اس سے بھی انکار کیا لیکن اس جگہ واللہ تمہارے بھائی کا ایک ساتھی ہے جو وہی چاہتا ہے جو تمہارے بھائی چاہتے ہیں دونوں دنیا پر قتال کرتے ہیں۔

عبدالملک بن مروان اور اس کے لشکر کو گویا تم بھی دکھ رہے ہو کہ تمہارے بھائی کی گردن کو گھیرے ہوئے ہے، میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ عبدالملک کا پڑوس میرے لیے تمہارے بھائی کے پڑوس سے زیادہ بہتر ہے، اس نے مجھے خط لکھ کر جو کچھ اس کے پاس ہے میرے سامنے پیش کیا ہے اور مجھے اپنے پاس بلایا ہے۔

عروہ نے کہا کہ پھر آپ کو اس سے کون امر مانع ہے، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں، یہی تمہارے ساتھی کو (یعنی بھائی کو) زیادہ پسند ہے (کہ میں عبدالملک کے پاس چلا جاؤں) عروہ نے کہا کہ یہ میں ان سے بیان کروں گا۔ محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہما کے بعض ساتھیوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری بات مانتے تو ہم عروہ کی گردن مار دیتے۔ ابن الحنفیہ نے کہا کہ میں کس بناء پر ان کی گردن ماروں، وہ تو ہمارے پاس اپنے بھائی کا پیام لے کے آئے، ہمارے پاس قیام کیا، ہمارے اور ان کے درمیان گفتگو ہوئی۔ پھر ہم نے انہیں ان کے بھائی کے پاس واپس کر دیا، جو بات تم نے کہی وہ غدر (بد عہدی) ہے اور غدر میں خیر نہیں، جو کچھ تم کہتے ہو اگر وہ میں کرتا تو مکے میں قتال ہوتا، حالانکہ تم لوگ جانتے ہو کہ میرے دے یہ ہے کہ اگر تمام لوگ مجھ پر متفق ہو جائیں سوائے ایک انسان کے تو میں اس ایک انسان سے بھی قتال نہ کروں گا۔

عروہ کی ابن زبیر رضی اللہ عنہما سے سفارش:

عروہ واپس ہوئے، محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے ان سے جو کہا تھا اس کی ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو خبر دی اور کہا کہ واللہ میری رائے نہیں ہے کہ آپ ان سے مداخلت کیجئے، آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ آپ کے پاس سے چلے جائیں اور اپنی صورت چھپائیں، پھر عبدالملک ان کا امام ہوگا جو انہیں شام میں لے جا کے تا وقتیکہ وہ اس سے بیعت نہ کریں انہیں نہ چھوڑے گا، اور ابن الحنفیہ تا وقتیکہ اس پر سب لوگ اتفاق نہ کر لیں اس سے کبھی بیعت نہ کریں گے۔ پھر اگر وہ اس کے پاس چلے گئے تو وہ ان سے آپ کی کفایت کرے گا کہ یا تو وہ انہیں قید کرے گا یا قتل کرے گا اور آپ اس سے بری ہو جائیں گے۔ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا غصہ فرو ہو گیا۔

عبدالملک بن مروان کی ابن الحنفیہ کو امداد کی پیشکش:

ابو الطفیل نے کہا کہ عبدالملک بن مروان کا ایک خط قاصد لے کے آیا اور شعب میں داخل ہوا، محمد ابن الحنفیہ نے وہ خط پڑھا، انہوں نے ایسا خط پڑھا کہ اگر عبدالملک وہ خط اپنے کسی بھائی یا بیٹے کو لکھتا تو اپنی مہربانیوں پر اضافہ نہ کرتا (جو اس نے اس میں ظاہر کی تھیں) اس میں یہ تھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے آپ پر سب کی ہے، آپ کے تعلق قرابت کو قطع کیا ہے اور آپ کے حق کی توہین کی ہے تاکہ آپ ان سے بیعت کریں، آپ نے اپنے دین اور اپنی جان کی طرف نظر کی ہے، آپ نے جو کچھ کیا اسے خوب سمجھ کر کیا ہے، یہ ملک شام حاضر ہے، آپ اس میں جہاں چاہیے اتریں، ہم لوگ آپ کا اکرام کرنے والے اور آپ کے تعلق قرابت کی وجہ سے آپ کے ساتھ احسان کرنے والے اور آپ کا حق پہچاننے والے ہیں۔

عبدالملک کی دعوت پر ابن الحنفیہ کی شام روانگی:

ابن الحنفیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ صورت ہے جس کی طرف ہم روانہ ہوں گے، وہ روانہ ہوئے، ہم بھی ان کے ساتھ چلے ان کے ہمراہ قبیلہ عذہ کے بہت سے لوگ تھے جو یہ شعر پڑھتے تھے

انت امام الحق لسنا نمتری انت الذی فرغی بہ ونرتجی

”ہمیں کچھ شک نہیں کہ آپ امام حق ہیں۔ آپ ہی وہ ہیں جس سے ہم لوگ راضی ہیں اور جس کے ذریعے سے ہم (نجات) کی امید کرتے ہیں۔“

انت ابن خبیر الناس من عبد النبیؐ یا ابن علیؑ سرو من مثل علی

حتی تحل ارض کلب ویلی

آپ ان کے فرزند ہیں جو نبی کے بعد سب سے بہتر تھے، اے فرزند علی رضی اللہ عنہ، آپ چاہیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے مثل کون ہے۔ یہاں تک کہ آپ قبیلہ کلب ویلی کی زمین میں اترے۔“

ابو الطفیل نے کہا کہ ہم لوگ روانہ ہوئے، ایلہ میں اترے تو ہمارے ساتھ ان لوگوں نے ہمسائیگی کا اچھا برتاؤ کیا اور ہم نے بھی ان کے ساتھ اسی طرح کی ہمسائیگی کی ان لوگوں نے ابو القاسم (ابن الحنفیہ) سے نہایت محبت کی ان کی اور ان کے ساتھیوں کی تعظیم کی، ہم نے نیکی کی تاکید کی اور بدی سے روکا کہ نہ ہمارے قریب اور نہ ہمارے سامنے کسی پر ظلم کیا جائے۔

عبدالملک کی ابن الحنفیہ کو دعوت بیعت:

عبدالملک کو معلوم ہوا تو اس پر یہ شاق گزرا اس نے قبیصہ بن ذؤب اور روح بن زباب سے کہ دونوں اس کے خاص لوگوں میں سے تھے ان کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ تا وقتیکہ وہ تم سے بیعت نہ کر لیں یا تم انہیں حجاز واپس نہ کر دو ہم انہیں چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارے قریب قیام کریں ان کی جو خصلت ہے وہ ہے۔

عبدالملک نے انہیں لکھا کہ آپ میرے ملک میں آئیے اور اس کے ایک کنارے اترئیے میرے اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے درمیان یہی جنگ ہے جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے آپ کا مرتبہ و عزت ہے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ بغیر مجھ سے بیعت کیے میری سلطنت میں قیام نہ کریں اگر آپ مجھ سے بیعت کر لیں تو آپ وہ کشتیاں لے لیجئے جو قلمزم سے ہمارے پاس آئی ہیں۔ وہ سو کشتیاں ہیں وہ اور جوان میں ہے آپ ہی کا ہے آپ کے لیے میں لاکھ درہم ہیں جن میں سے پانچ لاکھ فوراً آپ کو دے دوں گا اور پندرہ لاکھ اس کے ساتھ ہی دے دوں گا۔ جب آپ اپنے اور اپنی اولاد کے اور اپنے قرابت داروں کے اور اپنے موال کے اور اپنے ہمراہیوں کے قرض کا ارادہ کریں گے اگر آپ انکار کریں تو میرے ملک سے کسی ایسے مقام میں منتقل ہو جائیے جہاں میری سلطنت نہ ہو۔

ابن الحنفیہ کا عبدالملک کو جواب:

محمد بن علی رضی اللہ عنہ نے اسے لکھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد بن علی کی جانب سے عبدالملک بن مروان کو سلام علیک میں تجھ سے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد زمانہ دراز سے تمہیں اس امر میں میری رائے معلوم ہے میں اسے کسی سے چھپاتا نہیں ہوں۔ واللہ اگر یہ امت مجھ پر اتفاق کر لے سوائے اہل الزرقاء کے تو میں کبھی ان سے قتال نہ کروں گا اور نہ میں انہیں پیٹھ دہ کر دوں گا تا وقتیکہ وہ متفق نہ ہوں۔

جو کچھ مدینے میں ہوا اس سے بھاگ کر میں مکے میں اتر آیا اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کا پڑوس اختیار کیا انہوں نے میری ہمسائیگی میں بددی کی اور مجھ سے یہ خواہش کی کہ میں ان سے بیعت کروں میں نے اس سے انکار کیا تا وقتیکہ لوگ تم پر یا ان پر متفق نہ ہوں۔ اس صورت میں میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں گا جس میں لوگ داخل ہوں گے اور میں بھی انہیں میں سے ایک شخص ہو جاؤں گا۔

تم نے مجھے خط لکھ کر اپنے پاس بلایا میں آیا اور تمہارے جواز میں ایک کنارے اتر آیا واللہ میرے پاس مخالفت نہیں میرے ساتھ میرے ہمراہی تھے ہم نے کہا کہ زحیصہ الاسعار کی بہتی (ہمارے لیے زیادہ مناسب ہے) ہم تمہاری ہمسائیگی کے بھی قریب ہوں گے اور تمہاری مہربانی کو بھی حاصل کریں گے پھر تم نے جو کچھ لکھا وہ لکھا ان شاء اللہ ہم تمہارے پاس سے واپس جائیں گے۔

ابن الحنفیہ کی مراجعت:

ابی حمزہ سے مروی ہے کہ میں محمد بن علی کے ساتھ تھا۔ ہم لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات کے چالیس دن گزرنے کے بعد طائف سے ایلم روانہ ہو گئے عبدالملک نے انہیں ایک عہد نامہ لکھا تھا کہ وہ اور ان کے ساتھی اس کے ملک میں داخل ہوں

یہاں تک کہ لوگ کسی ایک شخص پر مصالحت کر لیں، جب لوگ کسی شخص پر اللہ کے عہد و بیثاق کے مطابق صلح کر لیں گے تو انہیں عبد الملک لکھ دے گا۔

محمد شام میں آگئے تو عبد الملک نے ان سے کہلا بھیجا کہ یا تو آپ مجھ سے بیعت کیجئے یا میرے ملک سے نکل جائیے اس زمانے میں ہم لوگ سات ہزار آدمی تھے محمد نے اس کے پاس کہلا بھیجا کہ میں تمہارے ملک سے نکل جاؤں گا مگر اس شرط پر کہ میرے ساتھیوں کو امن دیا جائے اس نے منظور کر لیا۔

محمد کھڑے ہوئے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر کہا کہ اللہ تمام امور کا مالک و حاکم ہے اللہ نے جو چاہا وہ ہوا اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ ہر آنے والی چیز قریب ہے نزول امر سے پہلے ہی تم نے اس کے ساتھ غلت کی۔

قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تم لوگوں کی پشت پر وہ لوگ ہیں جو آل محمد سے قتال کریں گے آل محمد ﷺ کا امر اہل شرک پر پوشیدہ نہیں ہے آل محمد ﷺ کا امر تاخیر میں ڈال دیا گیا ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے کہ وہ امر تم میں ضرور ضرور پلے گا جیسا کہ شروع ہوا تھا۔ سب تم یقین اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہارے خونوں کی حفاظت کی اور تمہارے دین کی حفاظت کی تم میں سے جو یہ چاہے کہ امن و حفاظت کے ساتھ اپنے جائے پناہ اور اپنے شہر کے میں آئے تو وہ انتظام کرے۔

مکہ میں داخلہ کی ممانعت:

ان کے ساتھ سات ہزار میں سے نو سو آدمی رہ گئے انہوں نے عمرے کا احرام باندھا اور قربانی حرم کے اونٹ کو ہار پہنایا کہ معلوم ہو یہ حرم میں ذبح کرنے کے لیے ہے پھر ہم لوگوں نے بیت اللہ کا قصد کیا۔

ہم لوگوں نے حرم میں داخل ہونے کا قصد کیا تو ہمیں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا لشکر ملا اس نے ہمیں داخل ہونے سے روکا محمد نے کہلا بھیجا کہ میں اس طرح آیا ہوں کہ تم سے قتال کا ارادہ نہیں ہے اور اسی طرح واپس ہوں گا کہ قتال نہ کروں ہمیں چھوڑ دو کہ ہم داخل ہو کر اپنا نسک (عمرہ) ادا کر لیں پھر ہم تمہارے پاس سے چلے جائیں گے۔ مگر انہوں نے انکار کیا حالانکہ ہمارے ہمراہ قربانی کے اونٹ بھی تھے جن کو ہم نے ہار پہنا دیئے تھے۔

ابن الحنفیہ کی مدینہ واپسی:

ہم لوگ مدینے واپس چلے گئے حجاج (بن یوسف) آیا اس نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا پھر وہ بصرے کو فوج چلا گیا جب وہ چلا گیا تو ہم لوگ گئے اور ہم نے اپنا نسک (عمرہ) ادا کیا میں نے محمد بن علی کے بدن سے جوؤں کو چھڑتے دیکھا ہے جب ہم نے اپنا نسک (عمرہ) ادا کر لیا تو مدینے واپس آگئے محمد بن علی تین مہینے رہے پھر ان کی وفات ہو گئی۔

اسماعیل بن مسلم الطائی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبد الملک ابن مروان نے ایک خط لکھا (جس کا عنوان یہ تھا کہ) منجانب امیر المؤمنین عبد الملک بنام محمد بن علی جب انہوں نے خط کا عنوان دیکھا تو کہا کہ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾ رسول اللہ ﷺ کے ملعون اور آزار کردہ منبروں پر ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے وہ ایسے امور ہیں جن کو قرآن نہیں

دیا جائے گا۔

ابن الحنفیہ کو مکہ چھوڑ دینے کا حکم:

ابو الطفیل نے کہا کہ ہم لوگ واپسی کے لیے آمادہ ہوئے، انہوں نے موالی کو اور اہل کوفہ و بصرے کو جو ان کے ہمراہ تھے واپسی کی اجازت دے دی، وہ لوگ مدین سے واپس ہو گئے ہم لوگ کے آئے اور ان کے ہمراہ منی کے شعب (گھائی) میں اترے ہم لوگ دو یا تین رات بھی نہ ٹھہرے تھے کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ان کے پاس کہلا بھیجا کہ اس منزل سے آپ روانہ ہو جائیے اور وہاں ہمارے پڑوس میں نہ رہیے۔

ابن الحنفیہ نے کہا کہ صبر کیجئے، آپ کا صبر بھی اللہ ہی کی توفیق سے ہوگا، یہ بڑی بات نہیں ہے کہ اس امر پر صبر نہ کیا جائے جس پر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں کیا اور اگر میں اس کا ارادہ کرتا تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما میرے ساتھ ایسی بے فائدہ حرکت نہ کرتے، اگرچہ میں تنہا ہی ہوتا اور ان کے ساتھ وہ سب جماعتیں ہوتیں جو ان کے ساتھ ہیں، لیکن واللہ میں نے اس کا ارادہ نہیں کیا، میں دیکھتا ہوں کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما میری ہمسائیگی میں برائی کرنے میں کمی کرنے والے نہیں ہیں لہذا ان کے پاس رہنا اچھا نہیں۔

وہ طائف چلے گئے اور وہیں مقیم رہے یہاں تک کہ یکم ذی القعدہ ۶۷ھ کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے قتال کے لیے حجاج آیا، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا محاصرہ کر لیا اور انہیں ۷ ارجمادی الآخرہ یوم سہ شنبہ ۳۷ھ کو قتل کر دیا، ابن الحنفیہ نے اس سال طائف سے حج کیا، اپنے شعب (گھائی) واپس ہو کر وہیں مقیم ہو گئے۔

حجاج کی طرف سے دعوت بیعت:

حسن بن علی بن محمد ابن الحنفیہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب محمد بن علی ۲۷ھ میں شعب میں داخل ہوئے تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما قتل نہیں ہوئے تھے اور حجاج ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے حجاج نے ابن الحنفیہ سے کہلا بھیجا کہ عبد الملک سے بیعت کر لیں۔ ابن الحنفیہ نے کہا کہ تمہیں مکہ میں میرا قیام اور طائف و شام جانا معلوم ہے جو میری جانب سے انکار ہے کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما یا عبد الملک سے بیعت کروں تا وقتیکہ لوگ ان دونوں میں سے کسی ایک پر متفق نہ ہو جائیں، میں وہ شخص ہوں کہ میرے پاس مخالفت نہیں ہے۔

جب میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے اختلاف کیا تو میں نے ان سے علیحدگی اختیار کی کہ وہ متفق ہو جائیں۔ میں نے اللہ کے شہروں میں سب سے زیادہ محترم شہر کی بناہ لی جس میں پرندے تک کو امن ہے، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے میرے ہمسائیگی میں بدی کی، میں شام کی طرف منتقل ہو گیا، عبد الملک نے میرا قرب ناپسند کیا، میں حرم کی طرف منتقل ہوا، اگر ابن الزبیر رضی اللہ عنہما مقتول ہو گئے اور لوگ عبد الملک پر متفق ہو گئے تو میں (عبد الملک کے لیے) تم سے بیعت کر لوں گا۔

حجاج نے ان کی اس بات سے راضی ہونے سے انکار کیا تا وقتیکہ وہ عبد الملک کے لیے بیعت نہ کریں، ابن الحنفیہ نے اس سے انکار کیا اور حجاج نے انہیں اس پر قائم رکھنے سے انکار کیا، محمد برابر اسے جواب دیتے رہے۔ یہاں تک کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما قتل کر دیئے گئے۔

حجاج کی دھمکی اور ابن حنفیہ کا جواب:

سہل بن عبید بن عمرو الحارثی سے مروی ہے کہ جب عبدالملک نے حجاج کو لے کر مدینے بھیجا تو اس سے کہا کہ تمہیں محمد ابن الحنفیہ پر کوئی اختیار نہیں ہے حجاج آیا تو اس نے انہیں دھمکی دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے زمانے کے کسی دن میں آپ پر قابو دے گا اور آپ پر اختیار دے دے گا اس وقت میں یہ کروں گا اور یہ کروں گا انہوں نے کہا کہ اے اپنی جان کے دشمن تو جھوٹا ہے کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے روزانہ تین سو ساٹھ لکھے ہیں مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اپنے بعض لکھے عطا کر دے گا اور تجھے مجھ پر اختیار نہ دے گا۔ اس بات کو حجاج نے عبدالملک کو لکھا تو عبدالملک نے اسے شاہ روم کو لکھا شاہ روم نے اسے لکھا کہ واللہ یہ بات نہ تمہارے خزانے کی ہے نہ تمہارے اہل بیت کے خزانے کی بلکہ اہل بیت نبوت کے خزانے کی ہے۔

حسن بن محمد بن علی سے مروی ہے کہ میرے والد نے حجاج سے بیعت نہیں کی۔ جب ابن الزبیر رضی اللہ عنہما مقتول ہو گئے تو حجاج نے انہیں بلا بھیجا آئے تو کہا کہ اللہ نے عدو اللہ کو قتل کر دیا۔ ابن الحنفیہ نے کہا کہ جب لوگ بیعت کریں گے تو میں بھی بیعت کر لوں گا اس نے کہا واللہ میں آپ کو ضرور قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے لیے روزانہ تین سو ساٹھ لکھے ہیں اور ہر لکھے میں تین سو ساٹھ قضاے ہیں امید ہے کہ وہ اپنے قضا یا میں سے کسی ایک قضاے میں ہمیں تجھ سے کفایت کرے گا۔

عبدالملک کے ہاتھ پر بیعت:

اس بات کو حجاج نے عبدالملک کو لکھا عبدالملک کو اس خط سے بہت تعجب ہوا اس نے اس کے متعلق صاحب الروم کو لکھا اس لیے کہ صاحب الروم نے اسے دھمکی دی تھی کہ اس کے مقابلے کو بہت سی فوج جمع کی ہے عبدالملک نے یہ کلام صاحب الروم کو لکھا اور حجاج کو لکھا کہ ہم نے معلوم کر لیا ہے کہ محمد مخالف نہیں ہیں وہ تمہارے پاس آئیں گے اور تم سے بیعت کریں گے تم ان کے ساتھ مہربانی کرنا۔

جب لوگ عبدالملک پر متفق ہو گئے اور ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بھی بیعت کر لی تو ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ابن الحنفیہ سے کہا کہ اب کچھ اختلاف باقی نہیں رہا لہذا بیعت کر لو۔ ابن الحنفیہ نے عبدالملک کو لکھا۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے عبدالملک امیر المؤمنین کو محمد بن علی کی جانب سے اما بعد میں نے جب امت کو دیکھا کہ اس نے اختلاف کیا تو میں ان سے علیحدہ ہو گیا پھر جب یہ امر تمہارے پاس پہنچ گیا اور لوگوں نے تم سے بیعت کر لی تو میں بھی انہیں میں سے کسی ایک شخص کے مشعل ہو گیا میں بھی اس نیک کام میں داخل ہوتا ہوں جس میں وہ لوگ داخل ہوئے میں تم سے بیعت کرتا ہوں تمہارے لیے حجاج سے بیعت کر لی اور تمہارے پاس اپنی بیعت بھیج دی۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ انہوں نے تم پر اتفاق کر لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمیں امن دو اور وفا پر عہد و پیمانہ دو کیونکہ غدر (بے وفائی و بد عہدی) میں کوئی خیر نہیں ہے اور اگر تم انکار کرو تو اللہ کی زمین کشادہ ہے۔

عبدالملک کا عہد و پیمانہ:

عبدالملک نے خط پڑھا تو قبضہ میں ذویب اور روح بن زبایع نے کہا کہ تمہیں ان سے اختلاف کی اب کوئی وجہ باقی نہیں

رہی اگر وہ باہمی جنگ چاہتے تو ضرور اس پر قادر تھے مگر انہوں نے تسلیم کر لیا اور بیعت کر لی لہذا ہماری رائے یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بھی عہد و بیثاق و امان تحریر کر دیجئے اور ان کے ساتھیوں کے لیے بھی عہد لکھ دیجئے اس نے یہی کیا۔

عبدالملک نے انہیں لکھا کہ آپ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں اور ہمارے ساتھ آپ کی قرابت اور محبت ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے زیادہ ہے آپ کے لیے عہد و بیثاق ہے اللہ کا ذمہ اور اس کے رسول ﷺ کا ذمہ ہے کہ نہ آپ کو نہ آپ کے ساتھیوں کو کسی ایسی چیز سے برا بیچتے کیا جائے گا جو آپ کو ناگوار ہو آپ اپنے شہر واپس جائیے اور جہاں چاہے جائیے میں جب تک زندہ ہوں آپ کی مدد اور نیکی ترک نہ کروں گا حجاج کو لکھ کر اس نے ان کے ساتھ ہمسائیگی کے اچھے برتاؤ اور ان کے اکرام کا حکم دیا۔ ابن الحنفیہ مدینے واپس آ گئے۔

ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما اور عبدالملک کی ملاقات:

معاویہ بن عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی رافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب محمد بن علی رضی اللہ عنہما مدینے چلے گئے اور اپنا مکان بقیع میں بنا لیا تو عبدالملک کو لکھ کر اس کے پاس آنے کی اجازت چاہی عبدالملک نے انہیں اپنے پاس آنے کی اجازت دی وہ اس کے پاس ۸۷ھ میں گئے جس سال کہ جابر بن عبداللہ کی وفات ہوئی۔ دمشق میں عبدالملک کے پاس آئے تو پھر اجازت چاہی اس نے اجازت دی اور اپنے قریب اتارا حکم دیا کہ ان کی اتنی ضیافت کی جائے جو انہیں اور ان کے ہمراہیوں کو کافی ہو۔ عبدالملک کا ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما سے حسن سلوک:

وہ عام لوگوں کی اجازت کے وقت عبدالملک کے پاس جاتے جب عبدالملک اجازت دیتا تو اپنے اہل بیت سے شروع کرتا پھر انہیں اجازت دیتا اور وہ سلام کرتے پھر کبھی بیٹھے اور کبھی واپس ہو جاتے۔ اس کو قریب ایک مہینے کے گزر گیا تو انہوں نے تنہائی میں عبدالملک سے گفتگو کی اپنی قرابت و رحم کا ذکر کیا اور جو قرض تھا وہ بیان کیا۔

عبدالملک نے قرض ادا کرنے اور ان کے ساتھ صلہ رحم کرنے کا وعدہ کیا اور حکم دیا کہ اپنی حوائج پیش کریں محمد نے اپنا قرض اور اپنی حوائج اپنی اولاد اور دوسرے خاص لوگوں اور اپنے موالی کے لیے و طائف کی درخواست پیش کی عبدالملک نے فرارخ دلی سے ان کی سب باتوں کو منظور کر لیا۔ موالی کے بارے میں و طائف مقرر کرنے میں البتہ سبکی کی محمد نے اصرار کیا تو اس نے ان لوگوں کا وظیفہ مقرر کیا مگر ان کے ساتھ کمی کی انہوں نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ان کے و طائف بھی بڑھا دیے۔ اس طرح ان کی کوئی حاجت نہ رہی جسے اس نے پورا نہ کر دیا ہو انہوں نے اس سے واپسی کی اجازت چاہی تو انہیں اجازت دے دی۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ ابن الحنفیہ نے کہا کہ میں عبدالملک نے پاس گیا تو اس نے میری حوائج پوری کر دیں میں اس سے رخصت ہوا اور جب اس کی آنکھوں سے پوشیدہ ہونے کے قریب ہو گیا تو اس نے مجھے ابوالقاسم ابوالقاسم کہہ کے پکارا۔ میں پلٹا تو مجھ سے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ کو معلوم ہے کہ جس دن تم بڑے میاں (عبدالملک کے والد مروان) کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ کر رہے تھے تو تم ان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے (یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے دن ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہما نے مروان بن الحکم کی چادر پکڑ کر اسے زمین پر گرٹا تھا) عبدالملک نے کہا کہ وہ میری نظر میں ہے اور میرے لیے اس روز برتری تھی۔

رسول اللہ ﷺ کی تلوار:

زید بن عبد الرحمن بن زید بن الخطاب سے مروی ہے کہ میں ابان بن عثمان کے ہمراہ عبد الملک بن مروان کے پاس گیا اس کے پاس ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ بھی تھے عبد الملک نے نبی ﷺ کی تلوار منگائی لائی گئی تو اس نے صیقل کرنے والے کو بلایا اس نے اسے دیکھا تو کہا کہ میں نے اس سے بہتر کوئی تلوار کبھی نہیں دیکھی عبد الملک نے کہا کہ واللہ لوگوں نے اس کے مالک کا مثل بھی نہیں دیکھا۔ اے محمد یہ تلوار مجھے دے دو محمد نے کہا کہ تمہاری رائے میں ہم میں جو اس کا زیادہ مستحق ہو وہی اسے لے لے۔ عبد الملک نے کہا کہ اگر تمہارے لیے (رسول اللہ ﷺ سے) قرابت ہے تو ہر ایک کے لیے قرابت و حق ہے۔

حجاج کے خلاف شکایت:

محمد نے وہ تلوار عبد الملک کو دے دی اور کہا کہ اے امیر المؤمنین! اس شخص یعنی حجاج نے جو اس کے پاس تھا مجھے ایذا دی ہے اور میرے حق کی توہین کی ہے اگر پانچ درہم کا معاملہ بھی ہو تو وہ مجھے بلا بھیجتا ہے عبد الملک نے کہا کہ آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں ہے۔

حجاج اور ابن الحنفیہ کی گفتگو:

جب محمد واپس ہوئے تو عبد الملک نے حجاج سے کہا کہ تم ان سے ملو اور ان کی شکایت رفع کرو۔ وہ ان سے ملا اور کہا کہ مجھے امیر المؤمنین نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کی شکایت رفع کروں اسے کامیابی نہ ہو جو آپ کے ساتھ برائی کرے۔ محمد نے کہا کہ اے حجاج تم پر فسوس ہے خدا کا خوف کرو اور اللہ سے ڈرو کوئی صبح ایسی نہیں جو اللہ کے بندے کرتے ہوں اور اللہ کے یہاں اپنے ہر بندے کے لیے تین سو ساٹھ کھلے نہ ہوتے ہوں نہ اگر وہ گرفت کرے تو اپنی قدرت سے گرفت کرے گا اور اگر معاف کرے تو اپنے علم سے معاف کرے گا لہذا تم اللہ سے ڈرو۔ حجاج نے ان سے کہا کہ آپ مجھ سے جو مانگیں گے وہ میں آپ کو ضرور دوں گا۔ محمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم کرو گے؟ حجاج نے کہا کہ جی ہاں! انہوں نے کہا کہ میں تم سے صرم الدہر (زمانے سے انقطاع) مانگتا ہوں۔

حجاج نے اس کا ذکر عبد الملک سے کیا عبد الملک نے اس الجالوت کو بلا بھیجا محمد رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ اس کے گوش گزار کیا کہ ہم میں سے ایک شخص نے ایک حدیث بیان کی جو سوائے اس کے کسی سے نہیں سنی اسے محمد کے قول (صرم الدہر) سے آگاہ کیا۔ اس الجالوت نے کہا کہ یہ کلمہ سوائے بیت نبوت کے اور کہیں سے نہیں نکلا۔

ابراہیم سے مروی ہے کہ (بیت اللہ میں) حجاج نے اپنا پاؤں مقام (ابراہیم) پر رکھنا چاہا تو ابن الحنفیہ نے اسے ڈانٹا اور منع کیا۔

سالم بن ابی الجعد سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ کعبے کے اندر داخل ہوئے ہر کونے میں دو دو رکعتیں اس طرح (کل) آٹھ رکعتیں پڑھیں۔

سفیان سے مروی ہے کہ محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دنیا نہیں جائے گی تا وقتیکہ لوگوں کے اختلافات اپنے رب کے

بارے میں نہ ہوں۔

محمد ابن الحنفیہ کی پوشاک و لباس وغیرہ:

ابی مالک سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ سفید ترکی گھوڑے پر بڑی جھار کر رہے تھے۔ سفیان التمار سے مروی ہے کہ وہ یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ) کو اپنے سر میں مہندی اور نیل کا خضاب لگائے ہوئے تھے حالانکہ احرام میں تھے۔ ثور سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ مہندی اور نیل کا خضاب کرتے تھے۔ سفیان التمار سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ اپنے قربانی کے اونٹوں کے داہنی جانب اشعار کیا۔ (اشعار یہ ہے کہ قربانی کے اونٹ کے کوہان میں برچی مار کے خون نکال دیتے ہیں جس سے معلوم ہو کہ یہ حج یا عمرے کی قربانی کے لیے ہے) سلیمان الشیبانی سے مروی ہے کہ میں نے عرفات میں محمد ابن الحنفیہ کے بدن پر زرد دغز (سوت ریشم ملے ہوئے کپڑے) کی چادر دیکھی۔

ابی اسحاق الشیبانی سے مروی ہے کہ میں نے عرفات میں ابن الحنفیہ کے بدن پر خز کی چادر دیکھی۔

رشدین سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ سیاہ حرقانی عمامہ باندھتے اور اسے ایک بالشت یا اس سے کم (پشت کی طرف) لٹکاتے۔

عبدالواحد ابن ایمن سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا۔

نصر بن اوس سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی ابن الحنفیہ کے جسم پر ایک زرد میلا لحاف دیکھا۔

ابی ادریس سے مروی ہے کہ مجھ سے محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہیں خز پہننے سے کون امر مانع ہے۔ کیونکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں حریر (ریشم استعمال) کیا جاتا ہے۔

ابی ادریس سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو مہندی اور نیل کا خضاب لگاتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ کیا علی رضی اللہ عنہ خضاب کرتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ پھر آپ کو کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں اس کے ذریعے سے عورتوں کے لیے جو ان بننا ہوں۔

صالح بن میثم سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں مہندی کا اثر دیکھا تو کہا کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں اپنی والدہ کے مہندی لگاتا تھا۔

محمد ابن الحنفیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنی والدہ کے تیل لگاتے تھے اور ان کے کنگھی کرتے تھے۔

عبدالواحد بن ایمن سے مروی ہے کہ میں نے محمد ابن الحنفیہ کو مہندی لگائے ہوئے دیکھا میں نے انہیں آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے دیکھا اور میں نے ان کے سر پر سیاہ عمامہ دیکھا۔

عبدالواحد بن ایمن سے مروی ہے کہ مجھے والد نے محمد ابن الحنفیہ کے پاس بھیجا میں ان کے پاس گیا تو وہ اپنی آنکھوں میں سرمہ لگائے ہوئے دائرھی کو سرخ رنگے ہوئے تھے میں والد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ نے مجھے ایک بوڑھے شخص کے پاس بھیجا

تھا انہوں نے کہا کہ اے بدبودار عورت کے لڑکے وہ محمد بن علی ہیں۔ ابن الحنفیہ سے مروی ہے کہ وہ مٹکے کی نیب پیتے تھے۔
ربیع المنذر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم ابن الحنفیہ کے ساتھ تھے انہوں نے وضو کرنا چاہا موزے پہنے تھے اس لیے
موزے اتارے اور پاؤں پر مسح کیا۔

ابی عمر سے مروی ہے کہ ابن الحنفیہ عیدین اور جمعہ اور شعب (منیٰ میں حج کے موقع پر) غسل کیا کرتے اور وہ پچھنوں کا
خون بھی دھو ڈالتے۔

رشدین بن کریب سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو دیکھا کہ بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔

ابن حنفیہ کی وفات:

عبداللہ بن محمد بن عقیل سے مروی ہے کہ میں نے ابن الحنفیہ کو ۸۱ھ میں کہتے سنا کہ یہ میرے لیے پینسٹھواں سال ہے
میں اپنے والد کے سن سے بڑھ گیا جن کی وفات تریٹھ سال میں ہوئی تھی ابن الحنفیہ کی وفات اسی سال ۸۱ھ میں ہوئی۔

زید بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد ابن الحنفیہ سے دریافت کیا کہ آپ کے والد کہاں دفن کیے
گئے تو انہوں نے کہا کہ بقیع میں۔ میں نے کہا کہ سنہ میں انہوں نے کہا کہ ۸۱ھ کے شروع میں اس روز وہ پینسٹھ سال کے تھے جس
(سنہ) کو وہ پورا نہ کرنے پائے تھے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ابن الحنفیہ نے عمر بنیہ سے بھی کوئی روایت کی۔ زید بن السائب سے مروی ہے
کہ میں نے ابو ہاشم عبداللہ بن محمد ابن الحنفیہ کو بقیع کے ایک جانب اشارہ کر کے کہتے سنا کہ یہ میرے والد ابو القاسم کی قبر ہے۔ ان
کے والد کی وفات محرم ۸۱ھ میں ہوئی وہ سال طغیانی کا ہے کہ اہل مکہ پر ایک سیلاب آیا جو حاجیوں کو بہا لے گیا۔

ابو ہاشم نے کہا کہ جب ہم نے انہیں بقیع میں رکھ دیا تو ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے جو اس زمانے میں عبدالملک
بن مروان کی جانب سے والی مدینہ تھے کہ ان پر نماز پڑھیں بھائی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری کیا رائے ہے میں نے کہا کہ ابان ان پر
نماز نہیں پڑھ سکتے تا وقتیکہ ہم سے اجازت نہ طلب کریں ابان نے کہا کہ تم لوگ اپنے جنازے کے زیادہ حق دار ہو جسے چاہو آگے کرو
کہ ان پر نماز پڑھے ہم نے کہا تم آگے بڑھو اور نماز پڑھو وہ آگے بڑھے اور نماز پڑھی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ پھر میں نے زید بن السائب سے بیان کیا کہ مجھے بروایت عویر الاسلمی معلوم ہوا کہ اس روز ابو ہاشم
نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ امام نماز جنازہ کا زیادہ مستحق ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم آپ کو آگے نہ کرتے زید بن السائب نے کہا کہ میں
نے ابو ہاشم کو اسی طرح کہتے سنا کہ ابان آگے بڑھے اور انہوں نے ان پر نماز پڑھی۔

عمر اکبر بن علی رضی اللہ عنہ:

ابن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی ان کی والدہ صہباء کہ ام حبیب بنت ربیعہ بن نجیر بن العبد
بن علقمہ بن الحارث بن عتبہ ابن سعد بن زہیر بن شہم بن مکر بن حبیب بن عمرو بن شہم بن تغلب بن وائل تھیں قیدی تھیں خالد بن
الولید رضی اللہ عنہ کو اس وقت ملیں جب انہوں نے عین التمر کے علاقے میں بنی تغلب پر حملہ کیا۔

عمر بن علی بن ابی طالب کے یہاں محمد و ام موسیٰ و ام حبیب پیدا ہوئیں ان کی والدہ اسماء بنت عقیل بن ابی طالب تھیں۔
عمر نے حدیث روایت کی ہے ان کی اولاد میں متعدد لوگ تھے جن سے روایت کی گئی ہے ہم نے ان کا ذکر ان کے طبقے اور
مقام میں کیا ہے۔

عبید اللہ بن علی رضی اللہ عنہ:

ابن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ لیلیٰ بنت مسعود بن خالد بن مالک بن ربیع بن
سلمی بن جندل بن نہشل بن حازم بن مالک بن حنظلہ بن سعد بن زید مناة بن تمیم تھیں۔
مختار کی بدسلوکی:

عبید اللہ بن علی حجاز سے کوفہ میں مختار کے پاس آئے اور اس سے کچھ مانگا مگر اس نے نہیں دیا اور کہا کہ کیا تم مہدی (ابن
الحنفیہ) کا خط لائے ہو انہوں نے کہا نہیں اس نے چند روز تک انہیں قید رکھا پھر رہا کر دیا اور کہا کہ ہمارے پاس سے نکل جاؤ وہ مختار
سے بھاگ کر مصعب بن الزبیر کے پاس بصرے گئے اور اپنے ماموں نعیم بن مسعود امیہ بن عبد شمس کے پاس اترے مصعب نے ان
کے لیے ایک لاکھ درہم کا حکم دیا۔

مصعب بن الزبیر نے لوگوں کو اپنے دشمن کے مقابلے کی تیاری کا حکم دیا اور روانگی کا وقت معین کر دیا انہوں نے لشکر قائم
کیا چلنے سے پہلے بصرے پر عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ بن عمر کو قائم مقام بنایا مصعب روانہ ہوئے تو عبید اللہ بن علی بن ابی طالب
اپنے ماموں میں رہ گئے خود ان کے ماموں نعیم بن مسعود مصعب کے ہمراہ روانہ ہو گئے۔

مصعب بصرے سے جدا ہو گئے تو بنی سعد بن زید مناة بن تمیم عبید اللہ بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ ہم بھی آپ کے
ماموں ہیں آپ میں ہمارا بھی حصہ ہے لہذا آپ ہمارے ساتھ چلے کیونکہ ہم لوگ آپ کی کرامت (بزرگی) چاہتے ہیں وہ راضی ہو
گئے اور ان لوگوں کے یہاں منتقل ہو گئے۔

بنی سعد کے ہاں قیام:

بنی سعد نے انہیں اپنے یہاں اتارا اور ان سے بیعت خلافت کی حالانکہ وہ خود ناپسند کرتے تھے کہتے تھے کہ اے قوم جلدی
نہ کرو اور نہ یہ کام کرو مگر ان لوگوں نے انکار کیا مصعب کو معلوم ہوا تو انہوں نے عبید اللہ بن عمر بن عبید اللہ بن مسعود کو لکھ کر انہیں (کام
کرنے سے) عاجز بنایا اور انہیں عبید اللہ بن علی سے لوگوں نے جو جدید بیعت کی تھی اس سے آگاہ کیا۔

مصعب نے ان کے ماموں نعیم بن مسعود کو بلایا اور کہا کہ میں تمہارا اکرام کرتا تھا اور اپنے اور تمہارے درمیان احسان کرتا
تھا تمہیں کس امر نے بصرے میں اپنے بھانجے کو چھوڑنے پر برا بیچتے کیا کہ وہ لوگوں کو جمع کریں اور انہیں دھوکا دیں۔

نعیم نے خدا کی قسم کھائی کہ نہ انہوں نے یہ کیا اور نہ انہیں اس قصے کے ایک حرف کا بھی علم ہے مصعب نے ان کی بات
قبول کر لی اور ان کی تصدیق کی اور کہا کہ میں نے عبید اللہ کو لکھ کر انہیں اس واقعے سے غفلت کرنے پر ملامت کی ہے نعیم بن مسعود
نے کہا کہ انہیں کوئی برا بیچتے نہ کرنے میں ان کے معاملے کا تم سے ذمہ دار ہوں میں انہیں تمہارے پاس لاؤں گا۔

نعیم روانہ ہوئے اور بصرے آئے، بنی حنظلہ اور بنی عمرو بن تمیم جمع ہوئے۔ وہ ان لوگوں کے لیے بنی سعد میں آئے اور کہا کہ واللہ جو کام تم لوگوں نے کیا اس میں تمہارے لیے خیر نہیں، تم نے پورے بنی تمیم کی ہلاکت کا ارادہ کیا ہے، لہذا میرے بھانجے کو میرے حوالے کر دو۔

بیعت کے معاملہ سے برأت:

تھوڑی دیر تک باہم ملامت ہوتی رہی، پھر بنی سعد نے ان کو نعیم کے حوالے کر دیا، وہ روانہ ہوئے اور انہیں مصعب کے پاس لائے۔ مصعب نے پوچھا کہ برادر من جو کام تم نے کیا اس پر تمہیں کس نے برا بھلا کیا، عبید اللہ نے اللہ کی قسم کھائی کہ انہوں نے اس کی خواہش نہیں کی اور تا وقتیکہ لوگوں نے اسے کرنے لیا انہیں اس کا علم بھی نہیں ہوا، میں نے اسے ناپسند کیا تھا اور اس سے انکار کیا تھا، مصعب نے ان کی تصدیق کی اور ان کی بات قبول کر لی۔

مصعب بن الزبیر نے اپنے سردار مقدمہ لشکر عباد الحطلی کو حکم دیا کہ مختار کی فوج کی جانب روانہ ہوں، وہ بڑھے اور ان کے ساتھ عبید اللہ بن علی بن ابی طالب جنی شہر بھی آگے بڑھے، یہ لوگ المذار میں اترے، مختار کا لشکر بھی آگے بڑھا، وہ لوگ ان کے مقابلے پر اترے، مصعب بن الزبیر کے ساتھیوں نے ان پر شب خون مارا، مختار اور اس کے پورے لشکر کو قتل کر دیا، سوائے ان لوگوں کے جو جان بچا کے بھاگے اور کوئی نہ بچا۔ عبید اللہ بن علی بن ابی طالب بھی اسی شب کو قتل ہو گئے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ:

ابن حزن بن ابی وہب بن عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم بن ایقظہ ان کی والدہ ام سعید بنت حکیم بن امیہ بن حارث بن الاوقص السلمی تھیں۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے یہاں محمد و سعید والیاس و ام عثمان و ام عمرو و فاختہ پیدا ہوئیں، ان کی والدہ ام حبیب بنت ابی کریم بن عامر بن عبد و ذی الشریٰ ابن عتاب بن ابی صعوب بن فہم بن ثعلبہ بن سلیم بن غانم بن دوس تھیں۔ مریم ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

سعید کے دادا حزن:

سعید بن المسیب بن حزن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے دادا حزن نبی ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے، عرض کی حزن (سخت زمین) فرمایا نہیں تم سہل (زمین نرم) ہو، عرض کی یا رسول اللہ میرا جو نام والدین نے رکھا ہے میں اسی سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، نبی ﷺ خاموش ہو گئے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر ہم برابر جزوہ (حق) اپنے خاندان میں محسوس کرتے ہیں۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا سنہ ولادت:

علی بن زید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے چار سال بعد پیدا ہوئے اور چوراسی سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

طلحہ بن محمد بن سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ سعید رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات سے دو سال پہلے پیدا ہوئے اور بہتر سال کی عمر میں وفات ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بارے میں میں نے جس امر پر لوگوں کا اتفاق دیکھا وہ یہ ہے کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دو سال بعد پیدا ہوئے۔ یہ بھی روایت کی جاتی ہے کہ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے۔ میں نے اہل علم کو اس کی تصحیح کرتے نہیں دیکھا اگرچہ وہ لوگ ان سے روایت کرتے ہیں۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں خلافت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دو سال گزرنے کے بعد پیدا ہوا ان کی خلافت دس سال چار ماہ رہی۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ابن المسیب رضی اللہ عنہ کی روایات:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے ایک کلمہ سنا ہے جس کا کوئی سننے والا میرے سوا زندہ نہیں ہے عمر رضی اللہ عنہ جب کہے کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے:

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

”اے اللہ تو ہی تمام عیوب سے پاک ہے یا تو ہی باقی ہے اور تجھ ہی سے بقا ہستی ہے۔“

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے منبر پر عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ مجھے جو شخص معلوم ہوگا کہ اُس نے جماع کر کے غسل نہیں کیا خواہ اُسے انزال ہو یا نہ ہو تو میں اُسے سزا دوں گا۔

کبیر بن الاشج سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو پایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔

مالک نے کہا کہ انہیں معلوم ہوا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا اگر مجھے رات دن صرف ایک حدیث کی طلب میں چلنا پڑتا (تو میں عمر بھر چلتا)۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو فیصلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اور جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کیے ان کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہ رہا۔

مسعر نے کہا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے عثمان و معاویہ رضی اللہ عنہما کے فیصلوں کو بھی کہا۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ہر وہ فیصلہ جو ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما نے کیا اور ہر وہ فیصلہ جو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا اس کا مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہ رہا۔

راوی نے کہا میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہر وہ فیصلہ جو عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا مجھ سے (زیادہ اس کا جاننے والا نہ رہا)۔

شرف تلمذ:

ہشام بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے اس وقت زہری کو کہتے سنا جب ان سے ایک سائل نے دریافت کیا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے اپنا علم کس سے حاصل کیا تو انہوں نے کہا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے، وہ سعد بن ابی وقاص اور ابن عباس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم کی صحبت میں بیٹھے، ازواج نبی صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کا نسخہ وام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے، انہوں نے عثمان بن عفان و علی و صہیب و محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم سے سنا ہے ان کی اکثر روایت کی سند ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے جن کے وہ داماد تھے، انہوں نے عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے اصحاب سے سنا ہے، کہا جاتا تھا کہ عمر و عثمان رضی اللہ عنہم نے جو فیصلے کیے ہیں ان کا ان سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے۔

حالات فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے واقفیت:

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابن المسیب کو راوی عمر رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا، لیٹ نے کہا کہ یہ اس لیے کہ وہ ان کے احکام اور فیصلوں کے سب سے زیادہ حافظ تھے۔

قدامہ بن موسیٰ الحنفی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب زندہ تھے۔

محمد بن یحییٰ بن حبان سے مروی ہے کہ اپنے زمانے میں مدینے میں جو لوگ تھے فتوے میں ان سب پر مقدم اور ان کے رئیس سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ تھے، وہ فقیہ الفقہاء کہلاتے تھے۔ مکحول سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ عالم العلماء تھے۔ مکحول سے مروی ہے کہ میں جو حدیث تم لوگوں سے بیان کرتا ہوں وہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور شعبی سے ہے۔ ابن ابی الحویرث سے مروی ہے کہ محمد بن جبیر بن مطعم سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس فتویٰ پوچھنے آتے تھے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ گزشتہ آثار و احادیث کے سب سے زیادہ عالم اور اپنی رائے کے سب سے زیادہ فقیہ (سمجھ دار) ہیں۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں مدینے آیا اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ فقیہ کو دریافت کیا تو مجھے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا گیا، میں نے ان سے مسئلہ دریافت کیا۔

شہاب بن عباد العصری سے مروی ہے کہ میں نے حج کیا، پھر ہم لوگ مدینے آئے اور یہاں کے سب سے بڑے عالم کو دریافت کیا تو لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی نظر میں:

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنا کوئی فیصلہ صادر نہیں کرتے تھے تا وقتیکہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے دریافت نہ کر لیتے، انہوں نے ایک آدمی کو مسئلہ دریافت کرنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تو اس نے انہیں بلایا، سعد عمر کے پاس آئے، عمر نے کہا کہ قاصد نے خطا کی (کہ آپ کو بلا لایا) ہم نے تو اسے صرف اس لیے بھیجا تھا کہ وہ آپ سے آپ کی مجلس ہی میں مسئلہ دریافت کر لے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مدینے میں کوئی ایسا عالم نہیں جو اپنا علم میرے پاس نہ لائے اور میں اس علم کے پاس لایا جاتا ہوں جو سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس ہے۔

قوت حافظہ:

عمران بن عبداللہ الخزاعی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے اپنا نسب ان سے بیان کیا انہوں نے کہا کہ خلافت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تمہارے والد میرے پاس بیٹھے ہیں انہوں نے مجھ سے فلاں فلاں بات پوچھی تو میں نے فلاں فلاں جواب دیا۔ عمران کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا کبھی نہیں معلوم ہوا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے کان پر کوئی بات گزری ہو اور ان کے قلب نے اسے یاد نہ کر لیا ہو۔

ابن زبیر کی بیعت نہ کرنے پر کوڑوں کی سزا:

عبداللہ بن جعفر وغیرہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ نے جابر بن الاسود بن عوف الزہری کو مدینے پر عامل بنایا انہوں نے لوگوں کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کی دعوت دی سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، تا وقتیکہ لوگ متفق نہ ہو جائیں انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ کو ساٹھ تازیانے مارے ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے جابر کو لکھ کر ملامت کی اور کہا کہ ہمارے اور سعید کے لیے (بیعت) نہیں ہے انہیں چھوڑ دو۔

عبدالواحد بن ابی عون سے مروی ہے کہ جابر بن الاسود نے جوا بن الزبیر رضی اللہ عنہ کی جانب سے عامل مدینہ تھا چوتھی بیوی کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں سے نکاح کر لیا تھا جب اس نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو مارا تو سعید جن پر کوڑے لگتے جاتے تھے چلائے کہ واللہ کتاب اللہ پر توجہ نہیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿فَانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع﴾

”جو عورتیں تمہیں پسند آئیں دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو“۔

تو نے چوتھی کی عدت گزرنے سے پہلے پانچویں سے نکاح کر لیا ہے وہ بھی چند شب کی ہے جو تجھے مناسب معلوم ہو کر لے پھر تو تجھے عنقریب وہ بات پیش آئے گی جسے تو پسند نہ کرے گا اسے بہت کم زمانہ گزرا تھا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خواب کی تعبیر:

عمر بن حبیب بن قلعج سے مروی ہے کہ میں ایک روز سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا مجھ پر بہت سی چیزیں تنگ تھیں اور قرض کا بار تھا میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس اس طرح بیٹھا تھا کہ خبر نہ تھی کہ کہاں جاؤں گا ان کے پاس ایک شخص آ اور کہا کہ اے ابو محمد میں نے ایک خواب دیکھا ہے انہوں نے کہا وہ کیا اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ گویا میں نے عبدالملک ابن مروان کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا پھر اسے منہ کے بل لٹا کر اس کی پیٹھ میں چار میخیں ٹھونک دیں۔

سعید نے کہا کہ تم نے یہ نہیں دیکھا ہے اس نے کہا بے شک میں نے ہی یہ دیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں تمہیں تعبیر بتاؤں گا تا وقتیکہ تم مجھے نہ بتاؤ (کہ یہ خواب کس نے دیکھا ہے) اس نے کہا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ہے اور انہوں نے مجھے آہ

کے پاس بھیجا ہے۔

سعید نے کہا کہ اگر تم نے ان کا خواب صحیح بیان کیا تو عبد الملک بن مروان انہیں قتل کر دے گا، عبد الملک کی پشت سے چار بیٹے پیدا ہوں گے جن میں سے ہر ایک خلیفہ پیدا ہوگا۔

عمر بن حبیب نے کہا کہ میں عبد الملک بن مروان کے پاس ملک شام گیا اور اسے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی جانب سے اس کی خبر دی، اس خبر نے اسے سرور کیا اور مجھ سے سعید کو اور ان کے حال کو دریافت کیا، میں نے اسے خبر دی، اس نے میرا قرض ادا کرنے کا حکم دیا، مجھے اس سے خیر حاصل ہوئی۔

تعبیر خواب کے دلچسپ واقعات:

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے میں چار مرتبہ پیشاب کرتے ہوئے خواب میں دیکھا، میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم نے خواب صحیح بیان کیا تو عبد الملک کی پشت سے چار خلفاء مسجد نبوی کے قبلے میں کھڑے ہوں گے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے زیادہ تعبیر خواب کے جاننے والے تھے، انہوں نے یہ علم اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے حاصل کیا تھا، اور اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے والد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا۔

شریک بن ابی نمر سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے دانت ٹوٹ کے میرے ہاتھ میں گر پڑے پھر میں نے انہیں دفن کر دیا، سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا تو تم نے اپنے خاندان کے ہم سن لوگوں کو دفن کر ڈالا۔

مسلم الخياط سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے ہاتھ پر پیشاب کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اللہ سے ڈرو کیونکہ تمہارے نکاح میں کوئی محرم ہے، اس شخص نے غور کیا تو اتفاق سے اس کی بیوی کے اور اس کے درمیان رضاع کا تعلق تھا۔ (یعنی جس عورت نے اس شخص کو دودھ پلایا تھا اسی نے اس کی بیوی کو بھی دودھ پلایا تھا)۔

ان کے پاس ایک دوسرا شخص آیا اور کہا کہ اے ابو محمد! میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا زیتون کی جڑ میں پیشاب کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ غور کرو کہ تمہارے نکاح میں کون ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے نکاح میں کوئی محرم ہے، اس نے غور کیا تو اتفاق سے وہ عورت تھی جس سے اس کا نکاح حلال نہ تھا۔

ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کبوتری منارہ مسجد پر گر پڑی، انہوں نے کہا کہ حجاج عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرے گا۔

مسلم الخياط سے مروی ہے کہ ایک شخص ابن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بکر اثنیہ سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ذبح کرو، ذبح کرو، اس شخص نے کہا میں نے ذبح کیا، سعید نے کہا کہ ابن ام صلاء مر گیا، وہ ہٹا بھی نہ تھا

کہ اس کے پاس خبر آگئی کہ وہ مر گیا محمد بن عمر نے کہا کہ ابن ام صلاء اہل مدینہ کے موالی میں سے تھا جو لوگوں کی چغلی خوری کرتا تھا۔ عبید اللہ بن عبد الرحمن بن السائب سے جو خاندان قارہ سے تھے مروی ہے کہ قبیلہ فہم کے ایک شخص نے ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ آگ میں گھسا ہے انہوں نے کہا کہ اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا تو تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے گی جب تک کہ تم بحری سفر نہ کر لو اور تمہیں قتل کے ذریعے سے موت آئے گی اس نے بحری سفر کیا اور وہ ہلاکت کے قریب ہو گیا۔ جنگ قدیر میں تلوار سے قتل کیا گیا۔

حصین بن عبید اللہ بن نوفل سے مروی ہے کہ مجھے اولاد کی طلب تھی مگر میرے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی ابن المسیب سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری گود میں ایک اندھا ڈال دیا گیا انہوں نے کہا کہ مرغی بچی ہے لہذا تم عجم میں رشتہ تلاش کرو پھر میں نے ایک باندی لی تو لڑکا پیدا ہوا حالانکہ میرے یہاں اولاد نہ ہوتی تھی۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی شخص خواب دیکھتا تھا اور ان سے بیان کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا۔

ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خواب میں خشک کھجور سے ہر حال میں رزق مراد ہے اور تر کھجور سے اس کے موسم میں رزق مراد ہے۔ ابن المسیب سے مروی ہے کہ خواب کا آخر چالیس سال ہے یعنی اس کی تعبیر میں (مطلب یہ ہے کہ چالیس سال کی عمر میں جو خواب دیکھیں اس کی تعبیر اکثر درست ہوتی ہے)۔

ابن المسیب سے مروی ہے کہ خواب میں بیڑی دیکھنا ثبات دین کی علامت ہے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو محمد میں نے خواب میں دیکھا کہ سایے میں بیٹھا ہوں پھر اٹھ کر دھوپ میں چلا گیا ابن المسیب نے کہا کہ واللہ اگر تم نے اپنا خواب صحیح بیان کیا ضرور ضرور اسلام سے نکل جاؤ گے اس نے کہا کہ اے ابو محمد مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ میں سایے سے نکالا گیا اور دھوپ میں داخل کیا گیا پھر مجھے بیکار کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں کفر پر مجبور کیا جائے گا اس نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بغاوت کی اس گرفتار کر کے مجبور کیا گیا وہ باز آیا اور مدینے آیا۔ وہی یہ واقعہ بیان کرتا تھا۔

ولید و سلیمان کی بیعت سے انکار:

عبد اللہ بن جعفر وغیرہ سے مروی ہے کہ عبد العزیز بن مروان کی وفات مصر میں جمادی ۸۴ھ میں ہوئی عبد الملک نے اپنے دونوں بیٹوں ولید اور سلیمان کو ولی عہد بنایا اور تمام شہروں میں ان دونوں کی بیعت کے لیے لکھ دیا اس زمانے میں مدینے پر اس کا عامل ہشام بن اسماعیل الجوزی تھا اس نے لوگوں کو ان دونوں کی بیعت کی دعوت دی لوگوں نے بیعت کر لی سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ جب تک میں غور نہ کر لوں بیعت نہیں کروں گا۔

انکار بیعت پر جبر و تشدد کا سامنا:

ہشام بن اسماعیل نے انہیں ساٹھ تازیانے لگوائے کسبل میں باندھ کے گشت کراتے رہے اور اسی حالت میں اس المذنب تک لے گئے جب پلٹایا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھے کہاں پلٹاتے ہو جواب دیا قید خانے کی طرف انہوں نے کہا کہ واللہ اگر مجھے

یہ گمان ہوتا کہ اس میں اتنی تفتی ہے تو کبھی یہ نہ پہنتا لوگوں نے انہیں قید خانے لے جا کے قید کر دیا۔

ہشام نے عبدالملک کو لکھ کر ان کی مخالفت اور ان کے حال کی خبر دی عبدالملک نے اسے ملامت کی اور کہا کہ واللہ سعید کے ساتھ احسان کرنے کی زیادہ حاجت ہے بہ نسبت اس کے کہ تو انہیں مارے ہمیں خوب معلوم ہے کہ سعید کے پاس اختلاف و نفاق نہیں ہے۔

مسور بن رفاعہ سے مروی ہے کہ قبیسہ بن ذویب عبدالملک بن مروان کے پاس ہشام بن اسماعیل کا خط لے کے آیا جس میں یہ ذکر تھا کہ اس نے سعید کو مارا اور انہیں گشت کرایا۔ قبیسہ نے کہا کہ اے امیر المومنین ہشام اس قسم کے امور میں آپ پر خود رائی کرتا ہے ابن المسیب کو مارتا ہے اور انہیں گشت کراتا ہے جس وقت سعید کو مارا جاتا تھا تو سعید نہ کبھی اس سے زیادہ جھگڑا ہوا تھا نہ اس سے زیادہ مکارا اگر انہوں نے بیعت نہیں کی تو اس کی طرف سے یہ نہ ہونا چاہیے تھا سعید رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے فساد و فتنے کا اسلام و اہل اسلام پر اندیشہ کیا جائے وہ اہل الجماعہ و السنۃ میں سے ہیں۔

عبدالملک کی معذرت اور آپ کا جواب:

قبیسہ نے کہا کہ اے امیر المومنین انہیں اس بارے میں معذرت لکھے۔ عبدالملک نے کہا کہ تم اپنی طرف سے انہیں لکھو میری رائے سے اور ہشام نے انہیں مارنے میں میری جو مخالفت کی اس سے خبر دو۔ قبیسہ نے سعید کو لکھ دیا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے جب خط پڑھا تو کہا کہ میرے اور مجھ پر ظلم کرنے والے کے درمیان اللہ ہے۔

اسیری کے دوران تکالیف:

عبداللہ بن یزید الہذلی سے مروی ہے کہ میں قید خانے میں سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا ایک بکری ذبح کر کے کھال ان کی پشت پر لپیٹ دی گئی تھی لوگوں نے اس کے بعد ان کے لیے ایک ہری چھری تیار کی وہ جب اپنے بازوؤں کی طرف نظر کرتے تو کہتے کہ اے اللہ ہشام سے میری مدد کر۔

ابوبکر بن عبدالرحمن اور ابن مسیب رضی اللہ عنہ کے مابین گفتگو:

طلحہ بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث ابن ہشام قید خانے میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے وہ سعید سے باتیں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ تم اس کی وجہ سے قید کیے گئے۔ انہوں نے کہا اے ابوبکر اللہ سے ڈرو اس کے ماسوا پر اسی کو ترجیح دو ابوبکر اسی کو ان کے سامنے دہرانے لگے کہ تم اس کی وجہ سے قید کیے گئے اور تم نے نری نہ کی۔ سعید رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ واللہ تم بھر کے بھی ناپینا ہو اور قلب کے بھی۔

ابوبکر ان کے پاس سے چلے گئے انہیں ہشام بن اسماعیل نے بلا بھیجا اور پوچھا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو جب سے ہم نے مارا وہ کچھ نرم ہوئے؟ ابوبکر نے کہا کہ واللہ جب سے تم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا وہ کیا ان سے زیادہ سخت زبان کوئی نہیں ہے لہذا اس شخص سے باز آؤ۔

رہائی کا حکم:

ہشام بن اسماعیل کے پاس عبدالملک بن مروان کا ایک خط آیا جس میں اس نے اسے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے مارنے کے بارے میں ملامت کی تھی اور کہا تھا کہ تمہیں کیا نقصان تھا اگر تم سعید رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے اور جو کچھ انہوں نے کہا تھا اسے دبا دیتے ہشام بن اسماعیل نے جو کچھ سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا تھا اس پر نادم ہوا اور انہیں رہا کر دیا۔
دورانہ لشی اور تواضع:

اسلم ابو امیہ مولا سے بنی مخزوم سے جو ثقہ تھے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جب قید کیے گئے تو ان کی بیٹی نے بہت سا کھانا تیار کر کے ان کے پاس بھیجا کھانا آیا تو سعید رضی اللہ عنہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ میری بیٹی کے پاس جاؤ اور کہو کہ اب اس طرح دوبارہ کبھی نہ کرنا، کیونکہ یہ ہشام بن اسماعیل کی حاجت ہے جو چاہتا ہے کہ میرا مال چلا جائے اور جو ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے میں اس کا محتاج ہو جاؤں مجھے معلوم نہیں کہ میں کب تک محبوس رہوں گا لہذا تم اسی کھانے کا خیال رکھو جو میں اپنے گھر میں کھاتا تھا اور وہی مجھے بھیجنا، وہ انہیں بھیجتی تھیں اور وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔

عمران بن عبداللہ الخزاعی سے مروی ہے کہ میرا گمان ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کا نفس ان کے نزدیک ایک مکھی کے نفس سے بھی زیادہ ذلیل تھا۔

ابو اسحاق وغیرہ سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو پچاس تازیانے مارے انہیں حرہ میں ٹھہرایا اور کبل کی لنگوٹی پہنائی، سعید نے کہا کہ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ مارنے سے زیادہ میرے ساتھ کچھ نہ کریں گے تو میں کبھی ان کے لیے لنگوٹی نہ پہنتا، مجھے تو صرف یہ اندیشہ ہوا کہ وہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، میں نے کہا کہ لنگوٹی اس کے نہ ہونے سے زیادہ ستر کرنے والی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ انہیں عبدالملک بن مروان کی خلافت میں مارا گیا، (یہ مطلب نہیں کہ خود عبدالملک نے مارا)۔

دین دشمنوں کی رسوائی کے لئے بدعا:

آل عمر بن عبداللہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ بنی امیہ پر بددعا کیجئے، انہوں نے کہا کہ ”اے اللہ اپنے دین کو عزت دے اپنے اولیاء کو غالب کر اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ اپنے دشمنوں کو رسوا کر۔“

علی بن زید سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو م کا خیال ہے کہ آپ کو جس امر نے حج سے باز رکھا وہ یہ ہے کہ آپ نے نذر مانی ہے کہ جب کعبے کو دیکھیں گے تو ابن مروان پر اللہ سے بددعا کریں گے، انہوں نے کہا، میں نے تو یہ نہیں کہا، اور یوں تو میں کوئی نماز ایسی نہیں پڑھتا جس میں ان لوگوں پر اللہ سے بددعا نہ کرتا ہوں، میں نے اسی سال تک حج و عمرہ کیا ہے حالانکہ مجھ پر صرف ایک حج اور عمرہ فرض تھا، میں تمہاری قوم کے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ قرض لے کے حج و عمرہ کرتے ہیں اور مرجاتے ہیں، قرض ان کی جانب سے ادا نہیں کیا جاتا، ایک جمعہ مجھے حج نفل و عمرہ سے زیادہ پسند ہے۔

علی نے کہا کہ میں نے حسن کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی (معقول) بات نہیں کہی، اگر ایسا ہوتا جیسا کہ انہوں نے کہا تو اصحاب رسول اللہ ﷺ نہ (نفل) حج کرتے اور نہ عمرہ کرتے۔

ابی یونس القزنی سے مروی ہے کہ میں مسجد مدینہ میں داخل ہوا تو وہاں سعید تھا بیٹھے ہوئے تھے پوچھا کیا حال ہے انہوں نے کہا کہ ان کے پاس کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں۔

سرکاری وظیفہ لینے سے انکار:

عمران سے مروی ہے کہ بیت المال میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی عطا کے اتالیس ہزار درہم باقی تھے انہیں بلایا جاتا مگر وہ انکار کرتے اور کہتے کہ مجھے ان کی حاجت نہیں تا وقتیکہ اللہ تعالیٰ میرے اور بنی مروان کے درمیان فیصلہ نہ کر دے۔

علی بن زید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ حجاج کا کیا حال ہے کہ نہ تو وہ آپ کے ساتھ بدی کرتا ہے نہ آپ کو چھیڑتا ہے اور نہ اذیت دیتا ہے انہوں نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں معلوم سوائے اس کے کہ وہ ایک روز اپنے والد کے ساتھ مسجد میں آیا نماز پڑھی نہ وہ اس کے رکوع کو پورا کرتا تھا نہ سجود کو میں نے ایک مٹھی بھر سنگ ریزے لے کے اسے مارا راوی کا گمان یہ ہے کہ حجاج نے کہا کہ اس کے بعد میں ہمیشہ نماز اچھی پڑھتا تھا۔

شاہی قاصد اور آپ کی شان بے نیازی:

عمران بن عبد اللہ بن طلحہ بن خلف الحضرمی سے مروی ہے کہ عبد الملک ابن مروان نے حج کیا مدینے آیا تو مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک شخص کو سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ انہیں بلائے اور انہیں حرکت نہ دے قاصدان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین دروازے پر کھڑے ہیں آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نہ امیر المومنین کو مجھ سے کوئی حاجت ہے اور نہ مجھے امیر المومنین سے کوئی غرض۔ ان کی جو حاجت مجھ سے ہے وہ پوری ہونے والی نہیں ہے۔

قاصد واپس گیا اور خبر دی تو اس نے کہا کہ ان کے پاس پھر جاؤ اور کہو کہ میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں انہیں حرکت نہ دینا وہ ان کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین کی بات مانئے سعید رضی اللہ عنہ نے اس سے وہی کہا جو پہلے کہا تھا اس پر قاصد نے ان سے کہا کہ اگر امیر المومنین نے آپ کے بارے میں مجھے حکم نہ دے دیا ہوتا تو میں بغیر آپ کا سر لیے نہ جاتا امیر المومنین آپ کے پاس بھیجتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں تو آپ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔

سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ کوئی بھلائی کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمہارے لیے ہے (یعنی میری طرف سے تمہارے ساتھ بھلائی کریں) اور اگر وہ اس کے سوا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی گرہ نہ کھولوں گا (قاعدہ تھا کہ کم روزانو کے درمیان رومال کو پیٹ کے باندھ لیتے کہ اس سے بیٹھنے میں سہارا ملتا اسی کو گرہ کھولنا کہتے) تا وقتیکہ انہیں جو فیصلہ کرنا ہے وہ نہ کر لیں قاصد اس کے پاس آیا اور آگاہ کیا اس نے کہا کہ ابو محمد پر اللہ کی رحمت ہو انہوں نے محض سختی کی وجہ سے انکار کیا۔

عمر بن عاصم نے اپنی حدیث میں اسی سند سے کہا کہ جب ولید بن عبد الملک خلیفہ ہوا تو مدینے آیا۔ مسجد میں ایک شیخ کو دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جمع ہیں۔ پوچھا یہ کون ہیں۔ لوگوں کے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جب وہ بیٹھ گیا تو انہیں بلایا قاصدان

کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المومنین کا حکم مانئے، انہوں نے کہا کہ شاید تم نے میرا نام لینے میں غلطی کی یا شاید انہوں نے تمہیں میرے علاوہ کسی اور کے پاس بھیجا ہو۔

قاصد واپس آیا اور خبر دی تو وہ ناراض ہوا اور ان کے ساتھ (بڑی کا) قصد کیا، اس زمانے میں کچھ لوگ باقی تھے اس کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المومنین وہ اہل مدینہ فقیہ قریش کے شیخ اور آپ کے والد کے دوست ہیں، آپ سے پہلے کسی بادشاہ نے یہ خواہش نہیں کی کہ وہ اس کے پاس آئیں، لوگ اس سے برابر کہتے رہے یہاں تک کہ وہ ان سے باز آیا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عبد الملک بن مروان مدینے آیا، دوپہر کی نیند سے بیدار ہوا تو دربان سے کہا کہ دیکھو مسجد میں اہل مدینہ میں سے کوئی مجھ سے بات کرنے والا ہے، وہ گیا، اتفاق سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اپنے حلقے میں تھے۔ وہ ایسے مقام پر کھڑا ہوا جہاں سے سعید سے دیکھتے تھے اس نے آنکھ اور انگلی سے ان کی طرف اشارہ کیا، پھر پلٹا، مگر سعید رضی اللہ عنہ نے حرکت نہ کی اور نہ اس کے پیچھے روانہ ہوئے، اس نے کہا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ میرا اشارہ سمجھ گئے۔

ولید کے ساتھ ملنے سے انکار:

دربان ان کے قریب آیا اور دوبارہ اشارہ کیا پھر کہا کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ میں آپ کی طرف اشارہ کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا کام ہے، اس نے کہا کہ امیر المومنین بیدار ہوئے ہیں اور مجھ سے کہا کہ مسجد میں دیکھو کوئی مجھ سے بات کرنے والا ہے، آپ امیر المومنین کا حکم مانئے۔ پوچھا کیا اس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے؟ اس نے کہا نہیں، البتہ یہ کہا کہ جاؤ اور دیکھو اہل مدینہ میں سے کوئی ہم سے بات کرنے والا ہے؟ میں نے آپ سے زیادہ خوش ہیئت کسی کو نہیں دیکھا۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ اور اسے خبر دو کہ میں اس سے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

دربان یہ کہتا ہوا گیا کہ مجھے تو یہ بڑھا پاگل معلوم ہوتا ہے۔ عبد الملک کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے مسجد میں سوائے ایک بڑھے کے اور کسی کو نہ پایا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا مگر وہ کھڑا نہیں ہوا، میں نے اس سے کہا کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ دیکھو مسجد میں تمہیں کوئی مجھ سے بات کرنے والا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر المومنین سے بات کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اور مجھ سے کہا کہ امیر المومنین کو خبر کر دو، عبد الملک نے کہا کہ وہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ ہیں، لہذا انہیں چھوڑ دو۔

بنی امیہ کے بارے میں رائے:

ابی بکر بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے جب بنی امیہ کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو وہ کہتے کہ میں ان کے بارے میں وہی کہتا ہوں جو مجھ سے میری رب نے کہلوا لیا ہے کہ ”ربنا اغفر لنا ولاخواننا“ (اے ہمارے پروردگار ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مغفرت کر) یہاں تک کہ وہ آیت پوری کرتے تھے۔

نماز کا خصوصی شغف و اہتمام:

عثمان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ تیس سال سے میں نے اپنے متعلقین میں اذان نہیں سنی (یعنی اذان کے وقت مسجد میں ہوتے تھے)۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں چالیس سال سے نماز سے واپس ہوتے لوگوں سے نہیں ملا۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ چالیس سال سے ان سے نماز باجماعت فوت نہیں ہوئی نہ انہوں نے لوگوں کی گدیاں دیکھیں (یعنی ہمیشہ صف اول میں جگہ لی) عمران نے کہا کہ باوجود اس کے سعید رضی اللہ عنہ بکثرت بازار کی آمد و رفت کرتے تھے۔

ابن شہاب نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ صحرا میں رہتے تو خوب ہوتا۔ میں نے ان سے صحرا کا اس کی زندگی اور اس کی تاریکی کا ذکر کیا، سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تاریکی ہونے پر کیسے گزر ہوگا۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے مکان کے بعد مجھے مدینے میں کسی مکان نے راستہ نہ بھلایا سوائے اس کے کہ میں اپنی بیٹی کے مکان پر کبھی کبھی آجاتا ہوں اور اسے سلام کرتا ہوں۔

پیون بن مہران سے مروی ہے مجھے معلوم ہوا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی عمر کے چالیس سال اس طرح گزر گئے کہ جب مسجد میں آتے تو اپنے متعلقین کو اس طرح پاتے کہ وہ لوگ نماز ادا کر کے مسجد سے باہران کا استقبال کرتے۔

گوشہ نشینی

بشر بن عاصم سے مروی ہے کہ میں نے سعید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے چچا آپ نکل کر اپنی قوم کے ساتھ ہنس نہیں کھاتے (یعنی لطف معاشرت نہیں اٹھاتے) انہوں نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اس سے اللہ کی پناہ کہ میں بچیس یا پانچ نمازیں ترک کروں، حالانکہ میں نے کعب کو کہتے سنا کہ مجھے یہ پسند ہے کہ یہ دودھ اس طرح پانی بن جائے کہ قریش ان گھائیوں میں اونٹوں کی دُموں کے پیچھے جائیں، شیطان تبا کے ساتھ ہے اور وہ دو سے بہت دور ہے (یعنی جماعت اگرچہ پسندیدہ ہے مگر میرے لیے عزت ہی مناسب ہے)۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی آنکھیں دکھنے آئیں، لوگوں نے کہا کہ اے ابو محمد اگر آپ وادی عقیق چلے جاتے اور وہاں سبزے کو دیکھتے تو اس (مرض) میں کمی محسوس کرتے، انہوں نے کہا کہ رات کو اور صبح کو جو حوادث آتے ہیں ان سے بچنے کی کیا تدبیر ہے۔

ابی حازم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے لیالی حرہ (یزید کی لشکر کشی کے زمانے) میں اپنے کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مسجد میں مخلوق خدا میں سے سوائے میرے کوئی نہ تھا، اہل شام گروہ گروہ ہو کر داخل ہوتے اور کہتے کہ اس پاگل بڑھے کو دیکھو، کسی نماز کا وقت نہ آتا کہ میں قبر (نبی صلی اللہ علیہ وسلم) میں اذان کی آواز نہ سنتا ہوں، اذان سننے کے بعد میں آگے بڑھتا اور اقامت کہہ کر نماز پڑھ لیتا، حالانکہ مسجد میں میرے سوا کوئی نہ ہوتا۔

ایام حرہ میں مسجد نبوی میں قیام:

طلحہ بن محمد بن سعید نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایام حرہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ مسجد میں تھے نہ انہوں نے یزید کی بیعت کی اور نہ وہاں سے ہٹے، ان لوگوں کے ساتھ جمعہ بھی پڑھتے اور نماز عید کے لیے بھی جاتے، شامی قتل کر رہے تھے اور لوٹ رہے تھے اور سعید مسجد ہی میں تھے کہ اس سے سوائے رات بھر کے ہٹتے نہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو میں لوگوں کے

محفوظ ہونے تک قبر (نبی ﷺ) سے اذان کی آواز سنتا تھا، جماعت کی خبر مجھے نہیں معلوم۔

ابن حرمہ سے مروی ہے کہ میں نے برد مولائے ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ابن المسیب رضی اللہ عنہ کی نماز اپنے گھر میں کیا تھی، مسجد میں ان کی نماز کو تو ہم جانتے ہیں، انہوں نے کہا کہ واللہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بہت نماز پڑھتے تھے سو اس کے کہ ”ص والقرآن ذی الذکر“ پڑھتے۔

عطاء سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن جب مسجد میں داخل ہوتے تو تا وقتیکہ وہ نماز سے فارغ نہ ہو لیس اور امام واپس نہ ہو لے کوئی بات نہیں کرتے تھے اس کے بعد وہ چند رکعتیں پڑھتے تھے پھر بیٹھنے والوں کی طرف متوجہ ہوتے اور ان سے مسائل پوچھے جاتے تھے۔

تقویٰ و پرہیزگاری:

یزید بن حازم سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ بے درپے روزہ رکھتے تھے جب آفتاب غائب ہو جاتا تو ان کے لیے ان کے گھر سے پانی لایا جاتا اسے وہ پیتے تھے۔

عاصم بن العباس الاسدی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ (اللہ کی) یاد دلاتے تھے اور (اللہ کا) خوف دلاتے تھے۔ عاصم بن العباس سے مروی ہے کہ میں نے ابن المسیب رضی اللہ عنہ کو رات کے وقت اپنی سواری پر قرآن پڑھتے سنا وہ بہت پڑھتے تھے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو (نماز میں) ”بسم اللہ الرحمن الرحیم“ بلند آواز سے پڑھتے سنا۔ عاصم سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ شعر سننا پسند کرتے تھے خود اسے نہیں پڑھتے تھے۔

عاصم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنے ناخن بڑھنے نہ دیتے تھے، میں نے سعید رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی مونچھیں اس طرح کترواتے تھے جو منڈانے کے مشابہ تھا، میں نے انہیں دیکھا کہ جو شخص ان سے ملتا اس سے مصافحہ کرتے۔ میں نے دیکھا کہ بہت ہنسنے کو ناپسند کرتے تھے، جب پیشاب کرتے تو وضو کرتے اور جب وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کے درمیان خلال کرتے تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ انبیاء کے نام پر اپنی اولاد کا نام رکھنا ناپسند کرتے تھے۔ علی بن زید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اپنے کجاوے میں نفل نماز پڑھتے تھے۔

علی بن زید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ (ازار کے اندر) غزنی باندھے ہوتے۔

عمران سے مروی ہے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر کس تعداد میں ہرات کے کرتے دیکھے۔

وہ یہی سفید قیمتی چادریں استعمال کرتے تھے۔ عیدین میں عید الفطر و عید الضحیٰ میں ان کی حرارت آ جاتی۔

عمران بن عبد اللہ الخزاعی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کسی سے جھگڑا نہیں کرتے تھے اگر کوئی انسان ان کی

چادر مانگتا تو اس کی طرف پھینک دیتے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کپڑے پر نماز پڑھنے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بدعت ہے۔
غیبہ جاریہ سعید سے مروی ہے کہ سعید اپنی بیٹی کو (بنات العاج) ہاتھی دانت کی گڑیوں سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے تھے
البتہ ڈھول کی اجازت دے دیتے تھے۔

قنادہ سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو پکارا گیا تو انہوں نے جواب دیا، پھر پکارا گیا تو پھر جواب دیا، سہ بارہ پکارا
گیا تو انہوں نے قاصد کو سنگ ریزے مارے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے کپڑے سے زیادہ کوئی تجارت پسند نہیں تا وقتیکہ اس میں قسمیں نہ واقع ہوں۔

غیب دار کی پردہ پوشی:

عبدالرحمن بن حرمہ سے مروی ہے کہ انہوں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میں نے ایک شخص کو نشے میں پایا، کیا
اس کے متعلق آپ کی رائے میں مجھے یہ گنجائش ہے کہ سلطان تک اس کی شکایت نہ پہنچاؤں۔ سعید رضی اللہ عنہ نے انہیں جواب دیا کہ اگر تم
اسے اپنی چادر میں چھپا سکو تو چھپاؤ۔

عمران بن عبداللہ بن طلحہ الخزاعی سے مروی ہے کہ رمضان میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شربت لایا جاتا، کوئی شخص یہ خواہش نہیں
کرتا تھا کہ وہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس شربت لائے اور وہ اسے پییں اگر ان کے مکان سے شربت لایا جاتا تو وہ اسے پی لیتے
اور اگر ان کے مکان سے کچھ نہیں لایا جاتا تو وہ تا وقتیکہ واپس نہ ہوں کچھ نہیں پیتے تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے درہم کے خردے کہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ فساد فی الارض (زمین
کے اندر فساد) ہے۔

زہری نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ وہ چادر لپیٹ کر نماز پڑھتے تھے، جب سجدے کا ارادہ کرتے تو اس کی
بندش کھول دیتے، سجدہ کرتے پھر لوٹتے تو چادر لپیٹ لیتے۔

عبادت کی حقیقت:

مالک بن انس نے مروی ہے کہ برد مولائے ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ لوگ جو کرتے ہیں
اس سے بہتر آپ نے نہیں دیکھا، سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں برد نے کہا کہ ان میں سے ایک آدمی ظہر پڑھتا ہے پھر
عصر تک برابر اپنے دونوں پاؤں سیدھے کئے نماز پڑھتا رہتا ہے۔ سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے برد تم پر افسوس ہے، یہ عبادت نہیں ہے تم
جانتے ہو کہ عبادت کیا ہے۔ صرف اللہ کے حکم میں غور کرنا اور اللہ کی حرام کی ہولی چیزوں سے بچنا عبادت ہے۔

ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابن مروان کے متعلق رائے:

حکم بن ابی اسحاق سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اپنے مولیٰ سے کہا کہ خوف
خدا کر کے مجھ پر جھوٹ نہ بولنا جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما پر جھوٹ کہا، پھر میں نے اسی مولیٰ سے کہا کہ
مجھے معلوم نہیں کہ ابو محمد کو ابن الزبیر رضی اللہ عنہ زیادہ پسند ہیں یا اہل شام؟ یہ بات سعید نے سن لی، انہوں نے کہا کہ اے عراقی تمہیں دونوں

میں سے کون زیادہ پسند ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما شام سے زیادہ پسند ہیں انہوں نے کہا کیا میں ابھی تمہیں مضبوط نہ پکڑ لوں اور کہوں کہ یہ زبیری ہے میں نے کہا کہ آپ نے مجھ سے دریافت کیا تو میں نے آپ کو بتا دیا لہذا آپ بھی مجھے بتائیے کہ ان دونوں میں آپ کو کون زیادہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں میں نہیں پسند کرتا۔

سلامتی کے لئے دعا:

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ بہ کثرت کہا کرتے تھے "اللَّهُمَّ سَلِّمْ سَلِّمْ" (اے اللہ محفوظ رکھ محفوظ رکھ)۔

فتنة النساء سے بچنے کی تلقین:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں اسی سال کو پہنچ گیا میرے نزدیک عورتوں سے زیادہ کوئی چیز خوفناک نہیں ان کی بیٹائی بھی قریب قریب جاتی رہی تھی۔

عمران بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے عورتوں کے خوف سے زیادہ اپنے نفس پر کسی کا خوف نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو محمد آپ جیسا شخص عورتوں کی خواہش کرتا ہے اور نہ عورتیں اس کی خواہش کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایسا ہی ہے جیسا میں تم سے کہتا ہوں حالانکہ وہ بہت بوڑھے تھے آنکھوں سے پانی بہا کرتا تھا اور کم نظر آتا تھا۔ عبد اللہ بن یزید الہذلی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ مدینے میں ہمیشہ روزہ رکھتے تھے (عمیدین اور) ایام تشریق (۱۱ و ۱۲ و ۱۳ ذی الحجہ) میں روزہ نہیں رکھتے تھے۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عیال کی کمی دو تو نگر یوں میں سے ایک تو نگری ہے۔

ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی بددعا کا اثر:

علی بن زید سے مروی ہے کہ مجھ سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اپنے قائد (اونٹ کی ٹیکل پکڑ کے چلنے والے) سے کہو کہ وہ اس شخص کے چہرے اور اس کے جسم کو دیکھے وہ گیا اور دیکھا تو کالا آدمی تھا واپس آیا تو کہا کہ میں نے ایک جشی کا چہرہ دیکھا جس کا جسم سفید ہے انہوں نے کہا کہ اس شخص نے طلحہ وزبیر علی بن ابی طالب کے گروہ کو گالی دی میں نے منع کیا نہ مانا تو بددعا کی اور کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تیرا منہ کالا کرے۔ اس کے منہ میں ایک پھوڑا نکلا اور چہرہ کالا ہو گیا۔

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے درہم کے خردے کو پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ زمین میں فساد برپا کرنا

ہے۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ ابن المسیب رضی اللہ عنہ سے کتاب اللہ کی کوئی آیت دریافت کی گئی (یعنی اس کی تفسیر) تو سعید نے کہا کہ میں قرآن میں (اپنے رائے سے) کچھ نہیں کہتا مالک نے کہا کہ مجھے قاسم سے بھی اسی طرح کی روایت پہنچی۔

ابن خرمہ سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ قریش کے ایک شخص سے ملے جن کے ہمراہ بارش کی رات میں چراغ تھا انہوں نے ان کو سلام کیا اور کہا کہ اے ابو محمد آپ نے کس طرح رات کی۔ کہا الحمد للہ جب وہ شخص اپنے مکان پر پہنچا تو اندر چلا

گیا اور کہا کہ ہم آپ کے ہمراہ چراغ بھیجتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارے نور کی حاجت نہیں، مجھے اللہ کا نور تمہارے نور سے زیادہ پسند ہے۔

شعائر اسلامی کا احترام و تکریم:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم لوگ (مصحف یعنی قرآن کو) مصحف (چھوٹا سا قرآن) اور مسجد کو مسجد (چھوٹی سے مسجد) ہرگز مت کہو، اس کی تعظیم کرو، جس کی اللہ نے تعظیم کی وہ بزرگ و بہتر ہے۔

ابن حرمہ سے مروی ہے کہ میں قریب صبح نکلا تو ایک نشے والا پایا، اسے گھینٹتے ہوئے اپنے گھر میں لایا، سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر کوئی شخص کسی نشے والے کو پائے تو کیا وہ اسے سلطان کے حوالے کر دے کہ وہ اس پر حد قائم کرے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اسے اپنی چادر میں چھپا سکو تو ایسا کرو۔

میں اپنے گھر واپس آیا اس شخص کو افاقہ ہو گیا تھا، جب اس نے مجھے دیکھا تو میں نے اس میں حیا محسوس کی، اس سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، اگر کل شام کو تم گرفتار کر لیے جاتے تو تمہیں ضرور حد لگائی جاتی (یعنی اسی تاڑیا نے) اور تم لوگوں میں مثل مردے کے ہو جاتے کہ تمہاری شہادت جائز نہ ہوتی، اس نے کہا واللہ میں کبھی اس کا اعادہ نہ کروں گا، ابن حرمہ نے کہا میں نے دیکھا کہ اب تک اس کا حال اچھا ہے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے بھتیجے سے دو درہم (مہر) پر کیا۔

ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نکاح:

عمران بن عبد اللہ الخزاعی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے قریش کے ایک نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کی، شام ہوئی تو بیٹی سے کہا کہ اپنے کپڑے باندھ لو اور میرے ساتھ چلو، انہوں نے اپنے کپڑے باندھ لیے پھر بیٹی سے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھو، بیٹی نے دو رکعت نماز پڑھی اور خود انہوں نے بھی دو رکعت نماز پڑھی، پھر انہوں نے ان کے شوہر کو بلا بھیجا اور بیٹی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں رکھ دیا، کہا کہ انہیں لے جاؤ، وہ انہیں اپنے مکان لے گئے۔

ان کی والدہ نے زوجہ کو دیکھا تو کہا کہ یہ کون ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بیوی سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی بیٹی جن کو انہوں نے میرے حوالے کر دیا، والدہ نے کہا کہ میری صورت تمہاری صورت پر حرام ہے اگر تم اس وقت تک ان کے پاس گئے جب تک کہ میں ان کے ساتھ وہ بناؤ سنگار نہ کر لوں جو قبر بےش کی عورتوں کا کیا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو اپنی والدہ کے سپرد کر دیا۔ ماں نے ان کا سنگار کیا پھر شوہر نے ان سے زفاف کیا۔

عمامہ و دستار:

عبید بن نطاس سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سیاہ عمامہ باندھتے تھے اور اسے اپنے پیچھے چھوڑ دیتے تھے، میں نے ان کے بدن پر تہ بند، طیلسان (جو ایک لباس ہے) اور دو موزے دیکھے۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو عمامہ باندھے ہوئے دیکھا، ان کے سر پر سفید عمامے کے ساتھ باریک ٹوپی تھی، عمامے میں سرخ دھاریاں تھیں اور عمامے کو اپنے پیچھے ایک بالشت لٹکاتے تھے۔

شیم بن نسطاس سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ پر سیاہ عمامہ دیکھا۔ عیشم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عید الفطر و عید الاضحیٰ میں سیاہ عمامہ باندھتے تھے اور اس پر سے سرخ چادر اوڑھتے تھے۔
عثمان بن عثمان رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ ہم نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر سرخ چادر دیکھی۔ عبد اللہ بن یزید البہذلی سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ بسا اوقات نماز میں اپنی تہ بند ڈھیلی کر دیتے تھے اور بسا اوقات اسے باندھ لیتے تھے۔

پوشاک و لباس:

خالد بن الیاس سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک کرتہ دیکھا جو ان کی آدمی بند لیوں تک اور آستینیں ان کی انگلیوں کے کناروں سے نکلی ہوئی تھیں، کرتے پر ایک چادر تھی جو پانچ گز (۵ ہاتھ) اور ایک بالشت کی تھی۔
اسماعیل بن عمران سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ طیلسان لباس پہنتے تھے جس کی گھنڈیاں ریشم کی تھیں۔ اسماعیل سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے بدن پر ایک طیلسان دیکھا جس پر ریشم کی گھنڈیاں تھیں، میں نے کہا کہ آپ کے طیلسان کی گھنڈیاں توریشم کی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسے پائیدار پایا۔
محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو سوائے سفید کے اور کسی رنگ کا کپڑا پہنے نہیں دیکھا۔
سعید بن مسلم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے بدن پر گیرورنگ کا چادرہ اور کرتا دیکھا۔ سعید بن مسلم سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا کہ پا جامہ پہنتے تھے، میں نے سعید رضی اللہ عنہ کے (بالوں میں) پنے دیکھے جن میں وہ مانگ نکالتے تھے۔

شیم بن نسطاس سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عشاء کے وقت پا جامے اور چادر میں آئے۔
اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو اس طرح دیکھا کہ ان کے جسم پر دو ریشم کی چادریں گیرورنگ کی تھیں اور ایک لالے کا کرتا، جس کی آستینوں سے ان کے ہاتھ باہر رہتے تھے۔
ابو معشر سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ پر خز (سوت ریشم ملا ہوا کپڑا) دیکھا۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) سجدے کا نشان نہ تھا۔
محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ اپنی مونچھیں نہیں کترواتے تھے، (ہاں) اسے بہتر طریقے سے کترواتے تھے۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ خضاب نہیں لگاتے تھے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے۔ ابو الغصن سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو سفید سر اور داڑھی والے دیکھا۔

ربیعہ بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان میں بڑھاپے کا تغیر نہیں تھا۔ ابو المقدام

ہشام بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جو تیاں پہنے ہوئے نماز پڑھتے تھے۔
 یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے جو کوئی ایسی بات پوچھی جاتی جو انہیں دشوار ہوتی تو وہ کہتے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔ کیونکہ وہ صالحین کی صحبت میں بیٹھے ہیں۔
 یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے لوگوں کو اس حالت میں پایا کہ کتابوں سے ڈرتے تھے، اگر اس زمانے میں ہم لکھتے ہوتے تو سعید کے علم و رائے سے ہم بہت کچھ لکھ لیتے۔
 یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جب مکتب سے گزرتے تو بچوں کو دیکھ کے کہتے کہ ہمارے بعد یہی لوگ ہوں گے۔

ایام علالت میں نماز کا اہتمام:

عبدالرحمن بن حرمہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو ان کی بیماری کے زمانے میں دیکھا کہ چت لیئے نماز پڑھتے تھے اپنے سر سے سینے تک اشارہ کرتے اور سر تک کچھ نہیں اٹھاتے تھے، سعید نے کہا کہ مریض جب بیٹھنے پر قادر نہ ہو تو اشارہ کرے اور اپنے سر تک کچھ نہ اٹھائے۔
 عبدالرحمن بن حرمہ سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو سخت بیمار تھے چت لیٹ کر اشارے سے ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے انہیں ”والشمس وضعلما“ پڑھتے سنا۔
 عبدالرحمن بن حرمہ سے مروی ہے کہ میں ایک جنازے میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، ایک شخص نے کہا کہ اس کے لیے استغفار کرو، انہوں نے کہا کہ ان کا رجز خواں کیا کہتا ہے میں نے تو اپنے متعلقین کو منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ ان کا رجز خواں رجز پڑھے اور لوگ یہ کہیں کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوگئی، مجھے وہی کافی ہے جسے لے کے پروردگار کے پاس واپس جاؤں۔ میں نے اسے بھی منع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ عودان لے جائیں، کیونکہ اگر میں پاک ہوں تو جو اللہ کے پاس ہے وہ میرے لیے ان کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے (ایک دوسرے طریق سے بھی) اسی کے مثل مروی ہے۔

وصیت اور آخری کلمات:

سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب میری وفات کا وقت آئے تو میں نے اپنے متعلقین کو تین باتوں کی وصیت کی ہے کہ میرے ساتھ رجز خواں نہ چلے نہ ہمراہ آگ ہو اور (تخمیر و تکفین میں) میرے ساتھ جلت کی جائے، کیونکہ اگر میرے پروردگار کے پاس میرے لیے خیر ہے تو وہ اس سے بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔
 ابی حازم سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے مرض موت میں کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میری قبر پر نصب نہ کرنا، نہ مجھے سرخ چادر پراٹھانا اور نہ میرے ساتھ آگ لے چلانا، نہ کسی کو اطلاع کرنا، مجھے وہی کافی ہے جو میرے رب کے پاس مجھے پہنچا دے اور نہ ان کا رجز خواں میرے ساتھ ہو۔

بستر کو قبلہ رخ کرنے کا واقعہ:

عبدالرحمن بن الحارث الحزومی سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ علیل ہوئے، بیماری بہت بڑھ گئی تو عیادت کے لیے نافع بن جبیر بن مطعم آئے ان پر بیہوشی طاری ہو گئی تو نافع بن جبیر بن مطعم نے کہا کہ ان کا بستر قبلہ کے رخ کر دو، لوگوں نے کر دیا، جب افاقہ ہو گیا تو کہا کہ تمہیں کس نے حکم دیا کہ میرا بستر قبلہ کی طرف پلٹ دو، کیا نافع بن جبیر نے تمہیں حکم دیا، نافع نے کہا جی ہاں، سعید نے کہا کہ اگر میں قبلہ و ملت پر نہ ہوا تو تمہارا میرے بستر کو پھیرنا مفید نہ ہوگا۔

نافع بن جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ میں سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، میں نے ان کے بیٹے محمد سے کہا کہ ان کا بستر پلٹ دو اور انہیں قبلہ رخ کر دو۔ سعید نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں اسی پر پیدا ہوا۔ اسی پر مروں گا اور ان شاء اللہ اسی پر اٹھایا جاؤں گا۔

مغیرہ بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان پر غشی طاری تھی، انہیں قبلہ رخ کر دیا گیا، جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ یہ کس نے کیا، کیا میں مرد مسلم نہیں ہوں کہ جہاں کہیں ہوں میرا رخ اللہ ہی کی طرف ہے۔

محمد بن سعید سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ وفات کے وقت جب سخت علیل ہو گئے تو انہیں قبلہ کی طرف پھیر دیا گیا۔ جب افاقہ ہو گیا تو پوچھا کہ میرا بستر کس نے پلٹا؟ قوم خاموش رہی، انہوں نے کہا کہ یہ فعل نافع بن جبیر کا ہے۔ کیا میں اسلام پر نہیں ہوں جہاں کہیں ہوں؟

زرعہ بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ جس روز سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا، کہتے تھے کہ اے زرعہ میں تمہیں اپنے بیٹے محمد پر گواہ بنانا ہوں کہ وہ کسی کو میری اطلاع نہ کریں، مجھے وہی چار آدمی کافی ہیں جو مجھے اٹھا کر میرے رب تک لے جائیں گے اور نہ میرے ساتھ کوئی بلند آواز سے رونے والی ہو جو میرے بارے میں وہ (صفات) بیان کرے جو مجھ میں نہیں ہیں۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ جب سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے دینار چھوڑے اور کہا کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میں نے صرف اس لیے چھوڑے کہ میں ان کے ذریعے سے اپنا دین اور اپنا حسب (ونسب) محفوظ کروں۔

دارقانی سے رحلت:

عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ جس روز سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی میں ان کے پاس موجود تھا۔ میں نے ان کی قبر کو دیکھا کہ اس پر پانی چھڑکا گیا تھا۔

عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کی وفات مدینے میں ۹۴ھ میں ولید بن عبدالملک کی خلافت کے زمانے میں ہوئی، وہ پچھتر سال کے تھے، جس سال سعید کی وفات ہوئی بہ کثرت فقہاء نے انتقال کیا، اس وجہ سے اسے سنۃ الفقہاء کہا جاتا ہے۔

لوگوں نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جامع ثقہ کثیر الحدیث ثبت یعنی مستقل مزاج یا قابل وثوق فقیہ مفتی مامون یعنی جن پر اعتماد تھا کہ وہ جو کچھ فرمائیں گے صحیح فرمائیں گے۔ متنی عالی رتبہ و بلند پایہ شخص تھے۔
عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ:

ابن الاسود بن حارثہ بن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوث بن عدی بن کعب بن ان کی والدہ ام ہشام آمنہ بنت ابی الخیار تھیں ابی الخیار کا نام عبدی لیل بن عبد مناف بن عامر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث تھا۔

عبداللہ بن مطیع کے یہاں اسحاق پیدا ہوئے جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور یعقوب دونوں کی والدہ ریطہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن الولید بن المغیرہ ام عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔

محمد و عمران ان کی والدہ ام عبدالملک بنت عبداللہ بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ تھیں۔ ابراہیم و بریرہ کی والدہ ام ولد تھیں۔ اسماعیل و زکریا کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

فاطمہ کی والدہ ام حکیم بنت عبداللہ بن عبدالرحمن بن زید بن الخطاب تھیں۔ ام سلمہ و ام ہشام ان کی والدہ و دختر خراش بن امیہ بن ربیعہ بن الفضل بن منقذ بن عقیف بن کلیب بن حبشیہ بن خزاعہ تھیں۔

عبداللہ بن مطیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں پیدا ہوئے سقیاء اور ابواء کے درمیان ان کی زمینیں اور کنواں تھا جو بیر (چاہ) ابن مطیع کے نام سے مشہور تھا لوگ وہاں اترتے تھے۔

امیہ بن محمد بن عبداللہ بن مطیع سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مطیع نے قتنہ بن یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدینے سے بھاگنے کا ارادہ کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا تو ان کی جانب نکلے ان کے پاس آئے اور کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اطاعت کا عہد کبھی نہ دوں گا انہوں نے کہا کہ اے میرے چچا کے بیٹے ایسا نہ کرنا کیونکہ میں شاہد ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص اس حالت پر مر جائے کہ بیعت نہ کی ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔

ابی عون سے مروی ہے کہ جب حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے ارادہ کر کے مدینے سے نکلے تو ابن مطیع پر گزرے وہ اپنا کنواں کھود رہے تھے انہوں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ کہاں کا قصد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکے کا ارادہ ہے مزید بیان کیا کہ وہاں جو ان کے شیعہ ہیں انہوں نے لکھا ہے (اور بلایا ہے) ابن مطیع نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ اپنی ذات سے ہمیں مستفید کیجئے اور ان لوگوں کے پاس نہ جائیے۔ حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا لیکن ابن مطیع نے کہا کہ میں نے یہ کنواں کھودا ہے اور آج ہی کا دن ہے کہ ڈول میں کچھ پانی نکلے گا اگر اس میں ہمارے لیے اللہ سے برکت کی دعا کر دیتے (تو بہتر ہوتا) انہوں نے کہا کہ اس کا پانی لاؤ ڈول میں اس کا پانی لایا گیا۔ انہوں نے اس میں سے پیا پھر کلی کی اور اسے کنویں میں ڈال دیا وہ شریں ہو گیا اور بہت پانی ہو گیا۔

عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ ابن مطیع کے پاس سے گزرے وہ اپنے کنویں پر تھے جس کو انہوں نے کھودا تھا حسین رضی اللہ عنہ اپنی سواری سے اترے تو ابن مطیع نے انہیں اٹھالیا اور اپنے تخت پر بٹھا دیا پھر کہا کہ میرے ماں باپ

آپ پر فدا ہوں آپ اپنے آپ کو ہمیں لوگوں میں رکھیے، کیونکہ واللہ اگر وہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے تو یہ قوم ہم لوگوں کو ضرور غلام بنا لے گی۔

اسماعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایام حرہ میں جب یزید بن معاویہ نے ارادہ کر لیا کہ مدینے پر لشکر کشی کرے گا تو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے اس سے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کی اور اسے ان لوگوں پر نرم کیا اور کہا کہ تو ان لوگوں کے سبب سے اپنے آپ ہی کو قتل کرے گا۔

یزید نے کہا کہ میں پہلا لشکر بھیجوں گا اور حکم دوں گا کہ وہ مدینے سے گزرتے ہوئے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی جانب جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے جنگ قائم کی ہے۔ اہل لشکر مدینے کو راستہ بنا میں مگر اہل مدینہ سے قتال نہ کریں، اگر اہل مدینہ فرمانبرداری کا اقرار کر لیں تو انہیں چھوڑ دیں اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف بڑھ جائیں اور اگر وہ لوگ اقرار کرنے سے انکار کریں تو ان سے قتال کریں۔

عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں اسے بہت بڑی گنجائش سمجھا اور قریش کے ان تینوں حضرات عبداللہ بن مطیع و ابراہیم بن نعیم النخام و عبدالرحمن بن عبداللہ ابن ربیعہ کو کہ اہل مدینہ نے اپنا معاملہ ان کے سپرد کر دیا تھا لکھ کر ان لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ جو گزرے اس کا استقبال کرو، سلامت و امن کو نصیبت جانو اور اس کے لشکر کا مقابلہ نہ کرو بلکہ ان لوگوں کو اپنے پاس سے گزر جانے دو، تینوں نے ایسا کرنے سے انکار کیا اور کہا کہ وہ لشکر کبھی ہمارے پاس داخل نہ ہونے پائے گا۔

سعید بن ابی ہند سے مروی ہے کہ اہل مدینہ نے ایام حرہ میں اپنا معاملہ عبداللہ بن مطیع کے سپرد کر دیا تھا۔ وہی اس کے منتظم تھے۔

اسماعیل بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ قریش نے باہم رشک کیا کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر بنائیں۔ اس زمانے میں عبداللہ بن مطیع و ابراہیم بن نعیم و محمد بن ابی جہم و عبدالرحمن بن عبداللہ ابی ربیعہ تھے کہ عمر میں بھی اور شرف میں بھی بے پایاں شہرت رکھتے تھے۔

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا جس نے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہما کو اس وقت منبر پر دیکھا کہ یزید کے مخبر خبیث میں تھے اور لشکر ذی حشب میں انہوں نے منبر پر تقریر کی اور کہا کہ اے لوگو تم پر اللہ سے تقویٰ اور اس کے کام میں کوشش لازم ہے بزدلی اور آپس کی نزاع و اختلاف سے بچو، موت کے لیے تیار رہو واللہ نہ اس سے کوئی مضربے نہ بھاگنے کی جگہ آدمی کا مقابلے پر بہ نیت ثواب قتل ہونا اس سے ضرور بہتر ہے کہ وہ پشت پھیرتے ہوئے قتل کیا جائے اور اس کی گردن پکڑی جائے۔ یہ گمان نہ کرو کہ اس قوم کے پاس زندگی ہے لہذا ان کے لیے اپنی جانیں خرچ کرو، کیونکہ وہ لوگ بھی موت کر ایسا ہی ناپسند کرتے ہیں جیسا تم اسے ناپسند کرتے ہو۔

عیسیٰ بن طلحہ سے مروی ہے کہ میں نے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہما سے کہا کہ یوم الحرہ میں تم نے کیونکر نجات پائی حالانکہ تم نے اہل شام کا جو غلبہ دیکھا وہ دیکھا، عبداللہ نے کہا کہ ہم کہتے تھے کہ اگر وہ لوگ ایک مہینے قیام کریں تب بھی ہم میں سے کسی کو قتل نہ کر سکیں

گے جب ہمارے ساتھ جو کیا گیا وہ کیا گیا، خدا نے انہیں ہم پر غالب کر دیا اور لوگ بھاگے تو مجھے حارث بن ہشام کا شعر یاد آیا:

وعلمت انی ان اقاتل واحدا
اقتل ولا بصر وعدوی مشہدی

”مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر میں نے تنہا قتال کیا تو میں قتل کر دیا جاؤں گا اور میرا موجود ہونا میرے دشمن کو کچھ نقصان نہ پہنچائے گا۔“

میں بھاگ کے چھپ گیا اور ابن الزبیر رضی اللہ عنہما سے جاملا میں پورے طور پر تعجب کرتا تھا کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس وہ لوگ تین مہینے تک کیوں نہیں پہنچے حالانکہ ان پر راستے بند کر دیئے تھے اور منینق نصب کر دی تھی، ان کے متعلق ان لوگوں نے مختلف عمل کیے تھے، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ اس وقت خوارج کے ایک گروہ اور ایک دوسری مختلف جماعت کے علاوہ کوئی دوسرا مدافعت کرنے والا نہ تھا، یوم الحمرہ میں ہمارے ساتھ دو ہزار آدمی مدافعت کرنے والے تھے مگر ہم اہل شام کو ایک دن سے زیادہ نہ روک سکے۔

عیسیٰ بن طلحہ کہتے تھے کہ عبدالملک بن مروان نے عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا کہ یوم الحمرہ میں مسلم بن عقبہ سے بچ کے مکہ میں ابن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مل گئے پھر عراق بھاگے حالانکہ ہر سمت انہوں نے ہم پر بہت زیادتی کی ہے، لیکن میری رائے ان سے اور اپنی قوم کے دوسروں سے درگزر کرنا ہے ان لوگوں کے قتل سے (گویا) میں اپنے آپ ہی کو قتل کروں گا۔

عامر بن عبداللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہما کے تمام امور میں ان کے ساتھ تھے۔ جب ۶۳ھ کے حج سے لوگ لوٹے اور ۶۵ھ شروع ہو گیا تو اہل مکہ نے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے بیعت کر لی، سب سے پہلے ان کی بیعت کرنے والے عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن صفوان اور حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ اور عبید بن عمیر تھے اہل آفاق جو موجود تھے سب نے ان سے بیعت کی۔ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے منذر بن الزبیر کو والی مدینہ اور عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہما کو والی کوفہ اور حارث بن عبداللہ بن ابی ربیعہ کو والی بصرہ بنایا۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ مختار نے ابن ابی عبید سے عراق کی جانب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے بغاوت کرنے پر اصرار کیا اس نے اسے اجازت دے دی۔ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے ابن مطیع کو جو کوفے پر ان کے عامل تھے لکھ کر مختار کا حال جو ان کے نزدیک تھا بیان کیا، مختار کوفے آیا تو ابن مطیع کے پاس آمد و رفت شروع کی، اس نے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کی خیر خواہی ظاہر کی مگر خفیہ طور پر ان کی برائی کے درپے ہوا اور ابن الحنفیہ کی بیعت کی جانب دعوت دی، لوگوں کو ابن مطیع کے خلاف پراہیجیتہ کیا اور ایک جماعت بنا کر روانہ ہوا۔ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس کے لشکر نے ابن مطیع کے لشکر پر حملہ کیا اور لوگوں کو ہلاک کیا، ابن مطیع بھاگ گئے۔

محمد بن یعقوب بن عقبہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن مطیع کو اطلاع دی گئی کہ کوفے پر مختار کی نیت خراب ہو گئی ہے تو انہوں نے ایاس بن المضارب العجلی کو جو ابن مطیع کے شہنشاہ تھے اس کی جانب بھیجا، انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور محل کو لائے راستے میں شیعہ اور موالی مل گئے۔ ان لوگوں نے اسے چھڑا لیا، ایاس بن المضارب قتل کر دیئے گئے اور ان کے ساتھ بھاگ گئے۔

ابن مطیع نے راشد بن ایاس بن المضارب کو شہنشاہ بنایا، مختار نے اپنے ساتھیوں میں ایک شخص کو صبیحہ کی ایک جماعت کے

بمراہ ان کی جانب روانہ کیا اس نے انہیں بھی قتل کر دیا اور راشد کا سر مختار کے پاس لایا پھر جب عبداللہ بن مطیع نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس شرط پر اپنی جان و مال پر امان طلب کی کہ وہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس چلے جائیں گے مختار نے انہیں پناہ دے دی اور وہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس چلے گئے۔

ام بکر بنت المسور سے مروی ہے کہ ابن مطیع بغیر امان لیے بھاگے مختار نے انہیں تلاش نہیں کیا اور کہا کہ میں تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کا فرمانبردار ہوں ابن مطیع کیوں چلے گئے۔

ریاح بن مسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن مطیع نے عمر بن سعد ابن ابی وقاص سے کہا کہ تم نے ہمدان اور رے کو اپنے بیٹے کے قتل پر اختیار کر لیا۔ عمر نے کہا کہ وہ ایسے امور ہیں جن کا فیصلہ آسمان سے ہو چکا تھا میں نے قتل جنگ اپنے چچا کے بیٹے سے عذر کیا مگر انہوں نے نہ ماننا تھا نہ مانا جب ابن مطیع نکلے اور مختار سے بھاگے تو مختار اپنے ساتھیوں کو عمر بن سعد کے مکان پر لے گیا انہیں ان کے مکان میں قتل کر دیا اور ان کے بیٹے کو بھی بہت بری طرح قتل کیا۔

عبداللہ بن ابی فروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب ابن مطیع کو فہ سے نکلے تو ان کے پیچھے مختار نے عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے نام ایک خط بھیجا جس میں اس نے ابن مطیع کی شکایت کی انہیں بزدل بنایا اور کہا کہ میں آپ کا فرمانبردار ہو کر کونے آیا یہاں عبداللہ بن مطیع کو بنی امیہ کے معاملے میں چشم پوشی کرنے والا پایا آپ کی بیعت کا بار اپنی گردن پر لینے کے بعد مجھے اس کی گنجائش نہ تھی کہ میں انہیں اس حالت پر برقرار رکھتا وہ کونے سے چلے گئے اور میں اپنی جانب سے آپ کی فرمانبرداری پر ہوں۔

ابن مطیع ابن الزبیر کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو اس کے خلاف خبر دی کہ وہ ابن الحنفیہ کی بیعت کی دعوت دیتا ہے مگر ابن الزبیر نے ان کا قول قبول نہ کیا اور مختار کو لکھا کہ میرے پاس یہ کثرت تمہارے خلاف وہ امر بیان کیا گیا کہ میں نے گمان کیا کہ تم اس سے بری ہو لیکن قلب کے لیے یہ ضروری ہے کہ لوگ جو کچھ کہیں وہ اس میں واقع ہو جائے تم نے جب اپنی بہترین رائے کی طرف رجوع کیا تو ہم تم سے قبول کرتے ہیں اور تمہاری تصدیق کرتے ہیں ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اسے کونے کے لوگوں پر والی مقرر کر دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد عبداللہ بن مطیع رضی اللہ عنہما کے میں عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مقیم رہے یہاں تک کہ ان کی وفات عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے قتل سے کچھ ہی پہلے ہوئی۔

عبدالرحمن بن مطیع رضی اللہ عنہما:

ابن الاسود بن حارث بن نھلہ بن عوف بن عبید بن عتوج بن عدی بن کعب ان کی والدہ ام کلثوم بنت معاویہ بن عروہ بن صخر بن عیمر بن نفاثہ بن عدی ابن الدیل بن بکر تھیں۔

عبدالرحمن بن مطیع کے یہاں ہشام پیدا ہوئے جن کا سوائے عورتوں کے کوئی پسماندہ نہ تھا اور محمد اکبر و مطیع و عبدالملک و محمد اصغر ان سب کی والدہ ام سلمہ بنت مسعود بن الاسود بن حارثہ بن نھلہ تھیں۔

عبدالرحمن بن مطیع کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ ان دونوں کے بھائی۔

سليمان بن مطيع رضي الله عنه:

ابن الاسود بن حارث بن نضله بن عوف بن عبید بن عوتج بن عدی بن کعب ان کی والدہ ام ہشام آمنہ بنت ابی الحیار تھیں۔
ابی الحیار کا نام عبد یلیل بن عبد مناف بن عامر بن عوف بن کعب بن عامر بن لیث تھے۔ سلیمان بن مطیع کے یہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ بنی نصر میں سے کوئی تھیں۔ سلیمان بن مطیع یوم الجمل میں مقتول ہوئے۔
عبدالرحمن بن سعید رضي الله عنه:

ابن یزید بن عکک بن عامر بن مخزوم ان کی والدہ ام عبیداروی بنت عرک بن عمرو بن قیس بن سوید بن عمرو بن عدی میں سے تھیں عبدالرحمن بن سعید کے یہاں عثمان بن ابوبکر و سعید و عمر پیدا ہوئے ان کی والدہ ربیعہ بنت یزید بن عبداللہ ابن عمرو بن حبیب بن عتاب بن رباب بن عیس میں سے تھیں۔

عباس و خالد و یحییٰ ان کی والدہ ام الحکم بنت بلعاء بن نہیک بن معاویہ ابن الوحید بنی عامر کی تھیں۔ عکرمہ ان کی والدہ ام الفضل بنت عکرمہ بن ربیعہ بنی بلال میں سے تھیں۔

محمد جو ام ولد سے پیدا ہوئے تھے ام حکیم کی والدہ عاتکہ بنت سعد بن الاشی خزاعہ کے بنی المصطلق میں سے تھیں۔
عبدالرحمن کی کنیت ابو محمد تھی۔ ۱۰۹ھ میں بھرا اسی سال وفات ہوئی حدیث میں ثقہ تھے۔

عمرو بن عثمان رضي الله عنه:

ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمزہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن ثعلبہ بن لوی ابن عامر بن غنم بن وہان بن منہب بن دوس تھیں۔
عمرو بن عثمان رضي الله عنه کے یہاں عثمان پیدا ہوئے جو لا ولد مر گئے اور خالد دونوں کی والدہ رملہ بنت معاویہ بن ابی سفیان بن امیہ تھیں۔

عبداللہ اکبر بن عمرو جو المطرف تھے ان کی والدہ حفصہ بنت عبداللہ بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه تھیں۔ عثمان اصغر بن عمرو ان کی والدہ بنت عمارہ بن الحارث بن عوف بن ابی حارثہ بن مرہ بن ثبہ بن غیظ بن مرہ تھیں۔ عمر بن عمرو مغیرہ ابو بکر و عبداللہ اصغر اور ولید کئی ام ولد سے تھے۔ عاتکہ و ام سعید ایک ام ولد سے تھیں۔

عمرو نے اپنے والد اور اسامہ بن زید رضي الله عنه سے روایت کی ہے ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔ سعید المقبری سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم کے جن فرزندان صحابہ رضي الله عنهم کو سیاہی سے خضاب کرتے دیکھا ان میں سے عمرو بن عثمان بن عفان بھی تھے۔

عمر بن عثمان رضي الله عنه:

ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمزہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن ثعلبہ بن لوی ابن عامر بن غنم بن وہان بن منہب بن دوس تھیں۔

عمر بن عثمان رضی اللہ عنہما کے یہاں زید و عاصم ام ولد سے پیدا ہوئے۔ عمر بن عثمان نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے روایت کی ان سے زہری نے روایت کی مدینے میں ان کا مکان تھا، قلیل الحدیث تھے۔

ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما:

ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی والدہ ام عمرو بنت جندب بن عمرو بن حمہ بن الحارث بن رفاعہ بن سعد بن ثعلبہ بن لوی بن عامر بن غنم بن وہمان بن منہب بن دوس تھیں۔

ابان بن عثمان کے یہاں سعید پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیت تھی ان کی والدہ بنت عبد اللہ بن عامر بن کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس تھیں۔

عمر و عبد الرحمن و ام سعید ان کی والدہ ام سعید بنت عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام تھیں۔ عمر اصغر و مروان، اور ام سعید صغریٰ ام ولد سے تھیں۔

محمد بن عمر نے اپنے بعض اصحاب سے روایت کی کہ یحییٰ بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ عبد الملک بن مروان کی جانب سے مدینے پر عامل تھے ان میں حماقت تھی عبد الملک کے پاس بطور وفد کے عبد الملک کی بغیر اجازت گئے۔ عبد الملک نے کہا کہ تمہیں بغیر میری اجازت کے میرے پاس کیا چیز لائی، تم نے مدینے پر کس کو عامل بنایا انہوں نے کہا کہ ابان بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کو اس نے کہا لا محالہ تم وہاں واپس نہ جاؤ عبد الملک نے ابان کو مدینے پر برقرار رکھا اور انہیں اس پر ان کی عہدہ داری کے متعلق لکھ دیا۔

ابان نے عبد اللہ بن قیس بن مخرمہ کو قضاء سے معزول کر دیا اور نوفل بن مساحق کو قضائے مدینے کا والی بنایا ابان کی ولایت مدینے پر سات سال رہی اسی میں دو سال انہوں نے لوگوں کو حج کرایا انہیں کی ولایت کے زمانے میں جابر بن عبد اللہ اور محمد ابن الحنفیہ کی وفات ہوئی۔ بحیثیت والی کے ان دونوں پر نماز پڑھی اس کے بعد عبد الملک بن مروان نے ابان کو مدینے سے معزول کر دیا اور ہشام بن اسماعیل کو اس کا والی بنایا۔

خارجہ بن الحارث سے مروی ہے کہ ابان کے برص (سفید داغ) بہت تھے ہاتھ میں جس جس جگہ وہ تھا اسے رنگتے تھے چہرے کے داغ البتہ نہیں رنگتے تھے محمد بن عمر نے کہا کہ ان میں شدت سے بہرہ پین تھا۔

بلال بن ابی مسلم سے مروی ہے کہ میں نے ابان بن عثمان کی آنکھوں کے درمیان تھوڑا سا سجد سے کا نشان دیکھا۔

داؤد بن سنان مولاے عمر بن تمیم الحکمی سے مروی ہے کہ میں نے ابان بن عثمان کو دیکھا کہ داڑھی زرد رنگتے تھے۔ داؤد بن

سنان سے مروی ہے کہ میں نے ابان بن عثمان کو دیکھا کہ سر اور داڑھی مہندی سے زرد رنگتے تھے۔

حجاج بن فرافصہ نے ایک شخص سے روایت کی کہ میں ابان بن عثمان کے پاس گیا ابان نے کہا کہ جس نے صبح کے وقت "لا الہ الا اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لاحول و لا قوۃ الا باللہ" کہا تو اس روز ہر بلا سے محفوظ رہے گا اس زمانے میں ابان کو فالج تھا انہوں نے کہا کہ حدیث اسی طرح ہے جس طرح میں نے تم سے بیان کی، مگر جس روز میں اس میں مبتلا ہوا میں نے اسے کہا تھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابان اپنی وفات سے ایک سال قبل فاج میں مبتلا ہوئے کہا جاتا ہے کہ ابان کو مدینے میں فاج کی شدت کی وجہ سے فاج ہوا، وفات مدینے میں یزید بن عبد الملک کے زمانے میں ہوئی ابان نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ ثقہ تھے اور ان کی احادیث ہیں۔

سعید بن عثمان رضی اللہ عنہما:

ابن عفان بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ابن عبد مناف، ان کی والدہ فاطمہ بنت الولید بن عبد شمس بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ فاطمہ کی والدہ اسماء بنت ابی جہل بن ہشام بن المغیرہ تھیں اور اسماء کی والدہ اروی بنت ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس تھیں، اروی کی والدہ رقیہ بنت الحارث ابن عبید بن عمر بن مخزوم تھیں اور رقیہ کی والدہ رقیہ بنت اسد بن عبد العزی بن قسی تھیں، رقیہ کی والدہ خالدہ بنت ہاشم بن عبد مناف بن قسی تھیں۔

سعید بن عثمان کے یہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ رملہ بنت ابی سفیان ابن حرب بن امیہ تھیں، وہ قلیل الحدیث تھے۔ حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عوف بن عبد عوف بن الحارث بن زہرہ بن کلاب، ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قسی تھیں، ام کلثوم کی والدہ اروی بنت کریم بن ربیعہ بن حبیب بن عبد شمس بن عبد مناف ابن قسی اور اروی کی والدہ ام حکیم البیضاء بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قسی تھیں، ام حکیم البیضاء کی والدہ فاطمہ بنت عمرو بن عائد بن عمران بن مخزوم اور فاطمہ کی والدہ صخرہ بنت عبد بن عمران بن مخزوم تھیں، صخرہ کی والدہ صخرہ بنت عبد بن قسی بن کلاب اور صخرہ کی والدہ سلمی بنت عامرہ بن عمیرہ بن ودیعہ بن الحارث بن فہر تھیں۔ حمید کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔

حمید بن عبد الرحمن کے یہاں ابراہیم پیدا ہوئے جن کا کوئی پسماندہ نہ تھا اور مغیرہ و حبانہ کبریٰ و ام کلثوم و ام حکیم ان سب کی والدہ جویریہ بنت ابی عمرو بن عدی بن علاج بن ابی سلمہ اشجی تھیں جو ان لوگوں کے حلیف تھے۔ عبد اللہ پیدا ہوئے ان کی والدہ قریبہ بنت محمد بن عبد اللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ ابن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ عبد اللہ اصغر و بلال و عونہ و حکیمہ صغریٰ و برکیہ ایک ام ولد سے تھیں۔

عبد الملک ایک ام ولد سے تھے اور عبد الرحمن بن حمید دوسری ام ولد سے تھے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے رمضان میں عمرو عثمان رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ شب تاریک کو دیکھتے تو مغرب کی نماز پڑھتے اس کے بعد اظفار کرتے۔

حمید بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ عمرو عثمان رضی اللہ عنہما رمضان میں مغرب کی نماز پڑھتے انہوں نے ہمیں نے دیکھا، نہیں کہا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ان دونوں حدیثوں میں ہمارے نزدیک مالک کی حدیث زیادہ ثابت ہے۔ حمید نے عمر کو نہ دیکھا نہ ان سے کچھ سنا، شاید انہوں نے عثمان سے سنا ہوا اس لیے کہ وہ ان کے ماموں تھے اور وہ ان کے پاس اسی طرح جاتے تھے جس طرح ان کے چھوٹے بڑے لڑکے ان کے پاس جاتے تھے انہوں نے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل اور معاویہ بن ابی سفیان اور ابو ہریرہ اور

نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے ان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ تھیں۔ ثقہ و عالم و کثیر الحدیث تھے۔ حمید بن عبد الرحمن کی وفات عمر تہتر سال ۹۵ھ میں مدینے میں ہوئی۔

محمد بن سعد نے کہا کہ میں نے کسی کو بیان کرتے سنا کہ ان کی وفات ۱۰۵ھ میں ہوئی یہ غلط و خطا ہے اور ممکن نہیں ہے کہ اس طرح ہونہ ان کی عمر کے حساب سے اور نہ ان کی روایت کے حساب سے ۹۵ھ زیادہ صحیح اور صواب کے قریب تر ہے واللہ اعلم۔
ابوسلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ بن کلاب ابوسلمہ ہی عبد اللہ اصغر تھے ان کی والدہ تماضر بنت الاصح بن عمرو بن ثعلبہ بن الحارث ابن حصن بن ضمضم بن عدی بن خباب بن بمل قضاء کی شاخ کلب میں سے تھیں وہ پہلی کلبیہ تھیں جن سے قرشی نے نکاح کیا۔

ابوسلمہ بن عبد الرحمن کے یہاں سلمہ پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیت تھی اور تماضر پیدا ہوئیں۔ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

حسن و حسین و ابو بکر و عبد الجبار و عبد العزیز و نائلہ و سالمہ ان سب کی والدہ ام حسن بنت سعد بن الاصح بن عمرو بن ثعلبہ بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدی بن خباب کلب قضاء میں سے تھیں۔
عبد الملک و ام کلثوم صغریٰ کی والدہ ام ولد تھیں۔

ام کلثوم کبریٰ جن سے بشر بن مروان بن الحکم نے نکاح کیا اور ان سے ان کے یہاں اولاد ہوئی ام کلثوم کی والدہ ام عثمان بنت عبد اللہ بن عوف تھیں۔

ام عبد اللہ و تماضر صغریٰ و انشاء ان کی والدہ بریبہ بنت عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مکمل بن عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں۔ عمر بن ابی سلمہ جن کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ سعید بن العاص بن امیہ جب پہلی مرتبہ معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے والی مدینہ ہوئے تو انہوں نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن بن عوف کو قاضی مدینہ بنایا سعید بن العاص معزول کر دیئے گئے اور مروان دوبارہ والی مدینہ ہوا تو اس نے ابوسلمہ بن عبد الرحمن کو قضاء سے معزول کر دیا اور ان کے بھائی مصعب بن عبد الرحمن بن عوف کو شہنشاہ اور قضاء کا حاکم بنایا۔

محمد بن عبد اللہ بن ابی یعقوب سے مروی ہے کہ بشر بن مروان کی امارت کے زمانے میں ابوسلمہ بن عبد الرحمن ہم لوگوں کے پاس بصرہ آئے خوبصورت آدمی تھے چہرہ گویا ہر قلی دینار تھا۔

شعیب سے مروی ہے کہ کوفے میں ابوسلمہ بن عبد الرحمن ہمارے پاس آئے میرے اور ابو بردہ کے درمیان چلنے لگے تو ہم نے ان سے کہا کہ تم نے اپنے شہر میں جن لوگوں کو چھوڑا ان میں سب سے زیادہ فقیہ کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو تم دونوں کے درمیان ہے۔

یونس بن یوسف سے مروی ہے کہ ابوسلمہ نے مقام عرج میں ایک بلی خریدی حالانکہ بحالت اجرام تھے بعد میں اسے ذبح کر

ڈالنا سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ چھوٹے ہیں بڑے ان سے زیادہ فقیہ ہیں۔

ابی سلمہ سے مروی ہے کہ وہ مہندی اور نیل کا خضاب اتنا کرتے تھے کہ قائم رہتا تھا (یعنی بال سفید نہیں ہونے دیتے تھے)۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ وہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن کو اپنے سر اور داڑھی میں مہندی کا خضاب لگاتے دیکھتے تھے۔ ابراہیم بن سعد بن ابراہیم نے والد سے روایت کی کہ انہوں نے ابوسلمہ بن عبدالرحمن کو سیاہی سے خضاب کرتے دیکھا۔
معن بن عیسٰی نے دوبارہ اسی حدیث کو اسی سند سے بیان کیا کہ انہوں نے ابوسلمہ کو سسے کا خضاب کرتے دیکھا ان کا نام عبداللہ تھا۔ سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ ابوسلمہ سسے کا خضاب کرتے تھے۔

محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ انہوں نے ابوسلمہ پر زرد رنگ کے خز (سوت ریشم ملے ہوئے کپڑے) کی چادر دیکھی۔
ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گواہ بناتے ہوئے سنا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اے حسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو اے اللہ روح القدس سے ان کی تائید کر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ابوسلمہ نے اپنے والد (عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ) اور زید بن ثابت اور ابی قتادہ اور جابر بن عبداللہ ابی ہریرہ اور ابن عمر اور عبداللہ ابن عمرو اور ابن عباس اور عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے ثقہ و فقیہ و کثیر الحدیث تھے۔
ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات بہتر سال کی عمر میں بجد خلافت ولید بن عبدالملک ۹۴ھ میں ہوئی یہ ان لوگوں کے قول سے زیادہ ثابت ہے جو کہتے ہیں کہ ان کی وفات یہاں میں ہوئی۔
مصعب بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ کنیت ابو زرارہ تھی ان کی والدہ ام حریث بہراء کے قیدیوں میں سے اور قضاہ کے قبیلے میں سے تھیں۔

مصعب بن عبدالرحمن کے یہاں زرارہ پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیت تھی اور عبدالرحمن ان دونوں کی والدہ لیلی بنت الاسود بن عوف ابن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں۔ مصعب بن مصعب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام الفضل ان کی والدہ ام سعید بنت الحارث بن عمرو تھیں۔

فاطمہ وام عون دونوں کی والدہ ام کلثوم بنت عبید اللہ بن شہاب بن عبداللہ ابن الحارث بن زہرہ تھیں۔ لوگوں نے بیان کیا کہ جب مروان بن الحکم خلافت معاویہ کے زمانے میں دوبارہ والی مدینہ ہوا تو اس نے مصعب بن عبدالرحمن کو سخت اور مدینے کا قاضی بنایا جو مشکوک ہوتے وہ ان پر سخت تھا۔ والیان مدینہ ہی قاضیوں کا انتخاب کرتے۔ اور انہیں مقرر کرتے۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ مصعب بن عبدالرحمن بن عوف عبداللہ ابن الزبیر سے مل گئے اور انہیں کے ساتھ رہے۔ عمرو بن الزبیر جب عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے جنگ کے ارادے سے آئے تو عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے مصعب بن

عبدالرحمن بن عوف کو ایک جماعت کے ہمراہ ان کی جانب روانہ کیا ان کے ساتھی ان سے جدا ہو گئے اور عمر و گرفتار ہو گئے یہ اس لیے ہوا کہ عمر و بھاگ کر ابن عوف کے مکان میں گھس گئے اسے بند کر لیا تو مصعب بن عبدالرحمن نے اسے گھیر لیا۔

شرحبیل بن ابی عوف نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے حصین بن نمیر کی جنگ میں لوگوں کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ مسور نے وہ ہتھیار نکالے جنہیں مدینے سے لائے تھے ہم لوگ اس طرح قتال کر رہے تھے کہ مسور پر ان کے ہتھیار تھے اور مصعب بن عبدالرحمن لوگوں کو بہت سختی سے پشت کی طرف سے بڑھا رہے تھے۔

ابن نمیر کے ساتھیوں نے حملہ کر کے ہمیں دھکیل دیا تو مسور نے مصعب بن عبدالرحمن سے کہا کہ اے میرے ماموں کے فرزند کیا تم اس غلبے کو نہیں دیکھتے جو ان لوگوں نے ہم پر حاصل کیا ہے؟ پوچھا اے ابو عبدالرحمن تمہاری کیا رائے ہے جواب دیا کہ اگر ہم لوگ کمین گاہ میں چھپیں تو شاید اللہ ہمیں ان پر فتح دے، ہمراہ منتخب بہادروں کو لے لو۔

مصعب سو خوارج کے ہمراہ ان لوگوں کے لیے کمین گاہ میں چھپے صبح کے وقت روانہ ہوئے ان لوگوں نے وہ کامیابی حاصل کی جو وہ لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ مصعب نے اپنے ساتھیوں سے ان کو گھیر لیا۔ ان میں سے سوائے ایک شخص کے جو بھاگ گیا اور کوئی نہ بچا۔ یہ خبر مسور کے پاس آئی تو وہ اس سے سرور ہوئے۔

ابی عوف سے مروی ہے کہ میں مسور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا مجھے اس سے زائد ابن صفوان کے متعلق نہ معلوم ہوا جو کہتے تھے کہ اے ابو عبدالرحمن اس قوم کے ساتھ جو ہم پر غالب تھے مصعب نے جو کچھ کیا اس نے ہمیں سرور کر دیا، مسور نے کہا کہ وہ سب کے سردار ہیں، اے اللہ مصعب کو ہمارے لیے زندہ رکھ کیونکہ وہ ہمارے ساتھیوں میں سب سے زیادہ کافی اور سب سے زیادہ ہمارے دشمن کے ہلاک کرنے والے ہیں پھر مسور نے کہا کہ وہ ویسے ہی ہیں۔

یحییٰ بن عباد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے حصین بن نمیر کی جنگ میں ایک روز اپنے کو اس حالت میں دیکھا کہ ابن نمیر نے ہماری جانب بہت سے ہتھیار والے لشکر روانہ کیا جس میں عبداللہ بن مسعدہ الفزازی بھی تھا ان لوگوں نے بہت بری اور نہایت خراب طریقے کی بات ہم سے حاصل کی۔

میں نے والد کو ان لوگوں پر غضبناک دیکھا انہوں نے کہا کہ جنگ میں یہ کون سا طریقہ ہے یہ تو عورتوں کا فعل ہے۔ مصعب سے کہا کہ اے ابو زرارہ ہم لوگوں کے ساتھ حملہ کرو، مصعب نے اس طرح حملہ کیا کہ گویا وہ حملہ آور اونٹ ہیں والد نے بھی حملہ کیا اور میں بھی ساتھ ہو گیا۔ ایک جماعت ہمارا قصد کیے آ رہی تھی۔

میں نے تلواروں کو دیکھا کہ تھوڑی رُکی رہیں آدمیوں کی کھوپڑیاں اور ان کے ہاتھ گویا گلو یوں کے نکلنے تھے یہاں تک کہ ہم لوگ عبداللہ بن مسعدہ کے قریب پہنچ کر پہنچ گئے، مصعب نے اسے ایسی کاری ضرب ماری کہ تلوار اس کی زرہ کاٹ کے ران تک پہنچ گئی، ابن ابی ذرّاع نے اسے دوسری جانب سے تلوار ماری انہوں نے اس کے ایک دوسرے مقام کو زخمی کر دیا۔

مجھے معلوم نہ ہوا کہ ہم لوگوں نے اس کے بعد اسے اپنی جانب نکلتے دیکھا وہ مجروح ہو کر اپنے لشکر میں مقیم رہا تا آنکہ لوگ واپسی کے لیے پلٹے۔

شرعیل بن ابی عمون نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم اوروں کے قتل کیے ہوئے لوگوں سے مصعب بن عبد الرحمن کے قتل کیے ہوئے لوگوں کو پہچان لیتے تھے یہ امتیاز مصعب کے جسٹ و خیر سے قائم ہو جاتا تھا (جو بحالت مقابلہ ان سے نمایاں ہوتا) میں نے اس مقام کو دیکھا ہے جہاں اس روز ابن سعد الفزازی کھڑا ہو کر قاتل کر رہا تھا جب لوگ واپس ہوئے تو میں نے اہل شام کے مقتولین کو شمار کیا چودہ مقتول پائے ان میں سے سات کو مصعب بن عبد الرحمن نے قتل کیا تھا جن کو ہم جسٹ و خیر سے پہچانتے تھے۔ یہ ان کا اچھلنا کو دنا تھا۔

مسلمہ بن عبد اللہ بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اور ان کے ساتھیوں نے حصین بن نمیر کے ساتھیوں میں سے بہتوں کو قتل کر دیا، لیکن جیسے ہی ان کا کوئی آدمی مقتول ہوتا تھا وہ دفن کر دیا جاتا تھا کوئی مقتول نظر نہ آتا تھا۔ راوی کہتے تھے کہ جس روز غلبہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کو ہو مصعب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما نکلے پانچ آدمیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ واپس آئے تو اس طرح تلوار خمیدہ تھی کہنے لگے:

انا النور وھا بیضا و نصدرھا حمرا و فیھا انحاء بعد تقویم

”ہم تلواروں کو سفید لے جاتے ہیں اور سرخ واپس لاتے ہیں جن میں راستی کے بعد کئی پیدا ہو جاتی ہے۔“

والد نے کہا کہ مصعب کی ایک ہی ضرب ایسی ہوتی تھی کہ مضروب کے خاندان میں تینہی پیدا کر دیتی تھی۔ شرعیل بن ابی عمون نے والد سے روایت کی کہ جب مسور کے رخسار سے اور ان کی بائیں کینٹی پر پتھر لگا تو ان پر غشی طاری ہو گئی، ہم نے انہیں اٹھالیا، ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو خبر ہوئی تو وہ بھی ہمارے پاس دوڑے ہوئے آئے اور ان کے اٹھانے والوں میں ہو گئے مصعب بن عبد الرحمن بن عوف اور عبید بن عمیر نے بھی ہمیں پالیا۔ مسور مر گئے تو ان لوگوں نے ان کا انتظام کیا اور انہیں دفن کیا اس کے تھوڑے ہی زمانے کے بعد مصعب بن عبد الرحمن کی بھی وفات ہو گئی وہ اور حصین بن نمیر اب تک مکے ہی میں تھے۔

مسور بن مخرمہ اور مصعب بن عبد الرحمن کی وفات ہو گئی تو ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے لیے دعوت (بیعت) ظاہر کی لوگوں نے ان سے بیعت خلافت کر لی اس کے قبل وہ لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے کہ خلافت لوگوں کے مشورے سے ہوگی۔ مسور و مصعب کی وفات سے قبل ان کا شعار ”لا حکم الا للہ“ (سوائے اللہ کے کسی کی حکومت نہیں) تھا۔

مصعب بن عبد الرحمن کی وفات ۶۴ھ میں مکے میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ ان کی والدہ فاطمہ بنت مطیع بن الاسود بن حارثہ بن نصلہ بن عوف بن عبید بن عویض بن عدی بن کعب تھیں۔

طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کے یہاں محمد پیدا ہوئے جن سے ان کی کنیت تھی اور عائکہ اور طیلبہ ان سب کی والدہ ام حسن بنت ابی اہلیہ حارث بن عباس بن جابر بن عمرو بن حبیب بن مرو بن شیبان بن محارب بن نہر تھیں۔ عمران ان کی والدہ ام ابراہیم بنت المسور بن مخرمہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں ام ابراہیم کی والدہ جویریہ بنت عبد الرحمن بن عوف تھیں۔

ام عبداللہ ان کی والدہ امۃ الرحمن بنت المسور بن مخرمہ تھیں۔

ابراہیم وام ابراہیم وام ایبہا وریحہ ان سب کی والدہ ہند بنت عبدالرحمن ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھیں۔

عبداللہ ان کی والدہ فاختہ بنت کلیب بن جزئی بن معاویہ بن خفاجہ بن عمرو بن عقیل تھیں۔

عمر ان کی والدہ ام ولد تھیں ایک اور بیٹی تھیں جن سے مروان بن محمد بن مروان بن الحکم نے اپنی خلافت سے پہلے نکاح کیا تھا وہ انہیں کے پاس وفات پا گئیں۔

طلحہ بن عبداللہ بن عوف والی مدینہ تھے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ جب ان کا ذکر کرتے تو کہتے کہ ہمارا کوئی والی ان کے مثل نہیں ہوا بڑے سخی و کریم تھے۔

فرزدق (شاعر) مدینے میں آیا۔ اس نے ان کی اور دوسرے قریش کی مدح کی تھی پہلے طلحہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی تو انہوں نے اسے ایک ہزار دینار دیئے پھر وہ دوسروں کے پاس آیا تو لوگ پوچھنے لگے کہ طلحہ نے اسے کتنا دیا کہا گیا کہ ایک ہزار دینار وہ لوگ بھی اس سے کم دینا پسند نہ کرتے تھے فرزدق کی زبان پر وہ اعتراض کرتے اور اسے برداشت کرتے جو اسے طلحہ نے دیا تھا کہا جاتا تھا کہ طلحہ نے لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیا۔

طلحہ کی یہ حالت تھی کہ جب ان کے پاس مال ہوتا تو اپنے دونوں دروازے کھول دیتے احباب و اغیار انہیں گھیر لیتے سب کو کھلاتے انعام دیتے اور سواری عطا کرتے جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو اپنے دروازے بند کر دیتے ان کے پاس کوئی نہ آتا۔ بعض متعلقین نے ان سے کہا کہ دنیا میں آپ کے احباب سے بدتر کوئی نہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس کچھ ہوتا ہے تو وہ لوگ آتے ہیں اور جب کچھ نہیں ہوتا تو نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ان سے بہتر کوئی نہیں اگر یہ لوگ ہمارے پاس تنگی کے وقت آتے تو ہم یہ قصد کرتے کہ ان کے لیے تکلف برداشت کریں جب وہ لوگ ہمارے پاس کچھ آنے تک رکھے تو یہ ان کی نیکی و احسان ہے۔

طلحہ نے اپنے چچا عبدالرحمن بن عوف اور ابی ہریرہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے سنا ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے ۹۷ھ میں ہجر بہتر سال مدینے میں ان کی وفات ہوئی۔

موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن سعید بن زرارہ بن عدس بن زید بنی تمیم میں سے تھیں۔ قعقاع کو ان کی سخاوت کی وجہ سے ”تیار الفرات“ (دریائے فرات کا جاری کرنے والا) کہا جاتا تھا۔ موسیٰ بن طلحہ کے یہاں عیسیٰ و محمد پیدا ہوئے یہی محمد اس زمانے میں کوفے کے امیر تھے جب لوگ ابی فدیک خارجی کی جانب گئے تھے اور انہیں (محمد) کے لیے عبید اللہ بن شبل الجبلی نے کہا تھا:

تباری ابن موسیٰ یا ابن موسیٰ ولم تکن یداک جمیعا تعد لان له یدا

”اے (محمد) بن موسیٰ تم (عمر) بن موسیٰ (بن عبید اللہ بن معمر) سے دوڑ کرتے ہو۔ حالانکہ تمہارے دونوں ہاتھ مل کر بھی اس کے ایک ہاتھ کے برابر نہیں ہیں۔“

ابراہیم بن موسیٰ و عائشہ جن سے عبدالملک بن مروان نے نکاح کیا اس سے ان کے یہاں بکار پیدا ہوا پھر ان سے علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب جن رضی اللہ عنہما نے نکاح کیا اور قریبہ بنت موسیٰ ان سب کی والدہ ام حکیم بنت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق جن رضی اللہ عنہما تھیں۔ عمران بن موسیٰ کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام حیدہ تھا انہیں عمران کے بارے میں ایک شاعر کہتا ہے:

ان یلک یا جناح علی دین فعمران بن موسیٰ یستدین

”اے جناح اگر مجھ پر کچھ قرض ہے تو عمران بن موسیٰ بھی قرض لیتے ہیں (یعنی ان کے قرض لینے کے بعد میرا مقروض ہونا تعجب نہیں)۔“

خالد بن سیر سے مروی ہے کہ کذاب مختار بن ابی عبید کوفہ آیا تو معزز بن بھاگ کر ہمارے پاس بصرے میں آئے ان میں موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ بھی تھے لوگ ان کے زمانے میں سمجھتے تھے کہ وہی مہدی ہیں اور انہیں گھیر لیا میں بھی انہیں میں سے تھا۔

موسیٰ بن طلحہ بہت دیر تک خاموش رہنے والے بہت کم بولنے والے بہت غم و فکر والے بوڑھے تھے انہیں دنوں میں سے کسی دن انہوں نے کہا کہ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ ایسا فتنہ ہے جس کی انتہا ہے تو مجھے فلاں و فلاں چیز کے ہونے سے زیادہ پسند تھا۔

انہوں نے اسے بہت خطرناک بتایا ایک شخص نے کہا کہ اے ابو محمد وہ کیا چیز ہے جس سے آپ ڈرتے ہیں اور جو فتنے سے

بھی زیادہ شدید ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں ”ہرج“ سے ڈرتا ہوں ہرج کیا ہے ہرج یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب بیان کرتے تھے کہ قیامت سے پہلے اس طور پر قتل ہوگا کہ لوگ کسی امام پر متفق نہ ہوں گے حتیٰ کہ ان پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہ ہرج ایسا ہی ہے خدا کی قسم اگر وہ یہی ہے تو مجھے یہ پسند ہے کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا کہ نہ تمہاری آواز سنتا اور نہ تمہارے کسی داعی کو لبیک کہتا یہاں تک کہ میرے پاس میرے رب کا داعی آ جاتا۔

اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے پھر کہا کہ اللہ عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یا ابو عبد الرحمن پر رحمت کرے واللہ میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اپنے اسی عہد پر ہیں جو رسول اللہ ﷺ نے ان سے لیا تھا کہ نہ فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ان میں کوئی تغیر ہوا واللہ قریش انہیں اپنے پہلے ہی فتنے میں نہ نکال سکے۔

(راوی نے کہا کہ) میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ اپنے والد پر ان کے قتل کے بارے میں معترض ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ کی طرف منتقل ہو کے وہیں سکونت اختیار کر لی ۳۰ھ میں وفات ہوئی صخر بن عبد اللہ المزنی نے ان پر نماز پڑھی جو عمر بن ابی سلمہ کی طرف سے کوفہ کے عامل تھے فضل بن دکین نے کہا کہ ان کی وفات ۲۰ھ میں ہوئی۔

عمر بن عثمان بن عبد اللہ بن مویب سے مروی ہے کہ میں نے موسیٰ کو سیاہی کا خضاب کرتے دیکھا۔ اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عیسیٰ و موسیٰ فرزند ان طلحہ کو دیکھا کہ وہ صرف یہ کرتے تھے کہ اس حصار کا اظہار کریں۔

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عیسیٰ و موسیٰ فرزند ان طلحہ کی آستینوں کو دیکھا کہ چار انگلی یا ایک بالشت ان کی

انگلیوں سے بڑھ جاتی تھیں۔ عیسیٰ بن عبد الرحمن سے مروی ہے کہ میں نے موسیٰ بن طلحہ کے سر پر خز (سوت ریشم ملے ہوئے کپڑے) کی ٹوپی دیکھی۔

ابی الزبیر الاسدی سے مروی ہے کہ موسیٰ بن طلحہ نے اپنے دانت سونے سے باندھے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنی طرف والوں کو اور ان کے اہل بیت کو ان کی کنیت ابو موسیٰ بیان کرتے دیکھا، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عیسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سعدی بنت عوف بن خارجہ بن سنان بن ابی حارثہ المری تھیں۔

عیسیٰ بن طلحہ کے یہاں یحییٰ پیدا ہوئے جن کی والدہ عائشہ بنت جریر بن عبد اللہ الجلی تھیں۔ محمد بن عیسیٰ جن کی والدہ ام حبیب بنت اسماء بن خارجہ بن حصن بن حذیفہ بن عبد اللہ بنی فزارہ میں سے تھیں۔

عیسیٰ بن عیسیٰ جن کی والدہ ام عیسیٰ بنت عیاض بن نوفل بن عدی بن نوفل بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں۔ عیسیٰ کی وفات عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوئی۔ ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔

یحییٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ سعدی بنت عوف بن خارجہ بن سنان بن ابی حارثہ المری تھیں۔

یحییٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہما کے یہاں طلحہ پیدا ہوئے جن کی والدہ ام ابان و ام اناس بنت ابی موسیٰ الاشعری تھیں، یحییٰ بن طلحہ کے اخیائی بھائی عبد اللہ بن اسحاق بن طلحہ تھے۔

ان کے یہاں اسحاق بن یحییٰ پیدا ہوئے جن کی والدہ حسنا بنت زبیر بن الابرہ قبیلہ کلب کے مصاد بن عدی بن اوس بن جابر بن کعب بن حلیم میں سے تھیں۔

سلمہ بن یحییٰ اور عیسیٰ اور سالم اور بلال جن کی حنین الکفانی نے مدح کی ہے کہ:

بلال بن یحییٰ غرة لا خفابها لكل أناس غرة و هلال

”بلال بن یحییٰ پہلی رات کے چاند ہیں جن میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ پہلی رات کا چاند سب کے لیے ہے۔“

اور صحیح بن یحییٰ و سلمہ و ام محمد یہ سب مختلف ام ولد سے تھے۔

ام حیم و سعدی جن سے سلیمان بن عبد الملک بن مروان نے نکاح کیا اور وہ بغیر اولاد ہوئے مرگئیں اور فاطمہ ان سب کی والدہ سودہ بنت عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام بن المغیرہ المخزومی تھیں۔

یعقوب بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ ام ابان بنت عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد

مناف بن قیس تھیں۔

یعقوب بن طلحہ کے یہاں یوسف پیدا ہوئے جن کی والدہ ام حمید بنت عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بن المغیرہ الحزومی تھیں ام حمید کی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔

طلحہ ان کی والدہ ام الحلاس بنت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ بن المغیرہ تھیں۔ اسماعیل و اسحاق دونوں اپنے والد کی حیات ہی میں لا ولد مر گئے اور ابو بکر ان تینوں کی والدہ جعدہ بنت الاشعث بن قیس الکندی تھیں۔ یعقوب سخی و کریم تھے یوم الحرہ ذی الحجہ ۶۳ھ میں لشکر یزید کے ہاتھوں مقتول ہوئے ان کے قتل اور اہل حرہ کی مصیبت کی خبر کو فے میں الکروں بن زید الطائی لائے۔ اسی واقعے کے متعلق عبداللہ بن الزبیر الاسدی نے (اشعار ذیل) کہے:

لعمری لقد جاء الكُروى كما ظما على خير للمسلمين وجميع
”میری جان کی قسم الکروں اس خبر پر صبر کرتے ہوئے آئے جو مسلمانوں کے لیے دردناک ہے۔“

حدیث انانی عن لوی بن غالب فما رقات لیل التمام دموعی
لوی بن غالب کی جانب سے میرے پاس ایسی خبر آئی کہ تمام رات میرے آنسو نہ تھے۔

بخبر ان لم یبق الا ارامل والاوم قد سال کل مریر
جو یہ خبر دیتے ہیں کہ سوائے ہوگان کے اور سوائے اس خون کے جو ہر سیلاب گاہ میں بہا ہے کوئی نہ بچا۔

قروم تلاقت من قریش فأنصت باصهب من ماء السمَام نقیع
نزداران قریش نے مقابلہ کیا انہیں زہروں کا سرخ ٹھنڈا پانی پلایا گیا۔

فکم حول سلح من عجوز مصابة وایض فیاض البیدین صریع
کوہ سلح کے گرد کتنی ہی بوڑھیاں تھیں جو مصیبت زدہ تھیں اور کتنے ہی ہاتھوں کے فیاض گورے آدمی (مقتول) چپت پڑے تھے۔

طلوع ثنایا البحد سام بطرفه قیل تلافیهم اشم منیع
جو بزرگی کی گھاٹیوں پر ظاہر ہونے والے اور اپنے خاندان کی وجہ سے بلند تھے۔ جوان لوگوں کے مقابلے سے کچھ ہی پہلے محفوظ سردار

تھے۔

وذی سنہ لم یبق للشمس قبلها وذی صغوة غض العظام رضیع
ایسے سال خوردہ کہ آفتاب کے لیے ان کی (روشنی کے) سامنے کچھ باقی نہ رہا۔ ایسے خورد سال جن کے بڑیاں بھی نرم تھیں اور دودھ پیتے

بچے تھے۔

شباب کیعقوب بن طلحة اقضرت منازلہ من رومہ وبقیع
یعقوب بن طلحہ جیسے جوانوں کے رومہ وبقیع کے مکانات ویران ہو گئے۔

فوالله ما هذا العیش فیشتھی هیننی ولا موت یریح سریع

واللہ نہ تو یہ عیش خوشگوار ہے جس کی خواہش کی جائے اور نہ فوراً آنے والی موت ہے جو راحت دے۔
 زکریاء بن طلحہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیمم ان کی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں، ام کلثوم کی والدہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بنی الحارث بن الخزرج کے انصار میں سے تھیں۔
 زکریا بن طلحہ کے یہاں بیٹی و عبید اللہ پیدا ہوئے، دونوں کی والدہ عیطل بنت خالد بن مالک بن اہش بن گوزین موالہ بن ہمام بن ضب بن النقیں بن مالک بن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد تھیں۔
 ام اسمعیل وام بیٹی ان کی والدہ ام اسحق بنت جبلة بن الحارث کنندہ میں سے تھیں۔ ام ہارون، جن کی والدہ ام ولد تھیں۔
 اسحاق بن طلحہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیمم ان کی والدہ ام ابان بنت عتبہ بن ربیعہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔
 اسحاق بن طلحہ کے یہاں عبد اللہ ابو بکر جو لا ولد مر گئے اور عبید اللہ پیدا ہوئے، ان سب کی والدہ ام اناس بنت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ تھیں۔

مصعب ایک ام ولد سے، معاویہ ایک اور ام ولد سے، یعقوب ایک دوسری ام ولد سے اور حفصہ وام اسحاق دونوں ایک ام ولد سے تھیں۔
 عمران بن طلحہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبید بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیمم ان کی والدہ حمنہ بنت جحش بن رباب بنی اسد بن خزیمہ میں سے تھیں۔
 عمران بن طلحہ کے یہاں عبد اللہ و اسحاق و محمد و حمید پیدا ہوئے، جن کی والدہ دختر اوثیٰ بن الحارث بن عوف بن ابی حارث تھیں، ان کی اولاد کی بھی اولاد تھی جو سب مر گئے، عمران کی اولاد میں کوئی نہ رہا۔
 محمد بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن ابیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ ماریہ بنت قیس بن معدی کرب بن ابی الکسیم بن السمط بن امری القیس بن عمرو بن معاویہ کنندہ میں سے تھیں۔

محمد بن سعید کے یہاں اسماعیل و ابراہیم و عبد اللہ، کہ دونوں لا ولد مر گئے اور ام عبد اللہ و عائشہ مختلف ام ولد سے پیدا ہوئیں۔ محمد بن سعد نے عثمان رضی اللہ عنہ سے سنا ہے ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں مگر بہت نہیں ہیں انہوں نے عبد الرحمن بن محمد بن الاشعث کے ہمراہ خروج کیا تھا، جنگ ویرانجام میں موجود تھے لوگ حاج بن یوسف کے پاس لائے تو اس نے انہیں قتل کر دیا۔ ابو بکر بن حفص بن عمر بن سعد سے مروی ہے کہ محمد بن سعد کی کنیت ابو القاسم تھی۔

عامر بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ان کی والدہ ام عامر تھیں جن کا نام مکلیہ بنت عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ بن بہراء تھا وہ قضاہ میں سے تھیں۔

عامر بن سعد رضی اللہ عنہ کے یہاں داؤد و یعقوب و عبد اللہ پیدا ہوئے، موخر الذکر دونوں کے پسماندہ نہ تھے اور ام اسحاق و حفصہ و حمیدہ و ام ہشام و ام علی ان سب کی والدہ ام عبید اللہ بنت عبد اللہ بن موہب بن رباح بن مالک بن غنم بن ناجیہ اشعرین میں سے تھیں، عبد اللہ بن موہب بن زہرہ کے حلیف تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عامر بن سعد کی وفات ۱۰۰ھ میں ہوئی اور ان نے کہا کہ ان کی وفات مدینے میں ولید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عمر بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ ماریہ بنت قیس بن معدی کرب بن ابی الکیسم بن السمط بن امرئ القیس کنندہ میں سے تھیں۔

عمر بن سعد کے یہاں حفص و حفصہ پیدا ہوئیں، جن کی والدہ ام حفص تھیں، ان کا نام مریم بنت عامر بن ابی وقاص تھا۔ عبد اللہ اکبر جن کی والدہ ام ولد تھیں ان کا نام سلمیٰ تھا۔

عبد الرحمن اصغر و ام عمرو ان دونوں کی والدہ ام یحییٰ بنت عبد اللہ بن معدی کرب بن قیس بن معدی کرب کنندہ میں سے تھیں۔

حمزہ و عبد الرحمن و محمد و مغیرہ جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور حمزہ اصغر ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔ محمد اصغر و مغیرہ اور عبد اللہ مختلف ام ولد سے تھے۔ عبد اللہ اصغر ان کی والدہ کنندہ میں سے تھیں۔ ام یحییٰ و ام سلمہ و ام کلثوم و حمیدہ و حفصہ صغریٰ و ام عمرو صغرا و ام عبد اللہ مختلف ام ولد سے تھیں۔

عمر بن سعد کوفے میں تھے، عبید اللہ بن زیاد نے رے و ہمدان کا انہیں عامل بنایا اور ہمراہ ایک لشکر بھیجا، حسین بن علی رضی اللہ عنہما عراق آئے تو عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد کو ان کی جانب روانہ ہونے کا حکم دیا، ہمراہ اپنے لشکر کے چار ہزار آدمی بھیجے ان سے کہا کہ اگر حسین رضی اللہ عنہ میرے پاس آئیں اور اپنا ہاتھ بیعت کے لیے میرے ہاتھ پر رکھ دیں تو خیر ورنہ تم ان سے قتال کرنا۔

عمر نے انکار کیا، ابن زیاد نے دھمکی دی کہ اگر تم ایسا نہ کرو گے تو میں تمہیں خدمت سے معزول کر دوں گا اور تمہارا مکان منہدم کر دوں گا، انہوں نے حسین رضی اللہ عنہ کی جانب روانگی منظور کر لی ان سے قتال کیا تا آنکہ حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے، جب مختار بن ابی عبید کوفے پر غالب ہوا تو اس نے عمر بن سعد اور ان کے بیٹے حفص کو قتل کر دیا۔

عمر بن سعد:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ سلمیٰ بنت حفصہ بن ثقف بن ربیعہ بن تیم اللات بن نعلبہ بن

عکابہ ربیعہ میں سے تھیں ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔
عمیر بن سعد:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ سلمی بنت نصفہ بن ثقب بن ربیعہ بن تیم اللات بن ثعلبہ بن عکابہ ربیعہ میں سے تھیں ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔
مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ خولہ بنت عمرو بن اوس بن سلامہ بن غزیہ بن معبد بن سعد بن زہیر بن تیم اللہ بن اسامہ بن مالک بن بکر بن حبیب بن تغلب بن وائل تھیں۔
مصعب بن سعد کے یہاں زرارہ و یعقوب و عقبہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام حسن بنت فرقد بن عوف بن عبد یغوث بن الحلیس بن عبد مناف بن بکر سعد بن ضہہ ابن اوتھیں۔

ام حسن و سلامہ دونوں کی والدہ سکنہ بنت الحلیس بن ہاشم بن عقبہ بن نوفل بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ تھیں۔ مصعب ثقہ و کثیر الحدیث تھے محمد بن عمر نے کہا کہ مصعب کی وفات ۱۰۳ھ میں ہوئی۔
ابراہیم بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ زہراء تھیں جن کے متعلق ان کے فرزند یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ حارث بن یحمر بن شراحیل ابن عبد عوف بن مالک بن خباب بن قیس بن ثعلبہ بن عکابہ بن صعصعہ بن علی بن بکر بن وائل کی بیٹی تھیں اور وہ بطور قیدی کے حاصل کی گئیں۔
ابراہیم نے علی سے روایت کی ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

یحییٰ بن سعد:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ۔

اسماعیل بن سعد:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ ام عامر تھیں جن کا نام مکیہ بنت عمرو بن عمرو بن کعب بن عمرو بن زرعہ تھا قضاہ کے بہراء میں سے تھیں۔

اسماعیل بن سعد کے یہاں یحییٰ پیدا ہوئے جن کی والدہ دختر سلیمان بن ازہرہ ابن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں۔ ابراہیم و ابو بکر و محمد و اسحاق و یعقوب و موسیٰ و عمران مختلف ام ولد سے تھے۔ ام یحییٰ ایک ام ولد سے اور ام ایوب دوسری ام ولد سے تھیں۔

عبد الرحمن بن سعد:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبد مناف بن زہرہ ان کی والدہ ام بلال بنت ربیع بن مری بن اوس بن حارث بن لام قبیلہ

طے کی تھیں۔

ابراہیم بن نعیم رضی اللہ عنہما:

نحام بن عبد اللہ بن اسید بن عبد بن عوف بن عبید بن عونت بن عدی بن کعب ان کی والدہ زینب بنت حظلہ بن قسامہ قبیلہ طے کے قیس بن عبید بن طریف بن مالک بن جدعاء بن ذہلی بن رومان میں سے تھیں۔

زینب بنت قسامہ پہلے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کی بیوی تھیں اسامہ رضی اللہ عنہ چودہ ہی سال کے تھے کہ ان کو طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ میں کم خوراک یا نازک یا کیزہ عورت کس کو بتاؤں جو اس سے نکاح کرے گا۔ اس کا خسر میں ہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعیم رضی اللہ عنہ کی جانب نظر فرمانے لگے تو نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شاید آپ کی مراد مجھ سے ہے فرمایا ہاں! نعیم رضی اللہ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا ان کے یہاں اس سے ابراہیم بن نعیم پیدا ہوئے۔

ابراہیم بن نعیم کے یہاں محمد پیدا ہوئے جن کی والدہ دختر عباس بن سعید قبیلہ نمرالازد کی تھیں۔ زید و عبد اللہ و سعید اللہ و

ابو بکرہ امہات اولاد سے تھے۔

ان کی ایک اور بیٹی تھیں جن کی والدہ رقیہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں۔ رقیہ کی والدہ ام کلثوم بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھیں اور ام کلثوم کی والدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔

یوم حرہ میں ابراہیم بن نعیم بھی ایک سرگروہ تھے اسی روز ذی الحجہ ۶۳ھ میں قتل کر دیئے گئے، مسرف بن عقبہ کے ہمراہ مروان بن الحکم ان پر گزرا وہ اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ پر رکھے ہوئے تھے مروان نے کہا کہ تم نے موت میں بھی اس کی حفاظت ویسی ہی کی جیسی حیات میں کی تھی، مسرف نے کہا کہ واللہ میں تو ان لوگوں کو جنتی ہی سمجھتا ہوں مگر تمہاری یہ بات اہل شام نہ سن لیں کہ انہیں فرمانبرداری سے پھیر دے، مروان نے کہا کہ ان لوگوں نے (دین کو) متغیر کر دیا اور بدل دیا تھا۔

محمد بن ابی الجہم:

ابن حذیفہ بن غانم بن عامر بن عبد اللہ بن عبید بن عونت بن عدی بن کعب ان کی والدہ خولہ بنت القعقاع بن معبد بن زرارہ بن عدس بن زید بن عبد اللہ بن دارم بن تمیم کی تھیں۔

محمد بن ابی الجہم کے یہاں عبید اللہ و حذیفہ و سلیمان و ام خالد و ام جہم و مریم و عبد الرحمن مختلف امہات اولاد سے پیدا ہوئے۔ محمد بن ابی الجہم یوم حرہ میں ایک سرگروہ تھے اور اسی روز ذی الحجہ ۶۳ھ میں قتل کیے گئے۔

عبد الرحمن بن عبد اللہ:

ابن ابی ربیعہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ لیلیٰ بنت عطار بن حاجب بن زرارہ بن عدس بن زید بن عبد اللہ بن دارم بن تمیم میں سے تھیں۔

عبد الرحمن بن عبد اللہ کے یہاں عمرو پیدا ہوئے جن کی والدہ ام بشیر بنت ابی مسعود تھیں ابو مسعود عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عسیرہ بن عطیہ بن جدارہ ابن عوف بن الحارث خزرج کے تھے ان کے اخیالی بھائی زید بن حسن بن علی بن ابی

طالب بنی مضر تھے۔

عثمان بن عبدالرحمن و ابراہیم و موسیٰ و ام حمید و ام عثمان ان کی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہم تھیں، ام کلثوم کی والدہ حبیبہ بنت خارجہ بن زید بن ابی زہیر بنی الحارث بن الخزرج میں سے تھیں۔

ابوبکر و محمد کی والدہ فاطمہ بنت الولید بن عبد شمس بن المغیرہ تھیں، فاطمہ کی والدہ اسماء بنت ابی جہل بن ہشام تھیں۔ عبداللہ و ام جمیل ام ولد سے تھے۔

عبدالرحمن بن عبداللہ بن ابی ربیعہ بھی یوم الحمرہ میں ایک سر لشکر تھے وہ بچ گئے اس روز مقتول نہیں ہوئے، ان کی وفات اس کے بعد ہوئی۔

عبدالرحمن بن حویطب:

ابن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی، ان کی والدہ امیہ بنت حفص بن الاخف بنی عامر بن لوی کی تھیں۔

عبدالرحمن بن حویطب کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور عبداللہ ہوئے، ان دونوں کی والدہ ام عتبہ بنت عبداللہ بن معاویہ ابن عامر عبدالقیس کی تھیں۔

محمد بن عبدالرحمن و عاتکہ دونوں کی والدہ ام حبیبہ بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بنی عدی بن کعب میں سے تھیں، عبدالرحمن بن حویطب یوم الحمرہ میں ذی الحجہ ۶۳ھ میں مقتول ہوئے۔

ابوسفیان بن حویطب:

ابن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی، ان کی والدہ آمنہ بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ تھیں، آمنہ کی والدہ صفیاء بنت ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔

ابوسفیان حویطب کے یہاں عبدالرحمن پیدا ہوئے جن کی والدہ امۃ الرحمن بنت عمرو بن علقمہ بن عبداللہ بن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ کی زوجہ میمونہ بنت الحارث الہلالیہ کے مولیٰ تھے۔ عیشیم بن نسطاس سے مروی ہے کہ ایک عرب نے عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ کی لڑکی کا پیام دیا تو عطاء نے ان سے کہا کہ نہ تو ہم تمہاری شرافت نسب کا انکار کرتے ہیں اور نہ تمہارے مرتبے کا، لیکن ہم اپنے ہی جیسوں سے نکاح کریں گے تم اپنے خاندان میں نکاح کرو۔

عیشیم نے کہا کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر دی تو انہوں نے کہا، عطاء نے جو چاہا وہ اچھا چاہا۔ عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اور ان کے لوگ ہاتھ میں لائٹھی لے کر رات کو زیادہ چلا کرتے تھے۔

عطاء بن یسار رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب و عبداللہ بن مسعود و خوات بن جمیر و ابویوب الانصاری و ابووقاد اللہی و ابورافع

و عبد اللہ بن سلام و زید بن خالد الجہنی و ابو ہریرہ و ابو سعید الخدری و ابن عمر و عائشہ و میمونہ و ابو عبد اللہ الصناجیحی رضی اللہ عنہم سے سنا ہے البتہ مالک بن انس نے کہا کہ عطاء بن یسار نے عبد اللہ الصناجیحی سے روایت کی ہے وہ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

اسامہ بن زید بن اسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ عطاء کی وفات بھر چوراسی سال ۱۰۳ھ میں ہوئی۔ محمد بن عمر کے سوا اوروں نے کہا کہ عطاء کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی، مگر یہ مشتبہ ہے ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ ان کے بھائی:

سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ کی زوجہ میمونہ بنت الحارث الہذلیہ کے مولیٰ تھے اور کہا جاتا ہے کہ خود سلیمان ان کے مکاتب تھے۔ سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملنے کی اجازت چاہی انہوں نے میری آواز پہچان لی تو کہا کہ کیا تم سلیمان ہو۔ عرض کی، جی ہاں سلیمان ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم نے وہ بدل کتابت ادا کر دیا جس کا اقرار کیا تھا؟ عرض کی، جی ہاں صرف تھوڑا سا رہ گیا ہے۔ فرمایا اندر آؤ، بدل کتابت میں سے تم پر کچھ بھی باقی رہے تو تم مملوک (غلام) ہی ہو۔ حسن بن محمد بن علی سے مروی ہے کہ سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے زیادہ نہیں تھے۔

عبد اللہ بن یزید الہذلی سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں اتنی چھوٹی کراتے کہ معلوم ہوتا گویا انہیں مونڈ دیا ہے۔ زہری سے مروی ہے کہ ابو عبد الرحمن کو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ سلیمان بن یسار تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے اپنے اصحاب میں اس امر میں اختلاف نہیں دیکھا کہ سلیمان کی کنیت ابو تراب تھی، بنی حدیلہ میں رہتے تھے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی جانب سے جو اس زمانے میں ولید بن عبد الملک کی طرف سے والی مدینہ تھے بازار مدینہ کے والی تھے۔

سلیمان نے زید بن ثابت والی و اقد الیشی والی ہریرہ و ابن عمر و عبید اللہ و عبد اللہ فرزند ان عباس و عائشہ و ام سلمہ و میمونہ و عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے ثقہ و بزرگ و بلند مرتبہ فقیہ و کثیر الحدیث تھے۔ سلیمان بن یسار کی وفات بھر تہتر سال ۱۰۶ھ میں ہوئی۔ محمد بن عمر کے سوا اوروں نے کہا کہ سلیمان کی وفات ۱۰۳ھ یزید بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔

ان دونوں کے بھائی:

عبد اللہ بن یسار رضی اللہ عنہ:

نبی ﷺ کی زوجہ میمونہ بنت الحارث الہذلیہ کے مولیٰ تھے، ان سے بھی روایت کی گئی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

ان کے بیٹوں بھائی:

عبد الملک بن یسار رضی اللہ عنہ:

وفات ۱۰۶ھ میں ہوئی، ان سے بھی روایت کی گئی ہے، یہ چار بھائی تھے سب سے روایت کی گئی ہے، عبد الملک قلیل الحدیث

تھے۔

فرافصہ بن عمیر رضی اللہ عنہ:

ابن شیبانہ بن مسیح بن مسلمہ بن عبید بن ثعلبہ بن الدول بن حنیفہ نجیم بن علی بن بکر بن وائل ربیعہ میں سے قریش کے حلیف تھے۔ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

قبیصہ بن ذویب رضی اللہ عنہ:

ابن حنظلہ بن عمیر بن کلیب بن اصرم بن عبداللہ بن قمر بن جحیہ بن سلول بن کعب ابن عمرو جو خزاعہ میں سے تھے کنیت ابو اسحاق تھی انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا۔ مدینے میں کوچہ نقاشین میں کھجور والوں کے یہاں مکان تھا ملک شام میں منتقل ہو گئے تھے۔

عبدالملک بن مروان کے نزدیک سب سے زیادہ ذی اثر تھے اس کی مہر پر مامور تھے ڈاک انہیں کے سپرد تھی خطوط آتے تو وہ پڑھ کے عبدالملک کے پاس پہنچاتے اور مضمون کی اسے اطلاع دیتے۔

قبیصہ کی وفات ۸۶ھ میں عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی ان کے والد صحابی تھے خود وہ بھی ثقہ و مامون و کثیر الحدیث تھے۔

ابوعطفان بن طریف رضی اللہ عنہ:

المری جو بنی عسیم و ہمان بن عوف بن سعد بن ذبیان میں سے تھے ابو عطفان عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور ان کے کاتب تھے مروان کے بھی کاتب تھے اور قلیل الحدیث تھے۔ مدینے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مکان کے پاس الشیبہ میں ان کا مکان تھا۔

ابی بکر بن محمد سے مروی ہے کہ ابو عطفان بن طریف مروان کے کاتب تھے۔

ابومرہ رضی اللہ عنہ:

عقیل بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے محمد بن عمر نے کہا کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے مولیٰ تھے لیکن عقیل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے سے ان کی ولایت کی طرف منسوب کر دیئے گئے پر انے شیخ تھے انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ والی ہریرہ والی واقد اللیشی رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

جعفر بن عبداللہ:

ابن کحینہ، کحینہ عبداللہ کی والدہ تھیں جو ابو مالک حارث ارت الازدی بن المطلب ابن عبدمناف بن قصی کی دختر تھیں بنی المطلب کے وہ حلیف تھے۔ جعفر بن عبداللہ ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔

عبداللہ بن عقبہ:

ابن خروان بن جابر بن نسیب بن وہیب بن زید بن مالک بن عبدعوف بن الحارث بن مازن بن مصور بن عکرمہ بن خصفہ بن

قیس بن عیلام بن مضر عبد اللہ بن عبد ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں قتل کر دیے گئے۔
ولید بن ابی الولید رضی اللہ عنہ۔

مولائے عثمان بن عفان بن عفان بن عفان نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے سنا۔

طبقہ ثانیہ

تابعین اہل مدینہ:

راویان اسامہ و ابن عمر و جابر و حدری و رافع و ابن عمرو و ابی ہریرہ و سلمہ و ابن عباس و عائشہ و ام سلمہ و میمونہ رضی اللہ عنہم۔

عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ

نام و نسب کنیت و خاندان:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی بن کلاب ان کی والدہ اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔ عروہ بن الزبیر کے یہاں عبد اللہ و عمر و اسود و ام کلثوم و عائشہ و ام عمر پیدا ہوئیں ان کی والدہ فاختہ بنت الاسود بن ابی المہتری بن ہاشم بن الحارث بن اسد عبد العزی تھیں۔

یحییٰ بن عروہ و محمد و عثمان و ابو بکر و عائشہ و خدیجہ ان سب کی والدہ ام یحییٰ بنت الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔ ہشام بن عروہ و صفیہ ام ولد سے تھے۔

عبید اللہ بن عروہ ان کی والدہ اسماء بنت سلمہ بن عمر بن ابی سلمہ بن عبد الاسد بنی مخزوم کی تھیں۔ مصعب بن عروہ و ام یحییٰ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام واصلہ تھا۔

اسماء بنت عروہ ان کی والدہ سودہ بنت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں، سودہ کی والدہ صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود اشقی تھیں۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جنگ جمل سے میں اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام اس لیے واپس کر دیئے گئے کہ ہم دونوں کو لوگوں نے بچہ سمجھا۔

روایت حدیث میں ثقاہت:

محمد بن عمر نے کہا کہ عروہ نے اپنے والد اور زید بن ثابت و اسامہ بن زید و عبد اللہ بن الارقم و ابی ایوب و نعمان بن بشیر و ابی ہریرہ و معاویہ و عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن عمرو و عبد اللہ بن عباس و عبد اللہ بن الزبیر و مسور بن مخرمہ و عائشہ رضی اللہ عنہا و مروان بن الحکم و زینب بنت ابی سلمہ و عبد الرحمن بن عبد بن القاری و بشیر بن ابی مسعود الانصاری و زبید بن الصلت و یحییٰ بن عبد الرحمن بن عاتق و جہان مولائے مسلمین سے روایت کی ثقہ و کثیر الحدیث و مامون و فقیہ و برتر و مستقل (ثبت) تھے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ یوم الحمرہ میں میرے والد نے وہ کتب نقد جو ان کی تھیں جلادیں اس کے بعد وہ کہا کرتے کہ مجھے ان کتب کا اپنے پاس ہونا اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے پاس میرے اہل و مال کے برابر ہو۔
عادات و خصائل:

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عروہ بن الزبیر کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں اچھی طرح نہیں کترواتے تھے البتہ ان کا کچھ حصہ اچھی طرح لے لیتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ اے میرے بیٹو مجھ سے پوچھو، کیونکہ میں اس حالت میں چھوڑ دیا گیا ہوں کہ گویا عنقریب مجھے بھلا دیا جائے گا۔ جب میں (پہلے کی) حدیث کی تحقیق کرتا ہوں تو آج کی حدیث اس سے صاف ہو جاتی ہے۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والد روانہ غسل کرتے تھے۔

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کو زرد چادر اوڑھتے دیکھا۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کی مثال (یعنی سر پر اوڑھنے کا رومال) برگ دینار سے (زرد) رنگا جاتا تھا اور سب سے آخری کپڑا جو انہوں نے پہنا وہ ان کے لیے برگ دینار میں زرد رنگا گیا تھا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ ربیعی گھنڈیوں کا طیلسان پہنتے تھے جو شرفاً کالباس تھا، حالانکہ وہ احرام میں ہوتے تھے اور اس کی گھنڈیاں نہیں لگاتے تھے۔

ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ کرتے اور شامی رومال میں جسے وہ کرتے سے ملا لیتے تھے نماز پڑھتے تھے۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے جسم پر خز کی چادر دیکھی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ گرمی میں سندس (ریشم) کی قبا پہنتے تھے جس کا استر حریر (ریشم) کا تھا۔ محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے بدن پر خز (غیر خالص ریشم) کی خاکی رنگ کی یا اسی قسم کی چادر دیکھی۔ عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کے بدن پر خز کا جبہ دیکھا۔

محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ عروہ قریب سیاہی کے خضاب لگاتے تھے مگر مجھے معلوم نہیں کہ وہ اس میں وشمہ شامل کرتے تھے یا نہیں۔ ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والد پے در پے روزہ رکھتے تھے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ان کے والد سوائے عید الفطر و عید النحر کے ہمیشہ روزہ رکھتے تھے ان کی وفات بھی روزے ہی کی حالت میں ہوئی۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ عروہ کے ساتھ سفر کرتے روزے بھی رکھتے اور ترک بھی کرتے، مگر وہ نہ ہمیں روزے کا حکم دیتے اور نہ خود روزہ ترک کرتے۔

ابوالمقدام ہشام بن زیاد سے مروی ہے کہ میں نے عروہ کو اپنے جوتے پہنے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ سعد بن ابراہیم سے مروی ہے کہ عروہ کے پاؤں میں (اکلہ کی) بیماری تھی انہوں نے اپنا پاؤں کاٹ ڈالا تھا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ مجھ سے عروہ

حدیث بیان کرتے پھر عمرہ حدیث بیان کرتیں جس سے حدیث عروہ کی تصدیق ہوتی، جب میں نے عمرہ کی گہرائی کا اندازہ کیا تو معلوم ہوا کہ عروہ بحرنا پیدا کنار ہیں۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ عروہ "سلام علیک۔ اما بعد" لکھانا پسند کرتے تھے، تاوقتیکہ اس کے ساتھ یہ نہ ملائیں کہ "فانی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو" میں تم سے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔

عبداللہ بن حسن سے مروی ہے کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما اور عروہ بن الزبیر عشاء کے بعد مسجد رسول اللہ ﷺ کے آخری حصے میں ہر شب کو بیٹھا کرتے تھے، میں بھی ساتھ بیٹھتا تھا، نبی امیہ کے مظالم اور ان کا ساتھ دینے کا ایک شب تذکرہ ہو رہا تھا کہ علی و عروہ وغیرہما اس کو بدل نہیں سکتے۔ دونوں صاحبوں نے اس عذاب الہی کا ذکر کیا جس کا خوف تھا کہ ان لوگوں پر نازل ہوگا۔ عروہ نے علی سے کہا کہ اے علی جو شخص اہل جور سے علیحدہ رہے اور اللہ جانتا ہو کہ ایسے لوگوں کی کر توت سے وہ ناخوش ہے تو خواہ ان سے میل جول ہی کیوں نہ رکھتا ہو مگر ان لوگوں پر عذاب الہی کی صورت میں امید ہے کہ وہ محفوظ رہے گا، عروہ نے (وہاں سے) نکل کر وادی عقیق میں سکونت اختیار کر لی۔ عبداللہ نے کہا کہ میں (وہاں سے) نکل کر سوئیقہ کو چلا گیا۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ مجھے والد نے یہ وصیت کی کہ مجھ پر حنوط (عطر میت) نہ چھڑکنا۔ عبدالکیم بن عبداللہ بن ابی فرہ سے مروی ہے کہ عروہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی وفات الفرض کے نواح میں اپنی مجاہ کی زمینداری میں ہوئی اور وہی جمعہ کے روز ۹۲ھ میں دفن کیے گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اس سال کوفتہاء کی کثرت وفات کی وجہ سے "سنۃ الفقہاء" کہا جاتا ہے۔ عروہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی مدینے میں ان کا بہت بڑا مکان تھا۔

منذر بن الزبیر رضی اللہ عنہما:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی، ان کی والدہ اسماء بنت ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہما تھیں، قاسم سے ایک حدیث میں مروی ہے کہ منذر بن الزبیر کی کنیت ابو عثمان تھی۔

منذر کے یہاں محمد پیدا ہوئے جن کی والدہ عاتکہ بنت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل تھیں۔ عبدالرحمن و ابراہیم و قریبہ ان سب کی والدہ حفصہ بنت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔ عبداللہ ان کی والدہ حسان بن نہشل کی دختر بنی سلمہ بن جندل میں سے تھیں۔

عمرو و ابو عبیدہ و معاویہ و عاصم و فاطمہ جو ہشام بن عروہ کی بیوی تھیں، ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔ عمرو و عون و عبداللہ امہات اولاد سے تھے۔

مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما:

ابن العوام بن خویلد ان کی والدہ رباب بنت انیف بن عبید بن مضاد بن کعب بن علی بن خباب قبیلہ کلب کی تھیں۔ مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے یہاں عکاشہ و عیسیٰ اکبر جو اپنے والد مصعب کے ساتھ قتل کیے گئے اور سکنہ پیدا ہوئیں، ان سب

کی والدہ فاطمہ بنت عبد اللہ بن السائب ابن ابی حمیش بن المطلب بن اسد بن عبد العزی بن قصى تھیں۔ عبد اللہ بن مصعب و محمد دونوں کی والدہ عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ تھیں، عائشہ کی والدہ ام کلثوم بنت ابی بکر الصديق رضی اللہ عنہما تھیں۔

حمزہ و عاصم و عمر ایک ام ولد سے تھے، جعفر ایک ام ولد سے، مصعب بن مصعب جو حاضر تھے ایک ام ولد سے، سعد ایک ام ولد سے، منذر ایک ام ولد سے اور عیسیٰ اصغر ایک ام ولد سے۔ رباب بنت مصعب، ان کی والدہ سکنہ بنت الحسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھی۔ سکنہ بنت مصعب، ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔

مصعب بن عبد اللہ بن مصعب الزبیری سے مروی ہے کہ مصعب بن الزبیری کثرت ابو عبد اللہ تھے، حالانکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا جس کا نام عبد اللہ ہو۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے اپنے بھائی مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما کو والی عراق بنایا، انہوں نے بصرہ سے ابتدا کی، وہاں اترے، ایک لشکر عظیم کے ہمراہ مختار بن ابی عبید کی طرف روانہ ہوئے، وہ کوفہ میں تھا، مصعب نے جنگ کی مختار قتل ہوا، اس کا سراپے بھائی عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس بھیج دیا اور اس کے عاملوں کو دیہات اور قصبات میں منتشر کر دیا۔

اسماعیل بن ابی خالد سے مروی ہے کہ میں نے منبر پر مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما سے زیادہ خوبصورت کسی امیر کو نہیں دیکھا۔ مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ میں نے عامر بن عبد اللہ بن الزبیر سے پوچھا کہ مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہما کب مقتول ہوئے، انہوں نے کہا کہ ۱۵ جمادی الاولیٰ ۳۷ھ یوم پنجشنبہ کو جس شخص نے انہیں قتل کیا وہ عبد الملک بن مروان تھا۔

جعفر بن الزبیر رضی اللہ عنہما:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصى، ان کی والدہ زینب تھیں کہ وہی ام جعفر بنت مرشد بن عمرو بن عبد عمرو بن بشر بن عمرو بن مرشد بن سعد بن مالک ابن ضعیجہ بن قیس بن ثعلبہ تھیں۔

جعفر بن الزبیر کے یہاں محمد و ام حسن و حمادہ ام ولد سے پیدا ہوئیں۔ ثابت و یحییٰ ان دونوں کی والدہ بشامہ بنت عمارہ بن زید بن ثابت بن الضحاک ابن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔

صالح و ہند و ام سلمہ ایک ام ولد سے تھیں، شعیب و آدم و عمرو و نوح ایک ام ولد سے تھے، ام صالح و عائشہ و ام حمزہ کی والدہ ایک ام ولد تھیں، یعقوب و فاطمہ و ام عبیدہ کی والدہ بھی ایک ام ولد تھیں، ام عبد اللہ و ام الزبیر و سودہ کی والدہ ایک ام ولد تھیں، مریم ایک ام ولد سے پیدا ہوئیں۔ ام عمروہ کی والدہ ایک ام ولد تھیں اور عائشہ کی والدہ بھی ایک ام ولد تھیں۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے جعفر بن الزبیر کو دیکھا کہ اپنی مونچھ بہت زیادہ نہیں کترتے تھے اسے وہ اچھی طرح کترتے تھے۔

مصعب بن عبد اللہ نے کہا کہ جعفر بوڑھے ہوئے اور زندہ رہے، سلیمان بن عبد الملک کے آخری زمانہ خلافت میں وفات

پائی۔

خالد بن الزبیر:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصى ان کی والدہ ام خالد تھیں جن کا نام امۃ بنت خالد بن سعید بن العاص بن امیہ تھا۔ خالد بن الزبیر کے یہاں محمد اکبر و رملہ پیدا ہوئیں جن کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ محمد اصغر و موسیٰ و ابراہیم و زینب ان کی والدہ حفصہ بنت عبد الرحمن بن ازہر بن عوف تھیں۔

سلیمان بن خالد و ام سلیمان دونوں کی والدہ ام محمد بنت عبد اللہ بن عمرو ابن الحصین ذی الغصہ الحارثی تھیں۔ نبیہ بن خالد و ہبیمہ ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں خالد اور ہند ایک ام ولد سے پیدا ہوئے اور ام عمرو بنت خالد دوسری ام ولد سے ہوئیں۔
عمر و بن الزبیر:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی ان کی والدہ ام خالد تھیں وہی امۃ بنت خالد بن سعید بن العاص تھیں۔ عمرو بن الزبیر کے یہاں محمد و ام عمرو پیدا ہوئیں دونوں کی والدہ ام یزید بنت عدی بن نوفل بن عدی بن نوفل بن اسد بن عبد العزی تھیں۔ عمرو بن عمرو و حبیبہ ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ام عمرو بنت عمرو ان کی والدہ بی غفار میں سے تھیں۔

یزید بن معاویہ نے عمرو بن سعید بن العاص کو جو مدینے کے عامل تھے لکھا کہ عبد اللہ بن الزبیر بنی ہاشم کی جانب سے لشکر روانہ کرو عمرو بن سعید نے عبد اللہ بن الزبیر بنی ہاشم کے سب سے بڑے دشمن کو دریافت کیا تو کہا گیا کہ ان کے بھائی عمرو ابن الزبیر ہیں انہوں نے ان کو مدینے کا شحنة بنا دیا عمرو بن الزبیر نے قریش اور انصار کے بہت سے آدمیوں کو تازیانے مارے اور کہا کہ یہ لوگ عبد اللہ ابن الزبیر بنی ہاشم کے شیعہ ہیں۔

عمرو بن سعید نے انہیں اہل شام کے ایک لشکر کے ہمراہ عبد اللہ بن الزبیر بنی ہاشم کی جانب روانہ کیا اور قتال کا حکم دیا عمرو روانہ ہوئے گئے اور ذی طوی میں اترے۔ عبد اللہ بن الزبیر بنی ہاشم نے ان کی جانب مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بنی ہاشم کو ایک گروہ کے ساتھ روانہ کیا یہ لوگ ان سے ملے انہیں بن عمرو و الاسلمی جو عمرو بن الزبیر کی فوج کے امیر تھے قتل کر دیئے گئے عمرو مع اپنے ساتھیوں کے بھاگے اور لوگ متفرق ہو گئے۔ عبیدہ بن الزبیر عمرو بن الزبیر کے پاس آئے اور کہا کہ میں تمہیں عبد اللہ سے پناہ دیتا ہوں وہ انہیں گرفتار کر کے اس طرح لائے کہ دونوں پاؤں پر خون ٹپک رہا تھا عبد اللہ بن الزبیر بنی ہاشم نے پوچھا کہ یہ خون کیسا ہے عمرو نے کہا:

ولیسنا علی الاعقاب تدمی کلومنا ولكن علی اقدامنا تقطر الدما

”ہم لوگ ایسے نہیں کہ ہماری ایڑیوں پر ہمارے زخم خون بہائیں۔ لیکن وہ ہمارے قدموں پر خون بہاتے ہیں یعنی پیش قدمی کرتے ہوئے ہم زخمی ہو سکتے ہیں بھاگتے نہیں کہ اس حالت میں مجروح ہو جائیں۔“

عبد اللہ بنی ہاشم نے کہا کہ اے اللہ کے دشمن حرم میں خون ریزی کرنے والے حلال سمجھنے والے تو باتیں بھی بناتا ہے حکم دیا کہ ان سے ہر اس شخص کا قصاص لیا جائے جس کو انہوں نے مارا تھا یا جس پر ظلم کیا تھا۔

مصعب بن عبد الرحمن بنی ہاشم نے کہا کہ مجھے انہوں نے سوتا زیا نے مارے حالانکہ نہ وہ والی تھے نہ میں نے کوئی بدی کی تھی نہ

کسی ناجائز فعل کا ارتکاب کیا تھا اور نہ کسی فرمانبرداری سے ہاتھ کھینچا تھا، عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے حکم دیا کہ عمرو کو کھڑا کیا جائے مصعب کو تازیانہ دیا اور کہا کہ مارو، مصعب نے انہیں سوتا زیا نے مارے اس ضرب کے بعد وہ صحیح و سالم ہو گئے۔

قید خانے سے نکلنے کے بعد عمرو اپنی اس منزل کے بیرونی میدان میں جس میں وہ رہتے تھے بیٹھے ہوئے تھے کہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما ان کے پاس سے گزرے پوچھا اے ابویکسوم کیا میں تمہیں زندہ نہیں دیکھتا، حکم دیا کہ انہیں قید خانے کی طرف گھسیٹے ہوئے لے جائیں وہ پہنچے بھی نہ پائے تھے کہ راستے ہی میں وفات ہو گئی، عبداللہ نے حکم دیا کہ انہیں شعب الجحیف (مرداروں کی گھاٹی) میں پھینک دیا جائے اس کی تعمیل ہوئی۔ شعب الجحیف وہی مقام ہے جہاں عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کو اس کے بعد سولی دی گئی۔

عبیدہ بن الزبیر:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی، ان کی والدہ زینب تھیں جو ام جعفر بنت مرشد بن عمرو بن عبد عمرو بن قیس بن نجلہ میں سے تھیں۔ عبیدہ بن الزبیر کے یہاں ام ولد سے مندر پیدا ہوئے۔

زینب ان کی والدہ ام عبداللہ بنت مسحق بن عبداللہ بن محزمہ بن عبدالعزیٰ ابن ابی قیس بن عمرو بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔

حزہ بن الزبیر:

ابن العوام بن خویلد بن اسد بن عبدالعزیٰ، ان کی والدہ بواب بنت انیف ابن عبید بن مصاد بن کعب بن علیم بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں، حمزہ مصعب بن الزبیر کے حقیقی بھائی تھے۔

حزہ کے یہاں عمارہ پیدا ہوئے، ان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے کوئی پس ماندہ نہ چھوڑا، عروہ و جعفر فرزند ان زبیر ان کے وارث ہوئے۔

قاسم بن محمد بن جعفر:

ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما، ابو بکر رضی اللہ عنہما کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب ابن سعد بن تیم بن مرہ تھا، ان کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام سودہ تھا۔

قاسم بن محمد کے یہاں عبدالرحمن و ام فروہ پیدا ہوئیں، ام فروہ جعفر بن محمد ابن علی بن حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کی والدہ تھیں۔

ام حکیم بنت القاسم و عبیدہ، ان کی والدہ قریبہ بنت عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ شب عرفہ کو عائشہ رضی اللہ عنہا ہمارے سر منڈاتی تھیں۔ اور ہمارا حلقہ بنا کر ہمیں مسجد بھیجتی تھیں، پھر دوسرے دن ہمارے پاس قربانی کرتی تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم نے عائشہ و ابو ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم و اسلم مولائے عمرو عبداللہ بن عمرو صالح بن خوات بن جبیر الانصاری سے روایت کی ہے۔

گفتگو میں احتیاط:

ابن عون سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد حدیث کو اس کے تمام پہلوؤں سے روایت کرتے تھے۔ عبید اللہ سے مروی ہے کہ قاسم قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے۔

ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ قاسم سوائے امر ظاہر کے اور کسی کا جواب نہیں دیتے تھے۔ قاسم سے مروی ہے کہ انہوں نے کسی امر (کے جواب) میں کہا میری رائے یہ ہے مگر میں نہیں کہتا کہ وہ حق ہے۔

ابن عون سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے کچھ دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس مشورے کی طرف کسی نے مجبور نہیں کیا اور نہ میں اس کے کسی جزو میں ہوں انصاری نے کہا کہ گویا ان کی رائے یہ تھی کہ والی جب اپنے پاس والے سے کسی علمی امر میں مشورہ کرے تو اس پر اجتہاد کرنا واجب ہے۔

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدمی پر جو کچھ اللہ نے فرض کیا ہے اس کے جاننے کے بعد اس کا جاہل رہنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی بات کہے جس کا اسے علم نہ ہو۔

قدریہ کی مذمت:

عمران بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ قاسم نے اس قوم سے جو تقدیر کا ذکر کر رہی تھی کہا کہ تم بھی اس امر سے باز رہو جس سے اللہ باز رہا۔ عکرمہ بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے سالم و قاسم کو قدریہ پر لعنت کرتے سنا۔

عبد اللہ بن العلاء سے مروی ہے کہ میں نے قاسم رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے احادیث لکھوادیں۔ انہوں نے کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے عہد میں احادیث کی کثرت ہو گئی تو انہوں نے حکم دیا کہ احادیث ان کے پاس لائی جائیں لوگ جب لائے تو ان کو جلا دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اہل کتاب کی نقالی ہے راوی نے کہا کہ قاسم رضی اللہ عنہ نے مجھے حدیث لکھنے سے منع کر دیا۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی عشاء کے بعد حدیث بیان کرتے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم اور سالم بن عبد اللہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ہی مجلس تھی ان دونوں کے بعد عبد الرحمن بن القاسم و عبید اللہ بن عمرو ہاں بیٹھتے ان کے بعد مالک بن انس بیٹھے وہ جگہ قبر و منبر کے درمیان عمر رضی اللہ عنہ کی کھڑکی کے رو برو تھی۔ مالک بن انس کہتے تھے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر قاسم خلافت کے لیے ہوتے (تو بہتر ہوتا)۔

خوداری کا عجیب واقعہ:

سلیمان بن قتیبہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبید اللہ نے میرے ہمراہ عبد اللہ ابن عمرو قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کے پاس ایک ہزار دینار بھیجے میں ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا حمام کر رہے تھے انہوں نے اپنا ہاتھ نکالا تو میں نے دینار ان کے ہاتھ میں ڈال دیئے انہوں نے کہا کہ یہ صلہ رحم ہے ضرورت پر یہ ہمارے پاس آئے ہیں میں قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا ان کی بیوی نے کہا کہ اگر قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ ان کے بچا کے بیٹے ہیں تو میں ان کی پھوپھی کی بیٹی ہوں لہذا مجھے دے دو۔ دینار ان کو دے دیئے۔

ایوب سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کے جسم پر سبز خز کی ٹوپی اور سا بری چادر دیکھی جس پر رنگین دھاریاں کسی قدر زعفران سے رنگی ہوئی تھیں، ایوب نے کہا کہ وہ ایسے ایک لاکھ درہم بھی چھوڑ دیتے جس میں انہیں کچھ بھی شک ہوتا۔

علی بن عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے سفیان سے قاسم بن محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہما کا ذکر سنا، انہوں نے ان کی بزرگی بیان کی اور کہا کہ ان کے بیٹے عبدالرحمن ابن القاسم کے لیے بھی بزرگی تھی۔

سفیان نے کہا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو کسی زکوٰۃ کے بارے میں جس پر ان کے والد منتظم تھے تذکرہ کرتے سنا تو کہا کہ واللہ تم لوگ ایسے شخص سے بات کرتے ہو جس نے اس میں سے کبھی ایک کھجور بھی نہیں حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ قاسم رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے تم بقدر اپنی واقفیت کے یہ کہتے ہو۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلاف کے متعلق بہترین رائے:

قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف لوگوں کے لیے رحمت تھا۔ عبدالرحمن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ اول نہار میں مسجد آتے۔ دو رکعت نماز پڑھ کے لوگوں کے درمیان بیٹھے، پھر لوگ ان سے مسائل پوچھتے۔

عبدالرحمن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما اپنے گھر سے صبح کو مسجد آتے، نماز پڑھتے اور لوگوں کے لیے بیٹھ جاتے، لوگ ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے۔

ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما بہت ضعیف ہو گئے تھے، اپنی منزل سے سوار ہو کر مسجد منیٰ میں آتے اور اتر پڑتے، پھر مسجد سے جمار (جمرات) تک پیادہ جاتے، پیادہ چل کر ان پر رنی کرتے اور پیدل ہی مسجد کی جانب لوٹتے، جب مسجد میں آتے تو سوار ہو جاتے۔

خصائل اور لباس کی تفصیل:

فلح سے مروی ہے کہ قاسم رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی کا نقش انہیں کا نام تھا۔ فلح بن حمید سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کی انگوٹھی کے گینے میں ان کا اور ان کے والد کا نام لکھا ہوا تھا، انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا گینہ بھی چاندی کا تھا۔ حنظلہ سے مروی ہے کہ میں نے قاسم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چاندی کی انگوٹھی دیکھی جس میں ان کا نام تھا۔ حنظلہ سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کی انگوٹھی چاندی کی تھی جو ان کے بائیں ہاتھ کی خضر میں تھی اس کا نقش ”القاسم بن محمد“ تھا۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں بالکل نہیں کترواتے تھے، اسے اچھی طرح کترواتے تھے۔

مختار بن سعد الاحول مولائے نبی مازن سے مروی ہے کہ میں نے قاسم ابن محمد رضی اللہ عنہما کے ناخن سفید دیکھے ان پر کبھی مہندی کی زردی نہیں دیکھی۔

فلح بن حمید سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کے کرتے اور بے کی آستینیں دیکھیں جو ان کی انگلیوں سے چار انگلی یا ایک باشت یا اسی کے قریب آگے بڑھ جاتی تھیں۔ موسیٰ بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہما کو زینتہ دیکھا۔ خالد

بن الیاس سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے بدن پر خز کا جبہ خز کی چادر اور خز کا عمامہ دیکھا۔

موسیٰ بن ابی بکر الانصاری سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ مرو کا کپڑا اور خز پہنتے تھے۔ ابو معشر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے بدن پر خز کا جبہ دیکھا۔

فلح سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ خز کا جبہ زیتہ پہنتے تھے اور عبدالرحمن بن القاسم خز کی چادر اوڑھتے تھے۔ عباد بن ابی علی سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے بدن پر خز کا جبہ دیکھا۔

ایوب سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ پر خز کی ٹوپی اور ساہری چادر دیکھی جس پر رنگین دھاریاں کسی قدر زعفران سے رنگی ہوئی تھیں۔ عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے بدن پر خز کا جبہ دیکھا۔ عطف بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو اس حالت میں دیکھا کہ ان کے بدن پر زرد خز کا جبہ اور اون کی چادر تھی۔

معاذ بن العلاء سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ کجاوے پر غباری رنگ کے خز کی چادر بدن پر زرد خز کا جبہ اور گیرو کے رنگ کی چادر تھی۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم رضی اللہ عنہ کے بدن پر باریک کرت دیکھا۔

عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا جب بیماری میں ان کی عیادت کو گیا تھا ان کے بدن پر زرد رنگ کی ایک تہ بند تھی جس سے نصف ران باہر نکلی ہوئی تھی۔

ابو زبیر عبداللہ بن العلاء بن زبیر سے مروی ہے کہ میں قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا وہ ایک زرد رنگ کے خیمے میں تھے اور نیچے زرد فرش اور سرخ ٹیکے تھے۔ میں نے کہا کہ اے ابو عبدالرحمن یہ وہی چیز ہے جس کے متعلق میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اس میں سے جسے استعمال کیا جائے کوئی حرج نہیں۔ (شبابہ نے اپنی حدیث میں کہا کہ) تکلف کا کپڑا مکروہ ہے۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کے سر پر سفید ٹوپی دیکھی۔

سعید بن مسلم بن بانک سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو اس وقت دیکھا جب انہوں نے شادی کی تھی وہ قدرے زعفران کے رنگ کی چادر اوڑھے تھے۔

عبدالرحمن بن القاسم سے مروی ہے کہ ان کے والد قاسم بحالت احرام خفیف عصف (زرد رنگ کی گھاس) کی رنگی ہوئی چادریں استعمال کرتے تھے۔

عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ خز کا لباس پہنتے تھے اور بدن پر زرد تہ بند تھی۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید عمامہ دیکھا جو ایک بالشت سے زیادہ پیچھے لٹکا ہوا تھا۔ محمد بن عمر سے مروی ہے کہ قاسم کے بدن پر خاکی خز کی چادر دیکھی۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو خضاب لگاتے نہیں دیکھا۔ ابو العصن سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو اپنا سر اور داڑھی مہندی سے رنگتے ہوئے دیکھا۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے۔ داؤد بن شان سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سر اور داڑھی میں مہندی کا خضاب کرتے تھے۔

محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اپنا سر اور داڑھی قریب میرے خضاب کے رنگتے تھے۔ محمد بن عمرو کی داڑھی کا خضاب زردی مال مہندی کا تھا اور ان کا سر شوخ سرخ تھا۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ ان کے بدن پر باریک کرتا تھا اور وہ اپنی داڑھی تیل سے زرد کرتے تھے۔

فلح بن حمید سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے جب اپنی وصیت لکھوائی تو کہا کہ لکھو کا تب نے لکھا کہ یہ وہ ہے جس کی قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے وصیت کی جو گواہی دیتا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، قاسم نے کہا کہ اگر آج سے پہلے ہم اس کے گواہ نہ تھے تو ہم بد نصیب ہیں۔

سلیمان بن عبدالرحمن سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کی وفات قدید میں ہوئی انہوں نے کہا کہ میرے انہیں کپڑوں میں جن میں نماز پڑھتا تھا (یعنی) میرے کرتے اور تہبند اور چادر میں مجھے کفن دینا ان کے بیٹے نے کہا کہ اے والد آپ دو کپڑے نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی اسی طرح تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اور زندہ بہ نسبت میت کے نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہے۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ ان کی قبر پر تعریف نہ کی جائے۔ یزید سے مروی ہے کہ میں قاسم کی وفات میں موجود تھا ان کی وفات قدید میں ہوئی، مثلث میں دفن کیے گئے، قدید اور اس کے درمیان قریب تین میل کا فاصلہ ہے ان کے بیٹے نے تابوت اپنے کندھے پر رکھ لیا اور روانہ ہوئے یہاں تک کہ مثلث پہنچ گئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ قاسم کی وفات ۱۰۸ھ میں ہوئی، جب وہ سترا بہتر برس کے تھے تو ان کی نگاہ جا چکی تھی، ثقہ اور بلند و عالی مرتبہ فقیہ و امام و کثیر الحدیث و متقی تھے ان کی کنیت ابو محمد تھی۔

عبداللہ بن محمد:

ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام سودہ تھا، عبداللہ یوم الحمرہ میں ذی الحجہ ۶۳ھ میں مقتول ہوئے ان کا کوئی پسماندہ نہ تھا۔

عبداللہ بن عبدالرحمن بنی ہاشم:

ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ان کی والدہ قریبہ صغری بنت ابی امیہ بن المغیرہ بن عبداللہ ابن عمر بن مخزوم تھیں ان کی خالہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔

عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے یہاں ابو بکر و طلحہ و عمر ان و عبدالرحمن پیدا ہوئے، نفیسہ جن سے ولید بن عبدالملک بن مروان نے نکاح کیا اور ام فروہ ان سب کی والدہ عائشہ بنت طلحہ بن عبید اللہ تھیں، عائشہ کی والدہ ام کلثوم بنت ابی

بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔

ام ایہا بنت عبد اللہ ان کی والدہ مریم بنت عبد اللہ بن عقال العقیلی تھیں۔

عبد اللہ بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ یہ وہی تھے جنہیں ابن ابی عتیق کہا جاتا تھا ان کی والدہ رمیثہ بنت الحارث بن حذیفہ بن مالک بن ربیعہ بن اعیان بن مالک بن علقمہ ابن فراس بنی کنانہ میں سے تھیں۔

عبد اللہ بن محمد کے یہاں محمد و ابو بکر و عثمان و عبد الرحمن و عمر و عائشہ و زینب پیدا ہوئیں جن کی والدہ ام ایہا بنت عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔

عائشہ بنت عبد اللہ کہا جاتا ہے کہ ان کا نام ام کلثوم تھا ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ آمنہ بنت عبد اللہ ان کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبد اللہ بن عثمان التیمی تھیں ام اسحاق کی اخیانی بہن فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھیں۔

سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

نام و نسب و کنیت:

ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بن نفیل بن عبد العزیز بن رباح بن عبد اللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ سالم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمیر تھی۔

سالم رضی اللہ عنہ کے یہاں عمر و ابو بکر پیدا ہوئے جن کی والدہ ام الحکم بنت یزید بن عبد قیس تھیں۔ عاصم و جعفر و حفصہ و فاطمہ جن کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبد العزیز و عبدہ ان دونوں کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ سالم رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عمر تھی ابن ابی ندیک نے کہا کہ محمد بن ہلال نے ان سے ملاقات کی اور مسائل پوچھے تھے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ عبد اللہ رضی اللہ عنہ تھے اور عبد اللہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ سالم رضی اللہ عنہ تھے۔

نمازی مسلمان کے قتل سے انکار:

عطاء بن السائب سے مروی ہے کہ حجاج (بن یوسف) نے سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو تلوار دی اور ایک شخص کو قتل کرنے کا حکم دیا سالم رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا تم مسلمان ہو اس نے کہا ہاں آپ اس کام کو جاری کیجئے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ پوچھا کیا تم نے صبح کی نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔

سالم رضی اللہ عنہ حجاج کے پاس واپس گئے تلوار اس کے آگے پھینک دی اور کہا کہ اس شخص نے بیان کیا کہ مسلمان ہے اور آج صبح کی نماز پڑھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے نماز صبح پڑھی تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں ہے۔

حجاج نے کہا کہ ہم اسے نماز صبح پر قتل نہیں کرتے تھے وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ پر مدد کی تھی، سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہاں مجھ سے زیادہ عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والا کون ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی نظر میں آپ کا مقام:

اس کی خبر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہوئی تو فرمایا کہ سالم رضی اللہ عنہ نے کیا کیا لوگوں نے کہا کہ انہوں نے یہ یہ کیا کیا، ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ عقلمند ہے عقلمند ہے۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ مجھے یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سالم رضی اللہ عنہ کی محبت میں ملامت کی جاتی تو وہ کہتے:

یلو مونی فی سالم والو مهمم وجلدة بین العین والانف سالم

”سالم رضی اللہ عنہ کے بارے میں لوگ مجھے ملامت کرتے ہیں اور میں انہیں ملامت کرتا ہوں سالم رضی اللہ عنہ تو ایسے ہیں جیسے آنکھ اور ناک کی درمیانی کھال۔“

انگٹھی کا نقش:

حظقلہ سے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی انگٹھی چاندی کی تھی جو ان کے بائیں ہاتھ کی خنصر میں تھی اس کا نقش ”سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما“ تھا۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو اپنے بائیں ہاتھ میں انگٹھی پہنے دیکھا۔ خالد سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کو اس طرح دیکھا کہ ہاتھ میں انگٹھی تھی، حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے۔

سر اور داڑھی کے بال:

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں بالکل نہیں کترتے تھے اس میں سے اچھی طرح کترتے تھے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اپنی داڑھی زرد رنگتے تھے۔ ابوالفضل سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی کو سفید دیکھا۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی کو سفید دیکھا۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کو خضاب کرتے نہیں دیکھا۔

لباس و پوشاک:

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید ٹوپی دیکھی اور میں نے ان کے سر پر سفید عمامہ دیکھا جس کا ایک بالشت سے زیادہ حصہ وہ اپنے پیچھے لٹکاتے تھے۔

امام داز مصقلہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے بدن پر کتان کا کرتا دیکھا جو آگ کی طرح (سرخ) تھا۔ داؤد بن سنان مولائے عمر بن تیمم الحنکی سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان کے بدن پر آدھی پنڈلی تک کا کرتا تھا۔

عبدالرحمن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ کتان کا کرتا اور چادر استعمال کرتے تھے۔ ایوب سے مروی ہے کہ سالم رضی اللہ عنہما نے ایک کرتے اور ایک جے میں جس کے اوپر انہوں نے تہبند باندھ لی تھی ہماری امامت کی نافع سے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما عبداللہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ارغوانی (سرخ) چار جاے پر سوار ہوتے تھے۔ عطف بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ایسی چھوٹی تہبند باندھتے تھے جس کا حاشیہ نہ ہوتا تھا حالانکہ ان کا شکم فراخ تھا۔

کثیر بن زید سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ایک کرتا پہنے نماز پڑھتے، گھنڈیاں کھلی ہوتیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے کرتے میں گھنڈی نہیں دیکھی نہ جاڑے میں نہ گرمی میں۔ فطر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہما کو تہبند کھولے ہوئے دیکھا۔

عبدالملک بن قدامہ سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا کہ ان کے کرتے کی گھنڈیاں کھلی ہوئی تھیں۔ عبدالملک بن قدامہ انجی سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہما کو اپنے کرتے کی گھنڈیاں کھول کر نماز پڑھتے دیکھا۔

عبدالرحمن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو اس طرح مسجد سے نکلتے دیکھا کہ ان کی گھنڈی کھلی ہوئی تھی۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کرتے کی گھنڈیاں کھولے ہوئے دیکھا۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ بحالت احرام اکثر اپنی پشت دھوپ میں رکھتے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو کئے کے راستے پر حج میں بحالت احرام دیکھا وہ تلبیہ (لیک لیک الخ) کہہ رہے تھے حالانکہ پشت کھولے ہوئے اور چادر اپنی رانوں پر ڈالے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ ان کی کھال آفتاب کی وجہ سے اکھڑ رہی تھی۔

موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ عمرے کے سفر سے واپس آئے جب وہ ایسے سواروں سے ملتے تھے جو تلبیل (لا الہ الا اللہ) کہہ رہے تھے تو وہ اور ان کے ساتھی تکبیر کہتے۔ سلیمان بن ابی الریح سے مروی ہے کہ میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا دیکھا کہ بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے قیام چوزا نو ہو کر کرتے اور جب جلوس کا ارادہ کرتے تو دوزانو بیٹھ جاتے۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ درست کر کے ایک ہی جوتی پہنے چلتے، جب اس باب میں کہا جاتا تو کہتے کہ اس سے مجھے کیا ضرر پہنچا، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کھجور کی چھال کا تسمہ بنا لیتے۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سالم رضی اللہ عنہما گھر میں آتے تھے اور ہم لوگوں کو کھیلتا ہوا پاتے تھے حالانکہ ہم بچے تھے مگر وہ ہمیں اپنی چادر کے کنارے سے مارتے تھے۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سالم رضی اللہ عنہما صبح ہی کو صدقہ فطر کی کھجوریں لے جاتے اور نوحہ کرنے والی

اور ہمارے مددگار ہیں ہم سب ان کے مددگار ہیں سب نے انہیں بلایا کہ ٹھہرائیں اور کاح کریں مگر انہوں نے کہا کہ مجھے تین دن کی مہلت دو۔

کوہ حراء پر گئے اور تین دن تک اس کی چوٹی پر عبادت کی اترے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قریش میں سب سے پہلے جو شخص ملے گا اس سے مخالفت کر لیں گے سب سے پہلے انہیں جو صاحب ملے وہ عبدعوف بن عبد بن الحارث ابن زہرہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دادا تھے انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا دونوں روانہ ہوئے اور مسجد میں آئے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہوئے اور معاہدہ حلف کیا عبدعوف نے ان کے لئے حلف کو مضبوط کر دیا۔

ابراہیم بن قارظ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے (روایت) سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ مجھے اہل کوفہ نے اس طرح تنگ کیا کہ نہ وہ کسی امیر سے خوش ہیں اور نہ کوئی امیر ان سے خوش ہے۔

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن مسعود بن نافع بن حبیب بن شمع بن فار بن مخزوم بن صابہ بن کابل بن الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل جو بنی زہرہ بن کلاب کے حلفا تھے ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔

زہری سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عتبہ کو بازار پر عامل بنایا انہیں حکم دیا کہ سوتی کپڑے سے محصول لیا کریں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عتبہ نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے بعد کو وہ کوفہ منتقل ہو گئے اور وہیں رہے کوفہ ہی میں عبدالملک بن مروان کی خلافت اور بشر بن مروان کی ولایت عراق میں ان کی وفات ہوئی۔

فقہ و عالی قدر و کثیر الحدیث و کثیر الفتویٰ و فقیہ تھے۔

نوفل بن ایاس الہذلی رضی اللہ عنہ:

نوفل بن ایاس الہذلی سے مروی ہے کہ ہم لوگ رمضان میں بزمانہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں (تراویح کے لیے) گروہ گروہ ہو کر یہاں اور یہاں کھڑے ہوتے تھے لوگ زیادہ خوش آواز کی طرف جھکتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں نے قرآن کو گانا بنا لیا ہے واللہ اگر مجھ سے ہوسکا تو ضرور اس طریقے کو بدل دوں گا وہ صرف تین ہی رات ٹھہرے کہ ابی بن کعب کو حکم دیا تو انہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ عمر رضی اللہ عنہ سب سے آخری صف میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اگر یہ بدعت ہے تو کیسی اچھی بدعت ہے۔

حارث بن عمرو الہذلی رضی اللہ عنہ:

رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں پیدا ہوئے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے احادیث روایت کیں جن میں نماز کے بارے میں ابو موسیٰ الأشعری رضی اللہ عنہ کے نام ان کا فرمان بھی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی روایت کی ہے۔ حارث بن عمرو کی وفات ۶۷ھ میں ہوئی۔

یہاں ابو بکر و عمرو عبد اللہ و محمد و ام عمر پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ عائشہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر الصديق جی تھیں۔

قاسم بن عبد اللہ اور ابو عبیدہ و عثمان و ابوسلمہ و زید و عبد الرحمن و حمزہ و جعفر نہ دونوں (حمزہ و جعفر) تو (جڑواں) تھے اور قریبہ و اسماء ان سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت القاسم بن محمد بن ابی بکر الصديق جی تھیں۔ اسماعیل ایک ام ولد سے تھے۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ عبید اللہ بن عبد اللہ کی کنیت ابو بکر تھی۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ کے سر پر سفید ٹوپی دیکھی۔ اور عمامہ دیکھا جسے وہ اپنے پیچھے ایک بالشت سے زیادہ لٹکاتے تھے۔

عیسیٰ بن حفص سے مروی ہے کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر جی تھیں کے جسم پر کسم کی رنگی ہوئی دو چادرین دیکھیں جن میں وہ بعد عصر جاتے اور انہیں میں عشاء میں آتے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبید اللہ بن عبد اللہ جیسا کہ لوگ بیان کرتے ہیں عبد اللہ بن عبد اللہ سے عمر میں زیادہ تھے ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر جی تھیں کے پاس حاضر تھے عبید اللہ کی قبر پر ایک خیمہ تھا اور پانی چھڑکا ہوا تھا۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

حمزہ بن عبد اللہ جی تھیں:

ابن عمر بن الخطاب جی تھیں ان کی والدہ ام ولد تھیں وہی سالم بن عبد اللہ جی تھیں کی بھی والدہ تھیں۔ حمزہ کی کنیت ابو عمارہ تھی زہری نے ان سے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

حمزہ بن عبد اللہ کے یہاں عمرو ام المغيرہ و عبیدہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام حکیم بنت المغيرہ بن الحارث بن ابی ذؤیب تھیں۔ عثمان و معاویہ و ام عمرو ام کلثوم و ابراہیم و ام سلمہ و عائشہ و لیلیٰ مختلف امہات اولاد سے پیدا ہوئیں۔

زید بن عبد اللہ جی تھیں:

ابن عمر بن الخطاب جی تھیں ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ زید بن عبد اللہ کے یہاں محمد و ام حمید و ام زید و فاطمہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام حکیم بنت عبد اللہ بن عمر بن الخطاب جی تھیں۔

عبد اللہ بن زید و ابراہیم و عمرو و فاطمہ و حصہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام ولد حکیمہ تھیں۔ سوہہ بنت زید ام ولد یمانیہ سے پیدا ہوئیں۔

زید بن عبد اللہ بن عمر جی تھیں کے سب سے بڑے بیٹے تھے وہ انہیں ان کی حیات ہی میں چھوڑ کر کوفے آگئے اور وہیں مقیم ہو گئے ان کی وفات بھی وہیں ہوئی، یمن اور کوفے میں ان کی پس ماندہ اولاد تھی۔

بلال بن عبد اللہ جی تھیں:

ابن عمر بن الخطاب جی تھیں ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ بلال کے یہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے ان کی والدہ ام سعید بنت ابی

نعیم ابن عامر بن سیار بن ضبیہ قبیلہ خزاعہ میں سے تھیں۔

واقد بن عبد اللہ بنی النضر:

ابن عمر بن الخطاب بنی النضر، ان کی والدہ صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود اشقی تھیں۔ واقد بن عبد اللہ کے یہاں عبد اللہ پیدا ہوئے ان کی والدہ امتہ اللہ بنت عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ بن المغیرہ بنی مخزوم میں سے تھیں۔ زہری سے مروی ہے کہ واقد بن عبد اللہ کی وفات بحالت احرام السقیاء میں ہوئی، ابن عمر بنی النضر نے انہیں پانچ کپڑوں میں کفن دیا جن میں کرتا اور عمامہ بھی تھا۔ عبد اللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ واقد بن عبد اللہ کی وفات السقیاء میں ہوئی، ابن عمر بنی النضر نے ان پر نماز پڑھ کر انہیں دفن کر دیا۔ پھر اعراب کو بلایا اور سہتی دینے لگے میں نے کہا کہ آپ نے ابھی ابھی واقد کو دفن کیا اور آپ اعراب کو سہتی دیتے ہیں فرمایا کہ اے نافع تم پر افسوس ہے تم جب اللہ کو دیکھو کہ وہ کسی امر پر غالب آ گیا تو اس سے غافل ہو جاؤ۔

محمد بن جبیر بنی النضر:

ابن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی، ان کی والدہ قتیلہ بنت عمرو بن الارزق بن قیس بن النعمان بن معدی کرب بن عکب بن کنانہ بن تیم بن اسامہ بن مالک بن بکر بن حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل تھیں۔ محمد بن جبیر کے یہاں سعید پیدا ہوئے انہیں سے ان کی کنیت تھی اور ام سعید و ام سلیمان و ام حبیب و ام عثمان و حمیدہ ان سب کی والدہ فاختہ بنت عدی الاصر بن الخیار بن عدی بن نوفل بن عبد مناف تھیں۔

سہلہ بنت محمد ان کی والدہ ام سعید بنت عیاض بن عدی بن الخیار بن عدی تھیں۔ عمر بن محمد و ایوب و ابان و ابوسلیمان ان سب کی والدہ ام ایوب بنت سعد بن ابی وقاص تھیں۔ جبیر بن محمد ان کی والدہ کبشہ بنت شرحبیل بن عزیب بن عبد کلال تھیں۔ عبد الرحمن و عبد اللہ و عبیدہ امہات اولاد سے تھیں۔

عبد الرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ محمد بن جبیر اور ان کے بھائی نافع بن جبیر مدینے میں اپنے والد کے مکان میں رہتے تھے محمد کی وفات سلیمان بن عبد الملک کے عہد خلافت میں ہوئی۔

ابن مالک الحمیری سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر کو جس روز ان کے بھائی محمد بن جبیر کی وفات ہوئی دیکھا کہ اپنی چادر پشت سے اتارے ہوئے جا رہے تھے راوی نے کہا کہ محمد ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

نافع بن جبیر بنی النضر:

ابن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی، ان کی والدہ ام قتال بنت نافع بن ضریب بن نوفل تھیں۔ نافع بن جبیر کے یہاں محمد و عمرو و ابوبکر پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام سعید بنت عیاض بن عدی بن الخیار بن عدی بن نوفل تھیں۔ علی بن نافع ان کی والدہ میموتہ بنت عبد اللہ بن العباس بنی النضر تھیں۔ نافع کی کنیت ابو محمد تھی۔ ولید بن عبد اللہ بن جبیر سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر بنی النضر کو دیکھا کہ سیاہی کا خضاب لگاتے تھے۔ عبد اللہ بن عبد الرحمن بن مویب سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر بنی النضر کو دیکھا کہ سیاہی کا خضاب لگاتے تھے۔

ابوالنصن ثابت بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کو اپنے دانتوں کو سونے کے گھبروں سے باندھے ہوئے دیکھا۔ ابوالنصن سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سوائے سفید کے اور کوئی رنگ نہیں پہنتے تھے۔ ابوالنصن سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سفید عمامہ اور بے استر کی ٹوپی پہنتے تھے۔ موسیٰ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ خز پہنتے تھے۔

نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھ سے کہا گیا 'لوگ کہتے ہیں کہ گویا میں تکبر کرتا ہوں واللہ میں گدھے پر سوار ہوا ہوں' کملی استعمال کی ہے اور بکری کا دودھ دوہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے یہ افعال کیے اس میں ذرا بھی کبر نہیں۔
عمران بن موسیٰ سے مروی ہے کہ نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ حج کو پیادہ جاتے تھے حالانکہ ان کی سواری کجاہہ کسی ہوئی ان کے پیچھے ہوتی تھی۔

جویریہ ابن اسماء و عبد اللہ بن جعفر بن نجیح سے مروی ہے کہ نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ علماء بن عبد الرحمن الحرقی کے حلقہ درس میں بیٹھے جو لوگوں کو پڑھا رہے تھے جب فارغ ہوئے تو (نافع نے) کہا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں بیٹھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اس لیے بیٹھے کہ (درس) سنیں۔ انہوں نے کہا نہیں میں اس لیے تم لوگوں کے پاس بیٹھا کہ تمہارے پاس بیٹھنے سے اللہ کے آگے تواضع کروں۔

دوسرے راوی نے کہا کہ نماز کا وقت آ گیا تو نافع نے ایک شخص کو (امامت کے لیے) آگے کر دیا جب نماز پڑھ لی تو کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں آگے کر دیا اس نے کہا کہ آپ نے اس لیے مجھے آگے کر دیا کہ میں آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ انہوں نے کہا نہیں۔ میں نے تمہیں اس لیے آگے کر دیا تھا کہ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھنے سے اللہ کے آگے تواضع کروں۔
عبد الرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ نافع بن جبیر رضی اللہ عنہ کی وفات مدینے میں ۹۹ھ میں آخر خلافت سلیمان بن عبد الملک میں ہوئی۔ نافع نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ثقہ تھے ان کی اکثر حدیثیں اپنے بھائی سے ہیں۔
ابوبکر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن ہشام بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم ان کی والدہ فاختہ بنت عقبہ بن سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لؤی تھیں۔

ابوبکر کے یہاں عبد الرحمن پیدا ہوئے جن کی نسل ختم ہو گئی عبد اللہ و عبد الملک و ہشام جن کا کوئی بقیہ تھا سہیل جن کا کوئی بقیہ نہ تھا اور حارث و مریم ان سب کی والدہ سارہ بنت ہشام بن الولید بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم تھیں۔

ابوسلمہ جن کا کوئی بقیہ نہ تھا اور عمرو و ام عمرو جن کا نام رجبہ تھا ان سب کی والدہ قریبہ بنت عبد اللہ بن زمرہ بن الاسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں قریبہ کی والدہ زینب بنت ابی سلمہ بن عبد اللہ بن ہلال بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں اور زینب کی والدہ ام سلمہ بنت ابی امیہ بن المغیرہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔

فاطمہ بنت ابی بکر ان کی والدہ رمیثہ بنت الولید بن طلحہ بن قیس بن عاصم المقری تھیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابوبکر عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہما کی خلافت میں پیدا ہوئے ان کی بزرگی اور کثرت نماز کی وجہ سے انہیں راہب قریش کہا جاتا تھا، بینائی جاتی رہی تھی ان کا کوئی نام نہ تھا، کنیت ہی سے پکارے جاتے تھے جنگ جمل میں وہ اور عروہ بن الزبیر چھوٹے سمجھ کر واپس کر دیئے گئے ابو مسعود الانصاری و عائشہ و ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے اور وہ ثقہ و فقیہ و کثیر الحدیث و عالم و عاقل و بلند مرتبہ و عجمی تھے۔

ہشام بن عروہ سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کے جسم پر خز کی چادر دیکھی۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ اپنی موچھیں بالکل نہیں کتر وایا کرتے تھے بلکہ خوبی کے ساتھ کترتے تھے۔

عثمان بن محمد سے مروی ہے کہ عروہ نے بنی مصعب کے مالوں میں سے کوئی مال ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کے پاس بطور امانت رکھ دیا، کل مال یا اس کا کچھ حصہ ابو بکر رضی اللہ عنہما کے پاس ضائع ہو گیا، عروہ نے کہا بھیجا کہ آپ پر تاوان نہیں ہے آپ تو صرف امین تھے ابو بکر نے کہا کہ مجھے بھی معلوم ہے کہ مجھ پر تاوان نہیں ہے، لیکن آپ ایسے نہ تھے کہ قریش سے بیان کرتے کہ میری امانت برباد گئی انہوں نے اپنا کوئی مال فروخت کر کے ادا کر دیا۔ عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما اپنے غسل خانے میں داخل ہوئے اسی میں ناگہانی طور پر ان کی وفات ہو گئی۔

عبداللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما نے عصر کی نماز پڑھی اور غسل خانے میں داخل ہوئے، گر پڑے تو کہنے لگے کہ واللہ مجھے اس دن کے شروع میں کوئی چیز حادث نہیں ہوئی، راوی نے کہا کہ مجھے معلوم نہ ہوا کہ ان کی وفات تک سورج غروب ہو گیا تھا، یہ ۹۴ھ میں مدینے میں ہوا، محمد بن عمر نے کہا کہ اس سال کو فقہاء کی کثرت و وفات کی وجہ سے سال فقہاء کہا جاتا تھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالملک بن مروان ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کی بہت تعظیم و تکریم کرتا تھا، اس نے ولید و سلیمان کو ان کے اکرام کی وصیت کی تھی، عبدالملک نے کہا کہ اہل مدینہ ہمارے یہاں برا اثر پیدا کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ کسی امر کے کرنے کا قصد کرتا ہوں، مگر ابو بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کو یاد کر کے ان سے شرماتا ہوں اور اس امر کو ترک کر دیتا ہوں۔

عکرمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ فاختہ بنت عبد بن سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔

عکرمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما کے یہاں عبداللہ اکبر پیدا ہوئے، ان کی والدہ عاتکہ بنت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ تھیں۔ محمد بن ابی ہریرہ کی والدہ ام سلمہ بنت عبداللہ بن ابی عمرو بن حفص بن المغیرہ تھیں۔

عبداللہ اصغر و حارث، ان دونوں کی والدہ دختر عبداللہ بن ابی عمرو بن حفص بن المغیرہ تھیں۔ عثمان، ان کی والدہ ام عبدالرحمن بنت عبدالرحمن بن عبداللہ بن زمرہ بن الاسود تھیں۔ ام سعید بنت عکرمہ ام ولد سے تھیں۔ عکرمہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کی وفات یزید بن عبدالملک کی خلافت میں مدینے میں ہوئی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ فاختہ بنت عبد بن سہیل بن عمرو بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی تھیں۔ محمد بن

عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے یہاں قاسم و فاختہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ ام علی بنت یسار بن قیس بن الحارث بن الحارث بن عبدمنافہ بنی کنانہ میں سے تھیں۔

خالد و ابوبکر و سلمہ و ہشام و حنظلہ و ام حکیم ان سب کی والدہ ام سلمہ بنت عبداللہ بن ابی احمد بن ححش تھیں۔ زہری نے محمد بن عبدالرحمن سے روایت کی ہے وہ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔
مغیرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن ہشام بن المغیرہ ان کی والدہ سعدی بنت عوف بن خارجہ ابن سنان بن ابی حارثہ بن مرہ بن نضہ بن غیظ بن مرہ تھیں۔ مغیرہ کی کنیت ابو ہاشم تھی۔

مغیرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے یہاں حارث و معاویہ و سعدی پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ ام البنین بنت حبیب بن یزید بن الحارث بنی مرہ کی تھیں۔

عیبہ و ام البنین ان دونوں کی والدہ فارحہ بنت سعید بن عیینہ بن حصن بن حذیفہ ابن بدر القراری تھیں۔ ابراہیم و سبوح ایک ام ولد سے تھے اور یحییٰ و سلمہ ایک ام ولد سے۔

عبدالرحمن و ہشام و ابوبکر ان تینوں کی والدہ ام یزید بنت الاشعث بنی جعفر ابن کلاب میں سے تھیں۔ عثمان و صدقہ و ربیعہ ان سب کی والدہ ہمیم بنت صدقہ بن شعیب قبیلہ کلب کے بنی حلیم بن خباب میں سے تھیں۔ محمد ان کی والدہ ام خالد بنت خالد بن محمد بن عبداللہ بن زہیر بن ابی امیہ ابن المغیرہ تھیں۔

ام البنین ان کی والدہ ام البنین بنت عبداللہ بن حنظلہ بن عبیدہ بن مالک بن جعفر تھیں۔ ریظہ ان کی والدہ قریبہ بنت واقع بن حکمہ بن نجبہ بن ربیعہ بن ربیعہ تھیں۔ آمنہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ مغیرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ مجاہد بن کے ملک شام گئے۔ وہ اس لشکر مسلمہ میں تھے جو ملک روم میں روک لیے گئے تھے یہاں تک کہ ان لوگوں کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے واپس کیا ان کی پیناکی جاتی رہی مدینے میں واپس آ گئے اور مدینے ہی میں ان کی وفات ہوئی انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ انہیں شہداء کے ساتھ احد میں دفن کیا جائے مگر ان کے متعلقین نے یہ نہیں کیا اور انہیں بقیع میں دفن کیا۔ ان سے روایت کی گئی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے، اہلۃ مغازی رسول اللہ ﷺ کے بڑے راوی تھے جسے ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا مغازی کی تعلیم ان کے ہاں بہت تھی اور ہمیں تعلیم مغازی کی تاکید بھی کیا کرتے۔

ابوسعید بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن ہشام بن المغیرہ ان کی والدہ ام رن بنت الحارث بن عبداللہ بن الحصین ذی الفصہ بنی الحارث بن کعب میں سے تھیں۔

ابوسعید کے یہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ میمونہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبدالمطلب تھیں۔ ولید ان کی والدہ امانہ بنت عبداللہ بن الحصین ذی الفصہ الحارثی تھیں۔ ابوسعید خلافت یزید بن معاویہ میں ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں قتل کیے گئے۔

تابعین طبقہ ثانیہ

علی بن الحسین رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام غزالہ تھا ان سے حسین کے بعد زبید مولائے حسین بن علی نے نکاح کیا ان سے ان کے یہاں عبداللہ بن زبید پیدا ہوئے وہ علی بن حسین کے اخیافی بھائی تھے اور ان علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد حسین رضی اللہ عنہ سے پس ماندہ اولاد تھی۔ اور وہ علی اصغر بن حسین تھے۔ لیکن علی اکبر بن حسین رضی اللہ عنہ نہر کر بلا پر اپنے والد کے ساتھ قتل کر دیئے گئے اور ان کی پس ماندہ اولاد نہ تھی۔ چنانچہ علی اصغر بن حسین بن علی کے یہاں الحسن بن علی پیدا ہوئے جو لا ولد مر گئے۔ اور الحسین اکبر جو لا ولد مر گئے اور ابو محمد ابو جعفر فقیہ اور عبداللہ اور ان سب کی والدہ ام عبداللہ بنت الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھیں۔ اور عمرو زید جو کوفہ میں قتل کیے گئے جن کو یوسف بن عمر اشقی نے ہشام بن عبدالملک کے زمانہ خلافت میں قتل کر کے دار پر لٹکا دیا۔ اور علی بن علی و خدیجہ اور ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ اور حسین اصغر بن علی و ام علی بنت علی اور انہیں کا نام علیہ تھا اور ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ اور کلثوم بنت علی و سلیمان کہ جن کی بقیہ اولاد نہ تھی اور ملیکہ چند ام ولد سے تھے۔ اور القاسم و ام الحسن جن کا نام حسہ تھا اور ام الحسین و فاطمہ چند ام ولد سے تھیں۔

میدان کر بلا میں:

علی بن الحسین اپنے والد کے ساتھ (کر بلا میں) تھے اس وقت تیرہ سال کی عمر تھی اور بحالت بیماری اپنے بستر پر سو رہے تھے جب حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے تو شمر بن ذی الجوشن نے کہا کہ انہیں بھی قتل کر دو۔ اس کے ساتھیوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ کیا ہم ایسے فوجیوں کو قتل کر دیں جس نے قتال نہیں کیا۔ عمر بن سعد آئے انہوں نے کہا کہ نہ ان عورتوں سے بولو اور نہ اس مریض سے۔

پناہ دینے والے کا عجیب سلوک:

علی بن الحسین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے انہیں میں سے ایک شخص نے پوشیدہ کر دیا اور خوبی کے ساتھ میری مہمان نوازی کی میرے ساتھ خاص برتاؤ کیا۔ جب میں باہر جاتا اور اندر آتا تو رویا کرتا اور کہتا کہ اگر کسی شخص کے پاس نیکی و وفاداری ہے تو وہ اسی شخص کے پاس ہے۔

بالا خرابی زیادہ کے منادی نے ندادی کہ خبردار جو شخص علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو پائے وہ انہیں ہمارے پاس لے آئے ہم نے ان کے بارے میں تین سو درہم انعام مقرر کیا ہے۔

واللہ وہ شخص روتا ہوا میرے پاس آیا میرے ہاتھ گردن کی طرف باندھنے لگا اور کہنے لگا کہ میں ڈرتا ہوں واللہ وہ مجھے ان

لوگوں کے پاس بندھا ہوا لے گیا، ان کے حوالے کر دیا اور تین سو درہم لے لیے، میں ان درہموں کو دیکھ رہا تھا۔
ابن زیاد کے سامنے پیشی:

میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا، اس نے کہا کہ آپ کا کیا نام ہے، میں نے کہا علی بن حسین رضی اللہ عنہ۔ پوچھا کیا اللہ نے علی رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کر دیا؟ میں نے کہا کہ میرے ایک بڑے بھائی تھے جن کا نام بھی علی تھا، انہیں لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس نے کہا، نمبر اللہ نے انہیں قتل کیا، میں نے کہا کہ

﴿اللہ يتوفى النفس حين موتها﴾

”اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت لے لیتا ہے۔“

اس نے ان کے قتل کا حکم دیا۔ زینب بنت علی رضی اللہ عنہ (بن ابی طالب) نے پکار کر کہا کہ اے ابن زیاد تجھے ہم لوگوں کے خون ر تو کر چکا، کافی ہیں، میں اللہ کے واسطے تجھ سے درخواست کرتی ہوں کہ بغیر مجھے ان کے ساتھ قتل کیے انہیں قتل نہ کرنا، اس نے انہیں چھوڑ دیا۔

یزید کا ابن حسین سے سلوک:

حسین رضی اللہ عنہ کا اسباب اور ان کے بقیہ متعلقین جب یزید بن معاویہ کے پاس لائے گئے اور وہ لوگ اس کے پاس داخل کیے گئے تو اہل شام میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ ان لوگوں کے قیدی ہمارے لیے حلال ہیں۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تو جھوٹا اور ذلیل ہے، یہ تیرے لیے نہیں ہے تا وقتیکہ تو ہماری ملت سے باہر نہ ہو جائے اور ہمارے خلاف دین نہ اختیار کرے۔

یزید نے دیر تک تکلیفوں سے دیکھا اور اس شامی سے کہا کہ بیٹھ اور علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں کہ ہمارے پاس قیام کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ احسان کریں اور آپ کے لیے آپ کا حق پہنچائیں تو آپ (قیام) کیجئے اور اگر آپ چاہیں کہ میں آپ کو آپ کے شہر واپس کر دوں اور آپ کے ساتھ احسان کر دوں (تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں)۔

علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، مجھے میرے شہر کو واپس کر دو، اس نے انہیں ان کے شہر واپس کر دیا، اور ان کے ساتھ احسان کیا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو الحسن تھی اور دوسری حدیث میں ہے کہ ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ عیزار بن حریت سے مروی ہے کہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ حبیب ابن حبیب کو مر جا۔

نصر بن اوس سے مروی ہے کہ میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ تم کن لوگوں میں سے ہو، میں نے کہا کہ قبیلہ طے سے انہوں نے کہا کہ خدا تمہیں زندہ رکھے اور تمہاری قوم کو زندہ رکھے جن کی طرف تم نے نسبت کی، تمہارا قبیلہ بڑا اچھا قبیلہ ہے، میں نے کہا کہ آپ کون ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہوں۔ میں نے کہا کہ کیا وہ اپنے والد کے ساتھ قتل نہیں کیے گئے، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیارے فرزند اگر وہ قتل کر دیئے جاتے تو تم انہیں نہ دیکھتے۔

مقبری سے مروی ہے کہ مختار نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو ایک لاکھ درہم بھیجے، انہوں نے قبول کرنا بھی پسند نہ کیا اور واپس کرنے سے بھی ڈرے، انہوں نے ان کو لے لیا اور اپنے پاس رکھے رہے جب مختار قتل کر دیا گیا تو علی بن حسین نے عبدالملک بن

مروان کو لکھا کہ مختار نے مجھے ایک لاکھ درہم بھیجے تھے میں نے انہیں واپس کرنا بھی ناپسند کیا اور لینا بھی ناپسند کیا، وہ میرے پاس ہیں لہذا کسی کو بھیجو کہ انہیں لے لے۔ عبد الملک نے لکھا کہ اے بیٹے آپ انہیں لے لیجئے، وہ میں نے آپ کے لیے حلال کر دیئے ہیں انہوں نے ان کو قبول کر لیا۔

عیسیٰ بن دینار مؤذن سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر سے مختار کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہم کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے مختار پر لعنت کر رہے تھے ان سے ایک شخص نے کہا کہ اللہ مجھے آپ پر فدا کرے آپ اس پر لعنت کرتے ہیں حالانکہ وہ شخص آپ ہی لوگوں کے بارے میں ذبح کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بڑا جھوٹا تھا، اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولا کرتا تھا۔

تقیہ سے برأت اور تقیہ بازوں کی مذمت:

ابی جعفر سے مروی ہے کہ ہم لوگ بغیر تقیہ کے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور میں علی بن حسین رضی اللہ عنہم پر وہی دیتا ہوں کہ وہ بھی ان لوگوں کے پیچھے بغیر تقیہ کے نماز پڑھتے تھے۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چھوڑ دیئے والا کتاب اللہ کو اپنے پس پشت پھینک دیئے والے کے مثل ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ ڈرتا ہو، کہا گیا کہ اس کا خوف کیا ہے، انہوں نے کہا کہ سرکش ظالم سے ڈرے کہ وہ اس پر ظلم کرے گا یا شرارت کرے گا۔

حُب اہل بیت کی ترغیب:

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہم سے جوان ہاشمیوں میں سب سے افضل تھے جن کو میں نے پایا سنا کہ اے لوگو ہم سے اسلامی محبت کرو، کیونکہ ہم سے تمہاری محبت برابر ہی یہاں تک کہ وہ ہم پر عار ہوگی۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم سے اسلامی محبت کرو۔ کیونکہ اللہ ہمارے متعلق تمہارے اقوال برابر ہے یہاں تک کہ تم نے ہمیں لوگوں کے نزدیک قابل نفرت بنا دیا۔

عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب سے مروی ہے کہ ایک جماعت علی بن حسین رضی اللہ عنہم کے پاس آئی اور ان کی تعریف کی، انہوں نے کہا کہ تم لوگ کس قدر جھوٹے ہو اور کس قدر اللہ پر جرات کرنے والے ہو۔ ہم اپنی قوم کے صالحین میں سے ہیں اور ہمیں یہی کافی ہے کہ ہم اپنی قوم کے صالحین میں سے ہیں۔

یزید بن عیاض سے مروی ہے کہ زہری سے قتل خطا سرزد ہو گیا تو وہ نکلے اور اپنے متعلقین کو چھوڑ دیا، ایک خیمہ نصب کر لیا اور کہا کہ مجھ پر کسی مکان کی چھت سایہ نکلے نہ ہوگی ان کے پاس سے علی بن حسین رضی اللہ عنہم گزرے اور کہا کہ اے ابن شہاب تمہاری مایوسی تمہارے گناہ سے بہت زیادہ ہے اللہ سے ڈرو اور اس سے طلب مغفرت کرو۔ اس مقتول کے متعلقین کو خون بہا بھیج دو اور اپنے متعلقین کے پاس واپس جاؤ۔ زہری کہا کرتے تھے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہم کا سب سے زیادہ مجھ پر احسان ہے۔

عثمان بن عثمان سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہم نے ایک لڑکی کا اپنے آزاد کردہ غلام سے نکاح کر دیا اور اپنی ایک

لوئڈی کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا۔ عبدالملک بن مروان نے انہیں لکھ کر اس واقعے پر عار دلائی۔ علیؑ نے اسے لکھا کہ تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کے اندر اچھا نمونہ ہے رسول اللہ ﷺ نے صفیہ بنت حنی کو آزاد کیا اور ان سے نکاح کر لیا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا اور ان سے اپنی پھوپھی کی بیٹی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح کر دیا۔

مروان کا سلوک:

عبداللہ بن علی بن حسین سے مروی ہے کہ جب حسین رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے تو مروان نے میرے والد سے کہا کہ آپ کے والد نے میرے والد سے چار ہزار دینار مانگے تھے مگر وہ میرے پاس موجود نہ تھے آج میرے پاس موجود ہیں آپ اگر چاہیں تو لے لیجئے۔ والد نے وہ لے لیے۔ اولاد مروان میں سے کسی نے ان کے متعلق کچھ نہ کہا یہاں تک کہ جب ہشام بن عبدالملک خلیفہ ہوا تو اس نے والد سے کہا کہ ہمارا وہ حق کیا ہوا جو آپ لوگوں کی طرف ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ محفوظ و قابل شکر گزاری ہے اس نے کہا وہ آپ ہی کا ہے۔

شعیب بن ابی حمزہ سے مروی ہے کہ زہری جب علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے تو کہتے کہ وہ اپنے اہل بیت میں سب سے زیادہ میانہ رو اور سب سے بہتر عبادت گزار اور مروان بن الحکم و عبدالملک بن مروان کو ان سب سے زیادہ محبوب تھے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ ان سے یوم الحمرہ کو دریافت کیا کہ آپ اس میں کوئی آپ کے اہل بیت میں سے بھی نکلا تھا انہوں نے کہا کہ نہ اس میں آل ابی طالب میں سے کوئی نکلا اور نہ بنی عبدالمطلب میں سے وہ لوگ اپنے گھروں ہی میں رہے پھر جب صرف آیا اور اس نے لوگوں کو قتل کیا اور عقیق کو گیا تو اس نے میرے والد علی بن حسین کو دریافت کیا کہ آیا وہ موجود ہیں۔ کہا گیا کہ ہاں اس نے کہا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں انہیں نہیں دیکھتا۔

والد کو معلوم ہوا تو وہ اس کے پاس آئے ہمراہ محمد بن علی ابن الحنفیہ کے دونوں بیٹے ابوہاشم عبداللہ اور حسن بھی تھے۔ جب اس نے والدہ کو دیکھا تو انہیں مرحبا کہا اور ان کے لیے اپنے تخت پر گنجائش کر دی پوچھا کہ آپ میرے بعد کیسے رہے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے اللہ کی حمد کرتا ہوں، صرف نے کہا کہ امیر المومنین نے مجھے آپ کے ساتھ نیکی کی نصیحت کی ہے والد نے کہا کہ اللہ امیر المومنین کو صلہ دے پھر اس نے ابوہاشم اور حسن فرزند ان محمد کو دریافت کیا تو میں نے کہا کہ وہ دونوں میرے چچا کے بیٹے ہیں اس نے ان دونوں کو مرحبا کہا اور وہ سب اس کے پاس سے واپس ہوئے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ علی بن حسین بن ابی طالب رضی اللہ عنہما عبید اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود کے پاس ان سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے۔ عبید اللہ بن عبد اللہ کے ساتھی ان کے پاس تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے نماز سے فارغ ہو کر عبید اللہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے ان لوگوں نے کہا کہ اللہ آپ سے مستفید کرے آپ کے پاس یہ صاحب آئے ہیں جو رسول اللہ ﷺ کی صاحبزادی کے فرزند اور ان کے جانشین ہیں اور آپ سے کچھ دریافت کرتے ہیں اگر آپ ان کی ضرورت پوری کر دیتے (تو بہتر ہوتا) پھر جو کام کر رہے ہیں کرتے۔ عبید اللہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ افسوس ہے جو اس شان کو طلب کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ مشقت بھی اٹھائے۔

ایک شیخ سے جن کا نام مستقیم تھا مروی ہے کہ ہم علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس رہتے تھے ان کے پاس سائل آتا تو کھڑے ہو جاتے اور اسے دیتے اور کہتے کہ صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں پڑتا ہے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اشارہ کیا۔

مسعود بن مالک سے مروی ہے کہ مجھ سے علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ سعید ابن جبیر کیسے ہیں؟ میں نے کہا نیک ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ایسے شخص ہیں جو ہمارے پاس سے گزرتے ہیں تو ہم ان سے فرائض اور وہ اشیاء دریافت کرتے ہیں جن کے ذریعے سے اللہ میں فائدہ دیتا ہے بے شک وہ چیز ہمارے پاس نہیں جس کی یہ اہل عراق ہم پر تہمت لگاتے ہیں۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے کہا کہ واللہ عثمان رضی اللہ عنہما حق کے طور پر قتل نہیں کیے گئے۔

نماز میں کمال درجہ خشیت الہی:

عبداللہ بن ابی سلیمان سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما جب چلتے تھے تو ان کے ہاتھ ران سے آگے نہ بڑھتے تھے اور نہ وہ اپنے ہاتھ ہلاتے تھے جب نماز کو کھڑے ہونے تو لرزہ طاری ہو جاتا ان سے کہا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ میں کس کے آگے کھڑا ہوتا ہوں اور کس سے مناجات کرتا ہوں۔

علی بن محمد سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما جنگ سے منع کرتے تھے اہل خراسان کی ایک جماعت ان سے علی انہوں نے اس ظلم کی شکایت کی جو انہیں اپنے والیوں سے پہنچتا تھا علی رضی اللہ عنہما نے ان لوگوں کو صبر اور بازرہنے کا حکم دیا اور کہا کہ میں وہی کہتا ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ:

﴿ان تعذبہم فانہم عبادک و ان تغفرلہم فانک انت العزیز الحکیم﴾

”اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں۔ اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو بے شک تو عزت والا اور حکمت والا ہے۔“

بشام بن عروہ سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنی سواری پر اس طرح کے کی جانب روانہ ہوتے اور واپس آتے کہ اسے کوڑا نہیں مارتے تھے اور اسلم مولائے عمر کو اپنے ہمراہ بیٹھا لیتے تھے قریش کے ایک شخص نے کہا کہ آپ قریش کو چھوڑ کر بنی عدی کے ایک غلام کو اپنے ہمراہ بیٹھا لیتے ہیں۔ علی رضی اللہ عنہما نے کہا کہ انسان صرف اس جگہ بیٹھتا ہے جہاں اسے نفع ہوتا ہے۔

یزید بن حازم سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہما و سلیمان بن یسار کو دیکھا کہ دونوں قہر و منبر کے درمیان سورج بلند ہونے تک بیٹھ کر باتیں کرتے اور باہم تذکرہ کرتے جب انھیں کا ارادہ کرتے تو عبداللہ بن ابی سلمہ انہیں کوئی سورہ پڑھ کر سناتے پھر جب وہ پڑھنے سے فارغ ہوتے تو وہ لوگ دعا کرتے حماد نے کہا کہ وہ الماحسون تھے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ سیاہی سے خضاب کرتے تھے۔

جبہ و دستار:

موسیٰ بن ابی حبیب الطائفی سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہما کو مہندی اور نیل سے خضاب کرتے دیکھا علی بن

حسین رضی اللہ عنہ کے جوتے دیکھے جن کا سرا گول تھا ان میں کوئی نوک نہ تھی۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے متعلقین کو مہندی اور نیل کا خضاب کرتے دیکھا۔ حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی زرد خز کی چادر تھی جسے وہ جمعہ کو اوڑھتے تھے۔ عثمان بن حکیم سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے بدن پر خز کی چادر اور خز کا جبہ دیکھا۔

ابی جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو عراق سے کھالوں کا ایک جبہ بطور ہدیہ بھیجا گیا وہ اسے پہنتے تھے، مگر جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو اسے اتار دیتے۔

ابی جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کا لومڑی کی کھالوں کا جبہ تھا وہ اسے پہنتے تھے۔ مگر جب نماز پڑھتے تو اسے اتار دیتے۔

نصر بن اوس الطائی سے مروی ہے کہ میں علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گیا جو اس حالت میں تھے کہ بدن پر سرخ پرانی چادر تھی اور گیسو شانوں تک چھوٹے ہوئے تھے۔

یزید بن حازم سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر ایک کردی موٹا طیلسان (جبہ) اور یمنی موٹے موزے دیکھے۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ خز کی چادر پچاس دینار میں خریدتے اس میں جاڑا گزارتے پھر اسے فردخت کر کے اس کی قیمت خیرات کر دیتے، مصر کے شہر الشمون کی بنی ہوئی دو چادروں میں کہ ایک دینار کی ہوتیں گرمی گزار دیتے، سچ میں مختلف کپڑے پہن لیا کرتے اور کہتے تھے کہ ”من حرم زینۃ اللہ النبی اخرج لعبادہ“ (اللہ کی وہ زینب جو اس نے اپنے بندوں کے لیے نکالی کس نے حرام کی) عمامہ باندھتے تھے عیدین میں ان کے لیے مشکیزے میں بغیر جھاگ کی نمبذ بنائی جاتی تھی، جب احرام کا ارادہ کرتے تو غسل کے بعد تیل یا خوشبو لگاتے تھے۔

عبداللہ بن سعید بن ابی ہند سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید چھوٹی ٹوپی دیکھی جو منڈھی ہوئی تھی۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ سفید عمامہ باندھتے اور پس پشت شملہ (بروایت ابن ابی اویس) ایک بالشت یا قدرے زائد لگا لیتے۔

عادات و خصائل:

ابی جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ بیت الخلاء میں گئے میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور ان کے وضو کا پانی رکھ دیا تھا وہ نکلے اور کہا کہ اے میرے فرزند! میں نے کہا لیک (حاضر ہوں) انہوں نے کہا کہ میں نے بیت الخلاء میں ایک ایسی چیز دیکھی جس نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ میں نے کہا وہ کیا چیز ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کھیبوں کو دیکھا کہ نجاست پر گرتی ہیں پھر اڑ کر انسان کی کھال پر بیٹھتی ہیں میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ایک کپڑا بناؤں کہ جب بیت الخلاء جاؤں تو اسے پہن لوں۔ پھر کہا کہ مجھے ایسی چیز مناسب نہیں جس کی لوگوں کو گنجائش نہ ہو۔

ابن جعفر سے مروی ہے کہ ان کے والد علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے دو مرتبہ اپنا مال اللہ کے اور اپنے درمیان تقسیم کر دیا (یعنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں دے دی اور آدھی خود رکھی) اور کہا کہ اللہ اس گناہ گار مومن کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والا ہو۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما (زمانہ حج میں) شب عرفہ صبح مزدلفہ میں جب واپس ہوتے تو معمولی رفتار سے چلتے اور کہتے کہ ابن الزبیر جب اپنی سواری کو اپنے ہاتھ پاؤں سے مارتے تھے تو وہ درستی پر نہ تھے۔ علی بن حسین رضی اللہ عنہما ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو سفر میں جمع کرتے اور کہتے کہ رسول اللہ ﷺ یہی کرتے تھے حالانکہ نہ آپ عجلت میں ہوتے اور نہ خوف میں۔

جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما جمار کی طرف (جہاں منیٰ میں رمی کی جاتی ہے) پیادہ جاتے تھے منیٰ میں ان کا ایک مکان تھا جب اہل شام انہیں ایذا دینے لگے تو وہ (مقام) قرین الثعالب یا قرین الثعالب کے قریب منتقل ہو گئے وہ سوار ہوتے اور جب وہ اپنی منزل میں آجاتے تو جمار تک پیادہ چلتے۔ نصر بن اوس سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنا ہاتھ کھجور میں ڈالتے اور بوڑھے اور بچے کو برابر دیتے۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ہمارے پاس والد علی بن حسین رضی اللہ عنہما آئے، میں اور جعفر ایک احاطے میں کھیل رہے تھے، والد نے محمد بن علی رضی اللہ عنہما سے کہا کہ جعفر پر کتنا (زمانہ) گزرا، انہوں نے کہا کہ سات سال، انہوں نے کہا کہ انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔
مظلومیت کا شکوہ:

ابن عمرو سے مروی ہے کہ میں علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے آپ نے کس حالت میں صبح کی انہوں نے کہا کہ میں اہل مصر کے کسی بوڑھے کو تمہاری طرح خیال نہیں کرتا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ ہم نے کس حالت میں صبح کی، لیکن جب تم نہیں جانتے یا تمہیں نہیں معلوم تو میں تمہیں بتاؤں گا۔
ہم نے اپنی قوم میں اس طرح صبح کی جس طرح نبی اسرائیل نے فرعون والوں میں جو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، ہمارے بوڑھے اور ہمارے سردار نے اس حالت میں صبح کی کہ منبروں پر ان کی بدگوئی یا گالی سے ہمارے دشمن کے پاس تقرب حاصل کیا جاتا ہے۔

قریش نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ شمار کرتے ہیں کہ تمام عرب پر انہیں فضیلت ہے، اس لیے کہ محمد ﷺ انہیں میں سے ہیں، بغیر آپ کے ان کی کوئی فضیلت شمار نہیں کی جاسکتی، اور عرب نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ بھی ان (قریش) کے لیے اس کا اقرار کرتے ہیں۔

عرب نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ انہیں عجم پر فضیلت ہے اس لیے کہ محمد ﷺ انہیں (عرب) میں سے ہیں، بغیر آپ کے ان کی کوئی فضیلت شمار نہیں کی جاسکتی۔ عجم نے اس حالت میں صبح کی کہ وہ بھی ان (عرب) کے لیے اس کا اقرار کرتے ہیں۔

اگر عرب سچ کہتے تھے کہ انہیں عجم پر فضیلت ہے اور قریش سچ کہتے تھے کہ انہیں عرب پر فضیلت ہے اس لیے کہ محمد ﷺ انہیں میں سے ہیں تو ہم اہل بیت کو قریش پر فضیلت ہے۔ اس لیے کہ محمد ﷺ ہم میں سے ہیں انہوں نے اس حالت میں صبح کی کہ ہمارا حق لیتے تھے اور ہمارا حق پہچانتے نہ تھے، تم نہیں جانتے کہ ہماری کیوں کر گزری تو اب جان لو کہ اس طرح گزر گئی۔

راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو سنانا چاہتے تھے جو لوگ بیت اللہ میں موجود تھے۔ سالم مولائے ابی جعفر سے مروی ہے کہ ہشام بن اسماعیل، علی بن حسین رضی اللہ عنہما اور ان کے اہل بیت کو ایذا دیا کرتا تھا کہ منبر پر اس کے متعلق بیان کرتا اور علی رضی اللہ عنہ کی بدگوئی کرتا، جب ولید بن عبد الملک والی بنایا گیا تو اس نے اسے معزول کر دیا اور حکم دیا کہ لوگوں کے سامنے اسے کھڑا کیا جائے۔

کمالات و محاسن:

راوی نے کہا کہ ہشام کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم میرے نزدیک سب سے اہم علی بن حسین رضی اللہ عنہما ہیں، میں کہا کرتا تھا کہ وہ مرد صالح ہیں ان کی بات سنی اور مانی جاتی ہے۔

ہشام بن اسماعیل مواخذہ کے لیے لایا گیا تو علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنے لڑکوں اور حامیوں کو جمع کر کے منع کر دیا کہ اس شخص سے تعرض نہ کریں۔

علی بن حسین رضی اللہ عنہما اپنی کسی ضرورت سے صبح کو ادھر سے گزرے، سامنا ہوا تو ہشام بن اسماعیل نے ان سے پکار کر کہا کہ "اللہ يعلم حیث یجعل رسالتہ" (اللہ جانتا ہے جہاں وہ اپنی پیغمبری رکھتا ہے)۔

عبداللہ بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جب ہشام بن اسماعیل معزول کر دیا گیا تو انہوں نے ہمیں اس سے ان امور کا انتقام لینے سے منع کیا، جنہیں ہم لوگ ناگوار سمجھتے تھے، جب والد نے ہمیں جمع کیا تو کہا کہ یہ شخص معزول کر دیا گیا اور اسے لوگوں کے لیے کھڑا کرنے کا حکم دیا گیا لیکن تم میں سے کوئی شخص ہرگز اس کی روک ٹوک نہ کرے۔

میں نے کہا کہ اے میرے والد! یہ کیوں، واللہ اس کا نقش ہمارے نزدیک بہت برا ہے۔ اور ہمیں بھی ایسے ہی دن کی تلاش تھی، انہوں نے کہا کہ اے میرے فرزند! ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، واللہ آل حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے اسے ایک حرف بھی نہ کہا یہاں تک کہ اس کی حکومت پارہ پارہ ہوگئی۔

ابی جعفر سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے وصیت کی کہ ان کی موت کی کسی کو اطلاع نہ کریں اور انہیں لے چلنے میں جلدی کی جائے، انہیں سوتی کپڑے کا کفن دیا جائے اور سر میت میں مشک نہ شامل کی جائے۔

عبداللہ بن محمد بن عقیل سے مروی ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی تو ابو جعفر رضی اللہ عنہما نے علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی ایک ام ولد کو ان کی شرم گاہ کو غسل دیے کا حکم دیا۔

عبدانکیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی وفات ۹۴ھ میں مدینے میں ہوئی اور انہیں بقیع میں دفن کیا گیا، اس سال کو فقہا کے کثرت انتقال کی وجہ "سنة القتل" کہا جاتا تھا۔

حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ میرے والد علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی، ہم نے ان پر بقیع میں نماز پڑھی، فضل بن زکین کہتے تھے کہ ان کی وفات ۹۲ھ میں ہوئی، ان کے اہل بیت و اہل شہر نے ایسی کوئی چیز نہیں کی جس سے میں انہیں جانتا۔ جعفر بن محمد سے مروی ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ اٹھاون سال کے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ یہ تمہیں اس امر پر دلالت کرے گا کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ تیرہ یا چودہ سال کی عمر میں (واقعہ کربلا میں) اپنے والد کے ساتھ تھے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ وہ بچے تھے کہ سبزہ بھی آغا ز نہ ہوا تھا ان کا قول کوئی چیز نہیں، لیکن وہ اس روز مر بیض تھے انہوں نے جنگ نہیں کی، وہ اس زمانے میں کس طرح اس حالت میں ہو سکتے ہیں کہ ان کے سبزہ آغا ز نہ ہوا ہو، حالانکہ ان کے یہاں ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ عنہ پیدا ہو چکے تھے، ابو جعفر جابر بن عبد اللہ سے ملے ہیں اور لوگوں نے ان سے روایت کی ہے اور جابر کی وفات ۵۷ھ میں ہوئی۔

مقبری سے مروی ہے کہ جب علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو رکھا گیا کہ ان پر نماز پڑھی جائے تو لوگ اور اہل مسجد (نوی) ان کی طرف ٹوٹ پڑے۔ سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ مسجد میں تمہارہ گئے تو خشرم نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابو محمد آپ مکان صالح میں اس مرد صالح کے پاس نہیں حاضر ہوتے سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے مسجد میں دو رکعت پڑھنا اس مرد صالح کے پاس مکان صالح میں حاضر ہونے سے زیادہ پسند ہے۔

عیشم بن نسطاس سے مروی ہے کہ میں نے سلیمان بن یسار کو دیکھا کہ ان کی جانب روانہ ہوئے، انہوں نے ان پر نماز پڑھی اور ان کے ساتھ گئے، وہ کہتے تھے کہ مجھے جنازے میں حاضر ہونا نفل نماز سے زیادہ پسند ہے۔
بے ریا سخاوت و فیاضی:

شیدہ بن نعمان سے مروی ہے کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ کو بخیل کہا جاتا تھا، جب ان کی وفات ہو گئی تو لوگوں نے ان کی یہ حالت پائی کہ مدینے کے سو گھر والوں کو پوشیدہ طور پر خوراک دیتے تھے، لوگوں نے کہا کہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ ثقہ و مامون و کثیر الحدیث اور عالی مرتبہ و بلند پایہ و پرہیزگار تھے۔
عبد الملک بن المغیرہ رضی اللہ عنہ:

ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبد الملک کے یہاں خدیج و عبد الرحمن و نوفل و اسحاق و یزید و ضریبہ و حبابہ پیدا ہوئیں، ان سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت سعید بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔ عبد الملک کی کنیت ابو محمد تھی، قبیل الحدیث تھے، ان کی وفات عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔
ابو بکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

ابن ابی حشمہ بن حدیفہ بن عامر بن عامر بن عبد اللہ بن سعید بن عویج بن عدی بن کعب، ان کی والدہ ام عبد اللہ بنت المسیب بن صفی بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن محزم تھیں۔

ابوبکر بن سلیمان رضی اللہ عنہ کے یہاں محمد و عبد اللہ اور چند لڑکیاں پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ حارث ان کی والدہ ایک ام ولد تھے۔

ام کلثوم ان کی والدہ دختر شافع بن انس بن عبدہ بنی معیض بن عامر بن لوی میں سے تھیں۔ ابوبکر بن سلیمان نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے۔ ان کے بھائی:

عثمان بن سلیمان رضی اللہ عنہ

ابن ابی حمہ بن حذیفہ بن عانم ان کی والدہ میمونہ بنت قیس بن ربیعہ بن زبعان بن حراثان بن نصر بن عمرو بن ثعلبہ بن کنانہ بن عمرو بن قین قبیلہ فہم سے تھیں۔ عثمان بن سلیمان کے یہاں عمر و محمد پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عبد الملک بن مروان رضی اللہ عنہ

ابن الکلم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ عائشہ بنت معاویہ بن المغیرہ بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف تھیں۔

عبد الملک بن مروان کے یہاں ولید پیدا ہوئے جو والی خلافت ہوئے اور سلیمان کہ وہ بھی والی خلافت ہوئے مروان اکبر جو لا ولد مرگے اور داؤد کہ وہ بھی لا ولد مرگے اور عائشہ ان سب کی والدہ ام الولید بنت العباس بن جزء بن الحارث بن زہیر بن جذیمہ بن رواحہ بن ربیعہ بن مازن بن الحارث بن قطیبہ بن عیسیٰ بن بغیض تھیں۔

یزید بن عبد الملک جو والی خلافت ہوئے اور مروان اور معاویہ جو لا ولد مرگے۔ ان سب کی والدہ عائشہ بنت یزید بن معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔

ہشام بن عبد الملک جو والی خلافت ہوئے ان کی والدہ ام ہشام بنت ہشام ابن اسماعیل بن ہشام بن الولید بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔

ابوبکر بن عبد الملک نام بکا تھا ان کی والدہ عائشہ بنت موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی تھیں۔ حکم بن عبد الملک جو لا ولد مر گئے۔ ان کی والدہ ام ایوب بنت عمرو بن عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ تھیں ام ایوب کی والدہ ام الکلم بنت ذویب بن حنظلہ بن عمرو بن کلیب الاعلیٰ ابن اصرم بن عبد اللہ بن قیس بن حبشیہ بن سلول تھیں۔

عبد اللہ بن عبد الملک و مسلمہ و منذر و حننہ و محمد سعید الثمیر و حجاج مختلف ام ولد سے تھے۔ فاطمہ بنت عبد الملک جن سے عمر بن عبد العزیز بن مروان نے نکاح کیا۔ ان کی والدہ المغیرہ بنت المغیرہ بن خالد بن العاص بن ہشام بن المغیرہ تھیں۔

عبد الملک کی کنیت ابوالید تھی۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ۲۶ھ میں ان کی ولادت ہوئی یوم الدار میں اپنے والد کے ساتھ تھے اس وقت عمر دس سال کی تھی انہوں نے ان لوگوں کا حال اور ان کی بات یاد رکھی مسلمان ۳۲ھ کے سرما میں بغرض جہاد ملک روم گئے وہ پہلا سرمانی جہاد تھا کہ وہ لوگ اس کے لیے وہاں گئے۔ معاویہ نے اہل شہر پر عبد الملک بن مروان کو عامل بنایا جو

اس زمانے میں سولہ سال کے تھے۔ عبدالملک بن مروان نے لوگوں کو بحری سفر کرایا۔
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں:

محمد بن اسماعیل بن ابی ندیک مدنی سے مروی ہے کہ میں نے ایک شیخ کو کثیر بن الصلت کے مکان کے پاس بیان کرتے سنا کہ ایک روز معاویہ بن ابی سفیان نے اجلاس کیا، ان کے ہمراہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے عبدالملک بن مروان ان دونوں کے پاس سے گزرے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ نوجوان کس قدر باادب اور مروت والا ہے۔

عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المومنین، اس نوجوان نے چار خصلتیں اختیار کر لیں اور تین خصلتیں ترک کر دیں۔ جب وہ بات کرتا ہے تو خوش گفتاری سے اور اس سے بات کی جاتی ہے تو ہمدن سماعت بن جاتا ہے، جب ملاقات کرتا ہے تو خندان پیشانی سے اور اگر اس کی مخالفت کی جائے تو بہت کم بار ڈالتا ہے جس گفتگو سے عذر کیا جاتا ہے اسے ترک کر دیتا ہے، کمینہ لوگوں کی صحبت سے عذر کرتا ہے اور ایسے شخص سے مزاج کو ترک کرتا ہے جس کی عقل و مروت پر بھروسہ نہیں۔

ایام حرہ میں مدینہ سے اخراج:

مقبوری سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان اپنے والد کی زندگی اور ان کی ولایت کے زمانے میں ایام حرہ تک مدینہ میں رہے، جب اہل مدینہ نے حملہ کیا اور یزید بن معاویہ کے عامل عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینہ سے نکال دیا اور بنی امیہ کو بھی نکال دیا تو عبدالملک اپنے والد کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں مسلم بن عقبہ ملا جسے یزید بن معاویہ نے ایک لشکر کے ہمراہ اہل مدینہ کی طرف بھیجا تھا۔

مروان و عبدالملک بن مروان جن کے چچک نکلی ہوئی تھی اس کے ساتھ واپس ہوئے عبدالملک ذی حشب میں رہ گئے انہوں نے ایک قاصد کو حکم دیا کہ تمہیں میں قیام کرے جو مدینہ و ذی حشب کے درمیان مدینہ سے بارہ میل کے فاصلے پر ہے۔ اور دوسرے قاصد کو حکم دیا کہ جنگ میں حاضر ہو کر ان کے پاس اس کی خبر لائے انہیں یہ اندیشہ تھا کہ حکومت اہل مدینہ کی ہو جائے گی۔ عبدالملک ذی حشب میں مروان کے محل میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ قاصد اپنا کپڑا ہلاتا ہوا آ گیا، عبدالملک نے کہا کہ بے شک یہ خوشخبری دینے والا ہے ان کے پاس وہ قاصد آیا جو تمہیں میں تھا اور خبر دی کہ اہل مدینہ قتل کر دیئے گئے اور شاہی فوج شہر میں داخل ہو گئی، عبدالملک نے سجدہ شکر ادا کیا اور صحت پانے کے بعد مدینہ میں داخل ہوئے۔

علاوہ محمد بن عمر کے اور مورخین نے کہا کہ اہل مدینہ نے جب ان لوگوں کو نکالا تھا تو ان سے عہد و پیمان لے لیا تھا کہ وہ ان کے غنئی پہاڑی راستوں کو نہ بتائیں گے اور نہ ان کے خلاف کسی دشمن کی مدد کریں گے، پھر جب انہیں وادی القریٰ میں مسلم بن عقبہ ملا تو مروان نے اپنے بیٹے عبدالملک سے کہا کہ تم مجھ سے پہلے اس کے پاس جاؤ شاید کہ میرے بدلے تم اسے کفایت کرو۔

عبدالملک اس کے پاس گئے، مسلم نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس جو خبر ہے وہ لاؤ مجھے لوگوں کی خبر بتاؤ اور کہو کہ تمہاری کیا رائے ہے، انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر اسے اہل مدینہ کی خبر دی، ان کے غنئی پہاڑی راستے بتائے کہ کیوں کر ان کے پاس آسکتے ہیں اور کہاں سے ان پر داخل ہوں اور کہاں اتریں۔

مروان اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جو خبر تمہارے پاس ہے لاؤ، اس نے کہا کہ کیا عبد الملک تمہارے پاس نہیں آئے؟ اس نے کہا کہ ہاں، مروان نے کہا کہ جب تم عبد الملک سے مل لیے تو مجھ ہی سے مل لیے، اس نے کہا بے شک، مسلم نے کہا کہ عبد الملک بھی کیسے آدمی ہیں میں نے بہت کم قریش کے لوگوں میں سے کسی شخص سے گفتگو کی ہے جو ان کے مشابہ ہو۔ امارت سے پہلے کی حالت:

اہل اردن میں سے ایک شخص سے مروی ہے کہ مسلم بن عقبہ کے مدینے آنے کے وقت ہم لوگ اس کے ساتھ تھے ذی المرہ کے ایک باغ میں داخل ہوئے تو اتفاق سے ایک خوبصورت و خوش ادا نوجوان کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا، تھوڑی دیر تک ہم اس باغ میں گھومے نماز سے فارغ ہوا تو اس نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے بندے کیا تم اسی لشکر میں ہو۔ میں نے کہا ہاں، اس نے کہا کہ کیا تم لوگ ابن الزبیر ہی سے جنگ کا قصد کرتے ہو۔ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں پسند کرتا کہ روئے زمین پر جو کچھ ہے وہ سب میرے لیے ہو اور میں جنگ کے لیے ان کی جانب روانہ ہوں، آج روئے زمین پر ابن الزبیر ہی سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ راوی نے کہا کہ وہ نوجوان عبد الملک بن مروان تھا، عبد الملک بعد کو ابن الزبیر ہی سے جنگ کے ساتھ بٹلا ہوئے اور ان کو مسجد حرام میں قتل کر دیا۔

لوگوں نے بیان کیا کہ عبد الملک علماء و فقہاء کی صحبت میں بیٹھتے تھے ان سے علم حاصل کیا تھا اور قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ۳۳ ہجری القعدہ ۶۴ھ یوم چار شنبہ کو الجابیه میں مروان بن الحکم سے بیعت خلافت کی گئی، پھر اس نے شحاک بن قیس الفہری کا مرج رباط میں مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد عبد الملک و عبد العزیز فرزند ان مروان نے اپنے والد کے لیے بیعت خلافت لی۔

ابی الحویرث سے مروی ہے کہ یکم رمضان ۶۵ھ کو دمشق میں مروان کی وفات ہوئی، اس روز عبد الملک خلافت کی طرف متوجہ ہوئے۔

اسامعیل بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ مصعب بن الزبیر نے عبد الملک کی جانب نکلنے کی تیاری کر لی اور روانہ ہو گئے، باجمیراء میں آئے جو انبار سے تین فرسخ اسی طرف ساحل فرات پر ایک گاؤں ہے وہاں اترے، عبد الملک کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے لشکروں کو جمع کیا اور عراق کے ارادے سے مصعب کے قتال کے لیے روانہ ہوئے۔

انہوں نے روح بن زینان سے اس حالت میں کہ وہ سامان سفر تیار کر رہے تھے کہا کہ واللہ اس دنیا کا معاملہ بھی عجب ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اور مصعب بن الزبیر کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ جس مقام پر ہم دونوں جمع ہوتے تھے وہاں اگر ایک رات کو بھی میں نہیں نہ پاتا تھا تو گویا میں بے چین ہو جاتا تھا اور وہ مجھے نہ پاتے تھے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے میرے پاس تھوڑا سا کھانا بھی لایا جاتا تھا تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ میرے لیے اس کا کھانا جائز ہے تا وقتیکہ میں وہ سب یا اس کا کچھ حصہ مصعب کے پاس نہ بھیج دوں، لیکن اب ہم دونوں تلوار تک پہنچ گئے، یہ سلطنت بار آور نہیں ہوتی، باپ یا بیٹا جو کوئی اس کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے تلوار ہی ہوتی ہے۔

عبدالملک یہ گفتگو محض اس لیے کر رہے تھے کہ خالد بن یزید بن معاویہ و عمرو ابن سعید بن العاص دونوں ان کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے اس گفتگو کو انہوں نے ان دونوں کو سنانا چاہا تھا وہ اس زمانے میں دونوں سے ڈرتے تھے انہیں معلوم تھا کہ اہل شام کے نزدیک عمرو بن سعید سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں اور خالد بن یزید بن معاویہ کو مروان نے ولی عہد بنانے کی امید دلائی تھی مگر اس نے عبدالملک کو اور عبدالملک کے بعد عبدالعزیز کو ولی عہد بنا دیا خالد مایوس ہو گیا اور بحالت امید و بیم عبدالملک کے ساتھ تھا۔

یحییٰ بن عبداللہ بن ابی فروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عبدالملک دمشق سے بہ قصد عراق جنگ مصعب کے لیے روانہ ہوئے تو وہ بطنان حبیب ملیحہ کے اسی طرف تھے کہ خالد بن یزید اور عمرو بن سعید ایک جا بیٹھے دونوں نے عبدالملک کے حال اور باوجود ان کے فریب دینے اور لغو وعدے کرنے کے ان کے ہمراہ اپنی روانگی کا تذکرہ کیا عمرو نے کہا کہ میں تو واپس ہوتا ہوں خالد نے انہیں ہمت دلائی۔

عمرو دمشق واپس آئے اور شہر میں داخل ہو گئے حالانکہ اس زمانے میں اطراف ایک مضبوط شہر بناہ تھی انہوں نے اہل شام کو بلایا تو لوگ فوراً ان کے پاس آ گئے عبدالملک نے انہیں نہ پایا تو پوچھا کہ ابو امیہ کہاں ہیں کہا گیا کہ وہ واپس گئے عبدالملک بھی لوگوں کو دمشق واپس لے گئے شہر دمشق کے دروازے پر اترے اور سولہ دن مقیم رہے یہاں تک کہ عمرو نے اسے ان کے لیے کھول دیا اور ان سے بیعت کر لی۔

عبدالملک نے ان سے چشم پوشی کی پھر ان کے قتل کا ارادہ کر لیا اور انہیں ایک روز بلا بھیجا عمرو کے دل میں یہ آیا کہ یہ پیام شر ہے وہ مع اپنے ہمراہیوں کے سوار ہو کے ان کے پاس گئے انہوں نے ایک زرہ پہنی جس سے اپنے کو چھپائے ہوئے تھے عبدالملک کے پاس گئے اس نے تھوڑی دیر باتیں کیں پھر یحییٰ بن الحکم کو حکم دیا کہ جب میں نماز کو جاؤں تو ان کی گردن مار دیں۔
عمرو بن سعید کا قتل:

عبدالملک ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابو امیہ یہ کیسے کنویں ہیں جو ہمارے لیے کھودے جاتے ہیں انہوں نے وہ سب یاد دلایا جو ان سے سرزد ہوا تھا اور نماز کو چلے گئے اور واپس آئے تو دیکھا کہ یحییٰ نے ان کی طرف پیش قدمی نہیں کی عبدالملک نے انہیں گالی دی وہ خود اور ان کے ساتھی عمرو بن سعید پر بڑھے اور انہیں قتل کر دیا۔

اسماعیل بن ابراہیم نے اپنے والد سے روایت کی کہ اس سال عبدالملک نے قیام کیا مصعب سے جنگ نہیں کی مصعب کو فہ واپس چلے گئے جب سال آئندہ آیا تو مصعب کو فہ سے روانہ ہوئے اور باجمیراء میں آ کے مقیم ہو گئے عبدالملک کو معلوم ہوا تو انہوں نے ان کی جانب روانگی کی تیاری کی۔

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ جب عبدالملک نے مصعب کی جانب روانگی طے کر لی تو اس کے لیے تیاری کی اور اہل شام کے لشکر کثیر کے ہمراہ روانہ ہوئے عبدالملک بھی روانہ ہوئے اور مصعب بھی بڑھے یہاں تک کہ مسکن میں دونوں کا مقابلہ ہوا لوگ جنگ کے لیے نکلے قوم میں سے بعض نے بعض کے مقابلے پر صف باندھ لی۔

ربیعہ وغیرہ نے مصعب سے دعا کی تو انہوں نے کہا کہ آدمی کو ہر حال میں مرنا ہے لہذا واللہ اس کا کریم و احسن ہو کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ وہ ان لوگوں سے گریہ و زاری کرے جنہوں نے اسے تنہا چھوڑ دیا میں کبھی ان لوگوں سے مدد نہ چاہوں گا اور نہ اور کسی سے۔

انہوں نے اپنے بیٹے عیسیٰ سے کہا کہ تم آگے بڑھ کر جنگ کرو ان کے بیٹے نزدیک گئے اور قتال کیا یہاں تک کہ قتل کر دیئے گئے۔ ابراہیم بن الاشر آگے بڑھا نہایت شدید جنگ کی قوم نے اس پر هجوم کر لیا اور وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ لوگ مصعب کی جانب روانہ ہوئے جو اپنے تخت پر تھے انہوں نے تخت ہی پر سے ان لوگوں سے شدید جنگ کی یہاں تک کہ قتل کر دیئے گئے عبید اللہ ابن زیاد بن ظلیان آیا اور ان کا سر کاٹ کے عبد الملک کے پاس لایا عبد الملک نے اسے ایک ہزار دینار دیئے مگر اس نے لینے سے انکار کیا۔

عبد الملک نے اہل عراق کو اپنی بیعت کی دعوت دی لوگوں نے ان سے بیعت کر لی اور وہ ملک شام واپس ہوئے۔ شرحبیل بن ابی عون نے اپنے والد وغیرہ سے روایت کی کہ جب عبد الملک ابن مروان نے مصعب بن الزبیر کو قتل کر دیا تو حجاج بن یوسف کو دو ہزار لشکر اہل شام کے ہمراہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی جانب مکہ روانہ کیا طارق بن عمرو کو لکھ کر حکم دیا کہ حجاج سے مل جائے طارق اپنے ہمراہیوں کے ساتھ جو پانچ ہزار تھے روانہ ہوئے اور حجاج سے مل گئے۔ ان لوگوں نے ابن الزبیر کا محاصرہ کر لیا اور جنگ کی ان پر آلات سنگ اندازی نصب کیے ۲۷ھ میں جب ابن الزبیر رضی اللہ عنہما محصور تھے تو حجاج نے لوگوں کو حج کرایا حجاج و طارق واپس ہو کے بیرمیمون میں اترے دونوں نے بیت اللہ کا طواف نہیں کیا اور نہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے قتل ہونے تک عورتوں اور خوشبو کی قربت کی۔ قتل ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے بعد دونوں نے بیت اللہ کا طواف کیا اور اونٹوں کی قربانی کی۔

ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کیم ذی القعدہ ۲۷ھ سے چھ ماہ سترہ یوم تک محصور رہے اور ۷ ارجنادی الاول ۳۷ھ یوم سہ شنبہ کو قتل کیے گئے ان کا سر عبد الملک بن مروان کو ملک شام بھیج دیا گیا۔

شرحبیل بن ابی عون نے اپنے والد سے روایت کی کہ ۳۷ھ میں لوگوں نے عبد الملک بن مروان کی خلافت پر اتفاق کر لیا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بیعت نامہ لکھ دیا ابو سعید الخدری و سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہما نے بھی لکھ دیا۔
سکوں پر نقش کا رواج:

عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے ۵۷ھ میں دینار و درہم ڈھالے وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ان کا ڈھالنا اور ان پر نقش کرنا ایجاد کیا۔

خالد بن ربیعہ بن ابی ہلال نے اپنے والد سے روایت کی کہ جاہلیت کے وہ مثقال جن پر عبد الملک بن مروان نے سکے کا نشان لگایا شامی مثقال سے ایک جبہ کم بائیں قیراط کے تھے اور وہ سات کے وزن میں دس تھے۔ ابن کعب بن مالک سے مروی ہے کہ ان اوزان پر عبد الملک سے اتفاق کر لیا گیا۔

فریضہ حج کی ادائیگی:

ابن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ فہ کے ہاں عبد الملک ابن مروان نے لوگوں کے لیے حج قائم کیا جب وہ مدینہ میں گزرے تو اپنے والد کے مکان میں اترے اور چند روز مقیم رہے پھر روانہ ہوئے ذوالحلیفہ تک پہنچ گئے لوگ بھی ان کے ہمراہ روانہ ہوئے ابان بن عثمان رضی اللہ عنہما نے ان سے البیضاء سے احرام باندھنے کو کہا عبد الملک نے البیضاء سے احرام باندھا۔

قبیصہ بن ذؤیب سے مروی ہے کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو البیضاء سے احرام باندھنے کا حکم دیا۔ عبد اللہ بن نافع نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو حرم میں داخل ہونے کے بعد بیت اللہ کا طواف کرنے تک تلبیہ کہتے دیکھا بعد طواف تلبیہ سے رک گئے پھر موقف کی روانگی تک برابر تلبیہ کہتے رہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب دیکھا ہے مگر ہم لوگ تو بجائے تلبیہ کے صرف تکبیر کو اختیار کرتے ہیں۔

عبد الملک بن مروان سے مروی ہے کہ انہوں نے حج میں چار روز خطبہ سنایا، یوم الترویہ (۸ ذوالحجہ) سے پہلے یوم عرفہ (۹ ذوالحجہ) کو پھر یوم النحر (۱۰ ذوالحجہ) کی صبح یعنی ۱۱ ذوالحجہ کو اور یوم النضر الاول (۱۲ ذوالحجہ) کو۔

عبد اللہ بن عمرو بن اذہن العامری کہتے تھے کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو قبیصہ بن ذؤیب سے کہتے سنا کہ کیا تم نے رخصتی میں (رسول اللہ ﷺ سے) کسی وقت دعاء کو سنا ہے انہوں نے کہا نہیں تو عبد الملک نے کہا کہ نہ میں نے۔

حارث بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ سے مروی ہے کہ میں نے عبد الملک ابن مروان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب ساتواں شوط (پھیرا) ہوا تو وہ پناہ مانگنے کے لیے بیت اللہ کے قریب ہوئے میں نے انہیں کھینچ لیا تو کہا کہ اے حارث تمہیں کیا ہو گیا ہے میں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین کیا آپ معلوم نہیں کہ جس نے سب سے پہلے یہ فعل کیا وہ آپ کی قوم کی بوڑھیوں میں سے ایک بڑھی تھی۔ عبد الملک روانہ ہو گئے اور انہوں نے پناہ نہیں مانگی۔

موسیٰ بن میسرہ سے مروی ہے کہ عبد الملک بن مروان نے طواف قدوم کیا جب طواف کی دو رکعتیں پڑھیں تو حارث بن عبد اللہ بن ابی ربیعہ نے کہا کہ صفا کی طرف نکلنے سے پہلے حجر اسود کی طرف چلے عبد الملک قبیصہ کی طرف متوجہ ہوئے قبیصہ نے کہا کہ میں نے اہل علم میں سے کسی کو اس کی طرف پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا عبد الملک نے کہا کہ میں نے اپنے والد کے ساتھ طواف کیا مگر انہیں اس کی طرف پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا پھر عبد الملک نے کہا اے حارث تم مجھ سے سیکھو جیسا کہ میں نے تم سے سیکھا کہ جب میں نے بیت اللہ سے لپٹنے کا ارادہ کیا تو تم نے مجھے منع کیا انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جو آپ کا پہلا علم ہے اس پر عمل کیجئے میں نے بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھایا۔

جابر ابن عبد اللہ کی عبد الملک سے ملاقات:

عوف بن الحارث سے مروی ہے کہ میں نے جابر بن عبد اللہ کو دیکھا کہ عبد الملک کے پاس آئے عبد الملک نے مرحبا کہا اور اپنے نزدیک بلایا جابر نے کہا کہ اے امیر المؤمنین جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں مدینہ وہ طیبہ ہے جس کا نام نبی ﷺ نے (طیبہ) رکھا اور

اس کے باشندے (آج) محصور ہیں، اگر امیر المؤمنین کی رائے ہو کہ ان کے ساتھ نیکی کریں اور ان کے حقوق پہنچائیں۔

راوی نے کہا کہ عبد الملک نے اسے ناپسند کیا اور ان سے رخ پھیر لیا، جابر اصرار کرنے لگے یہاں تک کہ قیصہ نے اپنے بیٹے کو جو انہیں لائے تھے کیونکہ جابر کی بینائی جاچکی تھی، اشارہ کیا کہ انہیں خاموش کر دو۔

راوی نے کہا کہ ان کے بیٹے انہیں خاموش کرنے لگے تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم پر افسوس ہے تم میرے ساتھ کیا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ خاموش رہو جابر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے اور جب نکلے تو انہوں نے قیصہ کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا کہ اے ابو عبد اللہ یہ لوگ بادشاہ ہو گئے ہیں اللہ نے اچھا امتحان لیا ہے، کیونکہ جب تمہارا ساتھی (عبد الملک) تم سے سنتا ہے تو تمہارے لیے (کہنے میں) کوئی عذر نہیں ہے۔

قیصہ نے کہا کہ سنتا بھی ہے اور نہیں بھی سنتا جو اس کے موافق ہوتا ہے سنتا ہے تمہارے لیے امیر المؤمنین نے پانچ ہزار درہم کا حکم دیا ہے لہذا تم ان سے اپنے زمانے پر مدد حاصل کرو (یعنی ان درہموں سے اپنی زندگی کا زمانہ بسر کرو) جابر نے وہ لے لیے۔

حج سے واپسی پر مدینہ میں خطاب:

عبد الرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ کھڑے میں عبد الملک ابن مروان نے حج کیا، واپسی میں مدینہ سے گزرے، منبر پر لوگوں کو خطبہ سنایا، پھر اپنے دوسرے خطیب کو کھڑا کیا حالانکہ وہ خود منبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔

خطیب نے تقریر میں اہل مدینہ سے شدید جنگ کا ذکر کیا، اس نے ان لوگوں کے خلاف اطاعت اور عبد الملک اور ان کے اہل بیت کے بارے میں بدظنی کا اور اہل حرہ کے فعل کا ذکر کیا اور کہا کہ اے اہل مدینہ میں نے تمہارے لیے سوائے اس گاؤں کے کوئی مثل نہیں پائی جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے:

﴿ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون﴾

”اور اللہ ایک ایسے گاؤں کی مثال بیان فرماتا ہے جو امن چین سے تھا کہ اس کی روزی بھی ہر جگہ سے با فراغت چلی آتی تھی، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے ان برے کاموں کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے اس بات کا مزہ بھی چکھا دیا کہ بھوک اور خوف کو ان کا لباس بنا دیا۔“

ابن عبد اللہ کھڑے ہوئے اور خطیب سے کہا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو، ہم لوگ ایسے نہیں ہیں، تم اس کے بعد کی آیت پڑھو:

﴿ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فآخذهم العذاب وهم ظالمون﴾

”اور البتہ ان کے پاس انہیں میں سے رسول بھی آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلادیا تب تو ان کو ظلم کرتے ہوئے عذاب نے آ پکڑا۔“

ہم لوگ تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں (اور یہ آیت کفار کے بارے میں ہے)۔

جب ابن عبد نے یہ کہا تو دربان ان پر ٹوٹ پڑے اور انہیں گھیر لیا، یہاں تک کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ لوگ انہیں قتل کر دیں

گئے، عبد الملک نے ان لوگوں کو منع کیا، جب خطیب فارغ ہو گیا اور عبد الملک مکان میں گئے تو ابن عبد کو بھی ان کے پاس پہنچا دیا گیا۔ راوی نے کہا کہ عبد الملک نے (اتنا انعام دیا کہ) ان کے انعام سے زیادہ کسی کو انعام نہیں دیا اور انہیں ایسا لباس پہنایا کہ ان کے لباس سے زیادہ کسی کو نہیں پہنایا۔

عبد الرحمن بن محمد بن عبد سے مروی ہے کہ جب عبد الملک نے وہ تقریر کی جو کی اور میرے والد نے اس کو رد کیا تو دربان میرے والد پر بھپٹ پڑے وہ لوگ ان کو عبد الملک بن مروان کے پاس لے گئے۔ انہوں نے اہل شام کے روبرو ان پر کسی قدر غصے کا اظہار کیا۔

جب اہل شام چلے گئے تو ان سے کہا کہ اے ابن عبد جو کچھ تم نے کیا میں نے دیکھا ہے اور میں نے اس کو معاف کر دیا ہے لیکن میرے بعد کسی والی کے ساتھ ایسا کرنے سے بچنا کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ وہ تم سے اتنا نکل نہ کرے گا جتنا میں نے کیا ہے۔ قریش کا یہ قبیلہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، ہمارا حلیف بھی ہم میں سے ہے اور تم بھی ہم میں سے ایک ہو۔ تمہارا قرض کتنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پانچ سو دینار۔

عبد الملک نے ان کے لیے پانچ سو دینار کا حکم دیا۔ اور اس کے سوا انہیں سو دینار انعام دیئے، ایک جوڑا دیا جس میں سبز خز کی چادر تھی کہ اس کا ایک ٹکڑا ہمارے پاس ہے۔

ثعلبہ بن ابی مالک القرظی سے مروی ہے کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو دیکھا کہ انہوں نے شعب میں مغرب و عشاء کی نماز پڑھی، میں انہیں جمع (مزدلفہ) سے ادھر ہی مل گیا، میں ان کے ساتھ چلا تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے نماز پڑھی، میں نے کہا جان کی قسم نہیں، انہوں نے کہا کہ تمہیں نماز سے کس نے روکا، میں نے کہا کہ میں اب تک وقت کے اندر ہوں، انہوں نے کہا کہ جان کی قسم نہیں، تم وقت کے اندر نہیں ہو۔

پھر کہا کہ شاید تم ان لوگوں میں سے ہو جو امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں۔ میرے والد نے مجھے شاہد بتایا کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مغرب و عشاء شعب میں پڑھی۔

راوی کہتے ہیں کہ پھر میں نے (عبد الملک سے) کہا کہ امیر المومنین آپ جیسے لوگ اس قسم کا کلام کرتے ہیں حالانکہ آپ امام ہیں، مجھے ان پر یا اوروں پر طعن کرنے کا کیا حق ہے میں تو ان کے ساتھ تھا، لیکن میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے کہ وہ اس وقت تک نماز نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ مزدلفہ نہ پہنچ جائیں، مجھے عمر رضی اللہ عنہ کی سنت سے زیادہ کوئی سنت پسند نہیں۔

انہوں نے کہا کہ اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحمت کرے، مگر عثمان رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کو زیادہ جانتے تھے، اگر عمر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا ہوتا تو عثمان رضی اللہ عنہ ضرور ان کی پیروی کرتے، عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ عمر رضی اللہ عنہ کی حالت کی پیروی کرنے والا کوئی نہ تھا۔

سوائے نرمی کے عثمان رضی اللہ عنہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سے کسی چیز سے اختلاف نہیں کیا، کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے لیے یہاں تک نرمی کی کہ وہ خود مغلوب ہو گئے اور اگر ان کی جانب سے بھی لوگوں پر ایسی ہی سختی کی جاتی جیسا کہ ان پر انہیں نے سختی کی تو لوگوں کو ان سے وہ کامیابی حاصل نہ ہوتی جو انہوں نے حاصل کر لی۔

وہ لوگ کہاں ہیں جن میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا طریقہ جاری تھا یوں تو لوگ آج بھی ہیں اے ثعلبہ میری رائے ہے کہ سلطان کی خصلت لوگوں کے ساتھ گشت کرتی ہے اگر آج کوئی شخص اس سیرت پر چلے (جو عثمان رضی اللہ عنہ کی تھی) تو لوگوں کو ان کے گھروں میں لوٹا جائے رہبرنی کی جائے لوگ باہم ظلم کریں اور فتنے برپا ہوں اس لیے والی کے لیے ضروری ہے کہ ہر زمانے میں وہ ایسی سیرت رکھے جو اس زمانے کے لیے مفید ہو۔

ابن کعب سے مروی ہے کہ میں نے عبد الملک بن مروان کو کہتے سنا کہ اے اہل مدینہ جو پہلا طریقہ تھا اس کے اختیار کرنے کے سب سے زیادہ حقدار تم لوگ ہو۔ اس مشرق کی جانب سے ہمارے پاس ایسی احادیث کا سیلاب آیا ہے جنہیں ہم نہیں جانتے بیچانتے اور ان میں سے ہم سوائے قرأت قرآن کے اور کچھ نہیں بیچانتے لہذا تم لوگ اسی کو اختیار کرو جو تمہارے قرآن میں ہے جس پر تم کو امام مظلوم (عثمان رضی اللہ عنہ) نے جمع کیا ہے اور تم ان فرائض کو اختیار کرو جن پر تمہیں امام مظلوم رضی اللہ عنہ نے جمع کیا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے بارے میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا ہے اور وہ خدا ان پر رحمت کرے اسلام کے کیسے اچھے مشیر تھے ان دونوں نے جس کو ثابت پایا اس کو ثابت رکھا اور جو ان دونوں کی رائے کے خلاف تھا اسے انہوں نے ساقط کر دیا۔

عبد العزیز بن مروان کی معزولی کا ارادہ:

مؤرخین نے بیان کیا کہ عبد الملک بن مروان نے یہ قصد کیا تھا کہ وہ اپنے بھائی عبد العزیز بن مروان کو (ولی عہدی سے) معزول کر دیں اور اپنے دونوں فرزند ولید و سلیمان کو اپنے بعد ولی عہد خلافت کریں قبیصہ بن ذؤیب نے منع کیا اور کہا کہ یہ نہ کیجئے کیونکہ اس سے آپ ایک فتنہ انگیز آواز کو اپنے اوپر برا بیچنے کر لیں گے شاید انہیں موت آجائے جس سے آپ کو ان سے راحت مل جائے۔

عبد الملک اس سے باز رہے مگر ان کا دل ان سے جھگڑتا تھا کہ انہیں معزول کر دیں۔ ایک رات کو ان کے پاس روح بن زبناح الجذامی آئے جو عبد الملک کے پاس اس طرح سوتے تھے کہ دونوں کا تکیہ ایک ہوتا تھا اور وہ عبد الملک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔

انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اگر آپ انہیں معزول کر دیں گے تو دو بھیڑیں بھی باہم نہ لڑیں گی۔ انہوں نے کہا کہ اے ابو زرعہ یہ تمہاری رائے ہے کہا کہ جی ہاں واللہ اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا جو آپ کی یہ بات قبول کرے گا تو انہوں نے کہا کہ ان شاء اللہ ہم اعلان کریں گے پھر وہ اسی حالت پر تھے۔ عبد الملک نے جواب دیا کہ اللہ نے چاہا تو یہ ایک چھوٹی سی نصیحت کی بات ہوگی اسی حالت میں تھے کہ عبد الملک بن مروان سو گئے روح بن زبناح ان کے پہلو میں تھے یکا یک ان دونوں کے پاس قبیصہ بن ذؤیب رات ہی کو آئے۔

عبد الملک نے دربانوں کو حکم دے دیا تھا کہ قبیصہ بن ذؤیب کو رات بادن میں جس وقت بھی آئیں میرے پاس آنے سے روکا نہ جائے بشرطیکہ میں تنہا ہوں یا کسی ایک شخص کے ساتھ ہوں اور اگر میں عورتوں کے پاس ہوں تو انہیں مجلس میں پہنچا دیا جائے اور مجھے ان کی اطلاع کر دی جائے۔

قبیصہ آئے، مہر اور ڈاک انہیں کے سپرد تھی، عبدالملک سے پہلے ان کے پاس خبریں آتی تھیں، وہ ان سے پہلے خطوط کو پڑھتے، پھر انہیں کھلا ہوا عبدالملک کے پاس لاتے اور قبیصہ کی بزرگداشت کی بنا پر وہ انہیں پڑھتے تھے۔ قبیصہ ان کے پاس گئے اور کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ آپ کو بھائی کے عوض اجردے پوچھا کیا ان کی وفات ہوگئی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔

عبدالملک بن مروان نے اَنَا لِلّٰهِ وَ اَنَا اِلَيْهِ رَا جِعُوْنَ پڑھا، پھر روح کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے ابو زرعہ جس پر ہم دونوں نے اتفاق کیا تھا اور جس کا ہم نے ارادہ کیا تھا اس میں اللہ ہمیں کافی ہو گیا، اے ابواسحاق یہ امر تمہارے مخالف تھا۔

قبیصہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے، اس پر جو بات تھی اس سے انہوں نے ان کو آگاہ کیا، قبیصہ نے کہا کہ امیر المؤمنین پوری عظمت دی تو تاخیر ہی میں ہے اور عجلت میں جو خرابی ہے وہ ہے۔ عبدالملک نے کہا بسا اوقات عجلت میں خیر کثیر ہوتی ہے، کیا تم نے عمرو بن سعید کو نہیں دیکھا، کیا ان کے معاملے میں عجلت تاخیر سے بہتر نہ تھی۔ عبدالملک نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عبدالملک کو مضر پر امیر بنایا اور ولید و سلیمان کو اپنے بعد ولی عہد خلافت بنایا اور شہروں میں لکھ دیا۔ لوگوں نے ان دونوں کے لیے بیعت کر لی۔ عبدالعزیز کی وفات ۸۵ھ میں ہوئی۔

علمی حیثیت:

اہل مدینہ سے مروی ہے کہ عبدالملک نے عثمان بنی اللہ سے (احادیث) یاد کی تھیں اور رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے ابو ہریرہ و ابی سعید الخدری و جابر بن عبداللہ بنی اللہ وغیرہم سے بھی (احادیث) سنی تھیں، اور قبل خلافت عابد و حاجی تھے۔ نافع سے مروی ہے کہ میں نے عبدالملک بن مروان کو دیکھا، بدینے میں کوئی نوجوان ان سے زیادہ تیز رو، ان سے زیادہ طالب علم اور ان سے زیادہ محنتی نہ تھا۔

ابن قبیصہ بن ذؤیب نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ حجروں کے پیچھے سے عبدالملک بن مروان کی آواز سنتے تھے کہ اے اہل نعمت، جب عافیت و نعمت دونوں تمہیں حاصل ہیں تو (اللہ کی نافرمانی کر کے) اس میں کچھ کمی نہ کرو۔ محمد بن صہیب سے مروی ہے کہ انہوں نے عبدالملک بن مروان کو سنی میں اونٹ خریدتے ہوئے دیکھا۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ میں نے سونے سے دانت باندھنے کو ابن شہاب سے دریافت کرتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں، عبدالملک بن مروان نے بھی اپنے دانت سونے سے باندھے تھے۔ زہری سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان اپنے دانت سونے سے باندھتے تھے۔

وفات:

عمرو بن قیس سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان نے اپنے دانت سونے سے باندھے۔

ابو مخریح سے مروی ہے کہ عبدالملک بن مروان کی وفات دمشق میں ۱۵ شوال ۸۶ھ یوم پنجشنبہ کو ہوئی، عمر ساٹھ سال کی تھی، بیعت سے وفات تک اکیس سال اور ڈیڑھ مہینے خلافت کی، اس میں سے نو سال تک عبداللہ بن الزبیر بنی امیہ سے جنگ کرتے رہے، ان کی شام کی خلافت تسلیم کی جاتی تھی، پھر قتل مصعب کے بعد عراق کی عبداللہ بن الزبیر بنی امیہ کے قتل اور سب لوگوں کے ان

(کی بیعت) پر اتفاق کر لینے کے بعد سات دن کم تیرہ سال اور چارہ مہینے زندہ رہے۔

ہم سے روایت کی گئی ہے کہ ان کی وفات پچھتر سال کی عمر میں ہوئی، پہلی روایت زیادہ ثابت ہے اور ان کی ولادت کے

حساب سے درست ہے۔

عبدالعزیز بن مروان رضی اللہ عنہما:

ابن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی والدہ لیلی بنت زبان بن الاصح بن عمرو بن ثعلبہ بن الحارث بن حصین بن ضمضم بن عدی بن خباب قبیلہ کلب سے تھیں، کنیت ابو الاصح تھی۔

عبدالعزیز کے یہاں عمر رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے جو والی خلافت ہوئے۔ عاصم و ابو بکر پیدا ہوئے اور محمد جو لا ولد مرگئے ان سب کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم بن نفیل بن عدی بن کعب میں سے تھیں۔

اصح بن عبدالعزیز جن کے نام سے ان کی کنیت تھی اور ام عثمان و ام محمد ایک ام ولد سے تھے۔ سہیل و سہل و ام الحکم ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل اسہمی تھیں۔

زبان بن عبدالعزیز و جزیا ایک ام ولد سے تھے۔ ام البنین ان کی والدہ لیلی بنت سہیل بن حظلہ بن الطفیل بن مالک ابن جعفر بن کلاب تھیں۔ عبدالعزیز نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

مروان بن الحکم نے عبدالملک بن مروان کو اور ان کے بعد عبدالعزیز بن مروان کو ولی عہد بنایا، انہیں والی مصر بھی بنایا، عبدالملک نے اس عہدے پر انہیں برقرار رکھا۔

ان کا وجود عبدالملک پر گراں تھا، انہوں نے ان کے معزول کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کے بعد ولید و سلیمان کی بیعت خلافت کی جائے مگر قبیسہ بن ذؤیب نے انہیں اس سے روکا۔ قبیسہ کے سپرد ان کی مہر تھی اور وہ ان کا اکرام و عظمت کرتے تھے وہ اس سے رُک گئے۔

عبدالعزیز کی وفات مصر میں ۸۵ھ میں ہوئی، عبدالملک بن مروان کو یہ خبر رات کو پہنچی صبح ہوئی تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور اپنے بعد ولید کی بیعت خلافت لی پھر ولید کے بعد سلیمان کی۔

محمد بن مروان رضی اللہ عنہما:

ابن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس، ان کی والدہ ام ولد تھیں جن کا نام زینب تھا۔ محمد بن مروان کے یہاں مروان پیدا ہوئے جو والی خلافت ہوئے اور بنی امیہ کے آخری خلیفہ تھے یہ وہی ہیں جن کو اولاد عباس رضی اللہ عنہم نے اس وقت قتل کر دیا جس وقت انہوں نے اپنی دعوت (بیعت) کا اظہار کیا۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ یزید ان کی والدہ رملہ بنت یزید بن عبید اللہ بن شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس تھیں۔

عبدالرحمن ان کی والدہ ام جمیل بنت عبدالرحمن بن زید بن الخطاب بن نفیل تھیں۔ منصور ایک ام ولد سے تھے۔ عبدالعزیز ایک ام ولد سے تھے۔ عبدہ و رملہ مختلف ام ولد سے تھیں۔ زہری نے محمد بن مروان سے روایت کی ہے۔

عمر و بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن العاص بن سعید ابی اجمہ بن العاص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ ام البنین بنت الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔

عمر و بن سعید کے یہاں امیہ و سعید و اسماعیل و محمد و ام کلثوم پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام حبیب بنت حریت بن سلیم بن عیش بن لبید بن قداء بن امیہ بن عبد اللہ ابن رزاح بن ربیعہ بن حرام بن ضنہ بن عبد بن کبیر بن عذرہ قضاء میں سے تھیں۔
عبد العزیز و عبد الملک و رملہ ان کی والدہ سودہ بنت الزبیر بن العوام ابن خویلد تھیں۔ موسیٰ و عمران ان دونوں کی والدہ عائشہ بنت مطیع بن ذبی اللحیہ بن عبد بن عوف بن کعب بن ابی بکر بن کلاب بنی عامر میں سے تھیں۔ عبد اللہ و عبد الرحمن ایک ام ولد سے تھے۔

ام موسیٰ ان کی والدہ نائلہ بنت فریض بن ربیع بن مسعود بن مصاد بن حصن ابن کعب بن حلیم قبیلہ کلب کی تھیں۔ ام عمران بنت عمرو ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔

شہادت حسین کے وقت والی مدینہ:

مورخین نے کہا کہ عمرو بن سعید قریش کے لوگوں میں سے تھے یزید بن معاویہ نے انہیں والی مدینہ بنایا تھا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کے وقت وہ مدینے ہی کی ولایت پر تھے یزید نے ان کے پاس حسین رضی اللہ عنہ کا سر بھیجا تو انہوں نے اس کو کفن دے کے بقیع میں ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دیا۔

یزید نے انہیں لکھا کہ عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی جانب ایک لشکر روانہ کریں انہوں نے ان کی جانب لشکر روانہ کیا اور اہل لشکر پر عمرو بن الزبیر بن العوام کو عامل بنایا ایک سال عمرو بن سعید نے لوگوں کو حج کرایا۔ اہل شام کو وہ سب سے زیادہ محبوب تھے اور وہ لوگ ان کی اطاعت و فرماں برداری کرتے تھے۔

عبد الملک بن مروان والی خلافت ہوئے تو انہیں ان سے خوف ہوا عمرو انہیں مقابلہ دے کر دمشق میں محفوظ ہو گئے دمشق کو پھر ان کے لیے کھول دیا اور ان سے بیعت خلافت کر لی۔

عبد الملک ان سے بے خوف نہ ہونے کی وجہ سے برابر گھات میں رہتے ایک روز انہیں تنہا بلا بھیجا اور ان امور کی بدولت ان پر عتاب کیا جن کو معاف کر چکے تھے۔ پھر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا۔ عمرو کی کنیت ابو امیہ تھی۔ عمرو نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ عالیہ بنت سلمہ بن یزید بن مشجعہ بن الحجاج بن مالک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن جھنی بن سعد العشیرہ تھیں۔

یحییٰ بن سعید کے یہاں سعید و اسماعیل و ربیعہ جو ام رباح تھیں اور فاختہ و رقیہ و ام عمر پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام یسٰی بنت عبید اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں۔

عمر و عثمان ان دونوں کی والدہ زینب بنت عبد الرحمن بن الحکم ابن ابی العاص تھیں۔ عمر ان کی والدہ ام عمرو بنت عمر بن جریر بن عبد اللہ الجلی تھیں۔ ابان و عنبسہ و حصین و محمد و ہشام مختلف ام ولد سے تھے۔

امہ ان کی والدہ ام سلمہ بنت الحلیس بن حبیب بن عامر بن مالک بن جعفر بن کلاب تھیں۔ ربلہ و علیہ و فاختہ الصغریٰ ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ام عثمان ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ یحییٰ بن سعید قلیل الحدیث تھے۔

عنبسہ بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عنبسہ بن سعید کے یہاں ایک ام ولد سے عبد اللہ اور ایک ام ولد سے عبد الرحمن پیدا ہوئے۔

خالدة ان کی والدہ ام العثمان بنت محمد بن الاشعث بن قیس بن معدی کرب ابن معاویہ بن جلدہ الکندی تھیں۔ عبد الملک ان کی والدہ اروئی بنت عبد اللہ بن عبد اللہ بن عامر بن کریر ابن زبیرہ بن حبیب بن عبد شمس تھیں۔ عثمان ایک ام ولد سے تھے۔

سعید و ام عنبسہ و ام کلثوم ان سب کی والدہ ام عمر بنت عمر بن سعد بن ابی وقاص تھیں۔ حجاج و محمد و سلیمان و زیاد و مروان و آمنہ و ام عثمان و ام ابان و ام خالد مختلف ماؤں سے تھے۔ ام الولید ان کی والدہ رواج بنت عمیر بن النلیل بن قیس بن مسعود بن قیس ابن خالد بن الحد بن تھیں۔

عنبسہ بن سعید نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن قیس رضی اللہ عنہما:

ابن مخزومہ بن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ درہ بنت عقبہ ابن رافع بن امرأ القیس بن زید بن عبد الاشہل اوس میں سے تھیں۔

عبد اللہ بن قیس کے یہاں محمد و موی و رقیہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام سعید بنت کباشہ بن عرابہ بن اوس بن قحطی بن عمرو النصار کی شاخ بنی حارثہ میں سے تھیں۔ مطلب و حکیم ان دونوں کی والدہ ام ایاس بنت یزید بن عبد اللہ بن ذی حصن حمیر میں سے تھیں۔

عبد الرحمن و حکم و عبد اللہ و ام الفضل ان سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت عبد الرحمن ابن عبد اللہ بن ابی صعصعہ بن وہب بن عدی بن مالک بن عدی بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار تھیں۔

عبد الملک و ام سلمہ ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ان کے بھائی۔

محمد بن قیس رضی اللہ عنہما:

ابن مخزومہ بن المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ درہ بنت عقبہ ابن رافع بن امرأ القیس بن زید بن عبد الاشہل تھیں۔ محمد بن قیس کے یہاں یحییٰ اکبر و عمر اکبر و ام القاسم و جمال و صعبہ الکبریٰ و ام عبد اللہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام جمیل

بنت المسیب بن ابی السائب بن عابد ابن عبد اللہ بن عمر بن مخزومہ تھیں۔

حسن و حسین و حکیم و صعوبہ الصغریٰ و قیس اکبر و قیس اصغر و محمد اصغر و جمال صغریٰ و حفصہ و ام الحسن و فاطمہ ان سب کی والدہ ام الحسن بنت الحکیم بن الصلت بن مخرمہ تھیں۔

عمر و اصغر ایک ام ولد سے تھے اور یحییٰ اصغر ایک ام ولد سے تھے۔

مغیرہ بن ابی بردہ رضی اللہ عنہما:

بنی عبدالدار بن قصی میں سے تھے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن ازہر بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ ان کی والدہ ام سلمہ بنت خنجد بن ہرثمہ بن مسعود بنی نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن میں سے تھیں۔

عبداللہ بن عبدالرحمن کے یہاں جعفر و عبدالرحمن و ام عمر اور حفصہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام جمیل بنت عبداللہ بن مکمل بن عوف بن عبد بن الحارث ابن زہرہ تھیں۔

زہری نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن مکمل بن عوف بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ ان کی والدہ قبیلہ حمیر کی شاخ سخطب کی تھیں ان پر گرفتاری کی مصیبت آئی۔

عبدالرحمن کے یہاں حسن و ام حبیب پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ خدیجہ بنت ازہر بن عبدعوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں۔

سعد و مروان و بریبہ و ام عمرو و ہند ان سب کی والدہ ام النعمان بنت عبدالرحمن بن قیس بن غلدہ تھیں۔ عبدالرحمن بن عبداللہ سے زہری نے روایت کی ہے۔

معاذ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عثمان بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ معاذ بن عبدالرحمن کے یہاں عبدالرحمن ہوئے ان کی والدہ زینبہ تھیں جو ام عمرو بنت عتبہ تھیں اور بنی سعد بن بکر میں سے تھیں۔

اولس ان کی والدہ مریم بنت عقبہ بن ایاس بن عتمة بنی سلیم بن منصور میں سے تھیں۔ اسماء ان کی والدہ منقریہ تھیں۔ ان کے بھائی:

عثمان بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عثمان بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔

نوفل بن مساحق رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن مخرمہ بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدالود بن نصر بن مالک ابن حسل بن عامر بن لویٰ، ان کی والدہ مریم بنت مطیع بن الاسود بنی عدی بن کعب میں سے تھیں۔

نوفل بن مساحق کے یہاں سعد بن نوفل پیدا ہوئے، ان کی والدہ ام عبداللہ بنت ابی سبرہ بن ابی زہم بن عبدالعزیٰ بن ابی قیس بن عبدالود بن نصر بن مالک تھیں۔

معقل بن نوفل، ان کی والدہ ضہ بنت سبرہ بن عبداللہ بن الاطم بنی عقیل ابن کعب میں سے تھیں۔ عبدالملک و مروان و سلیمان مختلف ام ولد سے تھے۔

نوفل کی بہت تھوڑی حدیثیں ہیں۔

عیاض بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد بن ابی سرح بن الحارث بن حبیب بن جذیمہ بن مالک بن حسل ابن عامر بن لویٰ، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عیاض کے یہاں وہب و عبداللہ و سالم پیدا ہوئے، ان سب کی والدہ ام حسن بنت عمرو بن اولیس تھیں۔ اور سعد بن عیاض۔

عثمان بن اسحاق رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن ابی خزیمہ بن عمرو بن ربیعہ بن الحارث بن حبیب بن جذیمہ ابن مالک بن حسل بن عامر بن لویٰ، ان کی والدہ امیمہ بنت عبداللہ بن مسعود بن الحارث ابن صبح بن مخزوم بن صاہلہ بن کابل بن الحارث بن تیم بن سعد بن ہذیل تھیں۔

عثمان بن اسحاق کے یہاں عبدالرحمن اور ایک اور شخص پیدا ہوئے، ان دونوں کی والدہ ام حبیب بنت مر بنی عقیل میں سے تھیں۔ زہری نے عثمان بن اسحاق سے روایت کی ہے۔

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن ماغر زہری نے ان سے روایت کی ہے۔

شعیب بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سہم، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ شعیب کے یہاں عمرو و عمر پیدا ہوئے، ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت عمرہ ابن عمرو بن عبداللہ بن عمر الحی تھیں۔

عبداللہ و شعیب اور عائذہ جن سے حسین بن عبداللہ بن عبید اللہ ابن العباس نے نکاح کیا، ان سب کی والدہ عمرہ بنت عبید اللہ بن العباس ابن عبدالطلب تھیں۔

شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرو سے روایت کی ہے اور ان سے ان کے بیٹے عمرو بن شعیب نے روایت کی ہے، ان کی حدیث اپنے والد سے ہے اور ان کے والد کی حدیث اپنے دادا یعنی عبداللہ بن عمرو سے ہے۔

عثمان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن سراقہ بن المعتز بن انس بن اواۃ بن رباح بن عبداللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب بن ان کی والدہ زینب بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں جو اولاد عمر رضی اللہ عنہ میں سب سے چھوٹی تھیں۔

عثمان کے یہاں عمر پیدا ہوئے انہیں کے نام سے ان کی کنیت تھی اور عبداللہ و عمر و ابو بکر و زبیر و عبدالرحمن ان سب کی والدہ عہدہ بنت الزبیر بن المسیب بن ابی السائب صفی بن عابد بنی مخزوم میں سے تھیں۔

حفصہ ایک ام ولد سے تھیں اور قاطمہ ایک ام ولد سے۔ عثمان بن عبداللہ نے جابر بن عبداللہ سے روایت کی ہے۔

ہشام بن اسماعیل رضی اللہ عنہ:

ابن ہشام بن الولید بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ امۃ بنت المطلب بن ابی البختری بن ہشام بن الحارث بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں۔

ہشام بن اسماعیل کے یہاں ولید اور ام ہشام پیدا ہوئیں جو ہشام ابن عبدالملک بن مروان کی والدہ تھیں ان دونوں کی والدہ مریم بنت لجاہ ابن عوف بن خارجہ بن سنان بن ابی حارث تھیں۔

ابراہیم و محمد ایک ام ولد سے تھے اور خالد و حبیب ایک ام ولد سے۔ ہشام بن اسماعیل اہل علم و روایت میں سے تھے۔ عبدالملک بن مروان کی جانب سے والی مدینہ ہوئے۔

پھر عبدالملک کی وفات ہو گئی یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے سعید بن المسیب کو مارا تھا جب انہیں ولید بن عبدالملک کی بیعت کی دعوت دی جس وقت انہیں ان کے والد نے ولی عہد خلافت بنایا تو سعید نے انکار کیا اور کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کیا کرتے ہیں تو انہوں نے انہیں مارا اور انہیں گھمایا اور قید کر دیا عبدالملک کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا ان کے فعل سے ناراض ہوئے اور کہا کہ انہیں اور سعید کو کیا ہوا سعید کے پاس مخالفت نہیں ہے۔

محمد بن عمار رضی اللہ عنہ:

ابن یاسر بن عامر بن مالک بن کنانہ بن قیس بن الحصین بن الوذیم بن ثعلبہ ابن عوف بن حارثہ بن عامر الاکبر بن یام بن علس مذجج میں سے تھیں جو قریش کے ابی حذیفہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کے حلفاء میں سے تھے محمد بن عمار سے روایت کی گئی ہے۔

حمزہ بن صہیب رضی اللہ عنہ:

ابن سنان بن مالک بن عبد عمرو بن عقیل بن النمر بن قاسط بن ربیعہ جو قریش کے عبداللہ بن جدوان النجفی کے حلیف تھے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

صفی بن صہیب رضی اللہ عنہ:

ابن سنان بن مالک۔

عمارة بن صہیب رضی اللہ عنہ:

ابن سنان بن مالک ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ:

ابن الارت بن جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن کعب بن سعد بنی سعد بن زید ابن مناة بن تمیم میں سے تھے زمانہ جاہلیت میں خباب پر قید کی مصیبت آئی، ام انمار بنت سباغ الخزاعیہ کو ملے جو بنی زہرہ بن کلاب کے حلفاء میں سے تھیں۔ ام انمار نے انہیں آزاد کر دیا۔

عبدالقیس کے ایک شخص سے جو خوارج کے ساتھ تھے اور بعد کو ان سے جدا ہو گئے مروی ہے کہ خوارج ایک گاؤں میں داخل ہوئے۔ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ گھبرا کر ان کے پاس آئے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ نہ ڈریئے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ تم لوگوں نے مجھے ڈرا دیا، ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہرگز نہ ڈریئے۔ انہوں نے کہا واللہ تم لوگوں نے مجھے ڈرا دیا ہے، ان لوگوں نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی خباب رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ میں انہوں نے کہا کہ ہاں۔

ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے اپنے والد سے کوئی ایسی حدیث سنی ہے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہو، اگر سنی ہے تو ہم سے بیان کیجئے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے والد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فتنے کا ذکر کرتے سنا جس میں بیٹھے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس فتنے کو پانا تو اللہ کے مقتول بندے بننا۔ ایوب (راوی) نے کہا کہ میں اس کو سوائے اس کے نہیں جانتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ایسے بندے نہ بننا جو قاتل ہو۔

ان لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے یہ حدیث اپنے والد سے سنی ہے کہ وہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں، وہ لوگ انہیں نہر کے کنارے پر لے گئے اور گردن مار دی، ان کا خون اس طرح بہا کہ گویا جوتے کا تسمہ ہے جو پانی سے نہیں ملا، ان لوگوں نے ان کی ام ولد کا بھی پیٹ چاک کر ڈالا، اسی سبب سے علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کے قتال کو حلال سمجھا۔ محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ:

ابن زید المحب بن حارثہ بن شراحیل بن عبدالعزیز بن امرئ القیس بن عامر ابن الصمان بن عبیدود بن عوف بن کنانہ بن عوف بن عذرہ بن زید اللات بن رفیدہ بن ثور ابن کلب، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے خاندان کو اس باندی کی وجہ سے اولاد میں کہا جاتا تھا، جس نے عبدالعزیز بن امرئ القیس کو پالا تھا، اسی وجہ سے وہ لوگ اس کی طرف منسوب ہو گئے۔

محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ کی وفات ولید بن عبدالملک کی خلافت میں مدینے میں ہوئی، ان سے یزید بن عبداللہ بن قسیط نے روایت کی ہے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ ان کے بھائی:

حسن بن اسامہ رضی اللہ عنہ:

ابن زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ان سے ان کے بیٹے محمد بن الحسن وغیرہ نے روایت کی ہے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

جعفر بن عمرو رضی اللہ عنہما:

ابن امیہ بن خویلد بن عبداللہ بن ایاس بن عبدالناشرہ بن کعب بن جدی ابن ضمیرہ بن بکر بن عبدمنافہ بن کنانہ۔
عبدالرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ جعفر بن عمرو بن امیہ عبدالملک ابن مروان کے رضاعی بھائی تھے۔ عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں ان کے پاس آئے اور مسجد مشرق میں بیٹھ گئے، اہل شام اپنے دفتر کی ترتیب سے عبدالملک کے روبرو پیش کیے جا رہے تھے، یمن کے لوگ ان کے گرد تھے جو کہہ رہے تھے کہ اطاعت کرو۔ جعفر نے کہا کہ سوائے اللہ کے کسی کی اطاعت نہیں ہے، لوگوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کہا کہ کیا تم امیر المومنین کی اطاعت کو کزور کرتے ہو یہاں تک کہ ستون سے ان پر حملہ کیا، جعفر بڑی مشقت سے بچے۔

یہ خبر عبدالملک کو معلوم ہوئی تو انہوں نے ان کو بلا بھیجا، انہیں ان کے پاس پہنچا دیا گیا، عبدالملک نے کہا کہ کیا تم نے اپنے اس عمل پر غور کیا، واللہ اگر یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے تو میرے نزدیک تمہارے بارے میں کچھ نہ تھا، تمہیں ایسے امر میں جانے کی کیا ضرورت تھی جو مفید نہیں، تم ایسی قوم کو دیکھتے ہو جو میری سلطنت و اطاعت میں شدت کرتے ہیں، پھر تم آتے ہو اور اسے کزور کرتے ہو۔ اس سے احتیاط کرو۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جعفر بن عمرو کی وفات ولید بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے، ثقہ تھے اور ان کی حدیثیں ہیں۔ ان کے بھائی:

زیرقان بن عمرو رضی اللہ عنہما:

ابن امیہ بن خویلد ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

ایاس بن سلمہ رضی اللہ عنہما:

ابن الاکوع ان کا نام سنان بن عبداللہ بن قشیر بن خزیمہ بن مالک بن سلیمان ابن اسلم بن اقصیٰ تھا۔ خزاعہ میں سے تھے۔ ایاس کی کنیت ابو سلمہ تھی، وفات ۱۱۹ھ میں مدینے میں ہوئی جبکہ وہ ستر سال کے تھے۔ ایاس بن سلمہ بن الاکوع بنی مدینہ سے مروی ہے کہ ان کی کنیت ابو بکر تھی۔ ثقہ تھے ان کی بہت سی احادیث ہیں۔

محمد بن حمزہ رضی اللہ عنہما:

ابن عمرو الاسلمی ان سے اسامہ بن زید اللبیشی نے روایت کی ہے اور خود انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن جرہد رضی اللہ عنہما:

ابن زراح بن عدی بن سہم بن مازن بن الحارث بن سلیمان بن اسلم بن اقصیٰ انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے ان کے ایک بیٹے زرعہ بن عبدالرحمن تھے جن سے ابوالزناد نے روایت کی ہے۔

طارق بن ابی محاشن الاسلمی رضی اللہ عنہما:

مدینے میں رہتے تھے ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

ابو عثمان بن سہ الخزامی رضی اللہ عنہ:

ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

عطاء بن یزید اللیشی رضی اللہ عنہ:

کنانہ کے لوگوں میں سے تھے، کنیت ابو محمد تھی، ۶۰ھ میں وفات ہوئی اور اس وقت پچاسی سال کے تھے، انہوں نے ابویوب اور تمیم الداری اور ابو ہریرہ اور ابوسعید الخدری اور عبید اللہ بن عدی بن النجار رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے، ان سے زہری نے روایت کی ہے، کثیر الحدیث تھے۔

عمارہ بن اکیمہ اللیشی رضی اللہ عنہ:

کنانہ کے لوگوں میں سے تھے، کنیت ابو الولید تھی، اناسی سال کی عمر میں ۱۰۰ھ میں وفات ہوئی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور ان سے زہری نے صرف ایک حدیث روایت کی ہے، بعض ایسے محدثین ہیں جو یہ کہہ کر ان سے سند نہیں لیتے کہ وہ شیخ مجہول ہیں۔

حمید بن مالک رضی اللہ عنہ:

ابن الحکم الدکلی، کنانہ میں سے تھے اور قدیم تھے، انہوں نے سعد و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، ان سے بکیر بن عبد اللہ بن الاصح اور زہری نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

سنان بن ابی سنان الدکلی رضی اللہ عنہ:

قبیلہ دلی میں سے تھے، پچاسی سال کی عمر میں ۶۰ھ میں وفات ہوئی۔ ان سے زہری نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

تھے۔

عبید اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عتبہ بن مسعود بن غافل بن حبیب بن شیخ بن فار بن مخزوم ہذیل بن مدرکہ میں سے تھے جو بنی زہرہ کے حلقاء تھے، ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عبید اللہ بن عبد اللہ ابن عتبہ شعر کہتے تھے، اس کے بارے میں ان سے کہا جاتا تو جواب دیتے کہ کیا تم لوگوں نے مریض سینہ کو نہیں دیکھا کہ اگر بلغم نہ تھو کے تو مر جائے گا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبید اللہ عالم تھے، یمنائی جاتی رہی تھی، انہوں نے ابو ہریرہ و ابن عباس و عائشہ و ابی طلحہ و سہیل بن حنیف و زید بن خالد و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے، ثقہ و فقیہ و کثیر العلم و کثیر الحدیث و شاعر تھے۔

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عبید اللہ بن عبد اللہ کو دیکھا کہ اپنی مونچھیں کترواتے تھے اس سے اچھی طرح چن لیتے تھے، ان کی وفات ۹۸ھ میں مدینے میں ہوئی، اوروں نے کہا کہ ۹۹ھ میں ہوئی۔

زہری سے مروی ہے کہ ابوسلمہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کر کے ان سے مسائل جمع کرتے تھے، عبید اللہ بن عبد اللہ ان

سے عمدہ طریقہ سے سوال کر کے کلام میں ان پر غالب آ جاتے تھے۔
یحییٰ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن حاطب بن ابی بلتعہ جو قبیلہ لخم میں سے تھے کہ بنی اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی کا حلیف تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما کی خلافت میں پیدا ہوئے، کنیت ابو محمد تھی، انہوں نے ابن عمرو ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی ہے، ثقہ و کثیر الحدیث تھے، وفات مدینے میں ۱۰۴ھ میں ہوئی۔ ان کے بھائی:
عبداللہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن حاطب بن ابی بلتعہ یزید بن معاویہ کی خلافت میں جنگ حرہ کے دن ذی الحجہ ۶۳ھ میں قتل کر دیئے گئے۔
حظلمہ رضی اللہ عنہما:

یعنی ابن علی بن الاسقع الاسلمی جو سلمیوں میں سے تھے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے اور زہری نے ان سے روایت کی ہے۔
عیاض بن خلیفہ الخزاعی رضی اللہ عنہما:

ان سے زہری نے روایت کی ہے۔
عوف بن الطفیل رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن سجرہ بن جرثومہ بن عادیہ بن مرہ بن حشم بن الاویس بن عامر ابن حصین بن النمر بن عثمان بن نصر بن زہران بن کعب قبیلہ ازد سے تھے، طفیل بن الحارث عائشہ و عبدالرحمن فرزند ان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ان دونوں کی (سوتیلی) ماں ام رومان کے رشتے سے بھائی تھے۔ حارث بن سجرہ نے السراة سے آ کر ابو بکر رضی اللہ عنہما سے معاہدہ حلف کیا تھا، ان کے ہمراہ ان کی بیوی تھیں، ام رومان بھی تھیں، جب وہ مر گئے تو ان کی بیوی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما نے نکاح کر لیا۔
عبدالرحمن بن مالک رضی اللہ عنہما:

ابن جحشم بن مالک بن عمرو بن تیم بن مدح بن مرہ بن عبدمنافہ بن کنانہ ان سے زہری نے روایت کی اور ان کی احادیث ہیں۔
ربیع بن سبرہ رضی اللہ عنہما:

انجمنی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی جو صحابی تھے، زہری نے ربیع ابن سبرہ سے روایت کی ہے۔
عبید بن السباق الشقی رضی اللہ عنہما:

انہوں نے مدی کے بارے میں ہبل بن حنیف سے روایت کی ہے اور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی ہے۔
عبیدہ بن سفیان الحضرمی رضی اللہ عنہما:

انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، قلیل الحدیث شیخ تھے۔
سائب بن مالک الکنانی رضی اللہ عنہما:

ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

صفوان بن عیاض رضی اللہ عنہ:ابن برادر اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ جو اسامہ رضی اللہ عنہ کی دختر کے شوہر تھے انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ سے اور ان

سے زہری نے روایت کی ہے۔

ملیح بن عبداللہ السعدی رضی اللہ عنہ:انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے محمد بن عمرو بن علقمہ اللبثی نے روایت کی ہے۔عراک بن مالک الغفاری رضی اللہ عنہ:

بنی کنانہ میں سے تھے اور مدینے میں بنی غفار میں رہتے تھے مدینے میں یزید ابن عبدالملک کی خلافت میں وفات پائی۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے زہری نے روایت کی ہے اور ان کے فرزند خثیم بن عراک پارسا اور اسلام میں سخت مزاج تھے زیاد بن عبید اللہ الحارثی کی جانب سے مدینے کے افسر شحہ تھے زیاد ابو العباس اور ابو جعفر کی ابتدائے خلافت میں گئے اور مدینے کے دالی تھے۔

ابو الغصن سے مروی ہے کہ میں نے عراک بن مالک کو دیکھا کہ مثل مونڈنے کے وہ اپنی مونچھیں نہیں کترواتے تھے بلکہ اسے اچھی طرح چن لیتے تھے۔

ابو الغصن سے مروی ہے کہ میں نے عراک بن مالک کو دیکھا کہ سوائے ایام ممنوعہ کے وہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔

محرر بن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ:

ابن عامر بن عبد ذی الشری بن طریف بن عتاب بن ابی صعب بن منبہ بن سعد بن ثعلبہ بن سلیم بن فہم بن غنم بن دوس جو ازد میں سے تھے وفات مدینے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

عمرو بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ:

ابن اسید بن جاریہ بن عبداللہ بن ابی سلمہ بن عبدالعزی بن غیرہ بن عوف بن قسی، ثقفی تھے بنی زہرہ کے حلیف اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں (ساتھیوں) میں سے تھے ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

نہار بن عبداللہ القیس رضی اللہ عنہ:انہوں نے ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے۔

انصار کا یمنی طبقہ

عباد بن ابی نائلہ:

سلکان بن سلامہ بن قش بن زعبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل، ان کی والدہ ام اہل بنت رومی بن قش بن زعبہ بن زعوراء بن عبدالاشہل تھیں۔

عباد کے یہاں یونس و ام سلمہ و ام عمرو و ام موسیٰ و سلمہ و قریبہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ ام الحارث بنت النباب بن زید بن تیم بن امیہ بن بیاضہ بن خفاف جوراج کے رہتے والے قبیلہ اوس کے بعا درہ میں سے تھیں۔

ام العلاء و ام عمرو ان دونوں کی والدہ صفیہ بنت معبد بن بشر بن خالد بن ظالم قیس عیلمان کے بنی ہارہ بن دینار میں سے تھیں۔

عباد بن ابی نائلہ اور ان کے بیٹے سلمہ بن عباد ذی الحجہ ۶۳ھ میں یوم الحمرہ میں یزید بن معاویہ کی خلافت میں قتل کر دیئے گئے۔

یزید بن محمد رضی اللہ عنہ

ابن مسلمہ بن خالد بن عدی بن مجعد بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمر جو بیعت بن مالک ابن الاوس تھے۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

یزید بن محمد کے یہاں قیس و ام زید پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ بنی محارب ابن نصفہ بن قیس بن عیلمان بن مضر میں سے تھیں۔ زید بن محمد یوم الحمرہ میں قتل کیے گئے۔

حسین بن عبدالرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ بن زید سے مروی ہے کہ یوم الحمرہ میں مدینے کے مکانات میں جو مکان سب سے پہلے لوٹا گیا، اور جنگ ہنوز منقطع نہ ہوئی تھی، وہ بنی عبدالاشہل کا مکان تھا، ان لوگوں نے نہ تو مکانوں میں کوئی اثاثہ چھوڑا اور نہ عورتوں کے بدن پر کوئی زیور اور کپڑا۔ کوئی فرش ایسا نہ تھا جس کا اون نہ نوچ ڈالا گیا ہو اور کوئی مرغی اور کبوتر نہ تھا جو ذبح نہ کر دیا گیا ہو، وہ مرغیوں اور کبوتروں کو اپنے میں سے کسی کے پیچھے شکار بند میں لٹکا لیتے۔

ہم لوگ نکل کر اس گھر سے اس گھر تک جاتے، تین روز اسی طرح سے گزرے، مسرف عینق میں تھا اور لوگ مصیبت میں مبتلا تھے، ہم لوگوں نے محرم کا چاند اس حالت میں دیکھا کہ محمد بن سلمہ کے مکان میں شامی گھسے تھے اور عورتیں پرانگندہ ہو گئی تھیں۔

یزید بن محمد بن مسلمہ اور ان کے ہمراہ ایک جماعت آواز کی طرف بڑھی۔ انہوں نے دس آدمیوں کو لوٹتے ہوئے پایا، دروازے پر احاطے میں اور گھروں میں ان لوگوں نے جنگ کی۔ شامی سب کے سب قتل کر دیئے گئے، جو کچھ لوٹا گیا تھا سب انہوں نے حاصل کر لیا، اپنے قیمتی سامان کو انہوں نے اندھیرے کنوئیں میں ڈال کر اوپر سے مٹی بھر دی۔

ایک دوسری جماعت سامنے آئی، انہوں نے بھی اسی مقام پر جنگ کی، زید بن محمد بن مسلمہ اور سلمہ بن عباد بن سلامہ بن قش اور جعفر بن یزید بن سلکان قتل کر دیئے گئے اور وہ سب لوگ پھنڈے ہوئے پائے گئے، زید بن محمد پر تلوار کے چودہ زخم تھے جن میں سے چار ان کے چہرے پر تھے۔

عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہما:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ بن الحارث بن الخزرج بن عمرو کہ وہی پیٹ بن مالک بن الاوس تھے ان کی والدہ لہنی بنت قرہ بن علقمہ بن علاشہ بنی جعفر بن کلاب میں سے تھیں۔

اور ناعصہ و عائشہ ان دونوں کی والدہ ام الاشعث بنت عبداللہ ابن قرہ بن علقمہ بن علاشہ تھیں۔ ام جعفر ان کی والدہ ام الاشعث بنت رفاعہ بن خدیج بن رافع قبیلہ اوس کے بنی حارثہ میں سے تھیں۔

عبداللہ بن رافع نے اپنے والد سے روایت کی ہے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہما:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ان کی والدہ اسماء بنت زیاد بن طرفہ بن مصاد بن الحارث بن مالک بن النمر بن قاسط بن ربیعہ تھیں۔

عبداللہ کے یہاں فضل پیدا ہوئے جن کے نام سے ان کی کنیت تھی اور عونہ و ام الفضل و بریبہ و ام رافع ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔

عبداللہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔ پچاسی سال کے تھے کہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے زمانے میں ۱۱ھ میں وفات ہوئی۔

عبدالرحمن بن رافع رضی اللہ عنہما:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ان کی والدہ اسماء بنت زیاد بن طرفہ بن نمر بن قاسط کے خاندان سے تھیں۔ عبدالرحمن کے یہاں ہریر و سکنہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ ام الحسن بنت اسید بن ظہیر بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ تھیں۔

سہل بن رافع رضی اللہ عنہما:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ان کی والدہ اسماء بنت زیاد بن طرفہ بن نمر بن قاسط کے خاندان سے تھیں۔ سہل بن رافع کے یہاں منذر پیدا ہوئے اور عمران جن کا کوئی پس ماندہ نہ تھا اور سلیمان و محمد و عائشہ و ام عیسیٰ و ام حمیدہ ان سب کی والدہ ام المنذر بنت رفاعہ ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ تھیں۔

رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہما:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن حشم بن حارثہ ان کی والدہ اسماء بنت زیاد بن طرفہ بن نمر بن قاسط کے خاندان سے تھیں۔ رفاعہ کے یہاں ایک ام ولد سے عباہ و امر القیس پیدا ہوئے ایک ام ولد سے زمیل اور ایک ام ولد سے نافع پیدا ہوئے۔

سہل و عائشہ و میمونہ ان سب کی والدہ ہند بنت ثعلبہ بن الزبرقان بن بدر امحی تھیں۔ عبدہ اسماء و بکرہ ایک ام ولد سے تھیں۔ رفاعہ بن رافع کی کنیت ابو خدیج تھی ان کی وفات مدینے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی خلافت میں ہوئی۔

عبید بن رافع رضی اللہ عنہ:

ابن خدیج بن رافع بن عدی بن زید بن شہم بن حارثہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبید کے یہاں رافع و عیاش و رفاعہ پیدا ہوئے ان سب کی والدہ حمیدہ بنت ابی عیس بن جبر بن عمرو بن زید بن شہم بن حارثہ تھیں۔

حرام بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن حیصہ بن مسعود بن کعب بن عامر بن عدی بن مجد عد بن حارثہ قبیلہ اوس کے تھے ان سے زہری نے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ حرام کی کنیت ابوسعید تھی وفات ستر سال کی عمر میں ۱۱۳ھ میں مدینے میں ہوئی۔

نملہ بن ابی نملہ رضی اللہ عنہ:

نام عمرو بن معاذ بن زرارہ بن عمرو بن عدی بن الحارث بن مر بن ظفر تھا قبیلہ اوس کے تھے ان کی والدہ کبشہ بنت حاطب بن قیس بن ہبشہ بن الحارث بن امیہ ابن معاویہ قبیلہ اوس کے بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں ان کی اولاد تھی مگر سب ختم ہو گئے مر بن ظفر کی بھی سب اولاد تمام ہو گئی ان میں سے کوئی نہ رہا نملہ نے اپنے والد سے اور زہری نے نملہ سے روایت کی ہے۔

عمرو و محمد و یزید ابناے ثابت رضی اللہ عنہ:

ابن قیس بن الحطیم بن عدی بن عمرو بن سواد بن ظفر وہ کعب بن الخزرج بن عمرو تھے اور وہ نبیت بن مالک بن الاوس تھے ان تینوں کی والدہ ام حبیب بنت قیس ابن زید بن عامر بن سواد بن ظفر تھیں تینوں یوم الحمرہ ذی الحجہ ۶۳ھ میں قتل کر دیئے گئے ان کی بقیہ اولاد نہ تھی۔

صالح بن خوات رضی اللہ عنہ:

ابن جبیر بن العمان بن امیہ بن امری القیس بن ثعلبہ بن عمرو بن عوف جو اوس کے تھے ان کی والدہ بنی فقیم کے بنی ثعلبہ میں سے تھیں۔ صالح بن خوات کے یہاں خوات و ابوحنہ و برہ و ام موسیٰ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام حسن بنت ابی حنہ بن غزیہ بنی مازن بن النجار سے تھیں۔ ہضبہ بنت صالح ان کی والدہ بنی قسامہ کے بنی انیف سے تھیں۔ صالح بن خوات نے اپنے والد سے روایت کی ہے وہ قلیل الحدیث تھے۔

حبیب بن خوات رضی اللہ عنہ:

ابن جبیر بن العمان بن امیہ بن امری القیس ان کی والدہ بنی فقیم کے بنی ثعلبہ سے تھیں۔ حبیب کے یہاں داؤد پیدا ہوئے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حبیب بن خوات ذی الحجہ ۶۳ھ کے ایام الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔

عمرو بن خوات رضی اللہ عنہ:

ابن جبیر بن العمان ان کی والدہ کا نام ہمیں نہیں بتایا گیا۔ یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔ بقیہ اولاد نہ تھی۔

یحییٰ بن مجمع رضی اللہ عنہ:

ابن جاریہ بن عامر بن مجمع بن العطف بن ضبیحہ بن زید بن مالک بن عوف ابن عمرو بن عوف قبیلہ اوس کے تھے ان کی والدہ

سلمی بنت ثابت بن الدرداحہ ابن نعیم بن غنم بن ایاس بنی قضاہ سے تھیں۔ یحییٰ بن مجمع کے یہاں مجمع پیدا ہوئے جن کی بقیہ اولاد کوئی نہ تھی۔ یحییٰ بن مجمع یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔ ان کے بھائی:

عبید اللہ بن مجمع رضی اللہ عنہما:

ابن جاریہ بن عامر بن مجمع بن العطف ان کی والدہ سلمی بنت ثابت ابن الدرداحہ بن نعیم بنی قضاہ سے تھیں عبید اللہ بن مجمع کے یہاں عمران و درداحہ و مریم پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ لیلیٰ بنت عبد اللہ بن بشل بن الحارث بن قیس بن زید بن ضبیعہ بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔

عبید اللہ بن مجمع یوم الحمرہ میں قتل کیے گئے ان کی بقیہ اولاد نہ تھی۔

یزید بن ثابت رضی اللہ عنہما:

ابن ودیعہ بن خزام ابن خالد بن ثعلبہ بن زید بن عبیدہ بن زید بن مالک بن عوف بن عمرو بن عوف قبیلہ اوس کے تھے ان کی والدہ بنی قضاہ حلفائے بنی عمرو بن عوف کے بنی انیف سے تھیں۔ یزید کے یہاں عبد اللہ و اسماعیل پیدا ہوئے زہری نے یزید بن ثابت بن ودیعہ سے روایت کی ہے۔

محمد بن جبر رضی اللہ عنہما:

ابن عتیک بن قیس بن ہشہ بن الحارث بن امیہ بن معاویہ بن مالک بن عوف ابن عمرو بن عوف قبیلہ اوس کے تھے یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔ بقیہ اولاد نہ تھی ان کے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ بدر میں شریک تھے۔

عبد الملک بن جبر رضی اللہ عنہما:

ابن عتیک انہوں نے جابر بن عبد اللہ سے روایت کی ہے۔

ابو البدر اح بن عاصم رضی اللہ عنہما:

ابن عدی بن الحد بن الجحلا بنی قضاہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو اوس کے بنی عمرو بن عوف کے حلفاء تھے محمد بن عمر نے کہا کہ ابو البدر اح لقب ہے کہ ان کے نام پر غالب آ گیا۔ کنیت ابو عمرو تھی۔ وفات کے اسی سال میں بعد خلافت ہشام بن عبد الملک چور اسی سال کی عمر میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ ان کے بھائی:

عباد بن عاصم رضی اللہ عنہما:

ابن عدی یزید بن معاویہ کی خلافت میں ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔

خارجہ بن زید رضی اللہ عنہما:

ابن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن مالک بن النجار ان کی والدہ ام سعد جمیلہ بنت سعد بن الربیع بن عمرو بن ابی زہیر بن مالک بن امری القیس ابن مالک بن ثعلبہ بنی الحارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ خارجہ بن زید کے یہاں زید و عمرو و عبد اللہ و محمد و حبیبہ و حمیدہ و ام یحییٰ و ام سلیمان پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام عمرو بنت حزم بنی مالک بن النجار سے تھیں۔

ابراہیم بن یحییٰ بن زید سے مروی ہے کہ خارجہ بن زید کی کنیت ابو زید تھی۔ خارجہ بن زید سے مروی ہے کہ وہ اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے۔ زید بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے خارجہ بن زید کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدوں کا نشان دیکھا جو بہت نہ تھا، نہ ان کی ناک پر اس کا کوئی اثر تھا۔

زید بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے خارجہ بن زید کو دیکھا کہ جن اوقات میں برہنہ ہوتے تو اپنی چادر لٹکائے رہتے اور جب ان کے بدن پر کرتہ ہوتا تو میں نے انہیں چادر لٹکاتے نہیں دیکھا، ان کا جسم خوبصورت تھا۔ زید بن السائب سے مروی ہے کہ میں نے زید بن خارجہ کو خز کی چادر استعمال کرتے ہوئے دیکھا اور زرد رومال اوڑھے ہوئے دیکھا اور سفیر عمامہ باندھے دیکھا، خارجہ بن زید نے اپنے والد سے روایت کی ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔ خارجہ بن زید بن ثابت سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ستر بیڑھیاں بنائی ہیں جب میں اس سے فارغ ہوا تو منہدم کر دیا، یہ میرا ستر واں سال ہے جس کو میں نے پورا کر لیا ہے اسی سال ان کی وفات ہوئی۔ عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ خارجہ بن زید کی وفات ۶۰ھ بزمانہ خلافت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مدینے میں ہوئی۔ ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے ان پر نماز پڑھی، وہ اس زمانے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی جانب سے مدینے کے والی تھے اور میں نے ان کے جنازے پر ایک چادر دیکھی جو لٹکتی ہوئی تھی۔ زید بن السائب سے مروی ہے کہ میں خارجہ بن زید کے جنازے پر حاضر ہوا تو دیکھا کہ ان کی قبر پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔

سعد بن زید رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن مالک بن النجاران کی والدہ ام سعد بنت سعد بن الربیع بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ سعد بن زید کے یہاں قیس وسعد جو سعدان تھے اور عبدالرحمن پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ داؤد وحیبہ ایک ام ولد سے تھیں اور سلیمان وسعد دوسری ام ولد سے۔ سعد بن زید سے روایت کی گئی ہے ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں قتل کر دیئے گئے۔

سلیمان بن زید رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن مالک بن النجاران کی والدہ ام سعد بنت سعد بن الربیع بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ سلیمان بن زید کے یہاں سعید وحید و محمد و عبداللہ پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام سعید بنت عبداللہ بن قیس بن صرمہ بن ابی انس بن عدی بن النجار سے تھیں، سلیمان بن زید بن ثابت یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

یحییٰ بن زید رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت بن ضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن مالک بن النجاران کی والدہ ام سعد بنت سعد بن الربیع بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ یحییٰ بن زید کے یہاں زکریا و ابراہیم پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ بستانہ بنت عمارہ بن زید بن ثابت بن الضحاک بنی مالک بن النجار سے تھیں۔ یحییٰ بن زید بن ثابت یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

اسماعیل بن زید رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الضحاک بن زید بن لوذان بن عمرو بن عبد بن عوف بن مالک بن النجار ان کی والدہ ام سعد بنت سعد بن الربیع بنی حارث بن الخزرج سے تھیں۔ کنیت ابو مصعب تھی۔

اسماعیل بن زید کے یہاں مصعب پیدا ہوئے ان کی والدہ امامہ بنت جلیحہ بن عبادہ بن عبد اللہ بن ابی ابن سلول بنی الحنبلی میں سے تھیں۔ سعد بن اسماعیل ان کی والدہ میمونہ بنت بلال بنی ہلال سے تھیں۔

اسماعیل بن زید بن زید بن ثابت کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے اپنے والد سے کچھ روایت نہیں کی اور نہ انہوں نے ان کو پایا البتہ دوسروں سے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

سلیط بن زید رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الضحاک بن زید بن لوذان ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ سلیط بن زید کے یہاں یسار پیدا ہوئے ان کی والدہ زینب تھیں۔ حبیبہ و خلید ان دونوں کی والدہ ناکمہ بنت عمرو بن حزم تھیں۔

سلیط بن زید بن ثابت یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الضحاک ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبدالرحمن کے یہاں سعید و ام کلثوم و ام ابان پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ عمرہ بنت عبدالعلاء بن عمرو بن الربیع بن الحارث بنی مالک بن النجار سے تھیں۔ عبدالرحمن بن زید یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے ان کی اولاد باقی نہ رہی۔

عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الضحاک ان کی والدہ ام ولد تھیں یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے بقیہ اولاد نہ تھی۔

زید بن زید رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن الضحاک یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔ یوم الحمرہ میں زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹے مقتول ہوئے۔

عبدالرحمن بن حسان رضی اللہ عنہما

ابن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زید مناة بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار ان کی والدہ سیرین قبظیہ تھیں جو ماریہ قبظیہ والدہ ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کی بہن تھیں ان کو آنحضرت ﷺ نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ہبہ کر دیا تھا ان سے عبدالرحمن بن حسان پیدا ہوئے وہ ابراہیم بن رسول اللہ ﷺ کے خالہ زاد بھائی تھے عبدالرحمن شاعر تھے انہوں نے اپنے والد و غیرہ سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن کے یہاں ولید و اسماعیل و ام فراس پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام شیبہ بنت السائب بن یزید بن عبداللہ تھیں۔ سعید بن عبدالرحمن شاعر تھے ان سے بھی روایت کی گئی ہے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسان بن عبدالرحمن و فرید۔ عبدالرحمن

بن حسان کی کنیت ابو سعید تھی؛ شاعر و قلیل الحدیث تھے۔
عمارہ بن عقبہ رضی اللہ عنہ:

ابن کریم بن عدی بن حارثہ بن عمرو بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے؛ بقیہ اولاد نہ تھی۔

محمد بن نعیط رضی اللہ عنہ:

ابن جابر بن مالک بن عدی بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار ان کی والدہ فریجہ مبالغہ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس بنی مالک بن النجار سے تھیں۔ محمد بن نعیط کے یہاں عثمان و ابو امامہ و عبداللہ و ام کلثوم پیدا ہوئیں؛ ان سب کی والدہ ام عبداللہ بنت عمارہ بن الحباب بن سعد بن قیس بن عمرو بن زید مناۃ بنی مالک بن النجار سے تھیں۔ محمد بن نعیط یوم الحرہ میں مقتول ہوئے؛ بقیہ اولاد نہ تھی۔

عبدالملک بن نعیط رضی اللہ عنہ:

ابن جابر بن مالک بن عدی بن زید مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن النجار ان کی والدہ فریجہ بنت ابی امامہ اسعد بن زرارہ بن عدس تھیں۔ عبدالملک کے یہاں ابو امامہ عمرو و محمد و نعیط پیدا ہوئے؛ ان تینوں کی والدہ ام کلثوم بنت یحییٰ بن خلاد بن رافع بن مالک بنی زریق سے تھیں۔ عبدالملک یوم الحرہ میں مقتول ہوئے۔

حجاج بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن غزیہ بن عمرو بن ثعلبہ بن خنساء بن مبدول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار ان کی والدہ ام الحجاج بنت قیس بن رافع بن اذیہ قبیلہ اسلم سے تھیں؛ وفات کے وقت ان کی بقیہ اولاد نہ تھی۔

عبدالرحمن بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ:

نام سعد بن مالک بن سنان بن ثعلبہ بن عبید بن الابرقتھا بن الابرقتھا بن عمرو بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھے؛ ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عبداللہ بن الحارث بن قیس بن ہشہ بن الحارث تھیں جو اوس کے بنی عمرو بن عوف کی شاخ بنی معاویہ میں سے تھیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی کنیت ابو محمد تھی۔ عبداللہ بن محمد بن عمارہ نے کہا کہ ان کی کنیت ابو جعفر تھی۔

عبدالرحمن بن ابی سعید کے یہاں عبداللہ و سعید جو بیچ تھے پیدا ہوئے؛ ان دونوں کی والدہ ام ایوب بنت عمیر بن الحویرت تھیں جو الخدرہ کے سعید بن محارب کی اولاد میں تھیں۔ کثیر الحدیث تھے مگر معتبر نہ تھے؛ محدثین انہیں ضعیف سمجھتے ہیں اور ان سے استدلال نہیں کرتے۔ عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبدالرحمن بن ابی سعید کی وفات بہتر سال کی عمر میں ۱۱۲ھ میں مدینے میں ہوئی۔

حمزہ بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ:

ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عبداللہ بن الحارث بن قیس بن ہشہ بنی معاویہ میں سے تھیں۔ حمزہ کے یہاں مسعود پیدا ہوئے؛

ان کی والدہ خولہ بنت الربیع تھیں۔ مالک و ام یحییٰ ان دونوں کی والدہ فارغہ بنت خالد بن سواد بن غزیہ بن وہیب ابن خلف بن عدی بن النجار کے خلیف بنی قضاء سے تھیں۔ حمزہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

سعید بن ابی سعید الخدریؓ:

ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عبداللہ بن الحارث بن قیس بن ہشہ بنی معاویہ میں سے تھیں۔ سعید کے یہاں حمزہ و ہند پیدا ہوئیں، ہند سے روایت کی گئی ہے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے ان کی والدہ فعمہ بنت بشیر بن عتیک بن الحارث ابن عتیک بن قیس بن ہشہ بن الحارث بن امیہ بن معاویہ قبیلہ اوس کی شاخ بنی عمرو بن عوف سے تھیں۔ ولید بن سعید ان کی والدہ ام حسن بنت محمد بن الولید بنی قضاء سے تھیں۔

بشیر بن ابی مسعودؓ:

نام عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عسیرہ بن عطیہ بن جدارہ بن عوف ابن الحارث بن الخزرج تھا۔

بشیر بن ابی مسعود کے یہاں ام ثعلبہ و ام سلمہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ قیس عیلمان کے بنی سلیم بن منصور سے تھیں۔ عروہ بن الزبیر نے بشیر بن ابی مسعود سے روایت کی ہے۔

محمد بن النعمانؓ:

ابن بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن خلاص بن زید بن مالک الاغر بن ثعلبہ بن کعب بن الخزرج ان کی والدہ ام عبداللہ بنت عمرو بن جروہ بنی حارث بن الخزرج میں سے تھیں۔ محمد کے یہاں نعمان و رواحہ و عبدالکریم و عبدالحمید مختلف ام ولد سے پیدا ہوئے۔

یزید بن النعمانؓ:

ابن بشیر بن سعد ان کی والدہ نائلہ بنت بشیر بن عمارہ بن حسان بن جبار بن قرظ قبیلہ کلب کے بنی ماویہ سے تھیں۔ عبدالعزیز و صدقہ و نعیم ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبدالواحد اور عبدالرزاق جولاد مر گئے ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ شیبہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبدالملک و عبدالکریم ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ اسماعیل جولاد مر گئے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ جابر و سعید ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام البنین و حمیدہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ خلیدہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ سفیان جولاد مر گئے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ابیہ ایک ام ولد سے تھیں۔

محمد بن عبداللہؓ:

ابن زید بن عبدالربیع بن زید بن الحارث بن الخزرج ان کی والدہ سعدی بنت کلیب ابن ریاف بن عدیہ تھیں۔ محمد بن عبداللہ بن زید کے یہاں بشیر بن محمد پیدا ہوئے جن کی وفات بغیر اپنا پس ماندہ چھوڑے ہوئے ہو گئی۔ محمد بن عبداللہ بن زید نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن عبداللہؓ:

ابن ضعیب بن ریاف بن عدیہ بن خدیج بن عامر بن شمس بن الحارث بن الخزرج ان کی والدہ عوثہ بنت ابی مسعود عقبہ بن

عمر بن ثعلبہ بنی جدارہ سے تھیں۔ عبدالرحمن کے یہاں وہ خبیب بن عبدالرحمن پیدا ہوئے جن سے عبداللہ بن عمرو و شعبہ و مالک بن انس وغیرہم نے روایت کی ہے۔ عبدالرحمن بن عبداللہ بن خبیب بن یساف یزید بن معاویہ کی خلافت میں ذی الحجہ ۶۳۳ھ یوم الحرة میں مقتول ہوئے۔

خلاق بن السائب رضی اللہ عنہ:

ابن خلاق بن سوید بن ثعلبہ بن عمرو بن حارث بن امرئ القیس بن مالک الاغر بن ثعلبہ بنی الحارث بن الخزرج میں سے تھے ان کی والدہ انیسہ بنت ثعلبہ ابن زید بن قیس بن النعمان بن مالک تھیں۔

خلاق بن السائب کے یہاں ابراہیم پیدا ہوئے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ایک دختر جذیمہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ جمیلہ بنت تمیم بن یعار بنی جدارہ میں سے تھیں۔ ام سعد و ام سہل ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ خلاق ثقہ و قلیل الحدیث تھے ان کے والد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔

عباس بن سہل رضی اللہ عنہ:

ابن سعد بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارث بن عمرو بن الخارج بن ساعدہ ان کی والدہ عائشہ بنت خزیمہ بن وحوح بن الاشخم بنی سلیم بن منصور میں سے تھیں۔

عباس بن سہل کے یہاں ابی و عبدالسلام و ام الحارث و آمنہ و ام سلہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ جمال بنت جعدہ بن مالک بن سعد بن نافذ بنی سلیم ابن منصور میں سے تھیں۔ عبدالکبیر و عنبسہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ عہد عمر رضی اللہ عنہ میں پیدا ہوئے اور جب عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو عباس بن سہل پندرہ سال کے تھے انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اس کے بعد وہ الگ ہو کر عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینے سے چلے گئے انہوں نے ابی حمید الساعدی سے روایت کی ہے ثقہ تھے کثیر الحدیث نہ تھے۔

عباس بن سہل بن سعد سے مروی ہے کہ ہم لوگ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے میں پندرہ سال کا تھا لوگ سردی و گرمی سے سجدوں میں کپڑوں پر اپنے ہاتھ رکھتے تھے۔ محمد بن عمرو وغیرہ نے کہا کہ عباس بن سہل کی وفات ولید بن عبدالملک کی خلافت میں مدینے میں ہوئی۔

حمزہ بن ابی اسید رضی اللہ عنہ:

نام مالک بن ربیعہ بن البدری بن عامر بن عوف بن حارثہ بن عمرو بن الخزرج ابن ساعدہ تھا ان کی والدہ سلامہ بنت والان بن سکین بن خدیج قیس عیلان کے بنی فزارہ میں سے تھیں حمزہ کی کنیت ابو مالک تھی۔

حمزہ بن ابی اسید کے یہاں یحییٰ پیدا ہوئے۔ سلمہ بن میمون مولائے ابی اسید سے مروی ہے کہ میں نے حمزہ بن ابی اسید الساعدی کے بدن پر ایک چادر دیکھی جس کے سروں کے تار بے ہوئے تھے۔

ابن الغنیل سے مروی ہے کہ حمزہ بن ابی اسید کی وفات مدینے میں ولید ابن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی قلیل الحدیث

تھے ان سے ان کے بیٹے یحییٰ ابن حمزہ نے روایت کی ہے۔

منذر بن ابی اسید الساعدیؓ:

نام مالک بن ربیعہ بن الہدی تھا ان کی والدہ سلامہ بنت وہب بن سلامہ ابن امیہ بن حارثہ بن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔ منذر کے یہاں زبیر و سوید و ام الحسن الحوصاء پیدا ہوئیں، تینوں کی والدہ ماویہ بنت عبداللہ بنی عذرہ کی تھیں۔ بشر و خلیدہ ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

خالد و حفصہ کی والدہ ام جعفر بنت عمرو بن امیہ بن خویلد الضمری قبیلہ کنانہ سے تھیں۔ سعید جن کے نام سے ان کی کنیت تھی اور عائشہ و سودہ و فاطمہ ان سب کی والدہ عمرہ بنت ابی حمید عبدالرحمن بن عمرو بن سہل بن مالک بن خالد بن ثعلبہ بن حارثہ ابن عمرو بن الخزرج بن ساعدہ تھیں۔

عبداللہ بن کعبؓ:

ابن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن عنتم بن کعب بن سلمہ خزرج میں سے تھے۔ ان کی والدہ عمیرہ بنت جبیر بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید بنی سلمہ سے تھیں۔ عبداللہ بن کعب کے یہاں عبدالرحمن و عمرو معقل و نعمان و خارجیہ و عمرہ و عائشہ پیدا ہوئیں، ان سب کی والدہ خالدہ بنت عبداللہ بن انیس بن سلمہ کے حلیف بنی البرک بن دبرہ سے تھیں۔ کعب بن مالک بنی امیہ بنی عثمان ہو گئے تھے ان کے تمام بیٹوں میں سے عبداللہ ان کے قائد (لے چلنے والے یا سہارا دینے والے) تھے۔ عبداللہ بن کعب نے عثمان بنی امیہ سے حدیث سنی ہے ثقہ تھے ان کی احادیث بھی ہیں۔

عبید اللہ بن کعبؓ:

ابن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن عنتم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عمیرہ بنت جبیر بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید بنی سلمہ سے تھیں۔ عبید اللہ بن کعب کے یہاں ام ایہا پیدا ہوئیں، ان کی والدہ ملیکہ بنت عبداللہ ابن صخر بن خنساء بن سنان بن عبید بنی سلمہ سے تھیں۔ خالدہ ان کی والدہ ام سعید بنت عبداللہ بن انیس جو ان لوگوں کے حلیف تھے۔ ام عثمان و ام بشر ان دونوں کی والدہ سہلہ بنت النعمان بن جبیر بن امیہ ابن خنساء بن عبید بنی سلمہ سے تھیں۔ عمیرہ بنت عبید اللہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبید اللہ بن کعب کی کنیت ابو فضالہ تھی ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

معبد بن کعبؓ:

ابن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن عنتم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ عمیرہ بنت جبیر ابن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید بنی سلمہ میں سے تھیں۔ معبد کے یہاں کعب و ام کلثوم پیدا ہوئیں، ان دونوں کی والدہ حفصہ بنت النعمان بن جبیر بن صخر بن امیہ بن خنساء بن عبید سے تھیں۔ معبد بن کعب نے ابو قنادہ سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن کعبؓ:

ابن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن عنتم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبدالرحمن کے یہاں بشیر و کعب و محمد و حمیدہ پیدا ہوئیں

ان کی والدہ ام البنین بنت ابی قتادہ بن ربیع بن سلمہ میں سے تھیں۔ ام الفضل ان کی والدہ ام سعید بنت عبداللہ بن انیس تھیں جو بنی سلمہ کے حلیف تھے۔ کنیت ابو الخطاب تھی، ثقہ تھے حدیث میں اپنے بھائی سے بڑھ کے تھے۔ وفات سلیمان بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی۔

عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ:

ابن ربیع بن بلذمہ بن خناس بن سنان بن عبید بن عدی بن غنم بن کعب بن سلمہ قبیلہ خزرج کے تھے ان کی والدہ سلافہ بنت البراء بن معرور بن صخر بنی سلمہ کی تھیں۔ عبداللہ بن ابی قتادہ کے یہاں قتادہ و نسیرہ و ام البنین پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام کثیرہ بنت عبدالرحمن بن ابی المنذر بن عامر بن حدیدہ بن عمرو بن سواد بنی سلمہ کی تھیں۔ بیچی و ظبیہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبداللہ بن ابی قتادہ کی کنیت ابو یحییٰ تھی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے وفات مدینے میں ولید بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ:

ابن ربیع بن بلذمہ ان کی والدہ سلافہ بنت البراء بن معرور بن صخر بنی سلمہ کی تھیں۔ عبدالرحمن بن ابی قتادہ ذی الحجہ ۶۳ھ کے یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔ انہوں نے کوئی پس ماندہ نہیں چھوڑا۔

ثابت بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ:

ابن ربیع بن بلذمہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ثابت کے یہاں عبدالرحمن و مصعب و ابو قتادہ و کبشہ و عبیدہ و ام البنین پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ثابت بن ابی قتادہ کی کنیت ابو مصعب تھی انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے وفات مدینے میں ولید بن عبدالملک کی خلافت میں ہوئی۔ قلیل الحدیث تھے۔

یزید بن ابی الیسر رضی اللہ عنہ:

ان کا نام کعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن سواد تھا۔ خزرج کے بنی سلمہ میں سے تھے۔ یزید کے یہاں سعد و عبداللہ پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ کبشہ بنت ثابت ابن عبید بن النعمان بن عمرو بن عبید بن مالک بن النجار کی تھیں۔ یزید بن یزید و ام سعید ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ ام ابان بنت یزید ان کی والدہ فاطمہ بنت ابی سلمہ بن عمرو بن قیس بن عدی ابن النجار سے تھیں۔ یزید بن ابی الیسر ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

عبدالرحمن بن جابر رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن عمرو بن حرام بن ثعلبہ بن حرام بن کعب بن غنم بن کعب بن سلمہ ان کی والدہ سمیمہ بنت مسعود بن اوس بن مالک بن سواد بن ظفر تھیں۔ عبدالرحمن کے یہاں عقبہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام البنین بنت سلمہ ابن خراش بن الصمہ بن عمرو بن الجوح تھیں۔ ام خالد ان کی والدہ ام ایوب بنت یزید بن عبداللہ بن عامر بن نابی بن زید ابن حرام تھیں۔ عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی ہے ان کی اور ان کے بھائی کی روایت میں ضعف ہے ان دونوں سے استدلال نہیں کیا جاتا۔ ان کے بھائی:

محمد بن جابر رضی اللہ عنہما:

ابن عبد اللہ بن عمرو بن حرام ان کی والدہ ام الحارث محمد بن سلمہ ابن سلمہ بن خالد بنی حارث کی تھیں۔ محمد کے یہاں کلیب پیدا ہوئے ان کی والدہ ام سلمہ بنت الربیع بن الطفیل ابن مالک بن خنساء بن عبید بن سلمہ کی تھیں۔ محمد نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔
عبید بن رفاعہ رضی اللہ عنہما:

ابن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق خنزرج کے تھے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبید بن رفاعہ کے یہاں زید و سعید و رفاعہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ہند بنت رافع بن خلدہ بن بشر بن ثعلبہ بن عمرو بن عامر بن زریق تھیں۔ اسماعیل و ام موسیٰ و حمیدہ و برہدہ و ام البنین کبریٰ و زیدہ و ام عمرو ان سب کی والدہ سمیکہ بنت کعب بن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد بن غنم بنی سلمہ کی تھیں۔ عبد الرحمن و ام عبد الرحمن ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ اسحاق ان کی والدہ ام صفوان بنت ابی عثمان بن عبد اللہ بن وہب ابن ریاح تھیں۔ امہ اللہ و نسیدہ و عائشہ و ام البنین صغریٰ و عبید بن عبید مختلف ام ولد سے تھے۔
معاذ بن رفاعہ رضی اللہ عنہما:

ابن رافع بن مالک بن العجلان بن عمرو بن عامر بن زریق ان کی والدہ ام عبد اللہ سلمیٰ بنت معوذ بن الحارث بن رفاعہ بن الحارث بن سواد بن مالک ابن غنم بن مالک بن النجار تھیں۔ معاذ بن رفاعہ کے یہاں حارث و سعد و محمد و موسیٰ و امیہ پیدا ہوئے ان سب کی والدہ عمرہ بنت النعمان بن عجلان بن النعمان بن عامر بن العجلان بن عمرو ابن عامر بن زریق تھیں۔
نعمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہما:

ان کا نام عبید بن معاویہ بن صامت بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق تھا ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ نعمان کے یہاں طلحہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ام عبادہ بنت قیس بن عبید ابن الحریر بن عمرو بن الجعد بن عوف بن منذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار تھیں۔ محمد و یحییٰ ان دونوں کی والدہ حبیبہ بنت کعب بن عبید بن قیس بن عیلام نعمان کی لقیہ اولاد ہیں ماندہ ہیں۔
معاذ بن ابی عیاش رضی اللہ عنہما:

عبید بن معاویہ بن صامت بن زید بن خلدہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ معاویہ بن ابی عیاش کے یہاں محمد و رملہ و جعدہ ام اسحاق پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں معاویہ بن ابی عیاش کی تمام اولاد ختم ہو گئی ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔
سلیمان بن ابی عیاش رضی اللہ عنہما:

عبید بن معاویہ بن صامت ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ سلیمان کے یہاں عیسیٰ و حسنا و ام الولید و زید پیدا ہوئے ان کی والدہ ام کلثوم بنت ہلال بن المعلیٰ بن لوزان بن حارث بنی غنصہ بن جشم بن الخنزرج کی تھیں۔ سلیمان بن ابی عیاش یوم الحرہ میں مقتول ہوئے ان کی اولاد ختم ہو گئی کوئی باقی نہ رہا۔
بشیر بن ابی عیاش رضی اللہ عنہما:

عبید بن معاویہ بنت صامت ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ بشیر کے یہاں یحییٰ و زکریا و ام ایاس و ام القاسم و حکمتہ پیدا ہوئیں

ان کی والدہ کلب قضاہ کی تھیں۔ ام الحارث ان کی والدہ بنی سلمہ سے تھیں۔
بشیر بن ابی عیاش یوم الحرہ میں مقتول ہوئے ان کی اولاد ختم ہو گئی، کوئی باقی نہ رہا۔

فروہ بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہما:

سعد بن عثمان بن خلدہ بن مخلص بن عامر بن زریق ان کی والدہ ام خالد بنت عمرو بن ودفہ بن عبید بن عامر بن بیاضہ بن عامر بن النخزرج تھیں۔ فروہ کے یہاں عثمان پیدا ہوئے جو یوم الحرہ میں اپنے والد کے ساتھ مقتول ہوئے۔ سلمہ و داؤد و دام جمیل ان سب کی والدہ ام کلثوم بنت قیس بن ثابت بن خلدہ ابن مخلص بن عامر بن زریق تھیں۔ عبدالرحمن ان کی والدہ کبشہ بنت عبدالرحمن بن الحویرث بن شریح کندہ سے تھیں۔ فروہ بن ابی عبادہ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے ان کے والد سعد بن عثمان اہل بدر میں سے تھے۔

عقبہ بن ابی عبادہ رضی اللہ عنہما:

سعد بن عثمان بن خلدہ بن مخلص بن عامر بن زریق ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عقبہ کے یہاں سعد و اسماعیل و عبداللہ و عائشہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ جمیلہ بنت ابی عیاش بن عبید بن معاویہ بن صامت بن زید بن خلدہ بن عامر ابن زریق تھیں۔ عقبہ بن ابی عبادہ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے۔

مسعود بن عبادہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی عبادہ سعد بن عثمان بن خلدہ بن مخلص بن عامر بن زریق ان کی والدہ ام ولد تھیں، مسعود بن عبادہ یوم الحرہ میں مقتول ہوئے۔

ثابت بن قیس رضی اللہ عنہما:

ابن سعد بن قیس بن زید بن خلدہ بن عامر بن زریق ان کی والدہ کبشہ بنت زید ابن زید بن النعمان بن خلدہ بن عامر بن زریق تھیں۔ ثابت کے یہاں عبدالرحمن و محمد و ام سعید و حفصہ و عائشہ و ام حسن و ام مسعود پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ کبشہ بنت ابی عیاش عبید بن معاویہ بن صامت ابن زید الزرقی تھیں۔

عمر بن خلدہ الزرقی رضی اللہ عنہما:

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے (حدیث) سنی ہے عبدالملک بن مروان کی خلافت میں مدینے کے والی قضاہ تھے۔ ربیعہ بن ابی عبدالرحمن سے مروی ہے کہ انہوں نے ابن خلدہ کو مسجد میں مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابن ابی ذئب سے مروی ہے کہ میں عمر بن خلدہ کے پاس حاضر ہوا وہ قضاے مدینہ پر مامور تھے ایک شخص سے جو ان کے سامنے پیش کیا گیا، کہہ رہے تھے کہ اے خبیث جا اور اپنے آپ کو قید کر۔ وہ شخص گیا حالانکہ اس کے ہمراہ کوئی سپاہی نہ تھا۔ ہم لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اس وقت ہم نو عمر تھے وہ شخص داروغہ قید خانہ کے پاس آیا اور اپنے آپ کو قید ہونے کے لیے پیش کر دیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عمر بن خلدہ ثقہ و قلیل الحدیث تھے وہ بیت ناک بہادر پر بیزگار اور متقی تھے عہدہ قضاہ کی کوئی تنخواہ نہ ملی جب معزول کر دیئے گئے تو ان سے کہا گیا کہ اے ابو حفص جس کام میں آپ تھے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں

نے کہا کہ ہمارے بھائی تھے ہم نے ان سے تعلق قطع کر دیا تھا اور ہماری ایک چھوٹی سی زمین تھی جس سے ہم زندگی بسر کرتے تھے ہم نے اسے فروخت کر کے قیمت خرچ کر دی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ پہلے زمانے میں مدینے میں دو آدمی اس طرح باہم گفتگو کرتے کہ ایک شخص اپنے ساتھی سے کہتا کہ تم تو قاضی سے بھی زیادہ مفلس ہو مگر آج قاضی والی وجاہر و بادشاہ و صاحب جائیداد و زمیندار و تاجر و مالدار بن گئے۔
عمر بن ثابت الخزرجی رضی اللہ عنہ:

ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

اسحاق بن کعب رضی اللہ عنہ:

ابن عجرہ بن امیہ بن عدی بن عبید بن الحارث۔ ہشام بن محمد بن السائب الکلمی و عبداللہ بن محمد بن عمارۃ الانصاری نے کہا کہ وہ ان بنی قضاء سے تھے جو بنی عوف بن الخزرج کی شاخ بنی نوفل کے حلیف تھے۔ اسحاق بن کعب ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

محمد بن کعب رضی اللہ عنہ:

ابن عجرہ بن امیہ بن عدی بن عبید بن الحارث ذی الحجہ ۶۳ھ یوم الحمرہ میں مقتول ہوئے۔

ابو عقیل رضی اللہ عنہ:

نام محمد بن سہل بن ابی حمہ تھا۔ ابو حمہ کا نام عبداللہ بن ساعدہ بن عامر ابن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھا اوس کے تھے ان کی والدہ تھیا بنت الیراء ابن عاذب بن الحارث بن عدی بن ہشم بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھیں۔ ابو عقیل محمد بن سہل کے یہاں عقیل و جعفر و براء اور ایک دختر دبیہ و امیرہ جو طلحہ تھیں بدیہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ عفرات بنت دحیہ بن حبیصہ بن مسعود بن کعب ابن عامر بن عدی بن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھیں۔ عیسیٰ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ ابو عقیل نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

عمر بن الحکم رضی اللہ عنہ:

ابن ابی الحکم فطیون کے بنی عمرو بن عامر کی اولاد میں سے تھے۔ یہ لوگ اوس انصار کے حلیف تھے دیوان عطاء میں بنی امیہ بن زید کے سلسلے میں شامل تھے بنو امیہ بن زید سلسلہ اوس کے آخری رکن تھے۔ عمر کی کنیت ابو حفص تھی ثقہ تھے ان کی حدیثیں درست ہیں وفات ہشام ابن عبدالملک کی خلافت میں ۶۱ھ میں ہوئی۔ اس زمانے میں وہ اسی سال کے تھے۔

طبقہ ہذا کے موالی

بسر بن سعید رضی اللہ عنہ:

حضرت بسین کے موالی (آزاد کردہ غلام) تھے۔ یزید بن ہارون نے اپنی ایک حدیث کی سند میں بسر بن سعید کو ابن الحضر می کا

مولیٰ کہا ہے۔ بسر حضرت مہین کے مکان میں رہتے تھے جو بنی حدیلہ میں تھا۔ وہاں ان لوگوں کی ایک جماعت تھی۔ بسر نے سعد بن ابی وقاص و عبد اللہ بن انیس زید بن ثابت و ابو ہریرہ و ابو سعید الخدری و عبد اللہ الخولانی رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے عبد اللہ میمونہ بنت الحارث کی پرورش میں تھے۔

بسر عابدین و تارکین دنیا و اہل زہد میں سے تھے ثقہ و کثیر الحدیث اور متقی تھے ایک دفعہ کسی ضرورت سے بصرہ آئے مدینے واپس جانے کا ارادہ کیا تو فرزدق شاعر ان کے رفیق ہو گئے اہل مدینہ کو اس وقت تک خبر نہ ہوئی جب تک کہ یہ دونوں ایک ہی شغف میں نمودار نہ ہوئے۔ اہل مدینہ کو اس سے تعجب ہوا فرزدق کہتے تھے کہ میں نے بسر بن سعید سے بہتر رفیق نہیں دیکھا اور بسر کہتے تھے کہ میں نے فرزدق سے بہتر رفیق نہیں دیکھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ بسر بن سعید کی ۱۰۰ھ میں بہ عہد خلافت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ مدینے میں وفات ہوئی اس وقت اٹھتر سال کے تھے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ بسر بن سعد رضی اللہ عنہ کی اس حالت میں وفات ہوئی کہ انہوں نے کفن تک نہ چھوڑا عبد اللہ بن عبد الملک بن مروان کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ انہوں نے اسی مدی سونا چھوڑا (ایک مدی = ۱۹ صاع کے اور ایک صاع = ۱۳۳۱ سیر)۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو دونوں کی وفات کی خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اگر ان دونوں کا ٹھکانا ایک ہی ہوتا تو واللہ مجھے عبد اللہ بن عبد الملک کی سی زندگی بسر کرنا زیادہ پسند ہوتا ان سے مسلمہ بن عبد الملک نے کہا کہ اے امیر المؤمنین یہ (کلام یا یہ خیال تو) آپ کے اہل بیت کے نزدیک ذبح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ واللہ ہم تو اہل فضل کو ان کے فضل سے یاد کرنا نہ چھوڑیں گے۔
عبد اللہ بن ابی رافع رضی اللہ عنہ:

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولیٰ تھے انہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کی اور وہ ان کے کاتب تھے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔
محمد بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن ثوبان، احنس بن شریف اشقی کے خاندان کے مولیٰ تھے ان میں سے بعض لوگ یمن کی طرف منسوب تھے محمد بن عبد الرحمن کی کنیت ابو عبد اللہ تھی انہوں نے زید بن ثابت و ابو ہریرہ و ابو سعید الخدری و ابن عباس و ابن عمر و محمد بن ایاس ابن ابی الکبیر رضی اللہ عنہ سے اور اپنی ماں سے اور انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔
حمران بن ابان رضی اللہ عنہ:

مولائے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بصرہ منتقل ہو کر وہیں رہتے تھے ان کی اولاد نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ لوگ نمر بن قاسط بن ربیعہ سے ہیں۔ کثیر الحدیث تھے۔ یمن نے محدثین کو ان کی حدیث سے استدلال کرتے نہیں دیکھا۔

عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو داؤد تھی محمد بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے مولیٰ تھے انہوں نے عبد اللہ بن جحینہ والی ہریرہ و عبد الرحمن

بن عبد القاری رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

عثمان بن عبد اللہ بن ابی رافع سے مروی ہے کہ میں نے ان صاحب کو دیکھا ہے جو اپنی حدیث کہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے روایت کی تھی اعرج کو پڑھ کر سنا تے وہ کہتے کہ اے ابوداؤد یہ تمہاری حدیث ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں راوی نے کہا کہ پھر میں کہتا تھا کہ مجھ سے عبدالرحمن نے حدیث بیان کی جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنا کی ہے انہوں نے کہا ہاں کہو کہ مجھ سے عبدالرحمن ابن ہریرہ نے بیان کیا ہے۔

عبداللہ بن الفضل سے مروی ہے کہ عبدالرحمن بن ہریرہ اسکندریہ چلے گئے اور وہیں مقیم ہو گئے اللہ میں ان کی وفات ہوئی ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

یزید بن ہریرہ رضی اللہ عنہما:

دوس کے خاندان ابی ذباب کے مولیٰ تھے کینت ابو عبد اللہ تھے یوم الحرة میں موالی کے امیر تھے ان کی وفات اس کے بعد ہوئی ان کے بیٹے عبد اللہ بن یزید ابن ہریرہ گئے ہوئے فقہائے اہل مدینہ میں سے تھے۔ یزید ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

سعید بن یسار رضی اللہ عنہما:

ابوالجباب مولائے حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما انہوں نے ابو ہریرہ و ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے وفات مدینہ میں اللہ میں ہوئی سعید کو مولائے شمسہ کہا جاتا تھا شمسہ ایک نصرانیہ تھیں جو حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کے ہاتھ پر اسلام لائے تھیں۔ سعید ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

سلمان ابو عبد اللہ الاغر رضی اللہ عنہما:

مولائے جہینہ خطیب تھے انہوں نے ابو سعید الخدری و ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ان لڑکوں کو کہتے سنا کہ سلمان نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے میں ان لوگوں کے سوا کسی اور سے اس بات کو ثابت نہیں پاتا۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابو عبد اللہ القرظی رضی اللہ عنہما:

قدیم تھے انہوں نے سعد بن ابی وقاص و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے حدیث سنی ہے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبد اللہ بن سعید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی ثور بنی نوفل بن عبد مناف کے مولیٰ تھے۔

سعید ابن مرجانہ رضی اللہ عنہما:

کینت ابو عثمان تھی ان کی ذات میں فضیلت تھی ان کی روایت ہے وہ الگ ہو کر علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے پاس ہو رہے تھے۔ ۶۹ھ میں ستر سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔ ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

عبد بن حنین رضی اللہ عنہما:

خاندان زید بن الخطاب کے مولیٰ تھے۔ کنیت ابو عبد اللہ تھی، ابی فلج بن سلیمان ابن ابی المغیرہ بن حنین کے چچا تھے، کہا جاتا ہے کہ وہ عین التمر کے ان قیدیوں میں تھے جنہیں خالد بن الولید رضی اللہ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینے بھیجا تھا، عبید بن حنین نے زید بن ثابت و ابی ہریرہ و ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے ثقہ تھے، کثیر الحدیث نہ تھے۔

عبید بن حنین سے مروی ہے کہ میں نے قتل عثمان رضی اللہ عنہ کے وقت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے سورہ اعراف پڑھ کر سنائیے انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے، تم اسے پڑھ کر مجھے سناؤ، میں نے انہیں پڑھ کر سنائی تو انہوں نے ایک الف یا ایک واؤ کی بھی گرفت نہیں کی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبید بن حنین کی پچانوے سال کی عمر میں ۱۵ھ میں مدینے میں وفات ہوئی۔

عبد اللہ بن حنین رضی اللہ عنہما:

مولائے عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی بقیہ و پس ماندہ اولاد مدینے میں تھی ان کے بیٹے ابراہیم بن عبد اللہ بن حنین اہل علم کے راویوں میں سے تھے ان سے زہری وغیرہ نے روایت کی ہے۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہم عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ہیں آج تک وہ لوگ اس (غلامی) کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حنین مشقب کے مولیٰ تھے مشقب مسحل کے مسحل شام کے اور شام عباس رضی اللہ عنہ کے۔

اسامہ بن زید اللیشی سے مروی ہے کہ اس زمانے میں جب کہ یزید بن عبد الملک خلیفہ بنائے گئے میں عبد اللہ بن حنین کے پاس گیا، ان کی وفات اس واقعے کے قریب ہی ہوئی۔ قلیل الحدیث تھے۔

عمیر رضی اللہ عنہما:

مولائے ام الفضل بنت الحارث الہلالیہ جو عباس بن عبد المطلب بن ہاشم کے لڑکوں کی والدہ تھیں۔ عمیر کی کنیت ابو عبد اللہ تھی، انہوں نے ام الفضل و ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ انہوں نے صلوة الخوف میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے بعض روایات میں عمیر مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے حالانکہ وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی والدہ کے مولیٰ تھے، عمیر کی وفات مدینے میں ۱۵ھ میں ہوئی۔ ان کے بیٹے:

عبد اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہما:

ان کو بعض لوگ اپنے روایات میں مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں حالانکہ وہ ام الفضل کے مولیٰ تھے۔

عکرمہ رضی اللہ عنہما:

مولائے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ محمد بن راشد سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ عکرمہ غلام تھے، انہیں خالد بن زید بن معاویہ نے علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے چار ہزار دینار میں خرید لیا، عکرمہ کو معلوم ہوا تو علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ تم نے مجھے چار ہزار دینار میں فروخت کر دیا، انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہے کہ اپنے والد کا علم چار ہزار دینار میں فروخت کرو، ابو۔ علی رضی اللہ عنہ خالد کے

پاس گئے اور عکرمہ کو واپس مانگا، خالد نے ان کو واپس کر دیا، پھر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ اپنے غلاموں کے نام عرب کے ناموں پر رکھتے تھے (جیسے) عکرمہ و سمیع و کریب۔ انہوں نے ان لوگوں سے کہا کہ تم نکاح کرو، کیونکہ بندہ جب زنا کرتا ہے تو اللہ اس سے نورایمان پھین لیتا ہے، بعد کو اللہ اسے اس کی طرف واپس کرے یا روک لے (یہ اسے اختیار ہے)۔ عکرمہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما میرے پاؤں میں بیڑی ڈال کر قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ آیت پڑھی:

﴿لَمَّا تَعْظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾

”تم لوگ اس قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان پر عذاب شدید کرنے والا ہے۔“

عکرمہ نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، مجھے معلوم نہیں کہ وہ قوم نجات پاگئی یا ہلاک ہوگئی، میں برابر ان سے بیان کرتا رہا اور انہیں سمجھاتا رہا یہاں تک کہ انہیں معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ نجات پا گئے۔ عکرمہ نے کہا، پھر انہوں نے مجھے ایک جوڑا دیا۔ سلام بن مسکین سے مروی ہے کہ عکرمہ سب سے زیادہ تفسیر کے عالم تھے۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس حالت میں کہا جب ہم لوگ منیٰ سے عرفات کی طرف جا رہے تھے کہ یہ دن تمہارے دنوں میں سے ہے۔ میں ان کے ساتھ رہا اور ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ پر (خزانہ علم) کھولنے لگے۔

تجمر علمی، وسعت علمی:

ایوب سے مروی ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ میں بازار جاتا ہوں اور کسی کو کوئی کلمہ کہتے سنتا ہوں تو اس سے میرے لیے علم کے پچاس دروازے کھل جاتے ہیں۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ جابر بن زید نے مجھے چند مسائل دیئے کہ میں انہیں عکرمہ سے دریافت کروں اور کہنے لگے کہ یہ عکرمہ ہیں، یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ ہیں، یہ دریا ہیں، لہذا ان سے دریافت کرو۔ سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اگر عکرمہ لوگوں سے اپنی حدیث بیان کرنے سے باز رہیں تو ضرور ان کی جانب سفر کیا جائے۔

سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ تم لوگ عکرمہ سے وہ احادیث روایت کرتے ہو کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو وہ انہیں نہ بیان کرتے، عکرمہ آئے اور انہوں نے ان سے وہی سب حدیثیں روایت کیں، لوگ خاموش تھے، سعید نہیں بولے، عکرمہ کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تمہارا کیا حال ہے، ابن جبیر نے انہیں پر تین کا شمار کر کے کہا کہ درست روایت کی۔ ابو ایوب سے مروی ہے کہ عکرمہ نے کہا کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو میرے پیچھے میری تکذیب کرتے ہیں، یہ لوگ میرے روبرو میری تکذیب کیوں نہیں کرتے، جب میرے روبرو میری تکذیب کریں گے تو اللہ یہ میری تکذیب ہوگی۔

حماد بن زید سے مروی ہے کہ ایک شخص نے ایوب سے کہا، اے ابو بکر، کیا عکرمہ پر کذب کی تہمت لگائی جاتی ہے، وہ خاموش رہے، پھر کہا کہ میں تو انہیں تہمت نہیں لگاتا۔

صیب سے مروی ہے کہ عکرمہ عطا و سعید کے پاس سے گزرے اور ان دونوں سے حدیث بیان کی، جب عکرمہ کھڑے ہو گئے تو میں نے کہا کہ جو کچھ انہوں نے آپ دونوں سے بیان کیا کیا آپ لوگ اس سے انکار کرتے ہیں۔ دونوں نے کہا کہ نہیں۔ ایوب سے مروی ہے کہ میرا قصد تھا کہ سفر کر کے عکرمہ کے پاس جاؤں خواہ وہ کتنے ہی دور کیوں نہ ہوں، میں بصرے کے بازار میں تھا اتفاقاً میرا ان کا ساتھ ہو گیا، وہ ایک گدھے پر سوار تھے، مجھ سے کہا گیا کہ یہ عکرمہ آگئے، لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، میں اٹھ کر پاس گیا مگر کسی چیز پر قادر نہ ہوا ان سے پوچھتا، مسائل مجھے فراموش ہو گئے۔ میں ان کے گدھے کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، لوگ ان سے پوچھنے لگے اور میں یاد کرتا رہا۔

عبدالرزاق نے کہا کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ جب عکرمہ الجند (لشکر) میں آئے تو طاؤس نے انہیں اپنے اونٹ پر سوار کر دیا، ان سے کہا گیا کہ تم نے انہیں اونٹ دے دیا حالانکہ انہیں صرف تھوڑا سا بھی کافی تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے اس غلام کا علم اس اونٹ کے عوض میں خرید لیا۔

عمر بن مسلم سے مروی ہے کہ عکرمہ طاؤس کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو ساٹھ دینار کے قیمتی اونٹ پر سوار کر دیا اور کہا کہ میں اس غلام کا علم ساٹھ دینار میں نہ خرید لوں۔

ایوب سے مروی ہے کہ عکرمہ ہمارے پاس آئے تو لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے یہاں تک کہ انہیں ایک گھر کی چھت پر چڑھا دیا گیا، ایوب نے کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ عکرمہ کی صحبت میں شریک ہوئے تو جب کسی سوال کا جواب دیتے تو کہتے کہ تمہارے حسن بصری بھی ایسے ہی اچھے جواب دیتے ہیں۔

طاؤس سے مروی ہے کہ اگر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے یہ مولیٰ اللہ سے ڈریں اور اپنی حدیث بیان کرنے سے باز رہیں تو ان کی جانب سفر کیا جائے۔ ایوب سے مروی ہے کہ مجھ سے اس شخص نے جس نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ اور عکرمہ رضی اللہ عنہما کے درمیان آمد و رفت کی تھی اس شخص کے بارے میں بیان کیا جس نے کسی معصیت (گناہ) کی نذر کی تھی، سعید نے کہا اسے پورا کیا جائے، عکرمہ نے کہا کہ اسے پورا نہ کیا جائے۔

وہ شخص سعید کے پاس گیا اور انہیں عکرمہ کے قول کی خبر دی، سعید نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا غلام باز نہ آئے گا تا وقتیکہ گردن میں رسی ڈال کر اسے گشت نہ کرایا جائے۔

وہ شخص عکرمہ کے پاس گیا اور انہیں آگاہ کیا۔ عکرمہ نے کہا کہ تم۔ بہت برے آدمی ہو، اس نے کہا کیوں انہوں نے کہا کہ جس طرح تم نے مجھے خبر پہنچا دی اسی طرح انہیں بھی پہنچا دو، ان سے کہو کہ یہ نذر اللہ کے لیے ہے یا شیطان کے لیے۔ اگر وہ دعویٰ کریں کہ اللہ کے لیے ہے تو ضرور غلط کہیں گے اور اگر یہ دعویٰ کریں کہ شیطان کے لیے تو ضرور ضرور کھریں گے۔

ایوب سے مروی ہے کہ مجھ سے ایک دوست نے بیان کیا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ سعید و عکرمہ و طاؤس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، خیال ہے کہ انہوں نے عطاء کا نام بھی لیا تھا، اس روز عکرمہ صاحب الحدیث تھے (یعنی حدیث بیان کرتے تھے) (لوگوں کی محویت کی یہ حالت تھی کہ) گویا ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔

جب وہ فارغ ہوئے تو بعض اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے تھے انہوں نے کہا میں شاکر کیے، بعض سر کو جنبش دینے والے اس طرح اپنے سر کو جنبش دیتے تھے ان لوگوں میں سے کسی نے کسی چیز میں ان کی مخالفت نہیں کی سوائے اس کے کہ جب انہوں نے مچھلی کا ذکر کیا تو کہا کہ اوتھلے پانی میں وہ دونوں مچھلی کو چلاتے تھے سعید بن جبیر نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو میں نے کہتے سنا کہ وہ دونوں اس (مچھلی) کو ٹوکری میں رکھ لیتے تھے۔

لباس و خوراک کی تفصیل:

خالد بن صفوان سے مروی ہے کہ میں نے حسن سے کہا کہ آپ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ کو دیکھتے نہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے نبیذ البحر (کشید کی ہوئی نبیذ) کو حرام کر دیا انہوں نے کہا کہ واللہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سچ کہا رسول اللہ ﷺ نے نبیذ البحر کو حرام فرمایا۔

مغیرہ بن مسلم سے مروی ہے کہ جب عکرمہ خراسان آئے تو ابو بکر نے کہا کہ ان سے دریافت کرو کہ حاجی کے گھنٹے (آواز جس) کیا ہیں، عکرمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس سر زمین میں یہ کہاں ہے حاجی کا جس رواں گئی ہے ابو بکر نے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سچ کہا۔

ابو الطیب موسیٰ بن یسار سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ کو سمرقند سے آتے ہوئے دیکھا وہ ایک گدھے پر اس طرح سوار تھے کہ نیچے دو تھیلے تھے جن میں ریشم تھا کہ عامل سمرقند نے دیا تھا ہمراہ ایک غلام تھا میں نے عکرمہ کو سمرقند میں سنا ان سے کہا گیا کہ آپ کو ان شہروں میں کیا چیز لائی تو انہوں نے کہا کہ حاجت۔

عمران بن حدیر سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ کو اس حالت میں دیکھا کہ عمامہ پھٹا ہوا تھا میں نے کہا کہ میں آپ کو اپنا عمامہ نہ دے دوں انہوں نے کہا کہ ہم سوائے امراء کے کسی سے نہیں قبول کرتے۔

عمران حدیر سے مروی ہے کہ میں اور ایک اور شخص عکرمہ کے پاس گئے ہم نے ان کے سر پر پھٹا ہوا عمامہ دیکھا میرے ساتھی نے ان سے کہا کہ یہ عمامہ کیسا ہے ہمارے پاس چند عمامے ہیں عکرمہ نے کہا کہ ہم لوگوں سے کوئی چیز نہیں لیتے ہم تو صرف امراء سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں انسان خود اپنے آپ پر مطلع ہے وہ خاموش ہو گئے میں نے کہا کہ حسن نے کہا کہ اے ابن آدم تیرا عمل تجھ سے زیادہ ثابت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حسن نے سچ کہا۔

خالد الخذاء سے مروی ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کو محمد نے کہا کہ مجھے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے خبر دی گئی وہ صرف عکرمہ سے انہوں نے سنا جو ان سے زمانہ مختار میں کوفے میں ملے تھے۔

سعید بن یزید سے مروی ہے کہ ہم لوگ عکرمہ کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو کیا ہوا کہ مفلس ہو گئے۔ خالد الخذاء سے مروی ہے کہ عکرمہ نے ایک شخص سے جو ان سے سوال کر رہا تھا کہا تمہیں کیا ہوا کہ تمہارا سب ختم ہو گیا۔

ایوب سے مروی ہے کہ خالد الخذاء عکرمہ سے سوال کر رہے تھے پھر خالد خاموش ہو گئے عکرمہ نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے پاس جو کچھ تھا ختم ہو گیا۔

سعید بن مسلم بن بانک سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جنا کا خضاب کرتے تھے۔ سماک سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی ہے۔ فطر سے مروی ہے کہ میں نے عکرمہ کے بدن پر ڈنہی چادر دیکھی ہے۔ عصام بن قدامہ سے مروی ہے کہ عکرمہ صرف ایک سفید جے میں ہماری امامت کرتے تھے نہ ان کے بدن پر کرتا ہوتا تھا نہ تہبند نہ چادر۔ ایوب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عکرمہ سے کہا کہ اے ابو عبد اللہ آپ نے کس طرح صبح کی (بروایت عارم) انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شرکے ساتھ صبح کی کہ میں خارش و بواسیر میں مبتلا تھا (بروایت سلیمان) انہوں نے کہا کہ میں نے ایک شرکے ساتھ صبح کی۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ انہیں خارش و بواسیر ہے۔ یعلیٰ بن حکیم سے مروی ہے کہ عکرمہ سے کہا گیا کہ آپ نے کیوں کر صبح کی انہوں نے کہا کہ میں نے شرکے ساتھ صبح کی۔ کہا گیا کہ اے ابو عبد اللہ آپ اس طرح کیوں کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اے اللہ نے فرمایا ہے:

﴿وَلْيَبْلُغْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾

”اور ہم ضرور ضرور تم لوگوں کا شر و خیر کو فتنہ بنا کر امتحان لیں گے۔“

انتقال

دختر عکرمہ سے مروی ہے کہ عکرمہ کی وفات اسی سال کی عمر میں ۱۰۵ھ میں ہوئی۔ خالد بن القاسم البیاضی سے مروی ہے کہ عکرمہ اور کثیر عزا شاعر کی وفات ۱۰۵ھ میں ایک ہی روز ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ دونوں پر ایک ہی جگہ بعد ظہر موضع الجناز میں ساتھ ساتھ نماز پڑھی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ آج سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے شاعر کی وفات ہو گئی۔ خالد بن القاسم کے سوا کسی اور نے کہا کہ ان دونوں کی موت میں متفق ہونے اور رائے میں مختلف ہونے پر تعجب کیا، عکرمہ کے متعلق گمان کیا جاتا تھا کہ ان کی رائے خوارج کے موافق تھی جو (دنیا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دوبارہ واپسی کے) انتظار پر تکفیر کرتے تھے اور کثیر شیعہ تھا رجعت (واپسی حضرت علی رضی اللہ عنہ) پر ایمان رکھتا تھا، عکرمہ نے ابن عباس و ابی ہریرہ و حسین بن علی و عائشہ رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ ابو نعیم الفضل بن دکین نے کہا کہ عکرمہ کی وفات ۱۰۵ھ میں ہوئی۔ کسی اور نے کہا کہ ۱۰۶ھ میں ہوئی۔

مصعب بن عبد اللہ بن مصعب بن ثابت الزبیری سے مروی ہے کہ عکرمہ خوارج کی سی رائے رکھتے تھے انہیں مدینے کے کسی والی نے طلب کیا اور داؤد ابن الحصین کے پاس پوشیدہ کر دیا انہیں کے پاس ان کی وفات ہوئی لوگوں نے کہا کہ عکرمہ کثیر العلم و کثیر الحدیث اور دریاؤں میں سے ایک دریا تھے ان کی حدیث سے استدلال نہیں کیا جاتا لوگ ان کے ثقہ ہونے کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔

کریب بن ابی مسلم رضی اللہ عنہ:

کنیت البورشدین تھی، عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے۔ موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ کریب نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کی کتب میں سے ایک بار شتر بھر کتابیں ہمارے پاس رکھی تھیں۔ علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جب کتاب کا ارادہ

کرنے تھے تو انہیں لکھتے تھے کہ ہمیں فلاں فلاں کتاب بھیج دو وہ اسے لکھتے تھے پھر دونوں (اصل و نقل) میں سے ایک بھیج دیتے تھے۔ ابی اسحاق سے مروی ہے کہ انہوں نے کریب اور ان کے ساتھیوں کے لیے بے طیلسان (ایرانی بے) دیکھے جن کی گھنڈیاں ریشم کی تھیں۔ موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ کریب کی وفات ۹۸ھ میں سلیمان بن عبد الملک ابن مروان کے آخر زمانہ خلافت میں مدینے میں ہوئی ثقہ و حسن الحدیث تھے (یعنی ان کی حدیث سند کے اعتبار سے اچھی تھی)۔

ابو معبد رضی اللہ عنہ:

نام ناقد عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مولیٰ تھے۔ عمرو سے مروی ہے کہ ابو معبد ابن عباس رضی اللہ عنہما کے موالیٰ میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابو معبد کی وفات مدینے میں ۱۰۲ھ میں آخر زمانہ خلافت یزید بن عبد الملک میں ہوئی۔ ثقہ و حسن الحدیث تھے۔

شعبہ رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کنیت ابو عبد اللہ تھے۔ ان سے ابن ابی ذئب و چند اہل مدینہ وغیرہ نے روایت کی ہے مالک بن انس نے ان سے روایت نہیں کی۔

یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ میں نے مالک بن انس سے پوچھا کہ آپ شعبہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ذہ قرا (علماء) کے مشابہ نہ تھے ان کی بہت سی احادیث ہیں مگر ان سے استدلال نہیں کیا جاتا ان سے ابن ابی ذئب وغیرہ نے روایت کی ہے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ شعبہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات ہشام بن عبد الملک کی وسط خلافت میں ہوئی۔

دقیف رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وفات ۱۰۹ھ میں ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی ان سے حمید الاعرج وغیرہ نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

ابو عبید اللہ مولائے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما:

ابی عبید اللہ مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے نماز میں انگلیاں چمکانے سے منع کیا۔

ابو عبید رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بن عبد المطلب۔

مقسم رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد اللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب مولائے ابن عباس رضی اللہ عنہما محض اس لیے کہا گیا کہ سب کو چھوڑ کے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ان کے ساتھ رہنے لگے اور ان سے روایت کی، بنی ہاشم سے انہیں بہت محبت تھی۔ مقسم کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ام سلمہ سے سن کر روایت کی ہے۔

ذکوان رضی اللہ عنہ:

ابو عمرو مولائے عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان قریش کی امامت کرتے تھے ان کے پیچھے عبدالرحمن بن ابی بکر بھی ہوتے تھے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ قرآن کے عالم تھے۔ عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حراء و شہیر کے درمیان مقیم تھیں ان کے پاس قریش کے لوگ آتے نماز کے وقت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ہماری امامت کرتے اور اگر عبدالرحمن مہجور نہ ہوتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے غلام ذکوان ہماری امامت کرتے تھے۔ محمد بن عمرو غیرہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکوان کو مدبر بنا دیا تھا (یعنی میری وفات کے بعد تم آزاد ہو) اور کہ دیا تھا کہ مجھے دفن کرنے کے بعد تم آزاد ہو۔ ان کی احادیث بہت کم ہیں زمانہ جنگ حرہ میں ان کی وفات ہوئی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ذی الحجہ ۶۳ھ کے یوم حرہ میں جو یزید بن معاویہ کی خلافت میں ہوا قتل کر دیئے گئے۔

ابویونس رضی اللہ عنہ:

مولائے عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ان سے قعقاع بن حکیم وغیرہ نے روایت کی ہے۔

ابوالبابہ رضی اللہ عنہ:

عائشہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ نام مروان تھا۔

مہبان رضی اللہ عنہ:

مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کو مکاتب بنا دیا تھا (یعنی ایک معینہ رقم ادا کرنے پر آزادی ملے گی) وہ رقم ادا کر کے آزاد ہو گئے۔ ان سے زہری نے دو حدیثیں روایت کی ہیں۔ مہبان کی کنیت ابویحییٰ تھی۔

ثابت رضی اللہ عنہ:

مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ موسیٰ بن عبیدۃ الربذی سے مروی ہے کہ ثابت مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وفات عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں مدینے میں ہوئی۔ قلیل الحدیث تھے۔

نصاح بن سرجس رضی اللہ عنہ:

ابن یعقوب مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکاتب تھے۔ شیبہ بن نصاح نے اپنے والد سے روایت کی کہ ام سلمہ نے مجھے چند اقساط پر مکاتب بنایا کہ میں انہیں ادا کروں میں نے ان سے گفتگو کی کہ کچھ کم کر دیں اور سونے یا چاندی پر توڑ کر لیں۔ وہ راضی ہو گئیں میں نے فوراً ادا کر دیا۔ انہوں نے کچھ معاوضہ کم کر دیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نصاح سے سوائے ان کے بیٹے شیبہ ابن نصاح کے کسی اور نے بھی روایت کی ہے۔ شیبہ اور ابو جعفر و یزید بن القعقاع مولائے ابن عیاش اپنے زمانے میں قرآن میں اہل مدینہ کے امام تھے۔

عبداللہ بن رافع رضی اللہ عنہ:

ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کر دینے کی وجہ سے مولیٰ تھے انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی تھی اور یہاں تک

زندہ رہے کہ ان سے عبداللہ بن ابی یحییٰ و موسیٰ بن عبیدہ و قدامہ بن موسیٰ و جاریہ بن ابی عمران نے حدیث سنی ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔
ناعم بن اجیل رضی اللہ عنہ:

مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔
قیس رضی اللہ عنہ:

مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو قدامہ تھی، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ انہوں نے چھپنے لگوائے حالانکہ وہ روزے سے تھیں۔
ابو میمونہ رضی اللہ عنہ:

مولائے ام سلمہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنیت ابو قدامہ تھی، انہوں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے اور ان سے سالم بن یسار مولائے ذوسین نے روایت کی ہے اپنے زمانے میں اہل مدینہ کے قاری تھے۔ یہ وہی ہیں جن سے نافع بن ابی نعیم نے پڑھا ہے۔
کثیر بن افرح رضی اللہ عنہ:

مولائے ابویوب الانصاری رضی اللہ عنہ محمد سے مروی ہے کہ میں سورا تھا کہ کثیر بن افرح کو خواب میں دیکھا، یوم الحمرہ میں وہ قتل ہو گئے تھے، مجھے معلوم ہوا کہ وہ مقتول ہیں اور میں خواب میں ہوں اور یہ محض خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے، مجھے یہ ناپسند ہوا کہ انہیں ان کی کنیت سے پکاروں، اسی مکان میں ہذیل ابن حفصہ بنت سیرین بھی تھے، دونوں کی کنیت ایک ہی تھی، مجھے ہذیل کے ہیدار ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ کثیر بن افرح کو ان کے نام سے پکارا تو انہوں نے مجھے جواب دیا، میں نے کہا کیا تم مقتول نہیں ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، کہا کیوں نہیں، میں نے کہا کہ تم لوگوں کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر ہے۔ میں نے کہا کہ تم لوگ شہید ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، مسلمان جب باہم مقابلہ کریں اور ان میں کچھ مقتول ہوں تو وہ شہید نہیں ہوتے، البتہ ہم لوگ ندباء (مقتول و مجروح) ہیں۔ سعید نے کہا کہ بعض اصحاب نے مجھ سے اسی بات کو بیان کیا اور مجھے یہ ہشام سے یاد نہیں۔ ان کے بھائی:
عبدالرحمن بن افرح رضی اللہ عنہ:

مولائے ابی یوب الانصاری جو خارجہ بن زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے، انہوں نے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔ ان دونوں کے بھائی:

محمد بن افرح رضی اللہ عنہ:

ابویوب الانصاری کے مولیٰ تھے، ان سے انہوں نے روایت بھی کی ہے۔

عمرو بن رافع رضی اللہ عنہ:

انہوں نے حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے لیے ایک قرآن لکھا گیا تھا۔ رافع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے، انہیں کے بارے میں اشعار ذیل کہے گئے تھے:

وَآخِذْهُمُ الْقَوْمَ حَتَّى تَخْدُمَ تَكُنْ شَرِيكَ رَافِعٍ وَاسْلَمَ

”اے مخاطب تو قوموں کی خدمت کرتا کہ تو مخدوم ہو جائے۔ تو رافع و اسلم کا (خدمت کرنے میں) شریک ہو جا۔“

ان کے پس ماندہ و بقیہ اولاد بھی جوگم کی طرف منسوب تھے، عاصم المیر سم شاعر انہیں کی اولاد میں سے تھے۔

ماہر بن النضر:

مولائے زبیر بن العوام زبیر بن العوام کے بعد زندہ رہے ان سے مصعب بن ثابت ابن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما نے روایت

کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

ابو حبیبہ رضی اللہ عنہما:

مولائے زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما، جو موسیٰ بن عقبہ بن ابی عیاش مولائے زبیر رضی اللہ عنہما کے دادا تھے، موسیٰ بن عقبہ کی والدہ ابی

حبیبہ کی بیٹی تھیں۔

جراح رضی اللہ عنہما:

مولائے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما سے اور ان سے سالم

بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور تافع نے روایت کی ہے۔

سالم بن شوال رضی اللہ عنہما:

مولائے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

سالم الیراد رضی اللہ عنہما:

سالم ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

مولائے شداؤ جو سالم الدوسی کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے سعد سے روایت کی ہے۔

سالم بن سلمہ ابو سمرۃ الہذلی رضی اللہ عنہما:

سالم بن سرج رضی اللہ عنہما:

سالم بن النخر بوذ کے نام سے مشہور تھے۔ یہ وہ ابو النعمان تھے جنہوں نے ام عبیدہ الجندیہ سے اور ان سے اسامہ بن زید اللہبی

نے روایت کی ہے۔

سالم ابو الغیث رضی اللہ عنہما:

مولائے عبد اللہ بن مطیع العدوی، جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ ثقہ و حسن الحدیث تھے۔

سالم بن سبلان رضی اللہ عنہما:

مولائے بنی نصر بن معاویہ قبیلہ ہوازن کے تھے ان کی اصل مصر سے تھی، ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی و سفر کا سامان ان کے

پیرد تھا انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔

ابوصالح السمان رضی اللہ عنہ (کھی والے):

زیات (روغن زیتون والے) تھے نام ذکوان تھا، غطفان کے مولیٰ تھے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخویر یہ کے مولیٰ تھے جو خاندان قیس کی ایک خاتون تھیں اور قیس ابوسہیل بن ابی صالح المدنی تھے۔ اہل مدینہ میں سے عبداللہ بن دینار و قعقاع بن حکیم وزید بن اسلم و سبی مولائے ابی بکر بن عبدالرحمن بن الحارث بن ہشام الحزومی نے اور اہل کوفہ میں سے حکم و عاصم بن ابی الجود و سلیمان الأعمش نے ان سے روایت کی ہے۔

ابوصالح ثقہ و کثیر الحدیث تھے کوفہ میں سامان تجارت لاتے، محمد بنی اسد میں اترتے اور بنی کابل کی امامت کرتے تھے۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ ابوصالح نے کہا کہ ایسا کوئی شخص نہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کرتا ہو اور میں اسے نہ جانتا ہوں کہ وہ صادق ہے یا کاذب۔

عاصم سے مروی ہے کہ ابوصالح کی داڑھی بڑھی تھی وہ اس میں خلل کرتے تھے۔ مؤرخین نے کہا کہ ابوصالح کی وفات ۱۰۱ھ میں مدینے میں ہوئی۔

ابوصالح بازام رضی اللہ عنہ:

مولائے ام ہانی بنت ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان سے سماک و محمد بن السائب الکھمی و اسماعیل بن ابی خالد نے روایت کی ہے۔

ابوصالح السمع رضی اللہ عنہ:

انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

ابوصالح رضی اللہ عنہ:

مولائے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انہوں نے روایت کی ہے۔

ابوصالح الغفاری رضی اللہ عنہ:

ابوصالح میسرہ رضی اللہ عنہ:

ابوصالح مولائے ضباعہ رضی اللہ عنہ:

ابوصالح رضی اللہ عنہ:

مولائے سفاح نام عبید تھا۔ ان سے بسر بن سعید نے روایت کی ہے۔

ابوصالح مولائے سعد بن رضی اللہ عنہ:

مسلم بن یسار رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو عثمان تھی۔ انصار کے مولیٰ تھے ان سے یحییٰ بن سعید الانصاری وغیرہ اہل مدینہ نے روایت کی ہے اور اہل مکہ نے

بھی روایت کی ہے۔

بشیر بن یسار رضی اللہ عنہ:

مولائے بنی حارثہ بن الحارث جو انصار میں سے تھے پھر اوس میں سے شیخ کبیر وفقہ تھے اور اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے بھی جو بنی حارثہ کے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے چند آدمیوں کو پایا تھا جن میں سے رافع بن خدیج و سوید بن العمان و سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہم تھے انہوں نے ان لوگوں کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث قسامت روایت کی ہے۔ ان سے یحییٰ بن سعید الانصاری نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

نافع رضی اللہ عنہ:

مولائے ابی قتادۃ الانصاری یہ وہی ابو محمد تھے جن سے صالح بن کیسان نے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

وہیب رضی اللہ عنہ:

بوچہ آزاد کرنے کے زید بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے کاتب تھے ان سے انہوں نے

روایت کی ہے۔

حرملہ رضی اللہ عنہ:

مولائے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ عبد الرحمن بن ابی زناد سے مروی ہے کہ وہ اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہنے لگے جس سے انہیں مولائے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا جانے لگا اور اسی سے شہرت ہو گئی ان سے زہری نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

زید ابو عیاش رضی اللہ عنہ:

سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے البیضاء بالسلت (سفید رنگ کے جو) کو دریافت کیا تھا۔

حمید بن نافع رضی اللہ عنہ:

مولائے صفوان بن خالد الانصاری، یزید بن ہارون نے یحییٰ بن سعید الانصاری سے اسی طرح کہا میں نے ایک شخص سے سنا جو بیان کرتے تھے کہ وہ ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے۔ انہوں نے ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ان کے ہمراہ حج کیا تھا۔ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی وہ ان فلح بن حمید کے والد تھے جن سے ثوری اور چند اہل مدینہ وغیرہم نے روایت کی ہے۔

شعبہ نے کہا کہ میں نے عاصم الاحول (بھنگے) سے اس عورت کے متعلق دریافت کیا جو وفات شوہر کے بعد ترک زینت کرے۔ انہوں نے کہا کہ حفصہ بنت بصرین نے کہا کہ حمید بن نافع نے حمید الحمیری کو خط لکھا جس میں زینب بنت ابی سلمہ کی حدیث کا ذکر کیا۔ شعبہ نے کہا کہ پھر میں نے عاصم سے کہا کہ میں نے اس کو حمید بن نافع سے سنا ہے۔ انہوں نے پوچھا تم نے؟ میں نے کہا کہ ہاں اور وہ یہی ہیں جو اب تک زندہ ہیں۔ شعبہ نے کہا کہ عاصم کا خیال تھا کہ سو سال سے ان کی وفات ہو چکی ہے۔

رافع بن اسحاق رضی اللہ عنہ:

مولائے آل شفاء انہیں مولائے ابی طلحہ بھی کہا جاتا تھا انہوں نے ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے اور ان سے اسحاق بن عبد اللہ بن ابی طلحہ نے روایت کی ہے۔

زیاد بن ابی زیاد رضی اللہ عنہ:

مولائے عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ بن المغیرہ الحزومی۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ زیاد مولائے ابن عیاش عابد و گوشہ نشین تھے ہمیشہ تمہارہ کر اللہ کا ذکر کرتے زبان میں لکنت تھی پشیمند پہنتے تھے اور گوشت نہیں کھاتے تھے چند درہم پاس تھے جو علاج میں کام آتے تھے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے دوست تھے جب وہ خلیفہ ہوئے تو زیاد ان کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کی، عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے نزدیک کیا اور ان سے تنہائی میں گفتگو کی ان دونوں میں بہت گفتگو ہوئی دمشق میں زیاد کی بقیہ اولاد دوپس ماندہ تھے۔ اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔

اسحاق رضی اللہ عنہ:

مولائے زائدہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما سے سنا اور ان سے ابوصالح السمان، ابوسہیل و کبیر بن عبد اللہ بن الاشج نے روایت کی ہے۔

عجلان رضی اللہ عنہ:

مولائے مشعل انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

عجلان رضی اللہ عنہ:

مولائے فاطمہ بنت عقبہ بن ربیعہ بن عبد شمس، محمد بن عجلان کے والد تھے۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ان سے ان کے بیٹے محمد بن عجلان و کبیر بن عبد اللہ بن الاشج نے روایت کی ہے۔

جمہان رضی اللہ عنہ:

مولائے مسلمین انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور عمرو بن الزبیر و موسیٰ ابن عبیدہ الربذی نے ان سے روایت کی ہے۔

بہی رضی اللہ عنہ:

نام عبد اللہ بن یسار تھا زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے۔ کنیت ابو محمد تھی، کوفہ میں رہنے لگے تھے اور ان سے کوفیوں نے روایت کی ہے مجھے ان کے نام و کنیت کے متعلق ان کی اولاد میں سے ایک شخص نے خبر دی جن کا نام محمد بن یحییٰ ابن محمد بن عبد اللہ ابی تھا۔

ابو السائب رضی اللہ عنہ:

مولائے ہشام بن زہرہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا اور ان سے علاء بن عبد الرحمن نے ابن یعقوب نے روایت کی ہے۔

ابوسفیان رضی اللہ عنہ:

مولائے عبداللہ بن ابی احمد بن جحش انہوں نے ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ ابن ابی حنیبہ سے مروی ہے کہ وہ بنی عبدالاشہل کے مولیٰ تھے لیکن سب سے الگ ہو کر ابن ابی احمد بن جحش کے ساتھ ہو گئے تھے اس لیے ان کے مولیٰ مشہور ہو گئے۔ ابی سفیان مولائے ابی احمد سے مروی ہے کہ میں ماہ رمضان میں بنی عبدالاشہل کے یہاں تراویح پڑھتا تھا میری قرأت محمد بن مسلمہ و سلمہ بن سلامہ ابن وقش نے سنی۔ وہ دونوں ٹھہر کر سنتے تھے۔ حالانکہ میں اس زمانے میں ایک مملوک غلام تھا، ان دونوں نے کہا کہ اس امام میں کوئی حرج نہیں۔ داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ ابوسفیان رمضان میں بنی عبدالاشہل کی مسجد میں امامت کرتے تھے، حالانکہ وہ مکاتب تھے اور ان میں وہ جماعت بھی تھی جو بدراور (قبل از ہجرت بیعت) عقبہ میں شریک تھے۔ داؤد بن الحصین سے مروی ہے کہ ابوسفیان مولائے ابن ابی احمد بنی عبدالاشہل کی امامت کرتے تھے ان میں اصحاب رسول اللہ ﷺ مثل محمد بن مسلمہ و سلمہ بن سلامہ بن وقش بھی تھے وہ ان کی امامت کرتے تھے اور انہیں نماز پڑھاتے تھے اگرچہ مکاتب تھے۔

عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت الانصاری سے مروی ہے کہ ابوسفیان رمضان میں اصحاب رسول اللہ ﷺ کی امامت کرتے تھے، حالانکہ مکاتب تھے ابوسفیان ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ثابت الاحنف رضی اللہ عنہ:

ابن عیاض مولائے عبدالرحمن بن زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ۔ ثابت الاعرج (الاحنف) بن عیاض مولائے عبدالرحمن بن زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن زید کی ام ولد زینب سے نکاح کر لیا۔ عبداللہ ابن عبدالرحمن موجود نہ تھے جب وہ آئے تو مجھے بلایا، میرے لیے رسیاں اور کوڑے مہیا کر لیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بغیر میرے علم و رضا مندی کے میرے والد کی ام ولد سے کیوں نکاح کر لیا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ان کا نکاح اس شخص نے کیا جن کو تم نے ان کے نکاح کا ولی بنا دیا تھا، میں نے ان سے کھلم کھلا نکاح کیا، چھپا کے نہیں کیا۔ راوی نے کہا کہ عبداللہ نے حکم دیا کہ ثابت کو باندھ دیا جائے اور کہا کہ میں انہیں اس وقت تک مارتا رہوں گا جب تک کہ وہ یا تو مر نہ جائیں یا انہیں طلاق نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے انہیں تین طلاق دے دی اور انہوں نے مجھ پر گواہ بنا لیے۔

میں نے وہاں سے نکل کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اس معاملے میں استفتاء کیا، انہوں نے کہا طلاق تم پر لازم نہیں ہے، میں سوار ہو کر ابن الزبیر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا، ابن الزبیر رضی اللہ عنہما اس زمانے میں والی مکہ تھے، ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم پر طلاق نہیں اور مجھے زینب کے ساتھ رہنے کا حکم دیا، میں نے (طلاق سے) رجوع کر لیا اور ان کے ساتھ رہا، میں نے ولیمہ کیا، جن کی میں نے دعوت کی تھی ان میں ابن عمر رضی اللہ عنہما بھی میرے پاس آئے۔ فلیح نے کہا کہ میں نے زینب کو ان کے پاس دیکھا اور میں نے ان سے زینب کے بیٹے کو اب تک دیکھا ہے۔ زیاد بن سعد سے مروی ہے کہ میں نے ثابت بن الاعرج سے کہا کہ تم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہاں سنا، انہوں نے کہا کہ میرے آقا جتنے کے روز مجھے جگہ رکھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آتے اور نماز سے پہلے حدیث بیان کرتے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جس زمانے میں عبداللہ بن عبدالرحمن نے ثابت الاحنف کو اپنی بیوی کے طلاق دینے پر مجبور کیا

اس زمانے میں مدینے کے والی جابر بن الاسود تھے وہ عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی جانب سے والی تھے۔ مالک بن انس نے بھی ثابت الاحف سے یہ حدیث سنی ہے۔

عبدالرحمن بن یعقوب رضی اللہ عنہما:

وہی ابوالعلاء بن عبدالرحمن تھے حرقہ کے مولیٰ تھے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

نعیم بن عبداللہ الجمری رضی اللہ عنہما:

جو آزاد کرنے کے سبب سے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ و محمد بن عبداللہ بن زید بن

عبد ربہ الانصاری اور علی بن یحییٰ الزرقی سے سنا۔ ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

شرحبیل بن سعد رضی اللہ عنہما:

مولائے انصار کنیت ابوسعید قمی دیرینہ شیخ تھے۔ زید بن ثابت و ابی ہریرہ و ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہم اور اکثر اصحاب رسول

اللہ ﷺ سے روایت کی ہے آخر زمانے تک زندہ رہے یہاں تک کہ حواس میں خلل آ گیا اور سخت محتاج ہو گئے۔ ان سے حدیثیں مروی ہیں مگر شرحبیل سے استدلال نہیں کیا جاتا۔

داؤد بن فرابج مولائے قریش رضی اللہ عنہما:

محمد بن عمر نے کہا کہ میرا گمان ہے کہ وہ بنی مخزوم کے مولیٰ تھے انہوں نے ابو ہریرہ و ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہما سے سنا ہے اور

قدیم الموت تھے ان کی احادیث ہیں۔ داؤد بن فرابج سے مروی ہے کہ مجھ سے میرے مولیٰ سفیان نے حدیث بیان کی۔

ابوالولید رضی اللہ عنہما:

مولائے عمرو بن خداش۔ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔

ابو حسن البراد رضی اللہ عنہما:

مولائے بنی نوفل۔ ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

عبید اللہ بن دارۃ رضی اللہ عنہما:

مولائے آل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

عطاء رضی اللہ عنہما:

مولائے ابن سہاح، کنیت ابو منصور تھی ان سے زہری نے روایت کی ہے۔

حکم بن مینا رضی اللہ عنہما:

مولائے آل ابی عامر الراہب ان کے بیٹے بیان کرتے تھے کہ ابو عامر نے انہیں ابوسفیان بن حرب کو ہبہ کر دیا تھا

ابوسفیان نے انہیں عماس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ فروخت کر ڈالا عماس رضی اللہ عنہ نے انہیں آزاد کر دیا۔ آج ان کی بقیہ اولاد ہے جو اپنے مولیٰ ہونے کو عباس رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں مینا رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ کاب تبوک میں تھے۔

زیاد بن مینا رضی اللہ عنہ:

مولائے اشجع ان سے عبد الحمید بن جعفر نے روایت کی ہے۔ ان کے بھائی:

سعید بن مینا رضی اللہ عنہ:

تابعین اہل مدینہ کا طبقہ ثالثہ

علی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عباس رضی اللہ عنہما بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ زرعہ بنت مشرح بن معدی کرب بن ولیدہ بن شرییل بن معاویہ بن حجر القردا بن الحارث الولادہ بن عمرو بن معاویہ بن الحارث بن بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن ثور تھیں۔ ثور قبیلہ کندہ کے تھے۔

علی کی کنیت ابو محمد تھی۔ رمضان ۳۰ھ میں اس شب کو پیدا ہوئے جس میں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قتل کیے گئے ان کا نام انہیں کے نام پر رکھا گیا اور ان کی کنیت ابو الحسن بھی انہیں کی کنیت پر رکھی گئی ان سے عبد الملک بن مروان نے کہا کہ واللہ میں تمہارے لیے نام و کنیت دونوں برداشت نہ کروں گا اور دو میں سے ایک کو بدل دیا۔ کنیت کو بدل کے ابو محمد کر دیا۔

علی بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے یہاں محمد بن علی پیدا ہوئے ان کی والدہ عالیہ بنت عبید اللہ بن العباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف تھیں۔ داؤد بن علی و عیسیٰ بن علی دونوں ایک ام ولد سے تھے۔

سلیمان بن علی و صالح بن علی دونوں ایک ام ولد سے تھے۔ احمد و بشر و مبشر جن میں سے کسی کی بقیہ اولاد نہ تھی اور اسماعیل و عبد الصمد یہ سب کے سب ایک ام ولد سے تھے۔ عبد اللہ اکبر جن سے اولاد باقی نہ رہی ان کی والدہ ام ایہا بنت عبد اللہ بن جعفر بن ابی طالب تھیں۔

عبید اللہ بن علی جن کی بقیہ اولاد نہ تھی ان کی والدہ بنی الحریش کی ایک خاتون تھیں۔ عبد الملک بن علی و عثمان و عبد الرحمن و عبد اللہ اصغر سفاح جو ملک شام چلے گئے تھے۔ اور یحییٰ و یعقوب و عبد العزیز و اسماعیل اصغر و عبد اللہ اوسط کہ احنف تھے ان کی بقیہ اولاد نہ تھی یہ سب کے سب مختلف ام ولد سے تھے۔

فاطمہ بنت علی و ام عیسیٰ کبریٰ و ام عیسیٰ صغریٰ و امینہ و لبا بہ و بریہہ کبریٰ و بریہہ صغریٰ و میمونہ و ام علی و عالیہ دختران علی جو سب کی سب مختلف ام ولد سے تھیں۔ ام حبیب بنت علی ان کی والدہ ام ایہا بنت عبد اللہ بن جعفر بن مینا بن ابی طالب ابن عبد المطلب تھیں۔

ام عیسیٰ صغریٰ بنت علی بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما عبد اللہ بن الحسین بن عبد اللہ بن العباس رضی اللہ عنہما بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں مگر ان سے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی اور وہ انہیں چھوڑ کے وفات پا گئے یہ ان کے ورثے کے ساتھ ان کی وارث ہوئیں۔ امینہ بنت علی یحییٰ بن جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب کی زوجہ تھیں مگر ان سے ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی۔

لیا یہ بنت علی بن عبداللہ بن العباس، عبید اللہ بن قثم بن العباس بن عبید اللہ ابن العباس بن عبدالمطلب کی زوجہ تھیں، ان سے ان کے یہاں محمد پیدا ہوئے جو لا ولد مر گئے اور بریہ پیدا ہوئیں، بریہ بنت عبید اللہ بن قثم سے ابی امیر المؤمنین المنصور جعفر بن ابی جعفر نے نکاح کیا۔ وہی جعفر اصغر تھے جن کو ابن الکردیہ کہا جاتا تھا، لیکن علی بن عبداللہ بن عباس کی بقیہ بیٹیوں کو ناموری حاصل نہ ہو سکی۔

فاطمہ بنت علی ان سب لڑکیوں میں سب سے زیادہ عمر والی اور سب سے زیادہ بزرگی والی اور سب سے زیادہ سخی تھیں، ان کے بھائی اور بھتیجے ابوالعباس والیو جعفر منصور وغیرہ ان کی عقل و دانش و تدبیر کی وجہ سے ان کا اکرام اور تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اپنے والد کی اولاد میں سب سے کم عمر تھے۔ روئے زمین پر سب قریشیوں سے زیادہ خوبصورت و حسین اور سب سے زائد نمازی تھے، ان کی کثرت عبادت و بزرگی کی وجہ سے انہیں سجاد (بکثرت سجدہ کرنے والا) کہا جاتا تھا۔

ابی المنیرہ سے مروی ہے کہ اگر ہم لوگ علی بن عبداللہ بن العباس رضی اللہ عنہما کے لیے موزہ اور جوہر تلاش کرتے تو ہم اسے نہ پاتے تا وقتیکہ دوسرا نہ بنوائیں، اگر وہ غضبناک ہوتے تو تین دن تک ان کے چہرے سے معلوم ہوتا تھا۔ رات میں ایک ہزار رکعت نماز پڑھتے تھے۔

عبید اللہ بن محمد ابن عائشہ القرشی ثم البیہمی سے مروی ہے کہ مجھے میرے والد نے خبر دی کہ علی بن عبداللہ بن العباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما نے اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کی۔ اعتراض کیا گیا کہ آپ سلیمان کو تو وصیت کرتے ہیں اور محمد کو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ان کو وصیتوں سے آلودہ کرنا پسند نہیں۔

عبید اللہ بن محمد سے مروی ہے، میرے والد نے کہا کہ میں نے بزرگوں کو کہتے سنا ہے کہ بنی عباس میں خلافت پہنچی تو ایسی حالت میں پہنچی کہ روئے زمین پر کوئی شخص ان لوگوں سے زیادہ قاری قرآن و افضل و عابد مقام حمیمہ میں نہ تھا۔ عطف بن خالد ابوالہبھی سے مروی ہے کہ میں نے علی بن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ سیاہی کا خضاب لگاتے تھے، ان سے عبداللہ بن طاؤس نے روایت کی ہے، وثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی وفات ۱۱۸ھ میں ہوئی۔ ابو معشر وغیرہ نے کہا کہ ان کی وفات ملک شام میں ۱۱۷ھ میں ہوئی۔

عباس بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عباس رضی اللہ عنہما بن عبدالمطلب بن ہاشم، ان کی والدہ زرعہ بنت مشرعا بن معدی کرب بن ولیعہ تھیں، ولیعہ کندہ کے تھے، زرعہ ان کے بھائی علی ابن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی والدہ تھیں۔

عباس بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بیٹوں میں سب سے بڑے تھے انہیں سے ان کی کنیت تھی، عباس بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عباس بن عبد اللہ کے یہاں عبد اللہ پیدا ہوئے ان کی والدہ مریم بنت عباد بن مسعود بن خالد بن مالک بن ربیع بن سلمی بن جندل بن نہشل بن دارم ابن مالک بن حنظلہ بن مالک بن زید مناۃ بن تمیم بن مر بن اد بن طابخہ بن الیاس ابن مضر تھیں۔ عون بن العباس ان کی والدہ حبیبہ بنت الزبیر رضی اللہ عنہما بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی تھیں۔ محمد بن العباس و قریبہ بنت العباس دونوں کی والدہ جعدہ بنت الاشعث ابن قیس بن معدی کرب بن معاویہ بن جبلة الکنذری تھیں جعدہ کا نکاح ثانی حسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کے بعد عباس بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ہوا۔

عباس بن عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب کی تمام اولاد ختم ہو گئی کوئی نہ رہا۔ آج عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب کی اولاد میں سوائے علی بن عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی اولاد کے اور کسی سے اولاد نہیں چلی خلافت بھی انہیں میں سے اور تعداد بھی انہیں کی کثیر ہے۔

عبد اللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبد اللہ بن عبید اللہ کے یہاں حسن و حسین پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ اسماء بنت عبد اللہ بن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم تھیں۔

عبد اللہ بن عبید اللہ نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سن کر روایت کی ہے ان سے ان کے بیٹے حسین بن عبد اللہ وغیرہ نے روایت کی ہے وہ ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔ عبد اللہ بن عبید اللہ کی اولاد ختم ہو گئی کوئی باقی نہ رہا۔ ان کے بھائی:

عباس بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ ام ولد تھیں وہ ماں کی طرف سے عبد اللہ کے بھائی نہ تھے۔ عباس بن عبید اللہ کے یہاں عباس بن العباس پیدا ہوئے جن کا کوئی بقیہ نہ تھا اور سلیمان و داؤد اور قثم اکبر کہ لا ولد مر گئے اور قثم اصغر جو ابو جعفر کی طرف سے عامل یمامہ تھے اور ام جعفر و میمونہ جو محمد کی والدہ تھیں اور عتبہ بنت العباس و عالیہ و ام جعفر یہ سب مختلف ام ولد سے تھیں۔ عباس بن عبید اللہ کی بقیہ اولاد دو پسر ماندگان بغداد میں تھے عباس بن عبید اللہ سے بھی روایت کی گئی ہے۔

جعفر بن تمام رضی اللہ عنہما:

ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ عالیہ بنت نہیک بن قیس بن معاویہ بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ میں سے تھیں۔ جعفر بن تمام کے یہاں بیچی واسمہ علیہ پیدا ہوئیں۔ وہ سب ایک ام ولد سے تھے۔ ام حبیبہ بنت جعفر ان کی والدہ رعون بنت سلیمان بن النعمان بن قیس ابن معدی کرب کندہ سے تھیں۔ ام جعفر بنت جعفر ان کی والدہ ام عثمان بنت ابی بکر بن ابی قیس تھیں۔ ابو قیس عمرو بن حبیب بن سیار بن زرارہ بن معیض بن عامر بن لوی تھے۔ جعفر بن تمام بن عباس کی اولاد بھی ختم ہو گئی ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ جعفر ابن تمام سے بھی حدیث روایت کی گئی ہے۔

عبد اللہ بن معبد رضی اللہ عنہما:

ابن عباس بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ان کی والدہ ام جمیل بنت السائب بن الحارث بن حزن بن نجیر بن الہوم

بن روید بن عبد اللہ بن ہلال ابن عامر بن صعصعہ تھیں۔

عبد اللہ بن معبد کے یہاں معبد و عباس اکبر و عبد اللہ بن عبد اللہ و ام ایہیا پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام محمد بنت عبد اللہ بن العباس بن عبد المطلب ابن ہاشم تھیں۔ محمد بن عبد اللہ جن کا کوئی بقیہ نہ تھا ان کی والدہ جمرہ بنت عبد اللہ بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔

ابراہیم بن عبد اللہ و عباس اوسط اور عباس اصغر جو مکے کے والی تھے اور عبد اللہ ابن عبد اللہ و لبابہ یہ سب مختلف ام ولد سے تھے۔ عبد اللہ بن معبد سے روایت کی گئی ہے وہ ثقہ تھے۔

عبد اللہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ خالدہ بنت معتب بن ابی لہب بن عبد المطلب بن ہاشم تھیں۔ عبد اللہ بن عبد اللہ بن الحارث کے یہاں سلیمان و عیسیٰ پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ عائکہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حمادہ ایک ام ولد سے تھیں۔

زہری نے عبد اللہ بن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل سے روایت کی ہے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

اسحاق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ ام عبد اللہ بنت العباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔ اسحاق بن عبد اللہ بن الحارث کے یہاں عبد اللہ و عبد الرحمن و طلاب و یعقوب پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام عبد اللہ بنت عبد الرحمن بن العباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔ ہند و ام عمرو دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔

صلت بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن ہاشم ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ صلت بن عبد اللہ کے ہاں یحییٰ پیدا ہوئے ان کی والدہ امامہ بنت المشیرہ ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔ حمید ان کی والدہ زینب بنت عبد اللہ بن ابی احمد بن جحش ابن ربیعہ الاسدی تھیں۔ فاطمہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ صلت فقیہ و عابد تھے۔

محمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ان کی والدہ ہند تھیں کہ ام خالدہ بنت خالد ابن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزی بن قصی تھیں۔ محمد بن عبد اللہ کے یہاں قاسم و معاویہ پیدا ہوئے۔ دونوں کی کوئی بقیہ اولاد نہ تھی ان دونوں کی والدہ ضربیہ بنت الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب تھیں۔

جعفر و قسیم ان دونوں کی والدہ حمیدہ بنت ابی سفیان بن الحارث ابن عبد المطلب تھیں۔ زہری نے محمد بن عبد اللہ بن نوفل سے روایت کی ہے۔

زید بن حسن رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ ام بشر بنت ابی مسعود تھیں ابو مسعود ہی عقبہ بن عمرو بن ثعلبہ بن اسیرہ بن عمیرہ ابن عطیہ ابن جدارہ بن عوف بن الحارث بن الخزرج تھے۔

زید بن حسن رضی اللہ عنہما کے یہاں محمد پیدا ہوئے جو بغیر اپنا پس ماندہ چھوڑے ہوئے وفات پا گئے۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسن بن زید جو ابی جعفر منصور کی جانب سے والی مدینے تھے ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

نفسہ بنت زید جن سے ولید بن عبد الملک بن مروان نے نکاح کیا تھا وہ انہیں کے نکاح میں وفات پا گئیں ان کی والدہ لبابہ بنت عبد اللہ بن العباس رضی اللہ عنہما ابن عبدالمطلب بن ہاشم تھیں۔

عبد الرحمن بن ابی الموال سے مروی ہے کہ میں نے زید بن حسن کو دیکھا کہ سوار ہو کر سوق الظہر میں آتے اور وہاں ٹھہرتے لوگ ان کی طرف دیکھ کر ان کے عظیم الشان اخلاق سے تعجب کرتے اور کہتے کہ ان کے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ زید نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن ابی عبیدہ سے مروی ہے کہ جس روز زید بن حسن کا انتقال ہوا میں اپنے والد کے ہمراہ سوار ہو کے گیا ان کی وفات مدینے سے چند میل کے فاصلے پر بطحائے ابن ازہر میں ہوئی انہیں اٹھا کر مدینے لایا گیا۔ جب ہم دونوں راس الثئیہ پر آئے جو دونوں مناروں کے درمیان ہے تو اونٹ پر ایک محل میں زید بن حسن کی میت نظر آئی۔ عبد اللہ بن حسن بن حسن ان کے آگے پیادہ چل رہے تھے چادر سے اپنی کمر باندھے ہوئے تھے اور پشت پر (از قسم لباس) کچھ نہ تھا۔ مجھ سے والد نے کہا کہ اے میرے فرزند میں اترتا ہوں تم سواری کو تھام لو واللہ اگر میں سوار رہا اور عبد اللہ پیدل چلتے رہے تو ان کے نزدیک مجھے کبھی کوئی خیر حاصل نہ ہوگی میں گدھے پر سوار ہو گیا اور والد اتر کر پیادہ چلنے لگے یہاں تک کہ زید کو ان کے مکان واقع بنی حدیلہ میں داخل کر دیا گیا وہاں انہیں غسل دیا گیا اور تابوت پر نکال کر بقیع لایا گیا۔

حسن بن حسن رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب بن ہاشم ان کی والدہ خولہ بنت منظور ابن زبان بن سیار بن عمرو بن جابر بن عقیل بن ہلال بن سکی بن مازن بن فزارہ تھیں۔

حسن بن حسن کے یہاں محمد پیدا ہوئے ان کی والدہ رملہ بنت سعید ابن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزی بن ریاح بن عبد اللہ بن عبد اللہ بن قرط بن زراح بن عدی بن کعب تھیں۔

عبد اللہ بن حسن جو کوفہ میں ابو جعفر منصور کے قید خانے میں وفات پا گئے۔ حسن بن حسن جو ابی جعفر کے قید خانے میں وفات پا گئے ابراہیم بن حسن ان کی وفات بھی اپنے بھائی کے ہمراہ قید خانے میں ہوئی۔ زینب بنت حسن جن سے ولید بن عبد الملک ابن مروان کے نکاح کیا پھر طلاق دے دی اور ام کلثوم بنت الحسن ان سب کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھیں۔ اور فاطمہ کی والدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھیں۔

جعفر بن حسن و داؤد و قاطمہ و ام القاسم قسیمہ مملیکہ ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ جن کو حبیبہ فارسیہ کہا جاتا اور جدیلہ کے آل ابی ایس کی (مملوکہ) تھیں۔ ام کلثوم بنت حسن ایک ام ولد سے تھیں۔

محبت اہل بیت میں غلو کی ممانعت:

فضیل بن مرزوق سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن الحسن کو ایک شخص سے کہتے سنا جو ان لوگوں میں سے تھا کہ ان (اہل بیت) کے بارے میں غلو کرتے تھے (یعنی ان کا مرتبہ حد سے زیادہ بڑھاتے تھے) کہ تم لوگوں پر افسوس ہے۔ تم لوگ اللہ کے لیے ہم سے محبت کرو اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں تو تم لوگ ہم سے محبت کرو اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو ہم سے بغض کرو۔ ایک رافضی سے مکالمہ:

ایک شخص نے ان سے کہا کہ آپ لوگ رسول اللہ ﷺ کے اہل قرابت اور آپ کے اہل بیت ہیں (اس لیے ہم لوگ آپ کی مدح میں مبالغہ کرتے ہیں) انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے اگر اللہ تعالیٰ بغیر اللہ کی اطاعت کے رسول اللہ ﷺ کی کسی قسم کی قرابت کے سبب سے کسی کو (اپنے عذاب سے) بچاتا تو وہ بالضرور اس کے سبب سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچاتا جو باعتبار ماں اور باپ کے ہم سے زیادہ آنحضرت ﷺ کے قرابت دار ہیں (مثلاً حسن و حسین رضی اللہ عنہما) واللہ میں تو ضرور ڈرتا ہوں کہ ہم میں سے گنہگار کو دو چند عذاب دیا جائے گا اور مجھے ضرور امید ہے کہ ہم میں سے نیکو کار کو دو چند اجر دیا جائے گا تم لوگوں کی خرابی ہو (ہماری مدح کرنے میں مبالغہ کرنے سے) اللہ سے ڈرو اور ہم لوگوں کے بارے میں حق کہو۔ کیونکہ حق ہی تمہارے مقاصد (مدح سرائی) کو بہت زیادہ پہنچانے والا ہے اور حق سے ہم بھی تم سے راضی ہوں گے۔

پھر فرمایا کہ اگر یہی دین الہی ہے جو تم لوگ کہتے ہو تو بے شک ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ برائی کی (کہ یہ دین اور یہ نجات کا راستہ صرف تمہیں بتایا اور ہمیں نہ بتایا) ان بزرگوں نے نہ تو ہمیں اس دین کی اطلاع دی اور نہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی۔

اس کے جواب میں ان سے اس رافضی نے کہا کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے علی رضی اللہ عنہ کے لیے نہیں فرمایا: ”من كنت مولاه فعلي مولاه“ (جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی رضی اللہ عنہ بھی محبت کرتے ہیں) تو انہوں نے کہا: واللہ اگر رسول اللہ ﷺ اس سے خلافت و سلطنت مراد لیتے تو وہ ان لوگوں سے اس کو اسی طرح صاف صاف بیان فرمادیتے جس طرح آنحضرت ﷺ نے نماز و زکوٰۃ و روزہ رمضان و حج بیت اللہ کو صاف صاف بیان فرمایا آپ ضرور ضرور ان لوگوں سے فرماتے کہ اے لوگو! میرے بعد علی رضی اللہ عنہ تمہارے ولی (حاکم و خلیفہ) ہیں، کیونکہ سب لوگوں سے زیادہ امت کے خیر خواہ رسول اللہ ﷺ تھے۔

اگر معاملہ اس طرح ہوتا جس طرح تم لوگ کہتے ہو کہ (اس حدیث میں رسول اللہ ﷺ نے اپنے بعد علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور) اللہ اور اس کے رسول نے اس خلافت اور نبی ﷺ کے بعد آپ کی قائم مقامی کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو منتخب کیا تو اس معاملے میں علی رضی اللہ عنہ سب لوگوں سے زیادہ خطا دار اور سب سے زیادہ مجرم تھے کیونکہ جس امر کا انہیں رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا انہوں نے اسے ترک کر دیا (کیونکہ آپ کے بعد انہوں نے یقیناً پچیس سال تک خلافت نہیں حاصل کی) یا (اگر انہیں آپ کے ارشاد کے مطابق

آپ کی قائم مقامی کا موقع نہ مل سکا تھا تو کم از کم یہی کرتے کہ اس کے بارے میں لوگوں سے معذرت کر دیتے (کہ میں ان وجوہ سے امتثال امر پر قادر نہ ہوسکا)۔

ابو جعفر محمد رضی اللہ عنہ:

ابن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب، ان کی والدہ ام عبداللہ بنت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھیں۔ ابو جعفر کے یہاں جعفر بن محمد و عبداللہ بن محمد پیدا ہوئے، ان دونوں کی والدہ ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ تھیں۔ ابراہیم بن محمد، ان کی والدہ ام حکیم بنت اسید بن المغیرہ بن الاخنس بن شریف الشقی تھیں۔ علی بن محمد و زینب بنت محمد دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔

ام سلمہ بنت محمد، ان کی والدہ بھی ایک ام ولد تھیں۔ جابر سے مروی ہے کہ مجھ سے محمد بن علی نے کہا کہ اے جابر باہم خاصیت نہ کرو کیونکہ خصوصیت قرآن کی تکذیب کرتی ہے۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ اہل خصوصیات کے ساتھ نہ بیٹھو کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیات میں گھتے ہیں۔

جابر سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی سے کہا کہ کیا آپ اہل بیت میں سے کوئی شخص کسی (غیر مشرکانہ) گناہ کو شرک خیال کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے کہا کہ کیا آپ اہل بیت میں سے کوئی شخص (دنیا میں علی رضی اللہ عنہ کی) رجعت (واپسی) کا قائل تھا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ کیا آپ اہل بیت میں سے کوئی شخص ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو گالی دیتا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ ہر ایک نے ان دونوں سے محبت کی اور ان دونوں سے دوستی کی اور ان دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی۔

ابی الضحاک سے مروی ہے کہ ابو جعفر نے کہا کہ اے اللہ میں مغیرہ بن سعید بیان سے تیرے آگے اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں۔ جعفر بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ اپنی والدہ کے سر میں جو نہیں دیکھا کرتے تھے۔ یوسف بن المہاجر الحداد سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر کو ایک خچر پر سوار دیکھا، ان کے ہمراہ ایک غلام تھا جو ان کے دونوں جانب پیادہ چل رہا تھا۔ معاویہ بن بن عبدالکریم سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی کے بدن پر خز کا جبہ اور خز کی دستار دیکھی۔ ابی جعفر سے مروی ہے کہ ہم آل محمد خز اور کسم اور گیر و کارنگا ہوا اور یعنی چادر استعمال کرتے ہیں۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی چادریں اور خز اور گیر و کسم کے رنگے ہوئے کپڑے استعمال کرتے ہیں۔ اسماعیل بن عبدالملک سے مروی ہے کہ میں نے ابی جعفر کے جسم پر ریشمی گوٹ کی چادر دیکھی اعتراض کیا تو انہوں نے کہا کہ چادر میں دو انگل کی ریشمی گوٹ میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مویب سے مروی ہے کہ میں نے ابی جعفر کے سر پر سرخ شالی رومال دیکھا۔ عبدالاعلیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے محمد بن علی کو دیکھا کہ اپنا عمامہ پیچھے لٹکاتے تھے۔ جابر سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی کے سر پر ایک عمامہ دیکھا جس میں (ریشمی) گوٹ تھی، ایک چادر تھی جسے وہ استعمال کرتے تھے اس میں بھی (ریشمی) گوٹ تھی۔ محمد بن اسحاق سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر کو دیکھا کہ ایک چادر میں نماز پڑھتے تھے جسے وہ اپنے پیچھے باندھ لیتے تھے۔ حکیم بن حکیم بن عبادہ بن حنیف سے مروی ہے کہ میں نے ابو جعفر کو

مسجد میں تہ کیے ہوئے طیلسان سے (جو ایک قسم کا ایرانی جبہ ہے) تکیہ لگائے ہوئے دیکھا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزدیک ان اشراف و اہل مروت کا یہی فعل رہا جو مسجد میں رہتے تھے، کہ وہ لوگ تہ کیے ہوئے طیلسانوں پر تکیہ لگاتے اور یہ اس طیلسان و چادر کے علاوہ ہوتا جو ان کے بدن پر تھا۔

عبدالاعلیٰ سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی سے سمسہ یعنی سیاہ خضاب کو دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل بیت کا وہی خضاب ہے۔ ثور سے مروی ہے کہ ابو جعفر نے کہا کہ اے ابوالجہم تم کس چیز کا خضاب لگاتے ہو، میں نے کہا کہ مہندی اور نیل کا۔ انہوں نے کہا کہ یہی ہم اہل بیت کا خضاب ہے۔

عروہ بن عبداللہ بن قیس الجعفی سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو جعفر نے کہا کہ میں دسے کا خضاب لگاتا ہوں۔ ہارون بن عبداللہ بن الولید المعصمی سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی کی ناک اور پیشانی پر سجدے کا نشان دیکھا جو بہت نہ تھا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ تم لوگ ہنسی یا بہت ہنسی سے پرہیز کرو کہ یہ علم کو ضائع کر دیتی ہے۔ محمد بن علی سے مروی ہے کہ میری انگوٹھی میں میرا نام (کنندہ) ہے، جب میں جماع کرتا ہوں تو اسے اپنے منہ میں کر لیتا ہوں۔

سعید بن مسلم بن بانک ابو مصعب سے مروی ہے کہ انہوں نے محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے بدن پر ایک چادر دیکھی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سالم مولائے عبداللہ ابن علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد نے وصیت کی تھی کہ انہیں اسی (چادر) میں کفن دیا جائے۔ محمد بن علی سے مروی ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ انہیں اسی کرتے میں کفن دیا جائے جس میں وہ نماز پڑھتے تھے۔

عروہ بن عبداللہ بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے جعفر سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز میں کفن دیا جائے، انہوں نے وصیت کی کہ ان کے کرتے میں اور میں اس کی گھنڈیاں کاٹ دوں، اور ان کی اس چادر میں جو وہ اوڑھا کرتے تھے اور میں ایک بیٹی چادر خریدوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا جن میں ایک بیٹی چادر بھی تھی۔ سعید بن مسلم بن بانک سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما کی نعش پر جبرہ کی چادر دیکھی تھی (یعنی اس پر دھاریاں تھیں)۔ جعفر بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی سے سنا جو فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کا کچھ تذکرہ کر رہے تھے کہ یہ اٹھاون سال میرے پورے کر دیئے جائیں گے۔ اسی وقت (یعنی اٹھاون سال کے ختم پر) ان کی وفات ہوئی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ہماری روایت میں ہے کہ ان کی وفات ۶۱ھ میں ہوئی کہ وہ تہتر سال کے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کی وفات ۵۱ھ میں ہوئی۔ ابوالعیم الفضل بن دکین نے کہا کہ ان کی وفات ۴۲ھ میں مدینے میں ہوئی۔ وہ ثقہ و کثیر العلم و الحدیث تھے، ان سے کوئی ایسا شخص روایت نہیں کرتا جس کی حدیث سے استدلال کیا جائے۔

عبداللہ بن علی رضی اللہ عنہما:

ابن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ان کی والدہ ام عبداللہ بنت الحسن ابن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھیں۔ وہی ابو جعفر کی بھی والدہ تھیں۔ عبداللہ بن علی بن حسین رضی اللہ عنہما کے یہاں محمد پیدا ہوئے جن کے سیاہ و سفید داغ تھے وہ کوز (کپڑے) تھے

اسحاق جو بھورے (ابنض) تھے ام کلثوم جو بہری تھیں اور ام علی جن کا نام علیہ تھا سب ایک ام ولد سے تھے۔ قاسم و عالیہ ایک ام ولد سے تھیں۔

عمر بن علی رضی اللہ عنہما:

ابن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عمر بن علی کے یہاں علی و ابراہیم و خدیجہ پیدا ہوئیں۔ ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔ جعفر جن کے چہرے پر دانے تھے ان کی والدہ ام اسحاق بنت محمد ابن عبد اللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔

محمد بن عمر و موسیٰ جو پستہ قد اور موٹے تھے اور خدیجہ و محبہ و عبدہ ان سب کی والدہ ام موسیٰ بنت عمر بن علی بن ابی طالب تھیں۔ فضیل بن مرزوق سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن علی و حسین بن علی سے جو جعفر کے چچا تھے دریافت کیا کہ کیا آپ اہل بیت میں کوئی شخص ایسا ہے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہو جس کے لیے آپ لوگ یہ پہچانتے ہوں (یعنی آپ کو وہ شخص معلوم ہے جس کی اطاعت فرض کی گئی ہو) اور جس شخص نے اس (مفترض الطاعت) کے لیے یہ وصف نہیں پہچانا اور مر گیا تو وہ جاہلیت (و کفر) کی موت مرا ان دونوں (عمر بن علی و حسین بن علی) نے کہا کہ نہیں، واللہ یہ (مفترض الطاعت) ہم میں نہیں ہے جس شخص نے ہم لوگوں کے بارے میں یہ کہا تو وہ کذاب (بڑا جھوٹا) ہے۔

فضیل بن مرزوق نے کہا کہ پھر میں نے عمر بن علی سے کہا کہ اللہ آپ پر رحمت کرے کیا آپ لوگوں کے گمان میں یہ مرتبہ علی رضی اللہ عنہ کے لیے تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وصیت کی تھی پھر حسن رضی اللہ عنہ کے لیے تھا کہ انہیں علی رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی پھر یہ (مرتبہ) حسین رضی اللہ عنہ کے لیے تھا کہ انہیں حسن رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی پھر علی بن حسین رضی اللہ عنہ (زین العابدین) کے لیے تھا کہ انہیں حسین رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی پھر محمد بن علی کے لیے تھا کہ انہیں علی (زین العابدین) نے وصیت کی تھی انہوں نے کہا کہ واللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا مگر انہوں نے دو حرف کی بھی وصیت نہیں کی خدا ان (بہتان باندھنے) والوں کو عازت کرے واللہ یہ صرف ہم لوگوں کے ذریعے سے پیٹ بھرنے والے لوگ ہیں۔

راوی نے کہا کہ یہ جنہیں خبیث ہے (جس نے آپ لوگوں پر یہ بہتان باندھا ہے انہوں نے کہا کہ) جنہیں خبیث کون (راوی نے کہا کہ) معلیٰ بن جنہیں انہوں نے کہا ہاں، معلیٰ بن جنہیں واللہ میں اپنے بستر پر بڑی دیر تک سوچتا رہا جس وقت ان لوگوں کو معلیٰ بن جنہیں نے گمراہ کر دیا تو میں اس قوم سے تعجب کرتا تھا جس کی عقلوں کو اللہ نے تاریک کر دیا۔

زید بن علی رضی اللہ عنہما:

ابن حسین بن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ زید بن علی کے یہاں یحییٰ بن زید پیدا ہوئے جو خراسان میں مقتول ہوئے، مسلم ابن اخوڑ نے قتل کیا، انہیں اس کے پاس نصر بن سیار نے بھیجا تھا، ان کی والدہ ریطہ بنت ابی ہاشم عبد اللہ بن محمد بن علی بن ابی طالب تھیں۔

عیسیٰ بن زید و حسین بن زید تا پینا و محمد بن زید یہ سب ایک ام ولد سے تھے۔ عبد اللہ بن جعفر سے مروی ہے کہ مجھے سالم

حاجب و مولائے ہشام نے خیردی کہ زید بن علی ہشام کے پاس سے اس طرح نکلے کہ اپنی مونچھ ہاتھ میں لیے ہوئے بٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جب کبھی کسی نے زندگی کو دوست رکھا تو وہ ذلیل ہوا پھر وہ چلے گئے ان کا رخ کوفے کی طرف تھا۔

کوفے میں انہوں نے اور ہشام بن عبد الملک کے عامل عراقی یوسف ابن عمر اشقی نے بغاوت کی زید بن علی کی جانب ان لوگوں کو روانہ کیا گیا جو ان سے جنگ کریں انہوں نے جنگ کی وہ لوگ زید سے جدا ہو گئے جنہوں نے ان کی ہمراہی میں بغاوت کی تھی زید قتل کر کے لٹکا دیئے گئے۔

سالم نے کہا کہ اس کے بعد میں نے ہشام کو اس قول کی خبر دی جو زید نے اس روز کہا تھا جس روز وہ ہشام کے پاس سے نکلے تھے انہوں نے کہا کہ تیری ماں تجھ پر روئے آج سے پہلے مجھے اس کے متعلق کیوں نہ خبر دی جو چیز زید کو راضی کر سکتی تھی وہ صرف پانچ لاکھ درہم تھے یہ ہم پر اس سے بہت زیادہ آسان تھے جس کی طرف کہ زید گئے۔

سجیل بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے خلفاء میں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس کے نزدیک خون بہانا ہشام بن عبد الملک سے زیادہ ناپسند اور زیادہ باعث تکلیف ہوتا زید بن علی و یحییٰ بن زید کے قتل سے انہیں سخت رنج ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پسند تھا کہ میں ان دونوں کی پیروی کر لیتا۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد اپنے والد سے روایت کرتے تھے کہ خلفاء میں کوئی ایسا نہ تھا جسے ہشام بن عبد الملک سے زیادہ خون ناگوار ہوا انہیں زید بن علی کی بغاوت بہت گراں معلوم ہوئی تا وقتیکہ ان کا سر نہ لایا گیا اور لاش کوفے میں نہ لٹکا دی گئی کچھ نہ ہو سکا اس کا انتظام یوسف بن عمر نے ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں کیا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ جب اولاد عباس غالب ہوئی تو عبد اللہ بن علی بن عبد اللہ ابن عباس نے ہشام بن عبد الملک کا قصد کیا لاش قبر سے نکال کے لٹکا دی اور کہا کہ یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے زید بن علی کے ساتھ کیا تھا زید بن علی ۲ صفر ۱۲۰ھ یوم دو شنبہ کو قتل کیے گئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ۲۲ھ میں قتل ہوئے قتل کے روز ان کی عمر بیالیس سال کی تھی زید بن علی نے اپنے والد سے حدیث سنی اور زید سے عبد الرحمن بن الحارث بن عبد اللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ نے روایت کی ان سے بسام الصیرفی و عبد الرحمن بن ابی الزناد وغیرہما نے روایت کی ہے۔

حسین الاصفہانیؒ

ابن علی بن حسین بن علی جنہما بن ابی طالب بن عبد المطلب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسین بن علی کے یہاں عبد اللہ و عبد اللہ الاعرج (لنگڑے) و علی و شیمہ پیدا ہوئیں ان سب کی والدہ ام خالد بنت حمزہ بن مصعب بن زبیر بن العوام جنہما تھیں۔ محمد بن حسین ایک ام ولد سے تھے۔

حسن الاحول (بھنگے) بن حسین و جاریہ ان دونوں کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ امیہ بنت حسین ان کی والدہ انصار بنی حارث کی ایک خاتون تھیں۔ ابراہیم و فاطمہ ایک ام ولد سے تھیں۔

حسین بن علی بن حسین جنہما اپنے والد کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور اس وقت تک زندہ رہے کہ انہیں محمد بن عمر نے

پایا اور ان سے روایت کی، ہم نے انہیں ان کے بھائیوں کے طبقے میں شامل کر دیا حالانکہ نہ عمر میں ان لوگوں کے مماثل تھے نہ وہیے اہل علم سے ان کو روایت علم کا موقع ملا تھا۔
عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن الحنفیہ بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کنیت ابو ہاشم تھی، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

عبداللہ بن محمد کے یہاں ہاشم پیدا ہوئے، جن سے ان کی کنیت تھی، اور محمد اصغر ان دونوں کا کوئی بقیہ نہ تھا، ان کی والدہ بنت خالد بن علقمہ بن الحویرث بن عبداللہ بن ابی اللحم بن مالک بن عبداللہ بن غفار بن ملیل بن ضمیرہ بن بکر بن عبدمنافہ ابن کنانہ تھیں۔ محمد اکبر بن عبداللہ ولہا بہ بنت عبداللہ ان دونوں کی والدہ فاطمہ بنت محمد ابن عبداللہ بن العباس بن عبدالمطلب تھیں۔ علی بن عبداللہ اور ایک اور شخص جن کا نام ہم کو نہیں بتایا گیا، ان دونوں کی والدہ ام عثمان بنت ابی حدیر تھیں، ابوحدیر عیاش بن عبدہ بن مغیث بن الجعد ابن الجحان بنی قضاعہ سے تھے۔ طالب و عون و عبید اللہ مختلف ام ولد سے تھے۔

ریطہ جو یحییٰ بن زید بن علی کی والدہ تھیں کہ خراسان میں قتل کیے گئے۔ ریطہ کی والدہ بھی ریطہ تھیں جو ام الحارث بنت الحارث بن الحارث بن نوفل بن الحارث ابن عبدالمطلب تھیں۔ ام سلمہ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔

ابو ہاشم (عبداللہ بن محمد) صاحب علم و روایت تھے، ثقہ و قلیل الحدیث تھے، شیعہ ان سے ملنے اور محبت کرتے، بنی ہاشم کے ساتھ شام میں تھے کہ وفات کا وقت آ گیا۔ انہوں نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس بن عبدالمطلب کو وصیت کی کہ تم اس حکومت کے مالک ہو اور وہ تمہاری اولاد میں ہوگی، انہوں نے شیعہ کو ان کے پاس بھیج دیا اور اپنی کتابیں اور روایتیں انہیں دے دیں۔ وفات حمیرہ ابن سلیمان بن عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ہوئی۔

حسن بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن الحنفیہ بن علی بن ابی طالب، ان کی والدہ جمال بنت قیس بن مخرمہ ابن عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصی تھیں۔ حسن کی کنیت ابو محمد تھی، بنی ہاشم کے نظریوں اور عقلمندوں میں سے تھے۔ فضیلت و صورت میں اپنے بھائی ابو ہاشم پر مقدم تھے۔ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے عقیدہ ارجاء میں گفتگو کی۔

زاذان و میسرہ سے مروی ہے کہ ہم حسن بن محمد بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، اور اس کتاب پر ملامت کی جو انہوں نے مسئلہ ارجاء میں تالیف کی تھی۔ انہوں نے زاذان سے کہا کہ اے ابو عمر مجھے یہ پسند تھا کہ اسے نہ لکھتا اور مرجاتا۔ ابو الغریان انہیں سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن محمد کے بدن پر باریک کرتا اور باریک عمامہ دیکھا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ حسن بن محمد کی وفات عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی خلافت میں ہوئی۔ ان کا کوئی پس ماندہ نہ تھا۔

محمد بن عمر رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن ابی طالب بن عبدالمطلب، ان کی والدہ اسماء بنت عقیل ابن ابی طالب بن عبدالمطلب تھیں۔ محمد بن عمر کے یہاں عمرو عبداللہ و عبید اللہ پیدا ہوئے، ان میں سے ہر ایک سے حدیث روایت کی گئی ہے، ان سب کی والدہ خدیجہ بنت علی بن حسین

بن علی بن عثمان ابن ابی طالب تھیں۔

جعفر بن محمد ان کی والدہ ام ہاشم بنت جعفر بن جعفر بن سعد بن ہبیرہ بن ابی وہب ابن عمرو بن عاصم بن عمران بن مخزوم تھیں۔

معاویہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ابن جعفر بن ابی طالب بن عبدالمطلب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ پھر معاویہ جن کا کوئی بقیہ نہ تھا اور محمد ان سب کی والدہ ام عون بنت عون ابن العباس بن ربیعہ بن الحارث بن عبدالمطلب تھیں۔ سلیمان بن معاویہ ایک ام ولد سے تھے۔ حسن و یزید و صالح و حمادہ و ابیہ ان سب کی والدہ فاطمہ بنت حسن بن حسین ابن علی بن ابی طالب تھیں۔ علی بن معاویہ جن کو عامر بن ضبارہ نے قتل کر دیا ان کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ یزید بن عبداللہ بن الہادی نے معاویہ بن عبداللہ بن جعفر سے روایت کی ہے۔ اسماعیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ابن جعفر بن ابی طالب ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ اسماعیل بن عبداللہ کے یہاں عبداللہ و ابوبکر و محمد پیدا ہوئے۔ ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ ام کلثوم و جعفر ایک ام ولد سے۔ زید ایک ام ولد سے تھے۔ اسماعیل نے اپنے والد سے روایت کی ہے اور ان سے عبداللہ بن مصعب ابن ثابت نے روایت کی۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ

ابن مروان بن الحکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر بن خطاب بن نفیل بن عدی بن کعب میں سے تھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو حفص تھی۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے یہاں عبداللہ و بکر و ام عمار پیدا ہوئیں ان تینوں کی والدہ لمیس بنت علی بن الحارث بن عبداللہ بن الحصین ذی الغصنہ بن یزید بن شداد بن قحان الحارثی تھیں۔

ابراہیم بن عمر ان کی والدہ ام عثمان بنت شعیب بن زبان بن الاصغ بن عمرو بن ثعلبہ بن الحارث بن حصن بن ضمضم بن عدی بن خطاب تھیں۔ اسحاق بن عمرو و یعقوب و موسیٰ جو لا ولد مر گئے ان سب کی والدہ فاطمہ بنت عبدالملک بن مروان تھیں۔ عبدالملک بن عمرو و لید و عاصم و یزید و عبداللہ و عبدالعزیز و زبان و امۃ و ام عبداللہ ان سب کی والدہ ایک ام ولد تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ عمر کی ولادت ۶۱۰ھ میں ہوئی جس سال کہ میمونہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آرزو:

نافع سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کاش اپنی اولاد میں سے مجھے وہ شاندار شخص معلوم ہوتا جو زمین کو اسی طرح عدل سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوگی۔

عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں نصیف کا خواب:

نصیف سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے داہنی جانب ایک شخص ہے اور بائیں جانب بھی ایک شخص ہیں اتنے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما آئے اور چاہا کہ ان صاحب اور ان کے داہنی طرف والے ساتھی کے درمیان بیٹھیں مگر وہ ساتھی اپنے صاحب سے مل گئے (جس سے بیٹھنے کی جگہ جاتی رہی) عمر رضی اللہ عنہما گھوم گئے اور چاہا کہ ان صاحب اور ان کے بائیں جانب والے ساتھی کے درمیان بیٹھیں، مگر وہ بھی اپنے صاحب سے مل گئے پھر انہیں درمیانی صاحب نے کھینچ کر اپنے آغوش میں بیٹھا لیا (خواب دیکھنے والے نے) پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں، لوگوں نے کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ ابو بکر رضی اللہ عنہما ہیں اور یہ عمر رضی اللہ عنہما۔

تابع نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ میں اکثر ابن عمر رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا کرتا تھا کہ اولاد عمر رضی اللہ عنہما میں وہ کون شخص ہے جس کے چہرے پر علامت ہے اور جو زمین کو عدل سے بھر دے گا۔

عبداللہ بن دینار رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہم لوگ بیان کرتے تھے کہ یہ حکومت ختم نہ ہوگی تا وقتیکہ اولاد عمر رضی اللہ عنہما میں سے اس امت کا والی ایک ایسا شخص نہ ہو جو عمر رضی اللہ عنہما کے نقش قدم پر چلے اور چہرے پر ایک مسما ہو۔ راوی نے کہا کہ ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ ہلال بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، ان کے چہرے پر مسما بھی تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو لایا، ان کی والدہ ام عاصم بنت عاصم بن عمر رضی اللہ عنہما بن الخطاب تھیں۔

یزید (راوی حدیث ہذا) نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو ان کے والد کے ایک گھوڑے نے مار کر سر زخمی کر دیا، ان کے والد خون پونچھنے لگے اور کہنے لگے کہ تم سعید ہوتے اگر تمہارا سر بنی امیہ کا زخمی کیا ہوا ہوتا۔

عبدالعزیز بن مروان کا نکاح:

ابن شوذب سے مروی ہے کہ جب عبدالعزیز بن مروان نے والدہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو اپنے منتظم سے کہا کہ میرے لیے پاک مال میں سے چار سو دینار جمع کرو، میں ایک ایسے خاندان میں نکاح کرنا چاہتا ہوں جن میں صلاحیت و تقویٰ ہے، انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی والدہ سے نکاح کیا۔

عمر بن عبدالعزیز بحیثیت والی مدینہ:

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما ربیع الاول ۸ھ میں پچیس سال کی عمر میں والی مدینہ ہوئے، ولید بن عبدالملک جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہما کو یہ ولایت سپرد کی، عمر رضی اللہ عنہما نے مدینے کے محکمہ قضاء پر ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم کو مقرر کیا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

نصیف بن عمر بن ابی طلحہ الانصاری سے مروی ہے کہ ولید بن عبدالملک کی خلافت اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے مدینہ منورہ کی ولایت کے زمانے میں جب عمر رضی اللہ عنہما نے مدینے سے حج کا قصد کیا تو ان کے پاس انس بن مالک رضی اللہ عنہما آئے، وہ اس زمانے میں

مدینے ہی میں تھے اور کہا کہ اے ابو حمزہ کیا میں تمہیں نبی ﷺ کے خطبات سے آگاہ نہ کروں۔ پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مکے میں یوم الترویہ (۸ رزی الحج) سے ایک دن پہلے اور عرفات میں یوم عرفہ (۹ رزی الحج) کو اور منیٰ میں یوم النحر (۱۰ رزی الحج) کے دوسرے دن اور یوم النفر (۱۲ رزی الحج) کے دوسرے دن خطبہ ارشاد فرمایا۔

انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو اس نوجوان یعنی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے زائد رسول اللہ ﷺ کی نماز کے مشابہ ہو۔

عبادت میں انہماک

ضحاک نے کہا کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھتا تھا وہ ظہر کی پہلی دو رکعتوں میں طول دیتے اور آخری رکعتوں میں تخفیف کرتے، عصر کی قرأت کو مختصر کرتے، مغرب میں قصار المفصل (یعنی سورہ زلزال سے سورہ ناس تک) پڑھتے، عشاء میں وسط المفصل (یعنی سورہ طارق سے سورہ بینہ تک) پڑھتے اور فجر میں طوال المفصل (یعنی سورہ حجرات تا سورہ بروج) پڑھتے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے ضحاک کو یہ حدیث شریک بن نمر سے بیان کرتے سنا، شریک نے اس میں شک نہیں کیا۔

ضحاک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ دوران وعظ کلام انہیں موضوع سے باہر لے گیا، وہ منبر ہی پر تھے کہ موضوع کی طرف رجوع کیا اور کہا استغفر اللہ استغفر اللہ (میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں)۔ عبدالکحیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عید گاہ پیادہ جاتے تھے۔

علی بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مدینے میں دیکھا کہ سب سے اچھا لباس پہنتے، سب سے زیادہ خوشبو لگاتے اور سب سے آہستہ چلتے۔ بعد کو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ راہوں کی طرح تیز چلتے تھے، لہذا جو شخص تم سے یہ کہے کہ رفتار بھی امر فطری ہے (کہ اس کی تیزی یا سستی میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی) تو عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کے بعد تم اس کی تصدیق نہ کرنا۔ اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے قاضی ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے کہا کہ میں ایسا کوئی امر نہیں پاتا جو میرے نزدیک اس حق سے زیادہ خوش مزہ ہو کہ خواہش کے موافق نکلے۔ بچی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سو نماز اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے۔

ابن مسیب رضی اللہ عنہ کی رائے:

عبدالجبار بن ابی معن سے مروی ہے کہ میں نے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ سے اس وقت سنا جب ان سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اے ابو محمد مہدی کون ہے تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم مروان کے مکان میں گئے ہو اس نے کہا نہیں، انہوں نے کہا کہ مروان کے مکان میں جاؤ تم مہدی کو دیکھ لو گے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے دربار میں آنے کی لوگوں کو اجازت دی وہ شخص بھی گیا، مروان کے مکان میں داخل ہوا تو امیر کو اس حالت میں دیکھا کہ لوگ ان کے پاس جمع تھے۔

وہ شخص سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ کے پاس واپس آیا اور کہا کہ اے ابو محمد میں مروان کے مکان میں گیا مگر کوئی ایسا شخص نہیں

دیکھا کہ اسے مہدی کہتا۔ سعید ابن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا، اور میں (سعید رضی اللہ عنہ کا قول) سن رہا تھا، کہ کیا تم نے زنجی سروا لے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو تخت پر بیٹھے ہوئے دیکھا اس نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ بس وہی مہدی ہیں۔

محمد بن علی سے مروی ہے کہ نبی ہم میں تھے اور مہدی بنی عبد شمس میں ہوں گے، میں سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اور کسی کو مہدی نہیں سمجھتا۔ یہ قول عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کہا گیا تھا۔

مولائے ہند بنت اسماء سے مروی ہے کہ میں نے محمد بن علی رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگوں کا گمان ہے کہ مہدی آپ لوگوں میں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ہی غیر معتبر ہے جیسا کہ ہے البتہ وہ بنی عبد شمس میں ہیں۔ راوی نے کہا کہ گویا انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مراد لیا۔

اہل بیت رسول سے عقیدت و محبت:

فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہا بنی عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا اور بہت بہت رحمت کی دعاوی کہا کہ میں اس زمانے میں ان کے پاس گئی جب وہ امیر مدینہ تھے انہوں نے ہر خواجہ سرا اور دربان کو نکال دیا، گھر میں سوائے میرے اور ان کے کوئی باقی نہ رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے دختر علی رضی اللہ عنہا واللہ مجھے روئے زمین پر کوئی خاندان آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں اور آپ لوگ تو مجھے اپنے متعلقین سے بھی محبوب ہیں۔

فقہاء مدینہ کو ہدایات:

عبدالرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ والی مدینہ ہو کر وہاں آئے تو دربان نے ملاقاتیوں کے نام لکھے وہ لوگ اندر گئے اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو سلام کیا، نماز ظہر پڑھ لی تو ان دس فقہائے مدینہ کو بلایا (۱) عروہ بن الزبیر (۲) عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ (۳) ابوبکر بن عبدالرحمن بن الحارث (۴) ابوبکر بن سلیمان ابن ابی حمزہ (۵) سلیمان بن یسار (۶) قاسم بن محمد (۷) سالم بن عبداللہ (۸) عبداللہ بن عبداللہ ابن عمر (۹) عبداللہ بن عامر بن ربیعہ (۱۰) خارجہ بن زید بن ثابت رضی اللہ عنہم۔

عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے شایان شان حمد و ثنا کی اور کہا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک ایسے امر کے لیے بلایا ہے جس پر آپ لوگوں کو ثواب ملے گا اور آپ لوگ حق پر میرے مددگار ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ بغیر آپ کی رائے کے یا بغیر ان کی رائے کے جو آپ لوگوں میں سے موجود ہوں کسی امر کا فیصلہ نہ کروں، اگر آپ کسی سرکاری ملازم کو ظلم کرتے دیکھیں یا آپ کو میرے کسی عامل کے ناحق کچھ لینے کی خبر معلوم ہو تو ہر اس شخص کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جسے یہ معلوم ہو کہ وہ مجھے ضرور خبر دے، ان لوگوں نے انہیں جزائے خیر کی دعا دی اور چلے گئے۔

خلافت سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق:

حجاج الصواف (کبیل بیچنے والے) سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب والی مدینہ تھے تو انہوں نے مجھے اپنے لیے کپڑا خریدنے کا حکم دیا، میں نے ان کے لیے کپڑے خریدے، ان میں سے ایک کپڑا چار سو درہم کا تھا، انہوں نے اس کا کرتا بنوایا۔

ہاتھ سے چھواتو کہا کہ یہ کس قدر سخت اور موٹا ہے پھر جب وہ خلیفہ تھے تو اپنے لیے ایک کپڑا خریدنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے اسے چودہ درہم میں خریدا انہوں نے ہاتھ سے چھواتو کہا کہ سبحان اللہ یہ کیسا نرم اور کس قدر باریک ہے۔

محمد بن خالد سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ قریش میں سب سے زیادہ معطر رہنے والے اور سب سے زیادہ خوش لباس تھے جب وہ خلیفہ ہوئے تو سب سے زیادہ معمولی لباس اور سب سے زیادہ موٹی غذا پر زندگی بسر کرنے لگے جتنے زوائد تھے سب ترک کر دیئے۔

نماز کی اطلاع کا اہتمام:

ابراہیم بن محمد بن عمار بن سعد القرظ نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ان کے مکان میں نماز کی اطلاع دیتے تھے کہتے تھے:

”السلام عليك ايها الامير ورحمة الله وبركاته حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة رحمتك الله“

”اے امیر السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز کے لیے آئیے فلاح و کامیابی کے لیے آئیے اللہ آپ پر رحمت کرے نماز کا وقت آ گیا ہے۔“

حالانکہ لوگوں میں فقہاء بھی تھے جو اس کو ناپسند نہیں کرتے تھے۔

ابراہیم بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب والی مدینہ تھے تو کہا کہ ظہر یا عشاء کے لیے اذان کہو تو دو رکعت نماز پڑھو پھر اتنی دیر بیٹھو کہ یہ یقین ہو جائے کہ تمہاری اذان مدینے کے دور دراز حصے کے آدمی نے سن لی اور اس نے قضائے حاجت کے بعد وضو کیا، کپڑے پہنے اور آسانی کے ساتھ چل کر مسجد میں چار رکعت نماز پڑھی اور بیٹھ گیا۔ تم اتنی دیر کے بعد اقامت کہو۔

عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی فروہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مدینے میں ہم لوگوں کی امانت کرتے مگر بسبب اللہ الرحمن الرحیم بلند آواز سے نہ پڑھتے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ قبلہ رخ ایک ہی سلام کرتے تھے۔

سلیمان بن عبدالملک کی علالت:

رجاء بن حیوۃ سے مروی ہے کہ جمعہ کے دن سلیمان بن عبدالملک نے خنز کے سبز کپڑے پہنے اور آئینے میں دیکھا تو کہا: واللہ میں جوان بادشاہ ہوں، مسجد کو گئے کہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائیں، مگر واپس بھی نہ ہوئے تھے کہ بخارا آ گیا۔

جب وہ سخت علیل ہو گئے تو ایک فرمان لکھ کر اپنے بیٹے ایوب کو ولی عہد بنایا حالانکہ وہ نابالغ لڑکے تھے۔ میں نے کہا: امیر المؤمنین آپ کیا کرتے ہیں، خلیفہ جب اپنی قبر میں ہوتا ہے تو جو چیز اس سے یادگار رہتی ہے یہ ہے کہ وہ کسی مرد صالح کو جانشین بنائے۔

سلیمان نے کہا کہ یہ ایسا فرمان ہے جس میں اللہ سے استخارہ کرتا ہوں اور غور کرتا ہوں، میں نے ابھی مصمم ارادہ نہیں کیا ہے، ایک یا دو دن بٹھہر کر انہوں نے اس فرمان کو چاک کر ڈالا۔

مجھے بلایا اور پوچھا کہ داؤد بن سلیمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ میں نے کہا کہ وہ قسطنطینیہ میں ہیں اور آپ کو معلوم نہیں کہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ کہا کہ اے رجا، پھر تمہاری رائے کس کی ہے۔ عرض کی، امیر المؤمنین رائے تو آپ ہی کی ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ جس کو بیان کیا جائے اس پر غور کر لوں۔ سلیمان نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں تمہاری رائے کیسی ہے اس نے کہا واللہ میں انہیں فاضل و برگزیدہ مسلمان جانتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ان صفات کے باوجود اگر میں انہیں والی بنا دوں اور اولاد عبدالملک میں سے کسی کو والی نہ بناؤں تو لا محالہ فتنہ ہوگا اور لوگ کبھی ان کو اپنے اوپر والی نہ رہنے دیں گے، بجز اس صورت کے کہ میں ان میں سے کسی ایک کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بعد (والی) کر دوں۔

یزید بن عبدالملک اس زمانے میں حج کو گئے تھے انہوں نے کہا کہ یزید بن عبدالملک کو عمر رضی اللہ عنہ کے بعد (والی) کر دوں گا، یہ ان تدا میر میں سے ہے جس سے ان لوگوں کو تسکین ہو جائے گی اور وہ راضی ہو جائیں گے، میں نے کہا کہ آپ کی رائے صاحب ہے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا۔

سلیمان بن عبدالملک کی وصیت:

”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یہ فرمان ہے اللہ کے بندے سلیمان امیر المؤمنین کی جانب سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے لیے میں نے اپنے بعد انہیں والی خلافت بنایا اور ان کے بعد یزید بن عبدالملک کو لہذا تم لوگ ان کی بات سننا ان کی اطاعت کرنا اللہ سے ڈرنا اور اختلاف نہ کرنا کہ (بصورت اختلاف دشمنوں کی طرف سے) تم میں طمع کیا جائے۔“

فرمان پر مہر لگا دی، کعب بن حازم شحہ کو حکم دیا کہ میرے متعلقین کو جمع کرو، کعب نے ان لوگوں کو بلا کے جمع کر دیا۔ سلیمان نے رجا سے کہا کہ یہ فرمان ان لوگوں کے پاس لے جاؤ، کہو کہ یہ فرمان میرا ہے اور حکم دو کہ وہ اس شخص سے بیعت کریں جس کو میں نے والی بنایا ہے۔

رجاء نے یہی کیا اور ان لوگوں سے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ جو شخص اس (فرمان) میں ہے ہم اس کی اطاعت کریں گے اور نہیں گے، پھر خواہش ظاہر کی کہ ہم اندر جا کر امیر المؤمنین کو سلام کریں گے رجا نے کہا بہتر۔ لوگ اندر گئے، سلیمان نے اس فرمان کی طرف اشارہ کر کے جو رجا بن حیوہ کے ہاتھ میں تھا اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے کہا کہ یہی فرمان ہے یہی میری وصیت ہے اس فرمان میں میں نے جس کو نامزد کر دیا ہے اس کی سنو اور اطاعت کرو اور بیعت کرو، لوگوں نے ایک ایک کر کے عمر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی، پھر انہوں نے مہر لگا کر فرمان کو رجا کے ذریعے روانہ کر دیا۔

امارت و سلطنت سے گریز:

جب لوگ منتشر ہو گئے تو میر سے پاس عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ اے ابوالمقدم سلیمان کو مجھ سے محبت تھی۔ میرا احترام تھا اور میرے ساتھ مہربان و حسن تھے اندیشہ ہے کہ وہ اس حکومت کا کوئی حصہ میرے سپرد نہ کر دیں لہذا میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے احترام اور میری محبت کا واسطہ اگر ایسا ہی ہے تو تم مجھے آگاہ کر دو کہ میں اسی وقت اس سے مستعفی ہو جاؤں، قبل اس کے کہ وہ حالت آئے کہ میں اس امر پر قادر نہ ہوں جس پر اب ہوں۔ رجا نے کہا کہ واللہ میں آپ کو ایک حرف بھی نہ بتاؤں گا،

عمرؓ ناراض ہو کر چلے گئے۔ مجھے ہشام بن عبد الملک ملے اور کہا کہ اے رجاہ مجھے تمہارے ساتھ پرانی محبت و احترام ہے اور میں شکر گزار ہوں گا لہذا مجھے آگاہ کرو کہ کیا یہ حکومت میری ہوگی؟ اگر مجھے ملے تو میں معلوم کر لوں اور اگر کسی اور کو ملے تو میں گفتگو کروں کیونکہ مجھ جیسا کوئی نہیں ہے جس کے ساتھ کوتاہی کی گئی ہو اور یہ حکومت اس سے علیحدہ کی گئی ہو لہذا مجھے خبر دو واللہ گواہ ہے کہ میں تمہارا نام کبھی نہ بیان کروں گا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ نہیں واللہ میں تمہیں اس کا ایک حرف بھی نہ بتاؤں گا جو مجھ سے بطور راز کے امیر المومنین نے کہا ہے۔

ہشام واپس گئے وہ مایوس تھے اپنا ایک ہاتھ دوسرے پر مارتے اور کہتے کہ جب یہ حکومت مجھ سے علیحدہ کی جائے گی تو پھر کس کو ملے گی کیا عبد الملک کی اولاد سے نکل جائے گی واللہ میں تو خاص اولاد عبد الملک ہوں۔

سلیمان بن عبد الملک کی رحلت:

میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس گیا، نزع کا عالم تھا، موت کی سکرات نے گھیر لیا تھا، میں انہیں قبلہ رخ کرنے لگا۔ ہچکیاں لینے کی حالت میں کہنے لگے کہ اے رجاہ اب تک اس کا وقت نہیں آیا، میں نے یہ دوسرے کہا، تیسری بار انہوں نے کہا کہ اے رجاہ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو ایسے کرو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمداً عبده و رسوله، میں نے ان کا رخ بدل دیا، وفات ہو گئی، ان کی آنکھیں بند کر دیں اور ایک سبز چادر سے ڈھانک کے دروازہ بند کر دیا، ان کی بیوی نے جوان کا انتظار کر رہی تھیں مجھ سے دریافت کرایا کہ ان کی کیا حالت ہے، میں نے کہا کہ سو گئے ہیں اور اوڑھ لیا ہے، قاصد نے خلیفہ کو چادر سے ڈھکا ہوا دیکھا تو واپس گیا اور ان کی بیوی کو خبر دی، انہوں نے مان لیا اور یقین آ گیا کہ وہ سوتے ہیں۔

حضرت عمر بن عبد العزیزؓ کی بیعت:

میں نے دروازے پر ایسے شخص کو بٹھا دیا جس پر مجھے اعتبار تھا اور اسے نصیحت کر دی کہ بے نیس تا وقتیکہ میں اس کے پاس نہ آ جاؤں اور نہ خلیفہ کے پاس کسی کو جانے دے۔

میں نکلا اور کعب بن حاضر العنسی کو بلا بھیجا، انہوں نے امیر المومنین کے اعزہ کو جمع کیا، لوگ مسجد و اہل میں جمع ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ بیعت کرو، انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو ایک مرتبہ بیعت کر چکے ہیں، دوبارہ پھر کیسے لیتے ہیں، میں نے کہا کہ امیر المومنین کا حکم ہے کہ اس مہر کیے ہوئے فرمان میں جس امر کا حکم دیا گیا ہے اور جس شخص کو نامزد کیا گیا ہے اس سے بیعت کرو، ان لوگوں نے فرداً فرداً دوبارہ بیعت کی۔

سلیمان کی وفات کے بعد جب لوگ بیعت کر چکے تو میں نے خیال کیا کہ اب معاملہ مضبوط ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اب اپنے صاحب (یعنی امیر المومنین سلیمان) کے پاس اٹھ کر جاؤ کیونکہ ان کی وفات ہو گئی ہے، لوگوں نے ”انا للہ و انا الیہ راجعون“ کہا، میں نے انہیں فرمان پڑھ کر سنایا، جب عمر بن عبد العزیزؓ کے تذکرے تک پہنچا تو ہشام نے پکار کر کہا کہ ہم تو ان سے بیعت نہیں کریں گے، میں نے کہا کہ واللہ میں تمہاری گردن مار دوں گا، اٹھو اور بیعت کرو، وہ اپنے پاؤں گھسیٹتے ہوئے اٹھے۔

میں نے عمرؓ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں منہ پر بٹھا دیا، جو واقعہ ان کے متعلق ہوا اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون

پڑھ رہے تھے اور ہشام خلافت نکل جانے کی وجہ سے انا اللہ الخ پڑھ رہے تھے۔
 سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین:

جب ہشام عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو کہا کہ انا للہ وانا الیہ راجعون فرزند عبد الملک کے مقابلے میں کس وقت یہ خلافت تمہارے پاس پہنچ گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں انا للہ وانا الیہ راجعون جب وہ باوجود میری ناگواری کے میرے پاس پہنچ گئی۔ سلیمان کو غسل دیا گیا ان پر عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔
 شاہی سواری استعمال کرنے سے انکار:

تدفین سے فراغت ہو گئی تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس شاہی سواریاں اور تری گھوڑیاں اور گھوڑے اور چرخ اس طرح لائے گئے کہ ہر جانور کے لیے ایک سائیس بھی تھا۔ پوچھا یہ کیا ہے لوگوں نے کہا کہ یہ شاہی سواریاں ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا جانور میرے لیے زیادہ مناسب ہے وہ اپنے چرخ پر سوار ہوئے اور یہ سب جانور واپس کر دیئے۔ پھر وہ آئے کہا گیا کہ آپ تو منزل خلافت میں قیام فرمائیں گے انہوں نے کہا کہ اس میں تو ابویوب رضی اللہ عنہ کے اہل و عیال ہیں میرا خیمہ کافی ہے تا آنکہ وہ لوگ منتقل ہو جائیں وہ اپنی منزل میں مقیم رہے یہاں تک کہ بعد کو ان لوگوں نے منزل خلافت کو خالی کر دیا۔

جب اس روز کی شب ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے رجا میرے لیے کسی کاتب کو بلا لاؤ میں نے اسے بلا دیا میں ان سے وہ چیز دیکھ چکا تھا جو پورے طور پر مجھے مسرور کرتی تھی۔ انہوں نے سواریوں اور منزل سلیمان کے بارے میں جو کچھ کرنا تھا وہ کیا میں نے کہا کہ دیکھنا چاہیے کاتب کے بارے میں کیا کرتے ہیں فرمان لکھواتے ہیں یا کچھ اور؟

کاتب بیٹھ گیا تو انہوں نے ایک فرمان اپنی زبان سے بول کر کاتب سے بغیر کسی نقل کے لکھوایا انہوں نے لکھوایا اور خوب لکھوایا اسے مکمل و مختصر کیا پھر اس فرمان کے متعلق حکم دیا تو سب شہروں میں لکھ کر بھیجا گیا۔
 عبد العزیز بن ولید کی آمد:

عبد العزیز بن ولید کو جو باہر تھے وفات سلیمان بن عبد الملک کی خبر پہنچی انہیں عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں کی بیعت اور سلیمان کا انہیں ولی عہد بنانے کا حال معلوم نہ تھا ہمراہیوں نے ان سے بیعت کر لی اور وہ دمشق پر قبضہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے پھر انہیں معلوم ہوا کہ سلیمان کی ایک وصیت کے مطابق لوگوں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی ہے۔

وہ آئے اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ان سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم نے اپنی جانب سے بیعت لی اور دمشق کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا تھا اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ خلیفہ مرحوم نے کسی کو نامزد کیا ہے مجھے مال کے لٹ جانے کا اندیشہ ہوا۔

عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ اگر تم سے بیعت کر لی جاتی اور تم والی حکومت ہو جاتے تو میں تم سے بھگڑا نہ کرتا اور اپنے گھر میں بیٹھ رہتا۔ عبد العزیز نے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور اس حکومت کا والی ہو۔ انہوں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی۔

امارت و حکومت سے پہلو تہی کی کوشش:

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک کی حالت خراب ہوئی تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے مجھے دارالخلافت میں آتے جاتے اور آمد و رفت کرتے دیکھا، بلا کر مجھ سے کہا کہ اے رجاء میں تمہیں اللہ کا اور اسلام کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ تم امیر المؤمنین سے میرا ذکر نہ کرنا اور اگر وہ تم سے مشورہ طلب کریں تو میرے متعلق انہیں مشورہ نہ دینا، واللہ مجھے اس حکومت کی قوت نہیں ہے، اگر تم میری جانب سے امیر المؤمنین کو برگشتہ نہ کرو تو میں تمہیں (ایسا کرنے پر) اللہ کی قسم دیتا ہوں۔ میں نے انہیں ڈانٹ دیا اور کہا کہ تم ضرور حریص خلافت ہو اور طمع کرتے ہو کہ میں تمہارے متعلق مشورہ دوں، وہ شرمائے اور میں اندر چلا گیا۔

مجھ سے سلیمان نے کہا کہ اے رجاء اس حکومت کے لیے تم کس کو مناسب سمجھتے ہو اور تمہاری رائے میں کس کو ولی عہد بناؤں، میں نے کہا کہ امیر المؤمنین اللہ سے ڈریئے، آپ اللہ کے پاس جانے والے ہیں اور وہ آپ سے اس حکومت کو اور جو کچھ اس میں آپ نے کیا ہے پوچھنے والا ہے، انہوں نے کہا کہ پھر تم کس کو مناسب سمجھتے ہو۔ میں نے کہا کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو۔

سلیمان نے کہا کہ میں امیر المؤمنین عبد الملک کی اس وصیت کو کیا کروں جو انہوں نے ولید کو اور مجھ کو فرزندانِ عامکہ کے بارے میں کی تھی کہ ان دونوں میں سے جو زندہ رہے اسے ولی عہد بنانا۔ عرض کی، دونوں کو عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کر دیجئے، انہوں نے کہا کہ تم نے درست کہا اور تمہیں خیر کی توفیق دی گئی، میرے پاس کاغذ لاؤ۔

یزید کی ولی عہدی کی وصیت:

میں کاغذ لایا تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد یزید کی ولی عہدی لکھ دی اور اس پر مہر کر دی، میں نے لوگوں کو بلایا جو ان کے پاس گئے، خلیفہ نے ان لوگوں سے کہا کہ میں نے کاغذ میں اپنی وصیت لکھ کر رجاء کو دے دیا ہے اور انہیں اپنا علم بتا دیا ہے اور وہی اس کاغذ میں ہے، تم لوگ بھی گواہ رہو اور کاغذ پر مہر کر دو، لوگ اس پر مہر کر کے چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد سلیمان کی وفات ہو گئی۔
نوحہ وزاری سے ممانعت:

میں نے عورتوں کو نوحہ وزاری سے روکا اور نکل کر لوگوں کے پاس گیا، لوگوں نے کہا، اے رجاء امیر المؤمنین کیسے ہیں؟ میں نے کہا جب وہ علیل ہوئے اس وقت سے زیادہ سکون کا کوئی وقت نہیں آیا، لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر میں نے کہا کہ تم لوگ یہ نہیں جانتے کہ یہ امیر المؤمنین کی وصیت ہے اور تم لوگ اس پر گواہ ہو، انہوں نے کہا بے شک، میں نے کہا کہ کیا تم لوگ اس سے خوش ہو، شام نے کہا، شرطیکہ اس میں عبد الملک کی اولاد میں سے کوئی ہو، ورنہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اگر اس میں اولاد عبد الملک میں سے کوئی شخص ہو تو ہشام نے کہا کہ اس وقت ہاں۔ میں اندر گیا، تھوڑی دیر بٹھرا رہا، پھر عورتوں سے کہا کہ چلا کر دو، اور میں باہر آ گیا فرمان پڑھا، لوگ جمع تھے اور عمر رضی اللہ عنہ بالا خانے کے ایک کونے پر تھے۔

ثقیف کے شیوخ سے مروی ہے کہ وفات سلیمان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کی ولی عہدی پڑھ کر سنائی گئی، عمر و ابی کے مقام میں تھے، ثقیف کا ایک شخص کھڑا ہوا جس کا نام سالم تھا اور عمر رضی اللہ عنہ کے ماموؤں میں سے تھا، اس نے عمر کا بازو پکڑ کر انہیں کھڑا کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ واللہ نہ تو تم اس سے اللہ کے طالب ہو اور نہ اس کی بدولت تمہیں دنیا ملے گی۔ خالد بن بشر نے اپنے والد سے

روایت کی کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ والی ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو خطبہ سنایا، ان کے لیے فرش بچھایا گیا تھا، منبر سے اترے اور فرش چھوڑ کر ایک کنارے بیٹھ گئے، کہا گیا کہ آپ سلیمان کے محل میں منتقل ہو جائیں تو بہتر ہوگا، انہوں نے مثل کے طور پر اشعار ذیل پڑھے:

فلولا التقى ثم النهى خشية الردى لعاصيت في حب الصبي كل ذاجر
 ”اگر تقویٰ نہ ہوتا، عقل نہ ہوتی، ہلاکت کا خوف نہ ہوتا، تو عشق و محبت میں ہر ایک نصیحت گر کی میں نافرمانی کرتا۔“

قضى ما قضى فيما مضى ثم لا تری له صبوة اخرى الليالى العواری
 سابق میں جو کیا کیا، اب زندگی بھر تم ان سے کوئی اخلاقی کمزوری نہ دیکھو گے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا خطبہ خلافت:

سیار بن ابی الحکم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے جو چیز انوکھی معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ جب انہوں نے سلیمان بن عبدالملک کو دفن کر دیا تو ان کے پاس سلیمان کا وہ گھوڑا لایا گیا جس پر وہ سوار ہوا کرتے تھے، مگر وہ اس پر نہیں سوار ہوئے اپنے اسی گھوڑے پر بیٹھے جس پر آئے تھے، محل کے اندر گئے تو ان کے لئے فرش بچھائے گئے جن پر سلیمان بیٹھا کرتے تھے، مگر وہ ان پر نہیں بیٹھے، وہاں سے نکل کر مسجد کو گئے اور منبر پر چڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا کی پھر کہا:

”اما بعد! بے شک تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں اور نہ اس کتاب کے بعد جو ان پر نازل کی گئی کوئی اور کتاب ہے، دیکھو خیر دار! اللہ نے جو حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک حلال ہے اور جو حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک حرام ہے، آگاہ ہو کہ میں قاضی (حکم دینے والا) نہیں ہوں بلکہ حکم الہی نافذ کرنے والا ہوں، میں مبتدع (نیا کام کرنے والا) نہیں ہوں بلکہ تبع (پیروی کرنے والا) ہوں، کسی شخص کا یہ حق نہیں کہ اللہ کی نافرمانی میں اس کی اطاعت کی جائے، میں تم سے بہتر نہیں ہوں، میں تمہیں میں سے ایک شخص ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ نے مجھے تم سے زیادہ گراں بار بنا دیا ہے۔“ پھر انہوں نے اپنی حاجت بیان کی۔

سرکاری سامان استعمال کرنے سے انکار:

اسماعیل بن ابراہیم کا تب زیاد بن عبید اللہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ جب عمر رضی اللہ عنہ سلیمان کی قبر سے واپس ہوئے تو سلیمان کے گھوڑے ان کے پاس پیش کیے گئے، وہ مسکرائے اور اپنے سفید نچر کی طرف اشارہ کیا، اسے لایا گیا، وہ اس پر سوار ہو کر واپس ہوئے، دیکھا تو سلیمان کے فرش ان کی منزل میں بچھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے جلدی کی، ایک ارمنی فرش لے کر اس کو اپنے اور زین کے درمیان ڈال دیا اور کہا کہ دیکھو واللہ اگر میں مسلمانوں کے کاموں میں مشغول نہ ہوتا تو تجھ پر نہ بیٹھتا۔ منذر بن عبید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بعد نماز جمعہ والی بنائے گئے تو میں نے عصر میں ان کی حالت بدلی ہوئی پائی۔

مدینہ کی ولایت ابو بکر بن محمد کے سپرد کرنا:

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ سلیمان بن عبدالملک نے ابو بکر بن محمد بن حزم کو مدینے کا والی بنایا

تھا جب سلیمان کی وفات ہو گئی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ والی خلافت ہوئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر کو مدینے کا امیر بنایا اور انہوں نے ابوطوالہ کو قاضی بنایا۔

عمال کا تقرر و تبدیلی:

عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن الخطاب کو والی کوفہ بنایا، ابوالزناد کو کاتب بنا کے ان کے ماتحت کیا، وہ عمر رضی اللہ عنہ کی وفات تک کوفے کے محکمہ حرب و خراج پر رہے اور انہوں نے عامر الشعمی کو (کوفے) کا قاضی بنایا، عدی بن ارطاة کو ولایت بصرہ سپرد کی، انہوں نے حسن بن ابی الحسن کو قاضی بنایا، عامر نے خلیفہ کو استعفا دے دیا، انہوں نے منظور کر لیا۔

عروہ بن محمد بن عطیہ السعدی کو والی یمن بنایا، عدی بن عدی الکنذری کو والی جزیرہ اور اسماعیل بن عبید اللہ بن ابی المہاجر کو والی افریقہ جو ان کی وفات تک اس عہدے پر رہے، محمد بن سوید النہری کو والی دمشق بنایا اور جراح بن عبداللہ الحکمی کو والی خراسان۔ سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جس روز سے خلیفہ بنائے گئے وفات تک برابر حقوق واپس کراتے رہے۔

عبدالحمید بن سہیل سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ حقوق کی واپسی اپنے اعزہ سے شروع کی، جو حقوق ان لوگوں کے قبضے میں تھے انہوں نے واپس کر دیئے، بعد کو دوسروں کے ساتھ یہی کیا۔ اس پر عمر بن الولید کہتے تھے کہ تم لوگ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک شخص کو لائے اور اس کو اپنے اوپر والی بنایا، اس نے تمہارے ساتھ یہ کیا (کہ حقوق واپس کر دیئے)۔

مظلومین کے حقوق کی واپسی کا فرمان:

ابوبکر بن ابی سہرہ نے کہا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حقوق واپس کرائے تو انہوں نے کہا کہ مناسب یہی ہے کہ اپنے آپ سے پہلے کسی اور سے شروع نہ کروں، جو زمین اور سامان ان کے قبضے میں تھا اس پر نظر ڈالی اور ادا کر کے اس سے بری ہو گئے، حتیٰ کہ انگوٹھی کا ٹک دیکھ کر کہا کہ یہ ان اشیاء میں سے ہے جو مجھے ولید بن عبدالملک نے اس مال میں سے دی تھی جو ان کے پاس ملک مغرب سے آیا تھا۔ وہ اس سے بھی بری ہو گئے۔ اسحاق بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے وقت سے اپنی خلافت تک کے حقوق واپس دلاتے رہے، انہوں نے معاویہ و یزید بن معاویہ کے درتاء کے قبضے سے حقوق نکالے۔

ایوب السخنیانی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حقوق (یعنی وہ جائیداد و اسباب جو ناحق لوگوں کو مل گیا تھا) لے کر بیت المال کو واپس کر دیا، اور اگر بیت المال میں کسی کا حق آ گیا تھا تو اسے بھی واپس کر دیا، اور حکم دیا کہ جتنے سال تک یہ مال دوسری جگہ رہا اس کے مالک کی طرف سے زکوٰۃ دی جائے، اس کے بعد دوسرا فرمان نافذ کیا کہ جب وہ مال باہر ہا تو ایک سال سے زیادہ کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔

عراق کی غضب شدہ جائیداد کی واپسی:

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ہمیں عراق میں اہل حقوق کے حقوق واپس کرنے کو لکھا، ہم نے واپس کر دیئے۔ عراق کے بیت المال میں جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے شام سے

ہمارے پاس مال بھجوا یا۔

ابوالزناد نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ اہل حقوق کو حقوق بغیر قطعی شہادت کے واپس کر دیتے، اس میں کم از کم پر کفایت کرتے جب وہ کسی کے حق کی کوئی صورت معلوم کر لیتے تو اس کو واپس کر دیتے، شہادت پیش کرنے کی تکلیف نہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ اس کو حکام کا ظلم سمجھتے تھے۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی فرمان ایسا نہ آتا جس میں کسی حق کی واپسی سنت کے احیاء بدعت کے مٹانے اور تقسیم یا عطا کے اندازہ کرنے یا نیکی کا حکم نہ ہوتا، یہاں تک کہ وہ دنیا سے چلے گئے۔

ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ دفاتر کو حقوق کے بارے سے پاک کرو، ہر اس ظلم کو دیکھو جو مجھ سے پہلے کسی مسلم یا معاہد کے حق میں ہوا اور اس کو اسے واپس کر دو اگر ان کے مالک مر چکے ہوں تو وہ ان کے وارثوں کو واپس کر دو۔

امرا اور عایا میں مساوات کا اہتمام:

موسیٰ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان سنا جو ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کے نام تھا کہ تم اپنے گھر کے اندر اجلاس کرنے سے بچنا، لوگوں کے سامنے مجلس عام میں بیٹھ کر خوش منظری کے ساتھ صلح کرانا تمہارے نزدیک ایک دوسرے پر ترجیح نہ ہو، یہ ہرگز نہ کہنا کہ لوگ امیر المؤمنین کے اعزہ ہیں، کیونکہ آج میرے نزدیک امیر المؤمنین کے اعزہ اور دوسرے لوگ برابر ہیں، بلکہ مجھے امیر المؤمنین کے اعزہ کے متعلق یہ گمان کرنے کا حق ہے کہ ان سے جو جھگڑتا ہے وہ اس پر زبردستی کرتے ہیں، جب تمہیں کوئی امر دشوار معلوم ہو تو اس کے بارے میں مجھے لکھنا۔

بدعات کی روک تھام:

حزم بن ابی حزم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ ہر وہ بدعت جسے اللہ میرے ہاتھ پر میرے گوشت کے ٹکڑے کے عوض مردہ کر دے اور ہر وہ سنت جسے اللہ میرے ہاتھ پر قائم کر دے یہاں تک کہ اس کا انجام میری جان پر ہو تو میرے لیے یہ آسان ہے۔ حماد بن ابی سلمان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ مسجد دمشق میں کھڑے ہوئے اور بلند آواز سے ندا دی کہ اللہ کی نافرمانی میں ہماری اطاعت واجب نہیں۔

عوام کو دربار خلافت میں حاضری کی آسانی:

سیار سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ لوگوں سے کہا کرتے کہ اپنے وطن کو چلے جاؤ، کیونکہ میں تم کو تمہارے شہروں میں یاد رکھوں گا اور یہاں ہونے پر تم کو بھول جاؤں گا، البتہ اگر کسی شخص پر کوئی عامل ظلم کرے تو اسے مجھ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، وہ میرے پاس آ جائے۔

عبداللہ بن واقد سے مروی ہے کہ سب سے آخری خطبہ جو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے پڑھا یہ تھا کہ اللہ کی حمد و ثنا کی اور کہا:

’اے لوگو! اپنے شہروں کو واپس جاؤ‘ کیونکہ میں تم کو تمہارے شہروں میں یاد رکھوں گا اور اپنے پاس رہنے میں بھول جاؤں گا‘ سوائے اس کے کہ میں نے تم پر لوگوں کو عامل بنایا ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ تم میں بہتر ہیں، لیکن وہ ان سے بہتر ہیں جو ان میں بدتر ہیں، اگر کوئی عامل کسی کا حق تلف کرے تو اسے میرے پاس آنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں، واللہ اگر میں اس مال کو اپنی ذات اور اپنے اعزہ سے روکوں اور تم لوگوں کو دینے میں بھی غل کروں تو اس وقت میں بڑا بخیل ہوں گا، واللہ اگر میں سنت کو قائم نہ کروں یا حق کی سیرت نہ اختیار کروں تو مجھے اتنی دیر بھی جینا پسند نہیں جتنی دیر کہ ایک تھن دودھ کے دوسرے تھن کے دوہنے میں لگتی ہے۔

بنی مروان کا احتجاج:

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس بعض بنی مروان کی جانب سے ایک خط آیا جس نے انہیں غضبناک کر دیا، غصے سے بھڑک اٹھے اور کہا کہ اللہ کے واسطے بنی مروان میں قربانی ہوگی اور بخدا اگر یہ قربانی ہوگی تو میرے ہی ہاتھوں سے ہوگی، ان لوگوں کو یہ معلوم ہوا تو باز آگئے، وہ ان کے استقلال کو جانتے تھے کہ اگر کسی معاملے میں پڑ گئے تو اسے پورا کر کے رہیں گے۔

ابن عمرو الباہلی سے مروی ہے کہ بنی مروان عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ سلوک میں بہ نسبت ان لوگوں کے جو آپ سے پہلے تھے کمی کر دی ہے، یہ کہہ کر اپنی ناراضی کا اظہار کیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تم لوگوں نے اس قسم کی باتوں کا پھر اعادہ کیا تو میں اپنا اونٹ کسوں گا اور مدینہ منورہ پہنچ کے اس معاملے کو مجلس شوریٰ کے سپرد کر دوں گا، دیکھو میں صاحب شوریٰ اعمیش کو یعنی قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو بچھا رہا ہوں۔

فلح بن حمید سے مروی ہے کہ میں نے قاسم بن محمد کو کہتے سنا کہ آج ہر وہ شخص بول سکتا ہے جو پہلے بول نہ سکتا تھا، ہمیں سلیمان کے حق میں ان کے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو والی بنانے کی وجہ سے رحمت کی امید ہے، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت کہا کہ اگر حکومت میں سے میرا کچھ بھی ہوتا تو میں قاسم بن محمد سے تجاوز نہ کرتا (یعنی انہیں کو والی بناتا) قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا کہ قاسم رضی اللہ عنہ تو اپنے چھوٹے سے خاندان کے انتظام میں بھی کمزور ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کو کیسے قائم کر سکتا ہے۔

اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر حکومت میں کچھ میرے سپرد ہوتا تو میں قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ اور اعوص کے اسماعیل بن عمرو بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ سے تجاوز نہ کرتا، اسماعیل بن عمرو رضی اللہ عنہ عابد و بے تعلق تھے، گوشہ نشینی اختیار کر کے اعوص میں قیام کر لیا تھا، سالم بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ سلیمان کے لیے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کی وجہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔

عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے (مثل روایت بالا) خارجہ بن زید ابن ثابت کو بھی کہتے سنا۔

غیر ضروری سامان کی قیمت راہ خدا میں:

سلہ بن عثمان القرشی سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو اپنے غلام لباس و عطر

پر اور ضرورت سے زائد اشیاء پر نظر کی ہر وہ چیز فروخت کر دی جس کی حاجت نہ تھی اس کی قیمت تیس ہزار دینار کو پہنچ گئی انہوں نے اس کو راہِ خدا میں صرف کر دیا۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے ایک فرزند سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے کسی خادم نے مجھے خبر دی کہ جس دن سے وہ والی ہوئے اپنی وفات تک کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔

سماجی و رفاہی اقدامات:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ والی بنائے گئے تو انہوں نے ہر مقام کی جوگی منسوخ کر دی اور ہر مسلمان کا جزیہ منسوخ کر دیا۔

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ پانی کی جتنی باؤ لیاں اور کنوئیں ہیں سب کے لیے ہیں اور سب ان سے پانی لے سکتے ہیں البتہ جو بہت چھوٹے کم آب ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ یحییٰ بن واضح سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ خراسان کے راستے پر مسافر خانے بنائے جائیں۔

عمرو بن عثمان بن ہانی سے مروی ہے کہ میں دو تقسیموں میں موجود تھا جو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے لوگوں کے درمیان کی تھیں انہوں نے پورے طور پر مساوات اختیار کی۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ سوائے تاجر کے سب کے لیے عطا مقرر کرو۔

ربیعہ بن عطاء بن یعقوب مولائے ابن سباع الخزاعی سے مروی ہے کہ میں سلیمان بن یسار کے پاس جا کے بیٹھا اور ان سے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا ذکر کیا جو ابو بکر بن حزم کے پاس آیا تھا کہ غنیمت میں تاجر کا حصہ نہ لگایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے درست کیا، تاجر تو اپنی تجارت کی وجہ سے مسلمانوں کے اصلاحی کاموں سے علیحدہ ہے۔

وظائف کا تعین:

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کے لیے عطاء زیادہ سے زیادہ دو ہزار مقرر کی کہ ”شرف عطاء“ (باعزت مقدار) یہی تھی۔

وظائف کی تقسیم:

غسان بن عبد الحمید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے دو سال اور دس دن کم پانچ مہینے میں اہل مدینہ کے لیے تین عطاءیں نکالیں۔

ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں میری قوم کے لیے میرے ذریعے تین عطاءیں جاری ہوئیں اور لوگوں کے لیے دو عام تقسیمیں۔

سعید بن مسلم بن بانک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو جب وہ خلیفہ تھے کہتے سنا کہ تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ مردہ لوگوں کے لیے عطاء لو، ان کی ہمیں اطلاع دو اور ہر مولود کی ہمیں تحریری اطلاع دو کہ ہم اس کا حصہ مقرر کر دیں۔

ثابت بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان سنا جو ہمیں پڑھ کر سنایا جا رہا تھا کہ ہر مولود کی ہمیں اطلاع دو ہم اس کا حصہ مقرر کر دیں گے اور اپنے مردوں کی بھی ہمیں خبر دو کیونکہ وہ تو تمہارا ہی مال ہے (یعنی مردوں کا جو حصہ بند کیا جائے گا ہم تمہیں کو واپس کر دیں گے)۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ مجھے میری دایہ ابو بکر ابن حزم کے پاس لے گئی انہوں نے میرے ہاتھ پر ایک دینار رکھ دیا میں بچہ تھا ۱۰ اہ میں پیدا ہوا تھا سال آئندہ ہمیں ایک اور دینار دیا گیا اس طرح دو دینار ہو گئے۔ اسی سے میں نامزد کیا گیا۔

یہم بن واقد سے مروی ہے کہ میری ولادت ۹ھ میں ہوئی عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو میں تین سال کا تھا۔ میں نے ان کی تقسیم میں تین دینار پائے۔

الجار کے غلہ کی تقسیم کا طریقہ کار:

محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے الجار کے غلے کی تقسیم میں لوگوں میں برابری کی الجار کا غلہ زیادہ سے زیادہ فی کس ساڑھے چار اروب ہوتا تھا (ایک ارب ۲۴۰ صاع اور ایک صاع ۲۱۳/۳ سیر)۔ فلح بن حمید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے الجار کے غلے کی تقسیم میں صرف ان لوگوں میں برابری کی جن کے لیے حصہ مقرر کیا گیا تھا اور وہ شخص جس کو اس (حصے یا تقسیم) سے پہلے کچھ ملتا تھا وہ اس کو لیتا رہا۔ کیونکہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بھی الجار کے غلے میں لوگوں کے درمیان کمی بیشی کی تھی۔

ابراہیم بن یحییٰ سے مروی ہے کہ الجار کے غلے میں میرے بیس ارب تھے جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو وہ قائم رکھے گئے انہوں نے میرے ان اعزہ میں برابری کی جن کے لیے حصہ مقرر کیا۔

ابراہیم بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم کو عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے سے رات کو بھی اسی طرح کام کرتے دیکھا جس طرح وہ دن کو کرتے تھے۔

ادائے حقوق کے لئے شب بیداری:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عشاء کی نماز پڑھ کے بیت المال سے شمع منگاتے کہ مسلمانوں کے معاملات و مقدمات میں فرمان لکھیں اور وہ ہر مقام پر بھیجا جائے جب صبح ہوتی تو ادائے حقوق کے لیے اجلاس کرتے اور صدقات مستحقین میں تقسیم کرنے کا حکم دیتے۔ جس شخص کو صدقہ دیا جاتا میں نے دیکھا کہ دوسرے سال اس کے پاس اتنے اونٹ ہوتے کہ ان پر زکوٰۃ عائد ہوتی۔

زکوٰۃ کی تقسیم:

مہاجر بن یزید سے مروی ہے کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بھیجا ہم نے لوگوں میں زکوٰۃ تقسیم کی میں نے لوگوں کو اس حالت میں دیکھا کہ دوسرے سال ان سے زکوٰۃ وصول کی گئی جن کو زکوٰۃ دی گئی تھی۔

میں عمر کو دیکھا کرتا تھا کہ اپنے اعزہ کو یا اپنی ذاتی ضرورت کے متعلق کچھ لکھتے تو بیت المال کی شمع اٹھالینے کا حکم دیتے اور دوسری شمع منگاتے (جوان کی ذاتی تھی)۔

میں انہیں دیکھتا تھا کہ اپنے کپڑے خود دھویا کرتے اور اتنی دیر ہمارے پاس نہ آتے ان کے پاس سوائے اس کے اور کپڑے نہ تھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی نئی بات نہیں کی، میں نے ان کی ایک دہلیز دیکھی جو ٹوٹ گئی تھی اس کی مرمت کے بارے میں کہا گیا تو کہا کہ اے مزاحم کیا مناسب نہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیں اور دنیا سے چلے جائیں اور کوئی نیا کام نہ کریں۔

انہوں نے ہر سرزمین میں طلاء کو (جو انگور کے عرق کو دو حصے جلا کر اور ایک حصے باقی رکھ کر بنایا جاتا تھا) حرام کر دیا تھا۔ عبداللہ بن العلاء بن زبر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کئی سال گزریں گے کیونکہ میں نافرمانوں میں تھا اور میری عطاء روک دی گئی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے میری عطا جاری کر دی اور حکم دیا کہ گزشتہ عطاء بھی مجھے دی جائے۔

ابن سیرین رضی اللہ عنہ کے وظیفہ کی بحالی:

خلید بن دراج رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حسن و ابن سیرین کو بلا کر ان دونوں سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری جو عطاءیں روک دی گئی تھیں میں جاری کرتا ہوں، ابن سیرین نے کہا کہ اگر یہی اہل بصرہ کے ساتھ کیا جائے تو میں بھی منظور کرتا ہوں، ورنہ نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ مال میں گنجائش نہیں ہے، حسن نے (بے چون و چرا) قبول کر لیا۔

ابراہیم بن یحییٰ سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ خارجہ سے جو روک دیا گیا تھا وہ انہیں دیوان سے دیا جائے، خارجہ ابو بکر بن حزم کے پاس گئے اور کہا کہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ امیر المؤمنین پر اس کی وجہ سے حجت قائم کی جائے کیونکہ میرے مثل اور لوگ بھی ہیں۔ اگر اس معاملے میں امیر المؤمنین ان سب کو شامل کر دیں تو میں بھی منظور کروں گا، اور اگر انہوں نے اس میں مجھے مخصوص کیا ہے تو میں ان کے لیے اسے پسند نہیں کرتا، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ مال میں اس کی گنجائش نہیں، گنجائش ہوتی تو میں ضرور کرتا۔

قیدیوں کے لیے وظائف:

ابی بکر بن حزم سے مروی ہے کہ ہم لوگ فرمان عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مطابق قیدیوں کے عطاء کا انتظام کرتے تھے قیدی اپنی عطاء لینے نکلتے اور عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے لکھا کہ جو تھوڑے ہی دن سے غائب ہو تو دفتر میں (اس کی عطاء) دے دو، جس کا پتہ نہ ہو اس کے آنے تک یا اس کی موت کی خبر آنے تک اس کی عطا ملتوی کر دو، بذریعہ وکیل حیات نامہ پیش کرے (اس کی عطاء) اس کے وکیل کو دے دو۔

مقروض کی طرف سے قرض کی ادائیگی:

عیسیٰ بن ابی عطاء سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا کہ انہوں نے بد یونین کے حصے سے ایک مقروض کی جانب سے چھتر دینار ادا کیے۔

یعقوب بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ عاصم بن عمر بن قتادہ اور بشیر ابن محمد، عبداللہ بن زید بن عبدالرحمن بن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آئے اور خنصرہ میں ان سے ملے، دونوں نے اپنے قرض کا ذکر کیا تو انہوں نے

نے ہر ایک کی جانب سے چار چار سو دینار ادا کیے پروانہ جاری ہو گیا کہ ان کو بنی کلب کی زکوٰۃ میں سے جو بیت المال میں بچی ہوئی رکھی ہے دیا جائے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ یہ بچی ہوئی زکوٰۃ وہ تھی کہ بنی کلب میں کوئی ایسا شخص نہیں پایا گیا جس کی جانب سے قرض ادا کیا جاتا، اس کا زائد حصہ بطور عزل (بقیہ) کے بیت المال میں داخل کر دیا گیا کہ اس سے مدیونین کی جانب سے قرض ادا کیا جائے اس (بچی ہوئی زکوٰۃ) کا مطلب یہی ہے۔

عبدالرحمن بن جابر سے مروی ہے کہ قاسم بن خیمہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے اپنا قرض ادا کرنے کی درخواست کی، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تمہارا قرض کتنا ہے انہوں نے کہا، نوے دینار، انہوں نے کہا کہ مدیونین کے حصے میں سے ہم نے اسے تمہاری جانب سے ادا کر دیا۔

عرض کی، امیر المومنین مجھے تجارت سے بے نیاز کر دیجئے، پوچھا، کس طرح؟ عرض کی، فریضے (وظیفے یا حصے) سے انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ساٹھ درہم وظیفہ مقرر کر دیا، اور خادم و مکان کا بھی حکم دے دیا، قاسم بن خیمہ کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے مجھے تجارت سے بے نیاز کر دیا، میں ضرور اپنا دروازہ بند کر دوں گا۔ اور اس کے بعد مجھے کوئی فکر نہ ہوگی۔ ابو عقیل محمد بن اہل بن ابی حمزہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو انہوں نے میری جانب سے بنی کلاب کی زکوٰۃ سے دو سو پچاس دینار ادا کیے اور اس کے متعلق لکھ دیا۔

مال خمس کو مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام:

طلحہ بن عبید اللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ہمیشہ یہی رائے رہی اور جو ان کے مشیر تھے ان کی بھی یہی رائے تھی کہ جو خلیفہ ہو اس پر لازم ہے کہ خمس کا مال مستحقین خمس ہی پر خرچ کرے، وہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو اس خمس میں غور کیا، اس کو انہوں نے پانچوں مقامات میں خرچ کیا (یعنی ایک حصہ اللہ و رسول کا اور چار حصے غنیمت حاصل کرنے والوں کے) انہوں نے خمس میں اہل حاجت کو ترجیح دی، خواہ وہ کہیں بھی تھے، اگر حاجت (ہر جگہ) یکساں ہوتی تو خمس کی مقدار تک اس میں وسعت کر دیتے۔

مہاجر بن یزید سے مروی ہے کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ مال خمس میں لونڈی غلام بھی ان کے پاس لائے جاتے، اکثر میں نے دیکھا کہ وہ ان کو ایک ہی قسم میں رکھتے تھے، میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے اس پانی کے متعلق پوچھا جو راستے میں رکھا جاتا ہے اور اسے خیرات کیا جاتا ہے کہ میں اسے پیوں، انہوں نے کہا ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں، میں نے اپنے کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ میں والی مدینہ تھا، مسجد کے لیے پانی تھا جو خیرات کیا جاتا تھا، کسی فقیر کو نہیں دیکھا جو اس پانی کے پینے سے پرہیز کرتا۔

نو مسلموں سے حسن سلوک:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اکثر ان لوگوں کو مال دیا کرتے تھے جنہیں اسلام کی رغبت دلائی جاتی تھی۔ عمر

بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک بطریق کو جس کو اسلام کی رغبت دلائی تھی ایک ہزار دینار دیئے۔ ابوالجوریہ البحرمی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے دشمن کے ایک شخص کا فدیہ لیا جس کو ایک لاکھ درہم کے عوض واپس کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کا حکم تھا کہ اہل شہر پر مسافروں کی مہمان نوازی لازم نہیں (خلافت کی جانب سے اس کا انتظام تھا)۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے لکھا کہ امام کے حصے کے علاوہ ایک تہائی سے زائد نہ دیا جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے لکھا کہ ترکی گھوڑوں کو عربی گھوڑوں میں ملا دو (یعنی تقسیم غنیمت میں دونوں قسموں کو یکساں سمجھو)۔ نافع سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما جب خلیفہ تھے تو تمام اطراف میں حکام کو لکھا کہ چودہ سال والے کو جنگ میں نامزد نہ کریں اور پندرہ سال والے کو جنگ میں نامزد کریں۔

محمد بن بشر بن حمید سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے سنا کہ جب عطا نکالتے تو اپنے حکام کو لکھتے کہ جس شخص کے سودینار ہوں اس سے سوائے عربی گھوڑے اور زرہ اور تلوار اور تیرو نیزہ کے اور کچھ نہ قبول کیا جائے۔
مرتد کی سزا کا نفاذ:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مرتد سے تین دن تک توبہ کا مطالبہ کیا جائے، اگر توبہ کر لے تو خیر ورنہ اس کی گردن ماری جائے۔

سنگین جرائم پر کڑی سزائیں:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت میں سلطان کو (سزا کا) اختیار دیا گیا ہے:

﴿ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ﴾

”جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرتے ہیں (یعنی اس کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں) اور زمین میں فساد برپا کرتے پھرتے ہیں تو ان کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں ادھر ادھر سے کاٹ دیئے جائیں یا ملک سے نکال دیا جائے۔“

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ شہر کے اندر جنگ نہ ہونا چاہیے۔

ظالم اور فریبی کی سزا:

عثمان بن سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو جب وہ خلیفہ تھے کہتے سنا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے والوں کو اور نہ کسی والی کو ان میں کچھ گنجائش ہے وہ دونوں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں، جن کو والی قائم کرے ایک یہ کہ ملک میں ظلم و فساد کی وجہ سے جو قتل کیا جائے دوسرے وہ جو فریب سے قتل کیا جائے۔

قیدی عورت سے نکاح کی ممانعت:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیدی عورت سے جب تک وہ قید ہے ہرگز نکاح نہ کیا جائے۔ سلیمان بن حبیب

سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قیدی اپنے مال میں جو تصرف کرے اسے جائز رکھو۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب آدمی جنگ میں اپنے گھوڑوں کی پیٹھ پر مال کر رہا ہو تو وہ اپنے مال میں جو تصرف کرے وہ جائز ہے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ذمی کا (کسی کو) امان (ذینا) جائز نہیں۔ سہیل الاعشی سے مروی ہے کہ ملک روم میں ہمیں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان پڑھ کر سنایا گیا جس میں انہوں نے ہمارے والی کو قلعے پر بمبلیق نصب کرنے کا حکم دیا تھا سالم بن عبد اللہ میرے پاس فرمان کو سن رہے تھے مگر انہوں نے اسے ناپسند نہیں کیا۔ صالح بن محمد بن زائدہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ قلعوں میں دشمن پر دھواں (غاز) چھوڑنے میں حرج نہیں سمجھتے تھے۔
مسلم اور ذمی جاسوسوں کو سزا:

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ملک روم میں ان کے پاس دو جاسوسوں کو لایا گیا، جن میں ایک مسلمان اور ایک ذمی تھا انہوں نے ذمی کو قتل کر دیا اور مسلمان کو سزا دی۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جانور کے ہاتھ پاؤں کاٹنے سے منع کیا جب وہ کھڑا ہو۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لکھا کہ معدن سے تمس نہ لیا جائے بلکہ زکوٰۃ لی جائے۔ قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے اچھا کیا جو انہوں نے معدن سے زکوٰۃ لی، پہلے اسی طرح تھا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پیر نے کو جائز رکھا۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر میں تمس ہے۔ اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے ان کی آخر عمر میں سنا کہ عمر میں کچھ (زکوٰۃ وغیرہ) نہیں ہے۔
قاصد اور وکیل کا مال غنیمت کا حق:

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قاصد اور وکیل لے جانے والا اور وکیل جو لشکر سے بھیجے جائیں، مسلمانوں کے ساتھ (غنیمت میں) ان کے حصے لگائے جائیں گے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس شخص کے ہاتھ مال غنیمت بیچنے کا حکم دیتے تھے جو زائد قیمت دے۔ عمر بن شراحیل سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ سامری ^۱ فرقے کے ذبیحوں میں کوئی حرج نہیں۔ صالح بن محمد سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ (غنیمت میں ایک شخص کے) دو گھوڑوں کا حصہ لگایا جائے گا، ان دو کے علاوہ اور گھوڑے بھی ہوں تو اسب جہیت سمجھے جائیں گے۔

عبد العزیز بن عمر نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کی خلافت کے زمانے میں گھوڑوں کی دوڑ ہوتی تھی۔ خالد بن ربیعہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جب صائفہ (جہاد موسم گرما) کا وقت آئے تو کسی شخص کو کفار کے

① سامری یہودیوں کا ایک خاص فرقہ، جن کی تورات علیحدہ ہے اور عام یہودیوں سے بعض عقائد میں بھی مختلف ہیں، نابلس میں ان کی آبادی ہے۔

اور روغن زیتون سے تمہاری طبیعت کیسے بھرتی ہے انہوں نے کہا کہ میں اس میں خمیر کر دیتا ہوں جب مجھے اس کی اشتہا ہوتی ہے تو کھا لیتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ اسی روز سالم رضی اللہ عنہ کو بخارا آ گیا اور مدینے آنے تک برابر بخارا میں مبتلا رہے۔

وفات:

عبدالحکیم بن عبداللہ بن ابی فردہ سے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات آ خرزی الحجۃ ۱۰ھ میں ہوئی اس روز ہشام بن عبدالملک (خلیفہ) مدینے ہی میں تھا اس نے اس سماں لوگوں کو حج کرایا تھا پھر وہ مدینے آیا تو سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات میں شریک ہو گیا اسی نے ان پر نماز پڑھی۔

تجہیز و تکفین:

خالد بن القاسم سے مروی ہے کہ ہشام بن عبدالملک نے لوگوں کی کثرت کی وجہ سے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی نماز جنازہ یثرب میں پڑھی جب ہشام نے یثرب میں بھی ان کی کثرت دیکھی تو اس نے ہشام بن ابراہیم المخزومی کو حکم دیا کہ ان میں سے چار ہزار آدمی جہاد کے لیے منتخب کر لیے جائیں اس سال کا نام عام الاربعۃ آ لاف یعنی سال چار ہزار رکھ دیا گیا جب لوگ گرمائی لشکر میں داخل ہوتے تو چار ہزار آدمی مدینے سے ساحلوں کی طرف روانہ ہو جاتے اور لوگوں کی واپسی ان کے گرمائی لشکر سے نکلنے تک وہیں رہتے۔ ابوسلمہ بن عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جس روز سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی میں نے جعفر بن سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادر اتار دی اور صرف کرتا پہننے ہوئے روانہ ہوئے مجھے قاسم بن محمد رضی اللہ عنہ نے ان کے پاس بھیجا کہ تم ان سے کہو کہ اپنی چادر اوڑھ لیں قاسم کی بصارت اس زمانے میں جا چکی تھی مگر انہیں اس (چادر اتارنے) کی اطلاع کر دی گئی تھی۔

عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبداللہ بن قریظہ بن رزاح بن عدی بن کعب بن لوی ان کی والدہ صفیہ بنت ابی عبید بن مسعود ابن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقده بن غیرہ بن عوف بن قسی تھیں اور یہی قسی ثقیف تھے صفیہ کی والدہ عاتکہ بنت اسید بن ابی العیض بن امیہ تھیں اور عاتکہ کی والدہ نذیب بنت ابی عمرو بن امیہ تھیں۔

عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے یہاں عمر پیدا ہوئے ان کی والدہ ام سلمہ بنت الخطاب بن ابی عبید بن مسعود تھیں۔ عبدالحمید و عبدالعزیز والی مدینہ اور عبدالرحمن و ابراہیم اور ام ابراہیم ان سب کی والدہ ام عبداللہ بنت عبدالرحمن بن زید بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں۔ رباح بن عبداللہ ان کی والدہ جنابہ بنت عبداللہ بن عیاش بن ابی ربیعہ تھیں۔ عبداللہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما خز کا لباس پہنتے تھے ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنا ہاتھ ان پر رکھ کر نکیہ لگاتے اور خز کے کپڑے پر اعتراض نہ کرتے تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ کے وفات ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے شروع میں مدینے میں ہوئی ثقہ و قبیل الحدیث تھے۔

عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان کی والدہ ام ولد تھیں وہی سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی والدہ بھی تھیں۔ عبید اللہ بن عبداللہ کے

عورتوں کو ناپسند کرتے۔

خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کی بیٹی کی ایک چھوٹی سی چھلنی دیکھی جس سے وہ ان کے سامنے کھیلتی تھیں۔ عبدالرحمن بن الجبیر سے مروی ہے کہ ہم لوگ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے آغوش میں یتیم تھے وہ ہمارے پرانے کپڑے جمع کر کے کسی چیز میں پوشیدہ کر دیتے تھے۔

سچ کی تلقین:

ابو عبد الملک بن مروان بن جبر البزازی سے مروی ہے کہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہمارے پاس سات گز کپڑے کی تلاش میں آئے میں نے ان کے سامنے کپڑا پھیلا دیا اتفاق سے وہ سات گز سے کم تھا، انہوں نے کہا کیا تم نے مجھ سے کہا نہ تھا کہ سات گز کا ہے میں نے کہا ہم لوگ اس کا اسی طرح نام رکھ لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اسی طرح تو جھوٹ ہو جاتا ہے۔

منکرین تقدیر پر لعنت:

عکرمہ بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کو ان قدریوں پر لعنت کرتے سنا جو قدر (تقدیر) کی تکذیب کرتے ہیں تا وقتیکہ وہ لوگ اس (قدر) کے خیر و شر پر ایمان نہ لائیں (یعنی یہ نہ کہیں کہ بھلائی اور برائی سب اللہ ہی کی طرف سے ہے)۔

عکرمہ بن عمار سے مروی ہے کہ میں نے سالم رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جماعت کے قصہ گو وغیرہ کے پاس نہیں آتے تھے۔ موسیٰ المعلم سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ ہتھیلیاں بھر بھر کے کھجوریں کھاتے تھے۔

خود نمائی سے اجتناب:

عطاف بن خالد سے مروی ہے کہ میں سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے ساتھ کھڑا تھا ان کے پاس ایک لڑکے کو لایا گیا جس کے ہمراہ اور بھی لڑکے تھے مگر ان میں سخت تروہی تھا اس نے اپنی تہبند سے ایک تاگا گھسیٹا اور کاٹ کے اسے اپنی دو انگلیوں کے درمیان جمع کیا اس میں دو یا تین مرتبہ پھونکا پھر اسے کھینچا تو بالکل درست تھا کوئی نقص نہ تھا، سالم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر اس کے معاملے کا مجھے کچھ اختیار ہوتا تو میں اسے سولی دے دیتا۔

خالد بن القاسم البیاضی سے مروی ہے کہ میں نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی آستنیوں کو دیکھا کہ ان کی انگلیوں کے برابر تھیں۔ عبید اللہ بن عمر بن حفص سے مروی ہے کہ سالم رضی اللہ عنہ قرآن کی تفسیر نہیں کرتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سالم رضی اللہ عنہ نے ابو ایوب انصاری اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما اور اپنے والد سے روایت کی ہے میں نے عبداللہ بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو سنا ہے کہ وہ تعمیر کعبہ کے بارے میں اپنے والد کو عاکشہ رضی اللہ عنہما کی روایت سنا تے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری قوم نے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں میں کمی کر دی۔ سالم رضی اللہ عنہ ثقہ و کثیر الحدیث متقی اور بلند مرتبہ لوگوں میں سے تھے۔

غذا اور خوراک:

عبید اللہ بن عمر بن حفص سے مروی ہے کہ یوم عرفہ میں ہشام بن عبد الملک نے سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کو صرف دو کپڑوں میں دیکھا اور اچھی حالت میں پایا پوچھا کہ اسے ابو عمر تمہاری غذا کیا ہے انہوں نے کہا کہ روٹی اور روغن زیتون ہشام نے کہا کہ روٹی

پیچھے بغیر قوت و آدمی و لشکر و سامان کے ہرگز نہ داخل ہونے دینا۔
مسلم قیدیوں کی رہائی کے لئے فدیہ کی ادائیگی:

ربیعہ بن عطاء سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے میرے ہمراہ فرمان لکھا اور مال ساحل عدن بھیجا تا کہ میں مرد و عورت اور غلام و ذمی کا فدیہ ادا کروں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فدیے میں ایک مسلمان کے عوض دس روپی (کافر) دیئے اور مسلمان کو لے لیا۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ایک قیدی لایا گیا جس کو مسلمہ بن عبدالملک نے گرفتار کیا تھا، خبر آئی کہ اس کے اعزہ نے ان سے درخواست کی ہے کہ وہ لوگ سو مثقال (سونا) اس کا فدیہ دیں گے، عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس کر دیا اور سو مثقال (سونا) لے لیا، (ایک مثقال: ۳۰/۳۱ ماشہ)۔

ربیعہ بن عطاء سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو سنا کہ جب وہ خلیفہ تھے تو قیدیوں کا قتل کرنا ناپسند کرتے تھے وہ لوگ غلام بنائے جاتے تھے یا آزاد کر دیئے جاتے تھے۔

چور و زانی کی سزا:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص دارالحرب میں چوری کر کے وہاں سے نکل آئے گا تو (بھی) اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یزید بن ابی سمیہ سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ انہوں نے ایک شخص کو جس نے دارالحرب میں کسی پر (زنا) کی تہمت لگائی تھی، جب وہ لوگ وہاں سے نکلے تو اسی درے کی حد لگائی (یعنی اسی تازیانے کی سزا دی)۔

شرابی کو کوڑوں کی سزا:

حازم بن حسین سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خنصرہ میں دیکھا کہ ایک شخص لایا گیا جس کے خلاف یہ شہادت دی گئی کہ دارالحرب میں شراب پی انہوں نے اس کو اسی تازیانے مارے۔

ابی صخر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چور کو لایا گیا جس نے قبل از تقسیم مال غنیمت میں سے چوری کی تھی، پوچھا کیا وہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے مال غنیمت پر گھوڑا دوڑایا ہے (یعنی جنگ میں شریک ہوا ہے) کہا گیا کہ نہیں، انہوں نے اس کا ہاتھ کاٹ دیا۔

مذہر بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو وابق میں دیکھتا تھا کہ جب وہ پوری نماز پڑھتے تھے تو لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھاتے تھے اور جب دو رکعتیں پڑھتے تھے (یعنی مسافر ہونے کی وجہ سے قصر کرتے تھے) تو جمعے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسے شہر پر گزرتے جہاں جمعہ پڑھایا جاتا تھا (تو وہ بھی جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہاد کا پورا چلہ (رباط) چالیس دن ہے۔ ابان بن صالح سے مروی ہے کہ میں نے وابق میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ہم لوگ رباط میں ہیں۔

عبداللہ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ سوائے ان آویزشوں کے لوگ کہیں ہلاک

نہ ہوں گے وہ لکھا کرتے تھے کہ محل آویزش تک سوائے جماعت و صاحب قوت کے اور کوئی نہ جائے ان میں سے بعض بعض کو اختیار کرے کہ سب واپس آئیں یا سب ہلاک ہو جائیں۔

مجاہدین کو ہدایات:

صفوان بن عمرو سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جب وہ خلیفہ تھے اپنے عامل کے پاس فرمان آیا کہ رومیوں کے کسی قلعے پر اور ان کی کسی جماعت سے ہرگز ہرگز قتال نہ کرنا، تا وقتیکہ انہیں اسلام کی دعوت نہ دے دو اگر وہ قبول کر لیں تو باز رہو اگر انکار کریں تو جزیہ ہے اور اگر جزیہ سے بھی انکار کریں تو ان سے مساوی طور پر جنگ کرو۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میرے والد کی تلوار کے قبضے پر چاندی چڑھی ہوئی تھی اسے انہوں نے اتار ڈالا اور اس پر لوہا چڑھا دیا۔ خالد بن القاسم سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو چیتوں پر سوار ہوتے دیکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فتح کے وقت بلند آواز سے تکبیر کہتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم جس کو امن دے دیں خواہ وہ جس زبان میں ہو اسے امن ہے۔

مسلمان کو امان دینے کا حق ہے:

منذر بن عبید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس ذمی کے بارے میں جو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کرے اور دشمن کو پناہ دے دے مجھے لکھا کہ اس کا امان دینا جائز نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے کوئی ادنیٰ مسلمان بھی امان دے سکتا ہے اور یہ (ذمی) مسلم نہیں۔

کھیتیاں برباد کرنے کی ممانعت:

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے تو دشمن کی کھیتی پر لشکر کے اچانک حملے سے پناہ مانگتے تھے اور کہتے تھے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی دشمن کی کھیتی پر لشکر کے اچانک حملے سے بیزاری ظاہر کرتے تھے۔ عیاش بن سلیم سے مروی ہے کہ اس ذمی (کافر رعایا) کے بارے میں جو کینسہ کے متعلق وصیت کر کے اپنے مال میں سے یہود یا نصاریٰ کے لیے کچھ وقف کر دے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جائز ہے۔

نو مسلم سے جزیہ نہ لینے کا حکم:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اگر کوئی اس حالت میں اسلام لائے کہ (اس کا) جزیہ ترازو کے پلڑے میں ہو تو وہ اس سے نہ لیا جائے گا۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ذمی جو سال پورا ہونے سے ایک دن بھی پہلے اسلام لائے اس سے جزیہ نہ لیا جائے۔

قیدیوں سے حسن سلوک:

موسیٰ بن عبیدہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ قیدیوں کی نسبت غور کیا جائے اور خطرناک لوگوں سے ضمانت لی جائے ان لوگوں کے گرمی اور جاڑے کی خوراک کے لیے بھی لکھا، موسیٰ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ ہمارے پاس ان لوگوں

کو ماہانہ خوراک دی جاتی تھی اور ایک جوڑا جاڑے میں دیا جاتا تھا اور ایک گرمی میں۔

یحییٰ بن سعید مولائے مہری سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے امرائے لشکر کو لکھا کہ جو لوگ قید خانوں میں ہیں۔ ان کے حال پر نظر کرو ایسے لوگ جن کے ذمے کوئی حق ہو انہیں اس وقت تک قید نہ کرو جب تک کہ وہ حق ثابت نہ ہو جائے جس کا معاملہ دشوار ہو مجھے لکھو خطرناک لوگوں سے ضمانت لو کیونکہ قیدان کے لیے عذاب ہے سزا میں حد سے نہ بڑھو ایسے مریضوں کا خیال رکھا جائے جن کا کوئی نہ ہو اور نہ ان کے پاس مال ہو جب تم کسی قوم کو قرض میں قید کرو تو ان کو اور بدمعاش (خطرناک) لوگوں کو ایک کوٹھری میں اور ایک ہی قید خانے میں نہ جمع کرو عورتوں کے لیے علیحدہ قید خانہ بناؤ۔ جس کو قید خانے کا داروغہ بناؤ غور کر لو کہ وہ ایسا شخص ہو جس پر بھروسہ کیا جاسکے اور رشوت نہ لیتا ہو کیونکہ جو رشوت لیتا ہے وہ وہی کرتا ہے جو اس کو (رشوت دینے والے کی طرف سے) کہا جاتا ہے۔

عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ابو بکر بن عمرو بن حزم کو لکھا کہ ہر ہفتہ قیدیوں کا معائنہ کریں اور خطرناک (بدمعاش) لوگوں سے ضمانت لے لیں۔

حجاج سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عبدالحمید کو بدمعاش (خطرناک) لوگوں کے بارے میں لکھا کہ انہیں قید خانے کا پابند کر دیں جاڑے میں ایک لہادہ اور گرمی میں دو چادریں انہیں اڑھائیں وغیرہ وغیرہ جو ان لوگوں کے مناسب تھا۔ ابی بکر بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ بدمعاشوں اور خونبوں کو بیڑی میں جکڑ دو میں نے لکھ کر دریافت کیا کہ ان لوگوں کے کیسی بیڑی ڈالی جائے عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ بے شک اگر اللہ چاہے گا تو انہیں بیڑی سے زیادہ سخت چیز میں مبتلا کرے گا ان کے ایسی بیڑی ڈالی جائے کہ جب وہ عذر کی حالت میں ہو تو اس پر بیڑی آسان ہو لیکن بیڑی کا جواز تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سنا ہے کہ انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو جن میں تیس بن مکشوح المرادی وغیرہ تھے میرے پاس بیڑی ڈال کے بھیجا جائے۔

عورتوں کے حمام جانے کی ممانعت:

اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان آیا ہمیں پڑھ کر سنا یا گیا کہ حمام کے اندر بغیر تہبند کے نہ جانا چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ حمام والے کو اور جو شخص برہنہ اندر جاتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا جاتا تھا کہ قربانیاں قبلہ رخ کرو نافع بن جبیر میری طرف متوجہ ہوئے میں ان کے پاس تھا انہوں نے کہا کہ اس سے کون ناواقف ہے۔

معتقل بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ مردوں میں سے کوئی شخص حمام میں بلا تہبند کے نہ داخل ہو اور عورتیں قطعاً نہ جائیں۔

باغی خوارج سے جنگ کا حکم:

عبدالرحمن بن ابی زناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں عراق میں خوارج کی ایک

جماعت نے بغاوت کی میں اس زمانے میں عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید عامل عراق کے ہمراہ عراق ہی میں تھا جب ان لوگوں کے معاملے کی اطلاع عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو انہوں نے عبدالحمید کو فرمان لکھا کہ وہ ان لوگوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں جب اچھی طرح دعوت دے چکے اور اثر نہ ہوا تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ان سے جنگ کرو کیونکہ اللہ نے جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں ان لوگوں کے لیے کوئی سند نہیں بنائی جس سے وہ ہم پر حجت کر سکیں۔

عبدالحمید نے ان کی جانب ایک لشکر روانہ کیا جس کو خوارج نے شکست دے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمہ بن عبدالملک کو اہل شام کے ایک لشکر کے ساتھ ان لوگوں کی جانب روانہ کیا اور عبدالحمید کو لکھا کہ تمہارے لشکر نے جو بدکاروں کا لشکر ہے جو کچھ کیا مجھے معلوم ہوا میں نے مسلمہ بن عبدالملک کو تمہارے پاس بھیجا ہے لہذا ان کے اور ان لوگوں کے درمیان راستہ صاف کر دو۔ مسلمہ نے شامی لشکر کے ہمراہ ان لوگوں سے مقابلہ کیا جنگ شروع ہی ہوئی تھی کہ اللہ نے ان کو خوارج پر غالب کر دیا۔

عون بن عبداللہ بن عتبہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں مجھے ان خوارج کی جانب بھیجا جنہوں نے ان کے خلاف بغاوت کی تھی میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی کہ وہ کیا چیز ہے جس سے تم ناراض ہو انہوں نے کہا کہ ہم صرف اس لیے ناراض ہیں کہ وہ اپنے اہل بیت پر جو ان سے پہلے ہوئے ہیں لعنت نہیں کرتے۔ یہ ان کی مدعا ہے (دینی بے حیائی) ہے عمر رضی اللہ عنہ ان کے قتال سے باز رہے یہاں تک کہ ان لوگوں نے لوگوں کا مال لیا اور رہزنی کی عبدالحمید نے اس کے متعلق لکھا تو عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جب ان لوگوں نے مال لیے اور راستے کو خوفناک کر دیا تو ان سے قتال کرو کیونکہ وہ ناپاک ہیں۔

عون بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ خوارج کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی دعوت دی جائے۔ حازم بن حسین سے مروی ہے کہ میں نے خوارج کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان پڑھا جو ان کے عامل کے نام تھا کہ اگر اللہ تم کو ان لوگوں پر فتح دے اور غالب کرے تو تم جو مال و اسباب ان کا پانا ان کے مالکوں کو واپس کر دینا۔

قیدی خوارج کے لیے فرمان:

منذر بن عبید سے مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید کے نام عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان آیا کہ جن خوارج کو گرفتار کرنا انہیں قید کر دینا یہاں تک کہ وہ لوگ راہ راست پر آجائیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ ان کی قید میں خوارج کی ایک جماعت تھی۔

کثیر بن زید سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خنصرہ آیا دیکھا کہ وہ مؤذنون کو بیت المال سے تنخواہ دیتے تھے۔

منذر بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اپنے مؤذن سے کہتے سنا کہ (کبیر) اقامت جلدی کہا کرو اور اس میں ترجیح نہ کرو۔

زمانہ خلافت میں نماز کا اہتمام:

سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے میں نے ان کے مؤذن کو خنصرہ میں دیکھا کہ وہ

ان کے دروازے پر سلام کرنا تھا کہ ”السلام علیک امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ“ وہ سلام ختم کرنے نہ پاتا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز کو نکل آتے تھے۔

ابی عبیدہ مولائے سلیمان سے مروی ہے کہ میں نے خناصرہ میں مؤذن کو عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر کھڑے ہوئے دیکھا وہ کہتا تھا کہ السلام علیک امیر المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز کو آئیے نماز کو آئیے نماز تیار ہے اللہ آپ پر رحمت کرنے میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ مؤذن کو دوبارہ کہنے کی ضرورت پڑی ہو اکثر ہم ان کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہیں مگر جب مؤذن نے ”قد قامت الصلوۃ“ کہا تو انہوں نے کہا کہ لوگو کھڑے ہو جاؤ۔

میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت میں قبلے کی طرف رخ کرنے والوں اور اس کی تعظیم کرنے والوں کے حلقے میں دیکھا کہ مؤذن اذان کہتا تھا تو لوگ اپنے حلقوں سے کھڑے ہو جاتے تھے اور نماز کی اقامت کبھی جاتی تو لوگ اقامت کے وقت کھڑے ہوتے تھے میں نے یہ مغرب میں دیکھا۔

مسلم بن زیاد مولائے ام حبیبہ رضی اللہ عنہما زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے اس اندیشے سے تیرہ مؤذن تھے کہ وہ لوگ ان کے نکلنے سے پہلے اذان ختم نہ کر دیں مسلم بن زیاد نے کہا کہ میں نے سوائے ایک مرتبہ کے ان لوگوں کو مل کر اذان کہتے کبھی نہیں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ اکثر پہلی اذان میں نکلتے تھے اور کبھی دوسری اذان میں اور کبھی تیسری اذان میں۔

عمرو بن المہاجر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ کلمات اذان دو مرتبہ ہیں اور کلمات اقامت ایک ایک مرتبہ میں نے سالم ابن عبداللہ اور ابوقلابہ کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس حالت میں دیکھا ہے کہ ان کی اذان دو مرتبہ اور اقامت ایک ایک مرتبہ ہوتی تھی مگر یہ دونوں ان سے اختلاف نہ کرتے تھے۔

فطری حیاء اور طہارت:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر میں تہ بند پہن کے غسل کرتے تھے۔ یزید بن ابی مالک سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو تانبے (کے برتن) میں وضو کرتے دیکھا ہے منذر بن عبید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وضو کر کے رومال سے اپنا منہ پونچھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو کرتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ اس چیز کے کھانے سے بھی وضو کرتے تھے جس کو آگ نے چھوا ہے یہاں تک کہ شکر سے بھی۔

زہری سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ گرم پانی سے وضو کرتے اور اسے پیتے تھے اس کی وجہ سے وضو نہ کرتے تھے۔ آزاد کردہ کنیز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ چھتے کی طرف جاتے تھے تو اپنا سر ڈھانک لیتے تھے۔

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اپنے بھائی سمیل بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ پر نماز جنازہ پڑھتے دیکھا

انہوں نے ہر تکبیر میں دونوں ہاتھ شانے تک اٹھائے اور داہنی طرف آہستہ سے سلام پھیرا، میں نے انہیں جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا، اس روز تابوت دونوں پایوں کے درمیان اٹھائے ہوئے تھے۔

بذاتے خود نماز کی امامت:

میں نے خنصرہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھی پہلی تکبیر میں انہیں آواز کو بلند کرتے اور قرأت کرتے ہوئے سنا، صف اول کو الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک يوم الدين کی آہستہ قرأت سنا رہے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے تھے جب وہ واپس ہوئے تو میں نے (اسحاق نے) پوچھا کہ یا امیر المؤمنین کیا آپ بسم اللہ کو آہستہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں آہستہ پڑھتا تو ضرور بلند آواز سے بھی پڑھتا۔

عمر بن عثمان بن ہانی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو جمعے کے دن خطبے میں اتنا جہر (بلند آوازی) کرتے دیکھا کہ اکثر اہل مسجد ان کا خطبہ سن لیتے تھے۔ حالانکہ وہ چلانا نہ تھا۔

سعید بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے والی دمشق عثمان ابن سعد کو لکھا کہ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو قرأت سناؤ اور خطبہ سناؤ تو اسے سمجھاؤ۔

جمعہ کے دو خطبے:

عمر بن المہاجر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جمعے کے دن دو خطبے پڑھتے اور بیٹھ جاتے، دونوں کے درمیان قدرے سکوت کرتے، پہلا خطبہ ہمیں بیٹھ کر سنا تے، ہاتھ میں عصا ہوتا جس کو وہ اپنی رانوں پر رکھ لیتے، لوگوں کا گمان تھا کہ وہ عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پہلے خطبے سے فارغ ہو کر قدرے سکوت کرتے، پھر کھڑے ہو کر اسی عصا پر سہارا لگا کے دوسرا خطبہ پڑھتے، تھک جاتے تو اس پر سہارا نہ لگاتے اور اسے اٹھائے رہتے، جب نماز شروع کرتے تو اسے اپنے قریب رکھ دیتے۔ محمد بن المہاجر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جمعے کی نماز میں جب تشهد (التحیات) پڑھنے کے لیے بیٹھتے تو سلام پھیرنے تک عصا کو اپنی رانوں پر رکھے رہتے۔

عمر بن المہاجر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جمعے کے دن جب وہ سلام پھیرتے تو عصا کو اپنے کان تک لے جاتے اور اسے زمین پر ٹیکتے نہ تھے، مکان سے لاتے تو اسے اٹھائے رہتے، خطبہ پڑھتے تو اس پر سہارا لگا لیتے، اور خطبہ پورا کر کے نماز شروع کرتے تو اسے اپنے پہلو میں رکھ دیتے تھے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ سرخ رنگ کی جانماز اور فرش پر نماز پڑھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے جب وہ خلیفہ تھے مروی ہے کہ شفق وہ سفیدی ہے جو سونے کے بعد ہوتی ہے (اور اس کے بعد عشاء وقت آتا ہے)۔

عیدین میں معمولات:

اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو جو خنصرہ میں تھے دیکھا کہ شب عرفہ عصر کی نماز کے بعد واپس ہوئے اور اپنے مکان کو چلے گئے، مسجد میں بیٹھے مغرب کے وقت باہر آئے۔ یوم الاضحیٰ کو جب آفتاب طلوع ہو گیا تو

برآمد ہوئے اور خطبے میں تخفیف کی۔ عید الفطر میں انہوں نے اس کو زیادہ طویل کیا تھا، میں نے دیکھا کہ عید گاہ کی جانب زیادہ روانہ ہوئے۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں لکھا کہ تم لوگ جمعہ و عید کے لیے سوار ہو کر نہ جایا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ یوم عرفہ (۹ ذی الحجہ) کی ظہر سے ایام تشریق (۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ ذی الحجہ) کے آخروں کی نماز عصر تک تکبیر کہتے تھے۔

عبداللہ بن العلاء سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ہر نماز کے بعد تکبیر ”اللہ اکبر و اللہ الحمد“ تین بار کہتے سنا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔

عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خناصرہ میں دیکھا کہ عید گاہ پیدل جاتے، منبر پر چڑھ کر ٹھہر ٹھہر کے سات تکبیریں کہتے، ایک مختصر سا خطبہ پڑھتے، دوبارہ پانچ تکبیریں کہتے، پھر پہلے سے بھی مختصر خطبہ پڑھتے، میں نے دیکھا کہ ان کے پاس عید گاہ میں مینڈھالا لایا گیا، اس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور حکم دیا کہ تقسیم کر دیا جائے، اس میں سے کچھ بھی ان کے گھر نہیں گیا۔

عمرو بن عثمان بن ہانی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو بلند آواز سے تکبیر کہتے سنا کہ دوسرے سن سکیں، پہلی رکعت میں سات تکبیروں کے بعد قرأت کرتے، دوسری میں پانچ تکبیریں اور قرأت، پہلی رکعت میں ”ق والقرآن المجید“ اور دوسری میں ”اقتربت الساعة“ پڑھتے، ہر دو تکبیر کے درمیان دعا کرتے، اللہ کی حمد اور اس کی تکبیر کہتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے۔ عمرو بن عثمان بن ہانی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ عید میں جب منبر پر چڑھتے تو سلام کرتے۔

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ میں نے عید الفطر میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو جب وہ خلیفہ تھے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقف میں سے ہمارے لیے کھجوریں منگائیں اور کہا کہ عید گاہ جانے سے پہلے کھا لو، میں نے پوچھا کہ کیا اس معاملے میں کوئی چیز منقول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، مجھ سے ابراہیم ابن عبداللہ بن قارظ نے ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن تا وقتیکہ کچھ کھانہ لیتے (عید گاہ) نہ جاتے، یا کہا کہ آپ یہ حکم دیتے تھے کہ کوئی شخص (عید گاہ) نہ جائے تا وقتیکہ کھانہ لے۔

صدقہ فطر دینے کی تلقین:

عمرو بن عثمان بن ہانی سے مروی ہے کہ خناصرہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے جب وہ خلیفہ تھے عید الفطر سے ایک روز پہلے خطبہ پڑھا، جمعے کا دن تھا، انہوں نے صدقہ فطر کا ذکر کیا اور اس پر لوگوں کو ابھارا، کہا کہ ہر انسان پر ایک صاع کھجور اور دو مد گیہوں کا دینا ضروری ہے، جس کا صدقہ نہیں اس کی نماز بھی نہیں، عید الفطر کے روز انہوں نے اسے تقسیم کیا، انہیں آٹے اور ستودو دو مد دیئے جاتے تھے اور وہ اسے قبول کر لیتے تھے۔

یزید بن ابی مالک سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں افطار میں سب سے زیادہ عجلت اور سحری میں

تاخیر کو پسند کرتے، البتہ فجر میں شک ہوتا تو کھانے پینے سے باز رہتے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ بغیر علم کے قسامتہ پر قسم کھاتے ہیں تو انہوں نے ان سے قسم لی اور قتل کو معاف کر کے دیت (خون بہا) کر دیا (قسامتہ) یہ ہے کہ کسی محلے میں مقتول کی لاش پائی جائے اور قاتل کا پتہ نہ لگے تو مقتول کے وارث کے انتخاب پر محلے کے پچاس آدمیوں کو یہ قسم دی جائے گی کہ نہ ہم نے قتل کیا اور نہ ہمیں قاتل کا علم ہے، اس کے بعد خون بہا تمام اہل محلہ سے وصول کر کے مقتول کے ورثا کو دے دیا جائے گا۔

ایوب سے مروی ہے کہ ایک شخص بصرے میں قتل کیا گیا، سلیمان بن عبدالملک نے لکھا کہ پچاس آدمیوں کو قسم دو، اگر وہ قسم کھائیں تو اس کے بدلے قاتل کو قتل کر دو، مگر ان لوگوں نے نہ تو قسم دی اور نہ اس کو قتل کیا یہاں تک کہ سلیمان کی وفات ہو گئی اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، اس کے بارے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا گیا تو انہوں نے لکھا کہ اگر دو عدل والے اشخاص اس کے قتل پر گواہی دیں تو قاتل کو قصاص میں قتل کر دو، ورنہ قسامتہ کی وجہ سے اسے قتل نہ کرو۔

قسامتہ میں قسم کھانے والوں کی سزا:

عثمان التیمی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہمارے پاس ان کا فرمان آیا کہ جو شخص قسامتہ میں قسم کھائے اسے انیس تازیانے کی سزا دی جائے۔

ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں مجھے لکھا کہ علامات حرم کو از سر نو تعمیر کروں۔

عالم حج کو ہدایات:

عبدالرحمن بن یزید بن عقیلیہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ابوبکر بن حزم کو جن کو انہوں نے عالم حج بنایا تھا لکھا کہ تمہارے عمل کی ابتدا یوم الترویہ (۸/ذی الحجہ) سے ایک دن پہلے ہوتی ہے کہ تم لوگوں کو نماز ظہر پڑھاؤ اور تمہارے عمل کا آخری وقت یہ ہے کہ منیٰ کے آخری دن (۱۳/ذی الحجہ) آفتاب غروب ہو جائے، محمد بن عمر نے کہا کہ ہمارے نزدیک بھی یہی امر ہے۔

منیٰ میں تعمیرات کی ممانعت:

عبدالعزیز بن ابی رواد سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ۶۰۰ھ میں مکہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان آیا جس میں انہوں نے مکہ کے مکانات کے کرایے سے اور منیٰ میں عمارت بنانے سے منع کیا تھا۔ اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مکانات کے کرایے سے منع کرتے تھے۔

شراب پر سخت پابندی:

عمرو بن عثمان سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ منصف (انگوروں کا وہ عرق جس کو پکا کر نصف کر لیا جائے) شراب ہے۔

ہارون بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں خناصرہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ شراب کی مشکوں کو پھاڑ ڈالنے اور شیشیوں کے توڑ ڈالنے کا حکم دیتے تھے۔

سعید بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں لکھا کہ ذمی مسلمانوں کے شہروں میں شراب نہ لائیں وہ لوگ نہیں لاتے تھے۔

عبدالمجید بن سہیل سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خناصرہ آیا ایک مکان میں شرابیوں اور کینوں کی ایک جماعت تھی میں نے کو تو ال سے بیان کیا اور کہا کہ وہ لوگ شراب پر جمع ہیں ضرور وہ (شراب کی) دکان ہے 'شحنہ نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو لوگ مکانوں میں پوشیدہ ہیں انہیں چھوڑ دو۔ شرابیوں کو سزا لیں:

عبادہ بن نسی سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا ایک شخص کو شراب پینے کی سزا دے رہے تھے انہوں نے اس کے کپڑے اتار کے اسی تازیانے مارے میں نے دیکھا کہ بعض تازیانوں نے کھال چھاڑ دی اور بعض نے کھال نہیں چھاڑی اس سے کہا کہ اگر تو دوبارہ پئے گا تو تجھے ماروں گا اور توفیق نہ بن جائے تجھے قید میں رکھوں گا۔ اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین میں اس بارے میں دوبارہ پینے سے اللہ سے توبہ کرتا ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑ دیا۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں والی مصر کو لکھا کہ تم کسی سزا میں تازیانے سے تجاوز نہ کرنا سوائے اس کے کہ وہ حد ہو (حدودہ سزا ہے جو قرآن مجید نے معین کر دی ہے یہ اسی تازیانے ہیں)۔

جانور سے بدکاری کی سزا:

صحرا المدحی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت میں ایک ایسے شخص کو لایا گیا جس نے چوپایے سے بدکاری کی تھی انہوں نے اسے حد نہیں لگائی بلکہ حد سے کم مارا۔

ابوسلمہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ خناصرہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ایک ایسی جماعت میں لایا گیا جنہوں نے ایک ہی طہر میں ایک باندی سے صحبت کی تھی (دو حیضوں کے درمیان جو زمانہ گزرتا ہے وہ طہر کہلاتا ہے) انہوں نے ان لوگوں کو دردناک سزا دی اور اس کے بچے کے لیے قیافہ شناسوں کو بلایا۔

حق شفعہ کے متعلق احکام:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب شفعہ واقع ہو جائے اور حدیں مقرر کر دی جائیں اور راستے پھیر دیئے جائیں تو پھر شفعہ نہیں۔ زہری سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت میں عبدالحمید کو لکھا کہ قرب کی وجہ سے (شفعہ کا) حکم نہ دیں۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے ذمی کی موافقت میں شفعہ کا فیصلہ کیا۔

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ان کی خلافت میں دیکھا کہ شفعہ کے بارے میں غائب کو یہ حلف دیتے تھے کہ تم کو (اس مکان کا فروخت ہونا) نہیں معلوم ہوا اگر وہ خاموش رہا (تو خیر) اور اگر اس نے قسم کھالی تو

اسے حق شفقت دیتے تھے۔

عبدالرحمن بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو جب وہ خلیفہ تھے ایک تحریر لکھی جس میں خطرہ کے مقدمات تھے اس پر مہر لگا دی ان کا ساتھی اسے لے گیا اس پر کوئی گواہ نہ تھا مگر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے جائز رکھا۔

اسماء بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ صبح کے وقت تلاوت قرآن بہت کم ترک کرتے اور زیادہ دیر تک نہ کرتے۔ جویریہ ابن اسماء سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مزاحم میرے قرآن کے لیے ایک رحل لاؤ وہ ان کے پاس رحل لائے جس سے خوش ہو کر پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے ملا۔ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین میں خزانے میں گیا وہاں یہ لکڑی پائی جس سے میں نے رحل بنوائی انہوں نے کہا کہ جاؤ اور بازار میں اس کی قیمت معلوم کرو دیکھو تو لوگوں نے اس کی قیمت نصف دینار لگائی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر اطلاع دی انہوں نے کہا کہ تمہاری رائے میں اگر ہم بیت المال میں ایک دینار رکھ دیں تو اس سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے تو اس کی قیمت نصف دینار لگائی ہے حکم دیا کہ بیت المال میں دو دینار رکھ دو۔ جویریہ ابن اسماء سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو اس بات پر معزول کر دیا کہ اس نے (بسم اللہ) کا ہم لکھا اور سین نہیں بنائی۔

تقویٰ خوف خدا:

مغیرہ بن حکیم سے مروی ہے کہ مجھ سے فاطمہ بنت عبدالملک نے زوجہ عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے مغیرہ میری رائے میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ نمازی و روزہ دار ہوں مگر یہ کہ میں نے کوئی ایسا شخص دیکھا ہو جو عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہو تو ایسا کوئی نظر نہیں آیا جب وہ دن کی آخری نماز (یعنی) عشاء پڑھتے تھے تو اپنے آپ کو نماز کی جگہ ڈال کر دعا کرتے اور روتے یہاں تک کہ نیندان پر غالب آجاتی بیدار ہو کے پھر دعا کرتے اور روتے یہاں تک کہ نیند غالب آجاتی۔ صبح تک وہ اسی حالت میں رہتے تھے۔

خوراک میں سادگی:

ابن علاقہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے چند مصاحب تھے جو ان کے پاس حاضر رہتے اور مشورے دیتے عمر رضی اللہ عنہ ان کی سنتے تھے ایک روز وہ لوگ حاضر ہوئے مگر خلیفہ نے صبح کو برآمد ہونے میں دیر کر دی ان لوگوں نے آپس میں کہا معلوم ہوتا ہے کہ آج امیر المؤمنین کچھ خفا ہیں۔ یہ بات مزاحم نے سنی تو اندر گئے کسی سے کہہ کے انہیں بیدار کرایا اور مصاحبین کی گفتگو سے آگاہ کیا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو بار پائی کی اجازت دی جب وہ لوگ ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج شب کو چنا اور مسور کھا لیا اس نے میرے نفع کیا۔ بعض مصاحبین نے کہا کہ یا امیر المؤمنین اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے: "فکلوا من طیبات ما رزقناکم" (ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ) عمر رضی اللہ عنہ نے کہا افسوس ہے تم آیت کو اس کے راستے کے خلاف لے گئے اس کی مراد تو صرف طیب الکسب (پاک کمائی ہے) نہ کہ طیب الطعام (پاکیزہ عمدہ کھانا)۔

محمد بن ابی سدرہ سے جو بوڑھے آدمی تھے مروی ہے کہ میں نے ایک رات عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، پیٹ (کے درد) سے وہ تڑپ رہے تھے، عرض کی یا امیر المؤمنین آپ کو کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے مسور کھائی تھی، بس اسی سے تکلیف ہو گئی پھر کہا کہ میرا پیٹ، میرا پیٹ تو گناہوں میں آلودہ ہے، ابن ابی سدرہ نے کہا کہ جب ماہِ منان اقامت شروع کرتا تو عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ لوگوں کو قبلہ رخ ہو جانے کا حکم دیتے تھے۔ میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ علماء کے معلم تھے۔

عبد العزیز بن عمر سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ آخری نماز عشاء کے بعد وتر سے پہلے باتیں کرتے تھے مگر جب وتر پڑھتے تو پھر کسی سے بات نہیں کرتے تھے۔

بیت المال کے مشک کی خوشبو سے اجتناب:

ریاح بن عبیدہ سے مروی ہے کہ میں خزانوں سے مشک نکالتا تھا، جب وہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھی جاتی تو وہ اس کی خوشبو محسوس ہونے کے اندیشے سے اپنی ناک بند کر لیتے تھے، مصاحبین میں سے ایک شخص نے کہا یا امیر المؤمنین اگر آپ اس کی خوشبو محسوس کریں تو کوئی نقصان نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوائے اس کی خوشبو کے کیا اور بھی کچھ اس سے حاصل کیا جاتا ہے۔

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قاضی (حکم دینے والا) نہیں ہوں، میں منفذ (حکم الہی کا نافذ کرنے والا) ہوں، میں تم میں سے کسی سے بہتر نہیں ہوں، البتہ تم سب سے زیادہ گراں بار ہوں، میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں متبذع (اپنی طرف سے کوئی کام کرنے والا) نہیں ہوں، بلکہ متبع (پیروی کرنے والا) ہوں۔ اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے قاضی ابو بکر بن حزم سے کہا کہ میں نے کسی امر کو اپنے نزدیک اس حق سے زیادہ لذیذ نہیں پایا جو خواہش کے موافق ہو۔

نعیم بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں فخر کے اندیشے سے بہت سا کلام ترک کر دیتا ہوں۔ عبد اللہ بن ابی ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے قیدیوں کے بارے میں لکھا کہ کسی کے ایسی بیڑی نہ ڈالی جائے جو نماز پوری کرنے سے روکے۔

پہلا فرمان: - حق دار کا حق ادا کرو

ابوسعید مولائے ثقیف سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا سب سے پہلا فرمان، جس کو قاضی عبد الحمید نے پڑھا، وہ تھا جس میں ایک سطر یہ تھی کہ ”اما بعد انسان کی بقا شیطان کے وسوسے اور سلطان کے ظلم کے بعد نہیں ہے، لہذا میرا یہ فرمان جب تمہارے پاس پہنچے تو تم ہر حقدار کو اس کا حق دے دینا۔ والسلام

عمر بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ان کا صانفہ (جہاد موسم گرما) پر بھیجا اور کہا کہ اے عمرو تم سب سے آگے نہ ہونا کہ قتل کر دیئے جاؤ تو تمہارے ساتھی بھاگیں اور نہ سب کے آخر میں ہونا کہ لوگوں کو بد دل و بزدل کر دو، تم وسط میں رہنا، جہاں سے لوگ تمہارا ہونا دیکھیں اور تمہاری بات سنیں، جن مسلمانوں اور ان کے غلاموں اور ذمیوں پر تمہیں موقع ملے ان کا فدیہ ادا کرنا۔

بیت المال میں احتیاط:

خالد الخلدی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ بچھونے یا شمعیں جو رفاہ عام کے لیے ہوتیں ذاتی اغراض یا اپنے اعزہ کے لیے نہ استعمال کرتے، خاص کھانے سے بھی پرہیز کرتے، کہا گیا کہ اگر آپ کھانے سے اپنا ہاتھ روکیں گے تو اور لوگ بھی ہاتھ روک لیں گے، انہوں نے حکم دیا کہ تین یا چار درہم بیت المال میں شامل کر دیا جائے، پھر شریک طعام ہو گئے۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھ سے ایک شخص کی شکایت کی گئی ہے کہ آپ کو گالی دیتا ہے، میں نے گردن مارنے کے ارادے سے اسے قید کر دیا ہے اب جو حکم ہو اس سے آگاہ فرمائیے، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا اگر تم اسے قتل کر دیتے تو میں تم سے اس کا قصاص ضرور لیتا، کوئی شخص کسی کو گالی دینے سے قتل نہیں کیا جاسکتا، سوائے اس کے کہ وہ (معاذ اللہ) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، اگر تم چاہو تو اس شخص کو بھی گالی دو اور نہ رہا کر دو۔

قاضی کے اوصاف:

مزاحم بن زفر سے مروی ہے کہ میں اہل کوفہ کے ایک وفد کے ہمراہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ ہم لوگوں سے شہر کو ہمارے امیر اور قاضی کو پوچھنے لگے، پھر کہا کہ پانچ خصلتیں ہیں کہ اگر قاضی میں ان میں سے ایک بھی کم ہو تو وہ ناقص ہوگا۔ اس کا فہیم ہونا، حلیم ہونا، عقیف و پارسا ہونا، سخت ہونا، اور اس کا عالم ہونا کہ جو نہ جانتا ہو وہ اس سے دریافت کرے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قاضی کے لیے اس وقت تک قاضی ہونا مناسب نہیں جب تک کہ اس میں پانچ خصلتیں نہ ہوں: عقیف و پارسا ہو، حلیم و بردبار ہو، جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا ہے اسے جانتا ہو، ذی رائے لوگوں سے مشورہ لیتا ہو، لوگوں کی ملامت کی پروا نہ کرتا ہو۔

خلافت کے زمانہ میں آپ کی جسمانی حالت:

یحییٰ بن خالد سے مروی ہے کہ محمد بن کعب القرظی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، عمر رضی اللہ عنہ اچھے جسم کے تھے وہ انہیں دیکھنے میں اتنا محو ہو گئے کہ پلک تک نہ چھپکاتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن کعب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو جس طرح کہ پہلے کبھی نہیں دیکھتے تھے۔ عرض کی یا امیر المؤمنین، میں نے جب آپ کو دیکھا تھا تو اچھے تن و توش کا پایا تھا، اب دیکھتا ہوں کہ رنگ زرد پڑ گیا ہے، جسم لاغر ہو گیا ہے اور بال گر گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابن کعب، اس وقت تم پر کیا گزرے گی کہ مرنے کے تین دن بعد مجھے قبر میں اس حالت میں دیکھو کہ آنکھوں کے ڈھیلے رخساروں پر نکل پڑے ہوں اور نتھنوں اور منہ سے پیپ جاری ہو، کیڑے پڑے ہوں، اس حالت میں تو تم سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرو گے۔

محمد بن کعب القرظی سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کے پاس آیا اور بہت غور سے انہیں دیکھنے لگا، انہوں نے کہا کہ اے ابن کعب تم تو میری طرف ایسی نظر کر رہے ہو جیسی مدینے میں کبھی نہیں کرتے تھے، میں نے کہا یا امیر المؤمنین، بے شک مجھے اس سے تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کا جسم لاغر ہو گیا، بال دراز ہو گئے اور رنگ بدل گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس وقت کیا ہوگا جب تین (سال) کے بعد تم مجھے اس حالت میں قبر میں دیکھو گے کہ نتھنوں سے کیڑے نکلتے ہوں گے، اور آنکھوں کے

ڈھیلے رخساروں پر بستے ہوں گے، اس وقت تو تم سب سے زیادہ مجھ سے نفرت کرو گے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ حدیث جو تم نے روایت ابن عباس رضی اللہ عنہما مجھ سے بیان کی تھی دوبارہ سناؤ۔ میں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ہر شے کے لیے شرف ہوتا ہے اور سب سے زیادہ شریف وہ مجلس ہے جس کا رخ قبیلے کی طرف کیا جائے، تم لوگ صرف امانت کے ساتھ ہم نشینی کر ڈسونے والوں کا قصد نہ کرو نہ باتیں کرنے والوں کا اور نہ دیواروں کو چھپاؤ، سانپ بچھو کو نماز میں بھی مار ڈالو۔

وہیب بن الورد سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ محمد بن کعب القرظی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے پاس گئے، عمر رضی اللہ عنہما نے دیکھا کہ وہ انہیں گھور رہے ہیں، کہا کہ اے ابن کعب میں تم کو اپنی طرف ایسی تیز نظر کرتے دیکھتا ہوں جیسی پہلے کرتے نہ دیکھا تھا۔ محمد نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کے حال پر بہت ہی تعجب ہے جو ہمارے بعد بدل گیا۔

عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کیا تم نے یہ محسوس کیا، محمد بن کعب نے کہا کہ حالت اس سے بھی بڑھی ہوئی ہے، سوائے اس کے کہ یہ آپ ہی کی طرف سے ظاہر ہو، عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے ابن کعب پھر کیا ہوگا اگر تم تین (سال) کے بعد مجھے اس حالت میں دیکھو کہ قبر میں آنکھوں کے ڈھیلے نکل آئے ہوں اور رخساروں پر بستے ہوں اور دونوں ہونٹ دانتوں سے جدا ہو کر سکر گئے ہوں منہ کھل گیا ہو، پیٹ پھول کے سینے سے اونچا ہو گیا ہو اور آنتیں سرین سے باہر آگئی ہوں۔

محمد بن کعب کا مشورہ:

محمد بن کعب نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، اگر خود آپ کو اس امر کا الہام ہوا ہے تو غور کیجئے، اللہ کے بندوں کو اپنے نزدیک تین مراتب دیجئے جو آپ سے بڑے ہوں، انہیں ایسے مرتبے میں رکھیے کہ گویا وہ آپ کے باپ ہیں۔ جو ہم عمر ہوں انہیں ایسے مرتبے میں رکھیے کہ گویا وہ آپ کے بھائی ہیں اور جو آپ سے چھوٹے ہوں تو انہیں ایسا درجہ دیجئے کہ گویا وہ آپ کے فرزند ہیں، پھر ان تینوں میں سے ایسا کون ہے جس کے ساتھ آپ بدی کرنا پسند کریں یا وہ آپ کی ایسی حالت دیکھ سکے جو اسے ناگوار ہو۔

عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اے عبداللہ (اللہ کے بندے) میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی (بدی کرنا پسند نہ کروں گا)۔ یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جس نے اپنے دین کو مقدمات کا نشانہ بنا دیا تو وہ بہت بھگتا پھرے گا۔

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ میں ایک رات کی صحبت میں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، انہوں نے باتیں کیں اور نصیحت کی، وہ ایک شخص کو تازہ گئے جس نے آنسو بہائے تھے اور خاموش ہو گئے، عرض کی یا امیر المؤمنین اپنا کلام جاری رکھیے شاید اللہ آپ کے سبب سے اس شخص کو نفع دے جس کو وہ پہنچے اور وہ اسے سنے، انہوں نے کہا کہ اے میمون کلام فتنہ ہے، انسان کے لیے عمل، قول سے زیادہ بہتر ہے۔

رات کو عوام سے ملاقات کا معمول:

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ ایک شب میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی مجلس شبینہ میں تھا، میں نے کہا یا امیر المؤمنین، اس حالت پر جس پر میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ کا رہنا نہیں ہو سکتا۔ آپ دن کو لوگوں کی ضروریات اور ان کے کاموں میں مشغول

ہوتے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جس پر آپ اعتماد کرتے ہیں انہوں نے میری بات کو ٹال دیا اور کہا: اے میمون! لوگوں کی ملاقات کو میں نے ان کی عقل شناسی کا ذریعہ پایا۔

اطاعت خداوندی کی ترغیب:

سلام سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ منبر پر چڑھے اور کہا کہ اے لوگو! اللہ سے ڈرو! اللہ کے خوف ہی میں اس کے مانوسا کا بدل ہے اور اللہ کے خوف کا کوئی بدل نہیں! لوگو! اللہ سے ڈرو! اس کی اطاعت کرو جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی اطاعت نہ کرو جو اللہ کی نافرمانی کرے۔

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص بغیر علم کے کوئی عمل کرے گا اس سے بجائے اصلاح کے فساد زیادہ سزا دیا ہوگا جس نے اپنے کلام اور عمل میں موافقت نہ کی اس کی غلطیاں بہت ہوں گی اور پسندیدہ باتیں کم، مومن کی جائے پناہ صبر ہے۔

یحییٰ بن سعید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج میرے لیے تمام امور میں کوئی مرضی کے موافق بات نہیں ہوئی سوائے ان مواقع کے جن میں اللہ کا فیصلہ (جاری) ہوا۔

موت کو کثرت سے یاد رکھنے کی ہدایت:

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ عنبسہ بن سعید نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ سے پہلے کے خلفاء ہم لوگوں کو انعامات دیا کرتے تھے میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ اس مال کو خود اپنے اور اپنے اعزہ سے روک دیا ہے ہم لوگوں کے عیال ہیں لہذا اجازت دیجئے کہ ہم اپنی جائیداد اور تالابوں کی طرف رجوع کریں انہوں نے کہا کہ بے شک مجھے تم میں سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو یہ کرے جب انہوں نے پشت پھیری تو عمر رضی اللہ عنہ نے پکارا اور کہا کہ اے عنبسہ! موت کو کثرت سے یاد کرو! کیونکہ تم جب اپنی زندگی اور حالت کی تنگی میں ہو گے اور موت کو یاد کرو گے تو یہی حالت تمہیں فراخی معلوم ہوگی، تم جب کسی سرور و خوش حالی میں ہو اور موت کو یاد کرو تو یہ حال تم پر تنگ ہو جائے گا۔

محمد بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غالباً مین رات کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گیا روٹی کے ٹکڑے اور روغن زیتون کھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ قریب آ کے تم بھی کھاؤ، میں نے کہا کہ جسے سردی لگی ہو اس کا کھانا برا ہے۔ پھر انہوں نے یہ شعر سنائے:

اذا مامات میت من تمیم و سوك ان يعيش فحی بزاد

”جب قبیلہ تمیم میں سے کوئی مر جائے اور تمہیں پسند ہو کہ وہ جی اٹھے تو توشہ لاؤ۔“

بعینا و بلحم او بتمر و الشیء الماحف فی الجاد

روٹی یا گوشت یا کھجور لاؤ یا ایسی چیز جو لپٹی ہوئی ہو۔“

اور انہوں نے ایک تیسرا شعر بھی پڑھا جس کا قافیہ یہ تھا:

لیا کل راس لقمان بن عاد

”تا کہ لقمان بن عاد کا سر کھائے۔“

عرض کی امیر المؤمنین میں نہیں خیال کرتا تھا کہ یہ شعر بھی اس میں ہے انہوں نے کہا کہ بے شک وہ اسی میں ہے۔ عبید اللہ نے کہا کہ اس مصرع کا شروع یہ ہے:

تراہ ينقل البطحاء شهرا لياكل رأس لقمان بن عاد

”تم اسے اس حالت میں دیکھو گے کہ میدہ بھر سنگریزے ادھر سے ادھر اٹھا اٹھا کے رکھتا رہے گا کہ ملے تو لقمان بن عاد کا سر کھالے۔“

عبید اللہ بن محمد التیمی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد وغیرہ کو بیان کرتے سنا کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما خلیفہ ہوئے تو ان کے قرابت داروں کو جو دو طائف ملتے تھے وہ انہوں نے بند کر دیئے اور ان سے وہ جاگیریں بھی لے لیں جو ان کے قبضے میں تھیں۔

سفارش کرنے پر پھوپھی کو جواب:

لوگوں نے ان کی پھوپھی ام عمر سے شکایت کی وہ ان کے پاس گئیں اور کہا کہ تمہارے قرابت دار شکایت کرتے ہیں کہ تم نے ان سے وہ چیز لے لی جو تمہارے سوا دوسروں کی دی ہوئی تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا کوئی حق یا کوئی ایسی چیز جو ان کی ہو بند نہیں کی اور نہ میں نے ان سے کوئی حق یا کوئی شے جو ان کی تھی لی۔

ام عمر نے کہا کہ میں ان لوگوں کو اعتراض کرتے ہوئے دیکھتی ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ کسی سخت دن وہ لوگ تم پر ٹوٹ پڑیں گے انہوں نے کہا کہ سوائے روز قیامت کے میں کسی دن سے نہیں ڈرتا اس (روز قیامت) کے شر سے اللہ مجھے بچائے۔

انہوں نے ایک دینار ایک ٹکڑا لوہا اور ایک انگیٹھی منگائی دینار کو آگ میں ڈال دیا اور پھونکنے لگے جب سرخ ہو گیا تو اسے کسی چیز سے لے کے نیچے ڈال دیا کچھ آواز آنے لگی اور دھواں اٹھنے لگا انہوں نے کہا کہ اے پھوپھی آپ کو اس قسم کی تکلیف سے اپنے بھتیجے پر رحم نہیں آتا۔

ام عمر اٹھ کر قرابت داروں کے پاس گئیں اور کہا تنز و جون الی عمر فاذا نزعوا الشبه جزعتم اصبر والہ (عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ) کے خاندان میں نکاح کرتے ہو اولاد میں جب ان کی شہادت ظاہر ہوتی ہے تو جزع و فزع کرتے ہو اب اس پر صبر کرو۔

عبید اللہ بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے کہا گیا کہ آپ نے ہر چیز بدل دی یہاں تک کہ اپنی رفتار بھی انہوں نے کہا کہ واللہ جیسی رفتار میری تھی میں تو اس کو جنون سمجھتا ہوں جب وہ چلتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے اور چھوڑتے تھے۔

فکر آخرت:

عمر بن مجاشع سے مروی ہے کہ ایک روز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما مسجد کی طرف چلے ہاتھ اٹھا کر چھوڑنے لگے پھر رک گئے اور رونے لگے لوگوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کو کس چیز نے رلا یا انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو جنبش دی بعد کو اندیشہ ہوا کہ آخرت میں اللہ اس میں جھکڑی نہ ڈال دے۔

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور خیالات و عقائد کے متعلق کچھ دریافت کیا، انہوں نے کہا کہ اعرابی کا اور اس بچے کا طریقہ اختیار کرو جو کتب میں ہوتا ہے، اس کے سوا جو ہواں کو چھوڑ دو۔ عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے یہاں علماء مثل شاگردوں کے تھے۔ سفیان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی غیبت کی، کہا گیا کہ تجھے ان کے سامنے کہنے سے کون روکتا ہے اس نے کہا کہ متقی کے منہ میں لگام دی ہوئی ہے۔ ابی جحزہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے نوروز و مہر جان میں (جو رافضیوں کی عید کے دن ہیں) اپنے پاس کوئی تحفہ لانے سے منع کیا۔

ربیعہ الشعوزی سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کے لیے ڈاک کے گھوڑے پر سوار ہوا، مگر وہ ملک شام کے کسی مقام پر رک گیا، میں ایک سواری بیگار لے کر ان کے پاس آیا، وہ خنصرہ میں تھے، پوچھا کہ مسلمانوں کے پر کیا ہوئے، میں نے کہا، امیر المؤمنین، مسلمانوں کے پر کیا، کہا، ڈاک میں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ ختم ہوگئی۔ انہوں نے کہا کہ پھر تم کیسے ہمارے پاس آئے، میں نے کہا کہ بیگار کی سواری پر جو غنطیوں سے لی تھی، انہوں نے کہا کہ میری سلطنت میں بھی تم لوگ بیگار لیتے ہو، پھر انہوں نے حکم دیا تو مجھے چالیس تازیانے مارے گئے۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔

اہل کوفہ کے لئے اصلاحی فرمان:

ابو العلاء تاجر جو ب سے مروی ہے کہ جس وقت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا فرمان کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا تو میں بھی موجود تھا، لکھا تھا کہ جس کے ذمے امانت ہو اور وہ ادا کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کو اللہ کے مال میں سے دے دو، کوئی شخص عورت سے نکاح کرے اور مہر دینے سے قاصر ہو تو اس کو بھی اللہ کے مال (بیت المال) میں سے دے دو، نبیذ (زالال کشمش وغیر ما) حلال ہے، لہذا جو منک میں ہو اس کو بیو، سب لوگوں نے یہاں، ابو العلاء نے کہا کہ پھر تو یہ ہو گیا کہ جب کوئی شادی ہوئی تو لوگ اتنی بڑی منک بنا لیتے کہ اس میں دس منکے سما جائیں۔

حجاج کی بھیڑوں کو فروخت کرنے کا حکم:

یونس بن عبداللہ رضی اللہ عنہ الیربوعی سے مروی ہے کہ عبدالحمید بن عبدالرحمن نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ یہاں ایک ہزار بھیڑیں ہیں جو حجاج کی تھیں یا حجاج کے پاس تھیں، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ انہیں فروخت کر کے قیمت اہل کوفہ میں تقسیم کر دو، عبدالحمید نے لوگوں سے کہا کہ لکھو، انہوں نے بد نظمی کی اور غلط لکھا، عمر کو اطلاع دی کہ لوگوں نے بد نظمی کی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ ہم وہی ان کے سپرد کریں گے جو اللہ نے ہمارے سپرد کیا ہے، انہیں اسی طرح دے دو، جس طرح انہوں نے لکھا ہے، لوگوں کو سات سات درہم ملے ہر روز عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے خیر ہی آیا کرتی تھی۔

سعید بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے دمشق کے دار الضرب کے افسر کو لکھا کہ مسلمانوں کے فقراء تمہارے پاس جو ناقص دینار لائیں اسے پورے وزن کے دینار سے بدل دیا کرو۔

ابن ثوبان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حق کے مطابق زکوٰۃ لی اور حق ہی کے مطابق خرچ کی، عاتلین کو بقدر

ان کے عمل کے اتنا دیا جتنا ان کے برابر والوں کو ملتا تھا اور کہا کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس نے مجھے موت نہ دی تا وقتیکہ میں نے اس کے فرائض میں سے ایک فریضے کو قائم نہ کر لیا۔ عمر بن مہاجر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہر واعظ قبلہ ہے۔

عرب و موالی میں مساوات:

ابوبکر بن ابی مریم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عرب اور موالی (آزاد کردہ غلاموں) کو رزق (وظیفہ) معونت (اعانت) و عطاء (سالیانہ) میں برابر کر دیا۔ سوائے اس کے کہ انہوں نے آزاد کردہ موالی کا حصہ پچیس دینار مقرر کیا تھا۔ عمرو بن مہاجر ابی عبید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ اگر میں لوگوں کو کسی چیز کی تادیب کرتا تو میں مؤذن کے اقامت شروع کرتے ہی کھڑے ہونے پر مارتا کہ آدی اپنے دانے اور بائیں والے کو برابر کر لے۔

سپہ سالار کے لئے احکامات:

اوزاعی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سرداران لشکر کو لکھا کہ معرکہ جہاد میں تمہاری سواری ایسی ہو کہ جتنے مسلمان سوار ہوں ان سب کے مقابلے میں تمہارا ہی جانور کمزور نکلے۔

سعید بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو عاملین کی ترقی کے بارے میں مشورہ دیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کا اپنی خیانت کے ساتھ اللہ سے ملنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں اس سے ان کے خونوں کے ساتھ ملوں۔ میمون سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو لکھا: اما بعد! مالکان زمین کو ان خراجی زمینوں کے فروخت کرنے کی اجازت دے دو جو ان لوگوں کے قبضے میں ہیں، وہ لوگ جو کچھ فروخت کرتے ہیں مسلمانوں ہی کی غنیمت اور جز یہ معینہ ہے۔

میمون سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عامل آیا، پوچھا، تم نے کتنی زکوٰۃ جمع کی، اس نے کہا کہ اتنی اتنی پوچھا کہ تم سے پہلے جو عامل تھے اس نے کتنی جمع کی تھی، اس نے کہا کہ اتنی اتنی اس نے اس سے زائد بیان کیا جو خود جمع کیا تھا۔ عمر نے کہا کہ یہ (زائد) کہاں سے آیا تھا اس نے کہا کہ امیر المؤمنین 'جزیے میں فارسیوں سے ایک دینار، خادم سے ایک دینار اور کھیت سے پانچ درہم لیے جاتے تھے، آپ نے یہ سب کم کر دیا، انہوں نے کہا، نہیں واللہ میں نے اسے کم نہیں کیا، بلکہ اللہ نے کم کر دیا۔ ابوالسج سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایسی بھیڑ بکری، اونٹ کے جائز ہونے کا حکم لکھا جو کسی کی ملک نہ ہوں اور چھوٹے پھرتے ہوں، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لہذا کوئی ایک شخص کسی دوسرے سے زیادہ اس کا مستحق نہیں (یعنی سب کا حق برابر ہے)۔

احیاء سنت کا عزم اور عملی جدوجہد:

ابوالسج سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے فرمان سنت کے زندہ کرنے اور بدعت کے مٹانے کے لیے آئے اور یہ کہ تم لوگوں کو مناسب ہے کہ میرے متعلق تمہارا گمان یہ ہو کہ مجھے نہ تمہارے مال کی حاجت ہے نہ اس کی جو میرے قبضے میں ہے اور نہ اس کی جو تمہارے قبضے میں ہے، یہ کہ اللہ کی نافرمانی کا جو ارتکاب کرے وہ اس کے عذاب کا مستحق ہے۔ فرات بن مسلم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا سیب کوجی چاہا، انہوں نے اپنے گھر بھیجا، مگر کچھ نہ ملا کہ سیب خریدتے، وہ سوار ہوئے اور ہم بھی ان

کے ساتھ ہوئے ایک گرجا پر گزر ہوا، انہیں گرجا والوں کے غلام ملے جن کے پاس سیب کے خوان تھے وہ ان میں سے ایک خوان کے پاس کھڑے ہو گئے اور سیب لے کر سونگھا پھر خوان میں رکھ دیا اور کہا کہ تم لوگ اپنے گرجا میں چلے جاؤ، میں نہیں جانتا کہ تم نے میرے ساتھیوں میں سے کسی کو کچھ بھیجا ہے۔

راوی نے کہا کہ میں نے اپنے حجر کو حرکت دی اور ان کے پاس پہنچ کر کہا: امیر المومنین، سیبوں کو آپ کا جی چاہا مگر نہ ملے اور ہدیہ دیا گیا تو آپ نے واپس کر دیا، انہوں نے کہا کہ مجھ کو اس کی ضرورت نہیں، میں نے کہا کہ کیا رسول اللہ ﷺ و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم ہدیہ نہیں قبول کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ان حضرات کے لیے وہ ہدیہ تھا، مگر وہی ان کے بعد عمال حکومت کے لیے رشوت ہے۔

کاغذ کے ٹکڑے کی واپسی:

فرات بن مسلم سے مروی ہے کہ میں ہر جمعے کو اپنے خطوط عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، ایک مرتبہ پیش کیا تو انہوں نے ایک بچا ہوا کاغذ جو بقدر ایک بالشت یا چار انگل کے تھا لے لیا اور اس پر اپنی ضرورت کی کوئی چیز لکھی، میں نے کہا کہ امیر المومنین سے غفلت ہو گئی (کہ پرایا کاغذ استعمال کیا) دوسرے دن کہلا بھیجا کہ آؤ اور اپنے خطوط بھی لاؤ، میں خطوط ان کے پاس لے گیا، انہوں نے مجھ کو کسی کام سے بھیج دیا، واپس آیا تو کہنے لگے کہ اب اتنا وقت نہیں رہا کہ ہم تمہارے خطوط کو دیکھیں، میں نے کہا: نہیں، آپ نے تو کل دیکھا تھا، انہوں نے کہا کہ ان خطوط کو لے دو بارہ جب بلاؤں تو لانا۔ میں نے اپنے خطوط کھولے تو ان میں اتنا ہی بڑا ایک کاغذ پایا جتنا کہ انہوں نے لیا تھا۔ معمر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا: اما بعد، کسی عامل کو طبقہ عام و طبقہ خاص سے دو دو عطاء نہ دو، اس لیے کہ کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ دہری عطاء لے اور جس نے اس میں سے کچھ لیا ہو تو اس سے لے لو اور پھر وہیں لوٹا دو جہاں سے لی تھی۔ والسلام

قیدیوں اور غلاموں کے بارے میں فرمان:

معمر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا: اما بعد جو لوگ تمہارے قید خانوں اور تمہارے ملک میں ہوں ان کے متعلق نیکی کی وصیت قبول کرو، تاکہ تم انہیں ہلاکت تک نہ پہنچا دو، ان کے لیے مناسب روٹی اور آرام کا انتظام کرو۔ عبید اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے لیے کوئی مخصوص دعائے عام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرو، اگر میں بھی مومن ہوں گا تو ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا۔ ابوالخیر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میرے نزدیک حدود (جرائم کی قرآنی سزا) کا قائم کرنا ایسا ہی ہے جیسے نماز و زکوٰۃ کا قائم کرنا۔

پلوں اور گزرگاہوں کے ٹیکس کا خاتمہ:

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا: میں نے خیال کیا تھا کہ اگر پلوں اور گزرگاہوں پر عامل مقرر کر دیے جائیں گے تو وہ قاعدے کے مطابق زکوٰۃ لیں گے، مگر بد عاملوں نے حکم کی خلاف ورزی کر کے ظلم کیا، میری رائے ہے کہ ہر شہر میں ایک شخص مقرر کر دوں جو صاحب زکوٰۃ سے زکوٰۃ لے، پلوں اور گزرگاہوں پر لوگوں سے زکوٰۃ نہ لی جائے۔

یزید بن الاصم سے مروی ہے کہ میں سلیمان بن عبد الملک کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا جس کا نام ایوب تھا بیچ کے بل پر اس مال کو لادتا جو بطور زکوٰۃ کے لیا جاتا تھا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ شخص مفسد ہے جو برامال لادتا ہے تخت نشین ہوئے تو انہوں نے پلوں اور گزرگاہوں پر زکوٰۃ دینے سے لوگوں کو آزاد کر دیا۔

غرباء اور مسافروں کے لئے دارالطعام:

وہیب بن الورد سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے مساکین و فقراء و مسافرین کے لیے دارالطعام بنایا تھا اصحاب اہتمام کو حکم تھا کہ اس لنگر خانے سے خود کچھ نہ لیں یہ محض فقراء و مساکین و مسافرین کے لیے ہے۔ ایک روز تشریف لائے دیکھا کہ ان کی ایک آزد کردہ کنیز کے پاس ایک پیالہ ہے جس میں گھونٹ بھر دودھ ہے پوچھا یہ کیا ہے اس نے کہا کہ آپ کی فلاں زوجہ حاملہ ہیں جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے ان کا گھونٹ بھر دودھ کو جی چاہا عورت جب حاملہ ہو اور کسی چیز کو اس کا جی چاہے اور وہ اسے نہ دی جائے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے اس کے گرجانے کا اندیشہ ہوتا ہے اس لیے یہ ایک گھونٹ دودھ میں بے دارالطعام سے لے لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی زوجہ کے پاس لے گئے وہ بلند آواز تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو کچھ ان کے پیٹ میں ہے اگر اسے صرف فقراء و مساکین کا کھانا روک سکتا ہے تو اللہ سے نہ روکے پھر وہ اپنی بیوی کے پاس گئے بیوی نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ کنیز خیال کرتی ہے کہ جو کچھ تمہارے پیٹ میں ہے اسے مساکین و فقراء کا کھانا ہی روک سکتا ہے اور اگر اسے یہی روک سکتا ہے تو اللہ سے نہ روکے۔ زوجہ نے کنیز سے کہا کہ تیری خرابی ہو اسے واپس لے جا بخدا میں اسے نہ چکھوں گی اس نے اسے واپس کر دیا۔

گستاخ رسول کی سزا:

سمیل بن ابی صالح سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے کے اور کسی کو گالی دینے میں کوئی قتل نہیں کیا جائے گا۔

عاجزی و انکساری:

مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کی اس شان (اسلام) کے سوا کوئی اور شان ہو (تو ہوا کرے) میری شان تو وہی ہے جو اللہ نے لکھ دی ہے کہ جس چیز پر عمل کا حکم ہوا میں اسی پر عامل رہا اور جس چیز میں کوتاہی کا حکم تھا میں نے اس میں کوتاہی کی میں نے جو نیکی کی ہے اللہ کی مدد اور رہبری کی ہے اور میں اسی سے اس کی برکت مانگتا ہوں اس کے سوا ہوا تو میں خدائے برتر سے اپنے گناہ کی مغفرت چاہتا ہوں۔

ابی شان سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب بیت المقدس آتے تو اسی مکان میں اترتے جس میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ابوشان اس گھر والوں میں کوئی شخص اس وقت تک ہانڈی نہ چڑھائے جب تک کہ میں باہر نہ چلا جاؤں جب بستر پر آتے تو اپنی رجزین خوش آواز سے پڑھتے تھے:

﴿ان ربکم اللہ الذی خلق السموات والارض﴾ (پوری آیت) پھر پڑھتے

﴿افامن اهل القرى ان ياتيهن باسنا بيانا وهم نائمون﴾ سے ﴿وهم يلعبون﴾ تک۔

وہ اسی قسم کی آیات کو تلاش کر کے پڑھتے تھے۔ (جن میں قیامت و عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے)۔ محمد بن عیینہ المہلبی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا پیام پڑھا جو یزید بن المہلب کے نام تھا۔

”سلام علیک میں تمہارے سامنے اس اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد سلیمان بن عبدالملک کو جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اللہ نے ان کے عمدہ اوقات و احوال پر اٹھالیا اللہ ان پر رحمت کرنے انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے لہذا تم ان لوگوں سے جو تمہارے پاس ہیں میری اور عبدالملک کی بشرطیکہ وہ میرے بعد خلیفہ ہوں بیعت لو اگر یہ خلافت جس کا والی میں ہوں بیویاں بنانے اور مال جمع کرنے کے لیے ہو تو اللہ مجھے اس اچھی جگہ پہنچا دے جہاں اس نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو پہنچایا ہے مجھے قیامت میں سخت حساب اور باریک باز پرس کا اندیشہ ہے سوائے اس کے کہ اللہ اعانت کرنے والسلام علیک ورحمۃ اللہ۔“

ٹیکس وصول کرنے والوں کو ہدایات:

عمر بن بہرام الصراف سے مروی ہے کہ ہمیں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان پڑھ کر سنایا گیا:

”بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کی جانب سے عدی بن ارطاة اور ان مسلمان و مومنین کو جو ان کے پاس ہوں سلام علیکم میں تمہارے سامنے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اما بعد ذمیوں کے حال پر نظر کرو اور ان کے ساتھ مہربانی کرو جب ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے اور اس کے پاس مال نہ ہو تو اس پر تم خرچ کرو اگر اس کا کوئی دوست ہو تو حکم دو کہ وہ اس پر خرچ کرے اس کے زخم کا بدلہ لوجھیا کہ اگر تمہارا کوئی (غیر مسلم) غلام ہو اور وہ بوڑھا ہو جائے تو تمہارے لیے اس پر خرچ کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں یہاں تک کہ وہ مر جائے یا آزاد ہو جائے مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم شراب پر محصول لیتے ہو اور اسے اللہ کے بیت المال میں جمع رہنے دیتے ہو دیکھو خبردار اللہ کے بیت المال میں سوائے پاک مال کے اور کوئی مال نہ داخل کرنا والسلام علیکم۔“

مشکلہ کی سخت ممانعت:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک عامل کو لکھا کہ خبردار مجھے مشکلہ کی اطلاع نہ ہونے پائے سر اور داڑھی کا منڈانا بھی مشکلہ ہے۔

خراج کی وصولی میں عدل اور نرمی:

عبدالرحمن الطویل سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے میمون بن مہران کو لکھا کہ میمون تم نے مجھے لکھ کر حکم و خراج جمع کرنے کی شدت کا ذکر کیا ہے حالانکہ میں نے اس کے متعلق تمہیں کسی ایسے کام کی تکلیف نہیں دی جو تمہیں دشواری میں ڈال دے جو حق و پاک ہوا سے (خراج میں) وصول کرو اور جو حق تمہیں خوب واضح ہو جائے اس کے موافق فیصلہ کرو اگر کوئی معاملہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو مجھے پیش کرو کسی امر کو جو تم پر گزراں ہو لوگ ترک کر دیں تو نہ دین قائم رہ سکتا ہے نہ دنیا۔

رعایا سے حسن سلوک کا حکم:

میمون نے کہا کہ میں دیوان دمشق پر مامور تھا لوگوں نے ایک اچھ شخص کے لیے وظیفہ معین کیا میں نے کہا کہ اچھ کے ساتھ احسان کرنا مناسب ہے مگر وہ تندرست آدمی کے برابر وظیفہ لے تو یہ مناسب نہیں۔ ان لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے میری شکایت کی اور کہا کہ یہ شخص ہمیں دشواری میں ڈالتا ہے ہم پر گراں ہے اور ہمارے ساتھ سختی کرتا ہے۔ انہوں نے مجھے لکھا کہ جب تمہارے پاس یہ فرمان آئے تو لوگوں کو دشواری میں نہ ڈالنا ان کے ساتھ سختی نہ کرنا اور نہ ان پر گراں ہونا کیوں کہ میں ان امور کو پسند نہیں کرتا۔

عبدالرحمن بن حسن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے معادن (کانوں) کے بارے میں لکھا کہ میں نے غور کیا تو ان کا نفع خالص پایا اور ضرر عام لہذا ان لوگوں کو ان میں کام کرنے سے روکو جو زمین محفوظ کر لی جائے اس کو عام کر دو کہ سب پر مباح ہے بارش کے مقامات سے کسی کو نہ روکا جائے۔

کنیز کے لباس کے لیے حکم:

عبدالرحمن بن حسن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ کنیز کو سر بند کا (اوزھنی جو سر پر باندھی جاتی ہے اور اس کے اوپر دوپٹہ ہوتا ہے) لباس ہرگز نہ دیا جائے اور نہ آزاد عورتوں کے مشابہ کیا جائے۔

والی یمن کے نام فرمان:

ایوب بن موسیٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عامل یمن عمروہ کو لکھا: ابا بعد میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے حقوق واپس کر دو مگر تم مجھ سے رجوع کرتے ہو اور اپنے اور میرے درمیان فاصلے کا بھی خیال نہیں کرتے اور نہ موت آنے کو سمجھتے ہو میں نے تو اگر کبھی لکھا کہ کسی مسلمان کو ایک بھری جو اس کا حق ہے واپس کر دو تو یہ بھی ضرور لکھ دیا کہ وہ خاک کی رنگ کی ہو یا سیاہ لہذا غور کر لو کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق واپس کر دو اور مجھ سے رجوع نہ کرو۔

عذاب آخرت کا خوف:

سفیان سے مروی ہے کہ لوگوں نے عبدالملک بن عمر بن عبدالعزیز سے کہا کہ تمہارے والد نے قوم کی مخالفت کی اور یہ کیا اور وہ کیا انہوں نے کہا میرے والد کہتے ہیں کہ ”انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم“ (اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے روز قیامت کے عذاب کا خوف ہے) اپنے والد کے پاس گئے اور انہیں آگاہ کیا پوچھا پھر تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرے والد کہتے ہیں ”انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم“ عرض کی میں نے یہی کہا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے کہا ”ابقاک اللہ“ اللہ آپ کو باقی رکھے میں نے کہا اس بات سے تو فراغت ہو چکی نیکی و پرہیزگاری کی دعا کرو۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے سرخ اونٹ اچھے نہیں معلوم ہوتے اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس میں اختلاف تھا۔

گا کر اذان دینے کی ممانعت:

جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے پیغام میں لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں "اما بعد" لکھا ہے۔ صفیان سے مروی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی یا بیٹی کو چت لیٹ کر سوتے دیکھا تو انہیں منع کیا۔ عمر بن سعید بن ابی حسین سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ایک مؤذن تھے، جب وہ اذان کہتے تو ڈر سے کانپنے لگتے، عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی ایک کنیز کو کہتے سنا کہ کیوں اذان دے رہا ہے، انہوں نے مؤذن کو کہلا بھیجا کہ سیدھی طرح اذان کہو اور گانہ نہیں ورنہ اپنے گھر میں بیٹھو۔

خچر فروخت کرنے کی وجہ:

طلحہ بن یحییٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک خچر جس کے چارے کی انہیں مقدرت نہ تھی چرنے کو جنگل بھیجا پھر اسے فروخت کر ڈالا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام:

محمد بن انصر سے مروی ہے کہ لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلاف کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اللہ نے تم لوگوں کے ہاتھوں سے باہر کر دیا، لہذا اپنی زبانوں کو بھی کام میں نہ لاؤ۔ قتادہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اہل دیوان سے نصف درہم صدقہ فطر لیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی فرد کے عمل سے پوری قوم کو عذاب میں نہیں ڈالتا، مگر جب نافرمانیاں غالب ہو جاتی ہیں تو سب پر عذاب آ جاتا ہے۔

صفائی کا اہتمام نہ کرنے کی سزا:

اسامہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب جمعے کی نماز پڑھتے تو دربانوں کو بھیجتے اور حکم دیتے کہ مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہوں، کوئی ایسا شخص ان کے پاس سے گزرے جو بال چھوڑے ہو اور ان میں کنگھی نہ کرتا ہو تو اس کے بال کتر ڈالیں۔ حمیدہ دایہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اپنی بیٹیوں کو چت لیٹ کر سونے سے منع کرتے اور کہتے کہ جب تم میں سے کوئی چت لیٹی ہو تو شیطان اس پر غالب آ کر بہکانے کی طمع کرتا ہے۔

اہل بصرہ کو خوشحالی پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم:

ابی ہاشم سے مروی ہے کہ عدی بن ارطاة نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ اہل بصرہ کو اتنا مال حاصل ہو گیا ہے کہ مجھے ان کے اترانے کا اندیشہ ہے، عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا تو ان کے "الحمد للہ" کہنے سے خوش ہوگا، لہذا جو لوگ تمہارے پاس ہیں انہیں الحمد للہ کہنے کا حکم دو۔

مغیرہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے چند مصاحب تھے جو لوگوں کے معاملات میں غور کیا کرتے، عمر رضی اللہ عنہ اٹھنے کا ارادہ کرتے تو ان کے اور مصاحبین کے درمیان یہ علامت تھی کہ وہ کہتے: "اذا شئتم" (تم لوگ جی چاہو)۔ موسیٰ بن عقبہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میں سنت کو قائم نہ کروں اور حق کی خصلت نہ اختیار کروں تو مجھے اتنی دیر جینا بھی پسند نہیں جتنی

کہ بکری کا ایک تھن دودھ کے دوسرا تھن دوہنے میں لگتی ہے۔ یعقوب بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ لوگوں سے ماندہ توبہ اور مکس (محصول کے اقسام) اٹھا لو میری جان کی قسم یہ مکس نہیں ہے بلکہ نجس (نقصان) ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ﴿لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ﴾ (لوگوں کی چیزوں میں خیانت نہ کرو اور نہ زمین میں فساد کرتے پھرو) جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اس سے قبول کر لو اور جو نہ لائے تو اللہ اس سے حساب لینے والا ہے۔

عالمین کو عدل و احسان کی تلقین:

یعقوب بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے بعض عاملوں کو لکھا کہ اگر تم اس قدر عدل و احسان و اصلاح میں رہنے پر قادر ہو جس قدر کہ تم سے پہلے کے لوگ جو رولم و عدوان (سرکشی) میں تھے تو کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ (گناہ سے باز رہنا اور نیکی کی طاقت بغیر اللہ کی مدد کے نہیں ہے)

یعقوب بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما سے کہا کہ امیر المؤمنین آپ پر سلام ہو (السلام علیک) انہوں نے کہا کہ اپنے سلام کو عام کرو (یعنی السلام علیکم کہ تم سب پر سلام ہو کہو)۔
نو مسلموں سے جزیہ لینے کی ممانعت:

یعقوب بن عبدالرحمن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو والی مصر حیان بن شریح نے لکھا کہ اہل ذمہ (غیر مسلم رعایا) تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے جزیہ کو توڑ دیا ہے، عمر نے لکھا: اما بعد اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی (حق کی دعوت دینے والا) بنا کر بھیجا ہے آپ کو جابی (محصول جمع کرنے والا) بنا کر نہیں بھیجا جب میرا فرمان تمہیں پہنچے اور دیکھو کہ اہل ذمہ تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں اور انہوں نے جزیہ توڑ دیا ہے تو تم اپنی مراسلت کو نہ کرو اور چلے آؤ۔ ابی سہیل نافع بن مالک سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تلاوت کی:

﴿فَانكحروا مَا تَعْبُدُونَ مَا انتم عَلَيْهِ بقاتین الامن هو صالئ الجحیم﴾

”پھر تم اور جن کو تم پوجتے ہو خدا (کی راہ) سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، مگر اس کو جو خود جہنم میں جانے والا ہے۔“

منکرین تقدیر کے بارے میں رائے:

اور کہا کہ اے ابوسہیل اس آیت نے گروہ قدریہ کے لیے (جن کا یہ عقیدہ ہے کہ انسان خود اپنے افعال کا خالق ہے اور اسے نیکی و بدی کا اختیار کامل ہے) کوئی حجت باقی نہیں رکھی، ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے۔ میں نے کہا کہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے اگر توبہ کر لیں تو خیر و نہ گردنیں ماری جائیں انہوں نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی پر سزا:

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو خلافت کے زمانے میں کسی کو مارے نہیں دیکھا سوائے ایک شخص کے جس نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہا تھا انہوں نے اسے تیس کوڑے مارے۔

سچے گواہ کو دھمکانے پر سزا:

عبدالرحمن بن حسن نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا، جس وقت کہ قریش کے کچھ لوگ ان کے سامنے جھگڑا کر رہے تھے (اور مقدمہ پیش کر رہے تھے) ان میں سے بعض لوگ بعض کی مدد کرنے لگے، عمر نے کہا کہ مجھے ان کے درمیان مدد دینے سے بچنا چاہیے، اگر یہ ایسا امر ہوتا کہ میں تم لوگوں کو حکم دے دیتا تو تم لوگ ضرور مجھ سے ناراض ہوتے، ان کے پاس گواہ آ کر گواہی دینے لگے، جس کے خلاف شہادت تھی وہ گواہ کی طرف گھورنے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے ابن سراقہ عنقریب ہے کہ لوگ باہم حق کی گواہی نہ دیں، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ گواہ کو گھورتا ہے، جو شخص معتبر گواہ کو ایذا دے اسے تم میں تازیانے مارو اور منظر عام پر کھڑا کر دو۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان سے باتیں کیں اور بہت کیں، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم جو کچھ بیان کرتے ہو ہم اسے سن چکے ہیں، مگر تم بیان کر کے بھول جاتے ہو (اس لیے ایک ہی بات کو بار بار کہتے ہو)۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عامل مصر کو لکھا کہ اللہ کی (مقرر کردہ) حدود (سزاؤں) کے سوا اور کوئی سزا میں تازیانے سے نہ بڑھانا۔

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ پانی جس سے وہ وضو غسل کرتے ہیں مطبخ عام میں گرم نہ کیا جائے۔ جعفر بن برقان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ جو عید گاہ پیادہ جانے کی طاقت رکھتا ہے اسے پیادہ جانا چاہیے۔ طلحہ بن یحییٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جنازے پر (نماز کی) تکبیر نہ کہتے تھے تاؤ فیکہ اس سے حنوط (عطر میت) نہ زائل کر دیا جاتا۔

اسماعیل بن رافع سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد ایک گرجا میں (جو مسجد بن گیا تھا) نماز کی امامت کی۔ عثمان بن عبدالحمید بن لاحق نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک شخص نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ پڑھا، وہاں ایک اور گروہ بھی تھا، گروہ کے ایک شخص نے کہا کہ اس نے غلطی کی، عمر نے کہا کہ تم نے جو کچھ سنا اس نے تمہیں غلطی (پر غور کرنے) سے باز نہیں رکھا۔

خیار سے مروی ہے کہ میں ایک مجلس میں تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ خلافت سے پہلے ہمارے پاس آئے اور بیٹھ گئے، سلام نہیں کیا، پھر انہیں یاد آیا تو کھڑے ہوئے اور سلام کر کے بیٹھے۔ رجاہ بن حیوۃ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مکحول سے کہا کہ خبردار مسئلہ تقدیر میں تم اس امر کے قائل نہ ہونا جس کے یہ لوگ یعنی غیلان اور ان کے ساتھی قائل ہیں۔ ربیع بن سبرہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو لکھا کہ تریاق میں سوائے سربلج التاشیر سانپ کے اور کوئی زخمی (جانور) نہ ڈالو۔

مقدمہ کا فیصلہ کرنے میں تاخیر گوارا نہ تھی:

عبدالرحمن بن حسن بن القاسم الازرقی نے جن کے ماموں جراح ابن عبداللہ الحکمی تھے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تھے، قریش کے کچھ لوگ ان کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر رہے تھے انہوں نے فیصلہ کر دیا، جس کے خلاف

فیصلہ تھا اس نے کہا کہ اللہ آپ کی اصلاح کرنے میں سے گواہ ہیں جو موجود نہیں، عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ حق کو حق دار کے لیے سمجھ لینے کے بعد فیصلے میں تاخیر نہیں کر سکتا، تم جاؤ اگر اپنی شہادت و حق کو میرے پاس لائے جو ان لوگوں کے حق سے زیادہ مستحکم ہوا تو میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ خود اپنے فیصلے کو اپنے خلاف کر دوں گا۔

ذمیوں کو دعوت اسلام:

عبدالرحمن بن حسن نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما جب خلیفہ تھے تو عامل خراسان جراح بن عبداللہ انکی کو لکھا کہ جزیہ ادا کرنے والوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام لائیں تو ان کا اسلام قبول کریں، جزیہ موقوف کر دیں، ان کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہیں اور ان پر وہی ذمہ داریاں عائد ہوں گی جو مسلمانوں پر ہیں۔

ذمیوں کا قبول اسلام:

شرفائے اہل خراسان میں سے ایک شخص نے ان سے کہا کہ دعوت اسلام کی ترغیب صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ انہیں جزیہ معاف کر دیا جائے، لہذا آپ ختنہ کے ذریعے ان کا امتحان لیجئے، عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں ختنہ کی وجہ سے انہیں اسلام سے برگشتہ کر دوں گا، وہ لوگ اگر اسلام لائے اور ان کا اسلام اچھا ہوا تو وہ خود ہی تیزی کے ساتھ پاکی طرف جائیں گے۔ ان کے ہاتھ پر تقریباً چار ہزار آدمی اسلام لائے۔

مثالی امن و امان:

مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما لوگوں پر عامل بنائے گئے تو بکریوں کے چرواہوں نے جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر تھے کہا کہ یہ کون بندہ صالح ہے جو حاکم بنا ہے، کہا گیا کہ تم اس کے متعلق کیا جانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ لوگوں پر خلیفہ بنے گا تو عدل کرے گا، ہماری بکریوں سے بھیڑیے روکے جائیں گے۔

موسیٰ بن اعین سے جو محمد بن ابی عیینہ کے چرواہے تھے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی خلافت میں کرمان میں بکریاں جراتے تھے، بکریاں اور بھیڑیے اور وحشی جانور ایک ہی مقام پر جرتے تھے، ایک شب کو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بھیڑیا بکری کے گلے میں آیا، ہم لوگوں نے کہا، غالباً وہ نیک بندہ (عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما) وفات پا گیا، حماد نے کہا کہ مجھ سے انہوں نے یا دوسرے شخص نے بیان کیا کہ وہ لوگ منتظر رہے، معلوم ہوا کہ ان کی وفات اسی شب کو ہوئی۔

یونس بن ابی شیب سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو خلیفہ ہونے سے پہلے اس طرح بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا کہ تہ بند پیٹ کی بنوں میں پوشیدہ تھا (یعنی بہت موٹے تھے) پھر میں نے انہیں خلیفہ ہونے کے بعد اس حالت میں دیکھا کہ اگر میں ان کی پسلیوں کو بغیر اس کے کہ انہیں چھوؤں شمار کرنا چاہتا تو ضرور کر لیتا۔ یونس بن ابی شیب سے مروی ہے کہ کسی عید کے موقع پر (بغرض نماز) میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے پاس تھا، سرداران قوم آئے اور منبر کو گھیر لیا، ان کے اور لوگوں کے درمیان خالی جگہ تھی، عمر رضی اللہ عنہما آئے، منبر پر چڑھ کر انہوں نے لوگوں کو سلام کیا، خالی جگہ دیکھی تو لوگوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لوگ آگے بڑھے یہاں تک کہ سرداروں سے مل گئے۔ ابی ہاشم تاجرانار سے مروی ہے کہ ایک شخص عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور کہا کہ میں نے خواب

میں دیکھا کہ بنی ہاشم نے نبی ﷺ سے شکایت کی، آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہاں ہیں (کہ ان کے بجائے مجھ سے شکایت کرتے ہو)۔

اہل بیت سے والہانہ محبت:

جویریہ ابن اسماء سے مروی ہے کہ میں نے فاطمہ بنت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا سے سنا کہ انہوں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، ان کے لیے دعائے رحمت کی اور کہا کہ جس زمانے میں وہ امیر مدینہ تھے میں ان کے پاس گئی، انہوں نے ہر پہرے والے اور خولجہ سرا کو میرے پاس سے ہٹا دیا، گھر میں سوائے میرے اور ان کے کوئی نہ رہا، انہوں نے کہا کہ اے دختر علی رضی اللہ عنہا روئے زمین پر کوئی خاندان مجھے تم لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں، تم لوگ تو مجھے اپنے خاندان سے بھی زیادہ محبوب ہو۔

باغ فدک:

ابراہیم بن جعفر بن محمد الانصاری نے اپنے والد سے روایت کی کہ فدک رسول اللہ ﷺ کا مخصوص حصہ (صفی) تھا جو مسافروں کے لیے وقف تھا، آنحضرت ﷺ کی صاحبزادی نے درخواست کی کہ آپ فدک انہیں ہیہہ کر دیں، مگر رسول اللہ ﷺ نے انکار فرمایا، کسی لالچ کرنے والے نے اس کا لالچ نہیں کیا۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی اور فدک کا معاملہ اسی طریقے پر رہا، ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے اس کو اسی طریقے پر چلایا جو رسول اللہ ﷺ کا تھا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، انہوں نے بھی اس کو رسول اللہ ﷺ کے طریقے پر چلایا، ان کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ ہوئے اور فدک کا معاملہ اسی طرح رہا۔

باغ فدک پر مروان کا قبضہ:

۴۰ھ میں معاویہ رضی اللہ عنہ پر جب جماعت غالب آ گئی تو انہوں نے مروان بن الحکم کو والی مدینہ بنایا، مروان نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھ کر فدک مانگا، انہوں نے ان کو دے دیا، فدک مروان کے قبضے میں رہا جو اس کے پچھل ہر سال دس ہزار دینار کو فروخت کر ڈالتے تھے، مروان مدینے سے علیحدہ کر دیئے گئے، معاویہ رضی اللہ عنہ ان سے ناراض ہو گئے اور فدک بھی ان سے لے کے اپنے وکیل مدینہ کو دے دیا۔

معاویہ رضی اللہ عنہ سے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان نے مانگا، مگر انہوں نے انکار کیا، سعید بن العاص رضی اللہ عنہ نے مانگا تو انہیں دینے سے بھی انکار کیا، پھر جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ مروان کو والی مدینہ بنایا تو انہوں نے اسے بغیر مروان کی خواہش کے مروان کو واپس کر دیا اور اس کی گزشتہ آمدنی بھی انہیں کو واپس کر دی۔

باغ فدک پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا قبضہ:

فدک مروان کے قبضے میں رہا، انہوں نے اس کا نصف عبدالملک کو اور نصف عبدالعزیز بن مروان کو دیا، عبدالعزیز نے وہ نصف حصہ جو ان کے قبضے میں تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو ہیہہ کر دیا، عبدالملک کی وفات ہو گئی تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ولید سے ان کا حق اور سلیمان سے ان کا حق مانگا، دونوں نے اپنا اپنا حق ہیہہ کر دیا۔ اس طرح فدک بنی عبدالملک سے نکل کر تہا عمر ابن

عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا ہو گیا۔

فدک کے سلسلہ میں والی مدینہ کو خط:

جعفر نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس حالت میں والی خلافت ہوئے کہ ان کے اور ان کے عیال کا خرچ فدک سے چلتا تھا، آمدنی کم و بیش دس ہزار دینار سالانہ تھی، جب وہ والی خلافت ہوئے اور فدک کو دریافت کیا تو رسول اللہ ﷺ اور ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں جو معمول تھا اور بعد کو معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک کی جو کیفیت رہی اس سے انہیں آگاہ کیا گیا، عمر رضی اللہ عنہ نے ابوبکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو ایک فرمان لکھا جس کا مضمون یہ تھا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی جانب سے ابوبکر بن محمد کو سلام علیک، میں تم سے اسی اللہ کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد میں نے فدک کے معاملے میں غور کیا اور اس کے حال سے بحث کی، معلوم ہوا کہ وہ میرے لیے مناسب نہیں، میں نے یہی بہتر سمجھا کہ اسے اسی حال پر واپس کر دوں جس پر وہ رسول اللہ ﷺ و ابوبکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم کے عہد میں تھا اور ان حضرات کے بعد جو کچھ ہوا اسے ترک کر دوں، لہذا جیسے ہی تمہیں یہ فرمان پہنچے اس پر قبضہ کر کے کسی ایسے شخص کو اس پر مقرر کرو جو اس میں حق کو قائم کرے۔ والسلام علیک۔ ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں مجھے لکھا کہ قلعہ کتیبہ (خیبر) کے متعلق دریافت کر کے مجھے بتاؤ کہ وہ تمس میں تھا یا رسول اللہ ﷺ کا خاص حصہ تھا۔

ابوبکر نے کہا کہ میں نے عمرہ بنت عبدالرحمن سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بنی ابی الحقیق سے صلح کی تو آنحضرت ﷺ نے قلعہ نطاہ اور قلعہ شق (واقع خیبر) کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا، کتیبہ بھی انہیں کا ایک جزو تھا، رسول اللہ ﷺ نے پانچ حصے کر دیئے۔ اس کے ایک سہم پر ’لہ‘ (اللہ کے لیے) لکھ دیا اور فرمایا کہ اے اللہ تو اپنا حصہ کتیبہ میں کر دے، سب سے پہلے یہی سہم کتیبہ تھا جس پر ’لہ‘ لکھا۔ کتیبہ رسول اللہ ﷺ کا تمس تھا، دوسرے حصے بے نشان تھے، کوئی علامتیں نہ تھیں، وہ اٹھارہ حصے ہو کر مساوی طور پر مسلمانوں کے لیے تھے۔ ابوبکر نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو اسی طرح لکھ دیا۔

باغ فدک کی واپسی:

محمد بن بشر بن حمید المرزنی نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے بلا کر کہا کہ یہ چار ہزار یا پانچ ہزار دینار لو۔ اور ابوبکر بن حزم کے پاس لے جاؤ، ان سے کہو کہ اس میں پانچ یا چھ ہزار کتیبہ کے مال سے شامل کرو، کہ دس ہزار دینار ہو جائیں، یہ رقم بنی ہاشم پر تقسیم کر دو، مرد اور عورت، صغیر و کبیر میں مساوات کرو۔

ابوبکر نے اسی طرح کیا، زید بن حسن ناراض ہوئے، ابوبکر سے شکایت کی کہ عمر رضی اللہ عنہ میرے اور بچوں کے درمیان مساوات کرتے ہیں، ابوبکر نے کہا کہ آپ کی جانب سے یہ گفتگو امیر المؤمنین کو نہ پہنچنی چاہیے کہ وہ ناراض ہوں، آپ لوگوں کے بارے میں اب تک ان کی رائے اچھی ہے۔

زید نے کہا کہ میں خدا کے واسطے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ انہیں لکھ دو اور اس سے آگاہ کر دو، ابوبکر نے عمر کو لکھا کہ زید بن حسن نے ایسی بات کہی جس میں سختی تھی اور زید نے جو کچھ کہا اس سے عمر رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر دیا۔ راوی نے کہا کہ میں نے عرض کی:

امیر المومنین زید کے قرابت دار اور سگے رشتہ دار ہیں (جن کی وجہ سے انہیں زیادہ حاجت ہے) عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی شکایت و سخت کلامی کی پروا نہ کی اور انہیں چھوڑ دیا۔

فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے نام خط:

فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں خط لکھا، جس میں ان کے احسان پر شکر ادا کیا اور اللہ کی قسم کھائی کہ امیر المومنین آپ نے اسے خادم دیا جس کے پاس کوئی خادم نہ تھا، اسے پوشاک دی جو برہنہ تھا اس سے عمر مسرور ہوئے۔ یحییٰ بن ابی یعلیٰ سے مروی ہے کہ جب ابو بکر بن حزم کے پاس مال مذکور آیا تو انہوں نے اسے تقسیم کر دیا، ہر شخص کو پچاس دینار ملے، مجھے فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ نے بلایا اور کہا کہ لکھو میں نے لکھا:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللّٰهُ کے بندے امیر المومنین عمر کو فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف سے سلام علیک میں آپ کے سامنے اسی اللہ کی حمد کرتی ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اما بعد اللہ تعالیٰ امیر المومنین کی اصلاح کرے اور جو بار خلافت ان کے سپرد کیا ہے اس میں ان کی مدد کرے اور ان کے دین کی حفاظت کرے۔

امیر المومنین نے ابو بکر بن حزم کو لکھا کہ ہم لوگوں میں کتبیدہ (قلعہ خیبر) کا مال تقسیم کیا جائے یہ وہ امر ہے جو ان سے پہلے ہدایت یافتہ آئمہ راشدین کیا کرتے تھے، ہمیں اس کا علم ہوا، مال ہم میں تقسیم کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو صلہ دے اور ان کو وہ بہترین جزا دے جو اس نے اپنے والیوں میں سے کسی کو دی ہے، کیونکہ ہم لوگوں پر مصیبت آگئی تھی اور ہم اس کے محتاج تھے کہ ہمارے ساتھ حق کا برتاؤ کیا جائے۔

امیر المومنین میں آپ سے اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت میں سے جس کے پاس کوئی خادم نہ تھا اس نے خادم رکھ لیا، جو برہنہ تھا اس نے لباس بنا لیا اور جس کے پاس خرچ نہ تھا اس کو خرچ مل گیا، فاطمہ نے یہ خط ایک قاصد کے ذریعے عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا۔

فاطمہ بنت حسین کے لئے وظیفہ کا حکم:

راوی نے کہا کہ مجھے اس قاصد نے بتایا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، فاطمہ کا خط پڑھ کر سنایا تو ان کی یہ حالت ہوئی کہ اللہ کا شکر کرتے اور اس کی حمد کرتے، میرے لیے انہوں نے دس دینار کا حکم دیا، فاطمہ کو پانچ سو دینار بھیجے اور کہا کہ جو مصیبت آپ کو پیش آئے اس میں اس سے مدد حاصل کیجئے، انہیں ایک خط لکھا جس میں ان کے اور ان کے اہل بیت کے فضائل بیان کیے اور اس حق کا ذکر کیا جو اللہ نے ان لوگوں کے لیے واجب کیا ہے۔ راوی نے کہا کہ میں یہ مال ان کے پاس لایا۔

اولاد عبد المطلب کا اظہار طمانیت:

جعفر بن محمد سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے ذی القریٰ کی آمدنی عبد المطلب کی اولاد میں تقسیم کر دی، ان بیویوں کو جو اولاد عبد المطلب میں نہ تھیں کچھ نہیں دیا، صرف ان بیویوں کو دیا جو عبد المطلب کے خاندان کی تھیں۔

یحییٰ بن شہل سے مروی ہے کہ میں علی بن عبد اللہ بن عباس و ابو جعفر محمد بن علی کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا اور عمر بن

عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی غیبت کرنے لگا دونوں نے اسے منع کیا اور کہا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے آج تک خمس ہم لوگوں پر تقسیم نہیں کیا گیا تھا، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اسے اولاد عبدالمطلب پر تقسیم کر دیا، میں نے کہا کہ کیا انہوں نے اولاد عبدالمطلب کو دیا، انہوں نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اولاد عبدالمطلب سے آگے نہیں بڑھایا (یعنی ان کو دیا اور کسی کو نہیں دیا)۔

یزید بن عبدالملک التوفلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہمارے یہاں خمس کا مال آیا جس میں ان کے پاس کا اور کتبہ کا مال تھا، یہ سب انہوں نے بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں پر تقسیم کر دیا، اس پر بنی عبدالمطلب کے بارے میں عرض کیا گیا تو انہوں نے لکھا کہ وہ تو بنی ہاشم ہی میں ہیں اور انہیں بھی دیا گیا۔ عبدالملک بن مغیرہ نے کہا کہ بنی ہاشم کی ایک جماعت نے ایک خط لکھا اور اسے قاصد کے ہاتھ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا، اس خط میں انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس احسان کا شکریہ ادا کیا جو انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کیا اور یہ کہ جب سے معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے یہ لوگ برابر مصیبت میں رہے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج سے پہلے بھی میری یہی رائے تھی اور میں نے ولید بن عبدالملک اور سلیمان سے اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، مگر ان دونوں نے انکار کر دیا تھا جب میں خود والی خلافت ہوا تو اس چیز کا قصد کیا جس کو میں سمجھتا ہوں کہ ان شاء اللہ حق کے زیادہ موافق ہے۔

آل عبدالمطلب میں مال کی تقسیم:

حکیم بن محمد سے جو بنی عبدالمطلب میں سے تھے مروی ہے کہ جب عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان آیا کہ بنی ہاشم پر تقسیم کیا جائے تو ابوبکر بن حزم نے ہم لوگوں کو علیحدہ کرنے کا ارادہ کیا، اولاد عبدالمطلب نے کہا کہ ہم لوگ ایک درہم بھی نہ لیں گے اگر وہ لوگ نہ لیں، چند روز تک ابوبکر ہم لوگوں کے پاس آمد و رفت کرتے رہے پھر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو لکھا، مشکل سے انیس دن گزرے ہوں گے کہ ان کے پاس جواب آیا کہ اپنی جان کی قسم میں نے ان لوگوں میں تفریق نہیں کی، وہ لوگ قدیم و کهنہ معاہدہ حلف میں اولاد عبدالمطلب ہی میں ہیں، لہذا ان سب کو اولاد عبدالمطلب ہی کی طرح کر دو۔ عبداللہ بن محمد بن عقیل بن ابی طالب سے مروی ہے کہ سب سے پہلا مال جس کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے تقسیم کیا وہ تھا جو انہوں نے ہم اہل بیت کے پاس بھیجا، خواتین کو اتنا ہی دیا جتنا کہ مرد کو اور بچے کو بھی عورت کے برابر دیا، ہم اہل بیت کو تین ہزار دینار پہنچے، انہوں نے ہمیں لکھا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے تمام حقوق دوں گا۔

فارس کے باغات پر عشر کے متعلق حکم:

یحییٰ بن اسماعیل بن ابی المہاجر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عدی بن ارطاة کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فارس کے عامل پھلوں کو ان کے مالکوں کے پاس اندازہ کر کے قیمت ایسے نرخ سے لگاتے ہیں جس پر لوگ باہم خرید و فروخت نہیں کرتے، اس اندازہ کی ہوئی قیمت پر اس کی چاندی لیتے ہیں، کروں کے چند گروہ راستے سے عشر (آمدنی کا دسواں حصہ وہ یک) وصول کرتے ہیں۔

اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ ان امور میں سے تم نے کسی امر کا حکم دیا ہے یا اس کے معلوم ہونے کے بعد تم اس پر راضی ہو تو ان شاء اللہ میں کوئی ایسی بحث نہ کرتا جو تمہیں ناگوار معلوم ہوتی، میں نے بشر بن صفوان و عبداللہ بن عجلان و خالد بن سالم کو بھیجا ہے کہ اس معاملے

کی تحقیقات کریں، اگر وہ اس کوچ پائیں تو لوگوں کو وہ پھل واپس کر دیں جو ان سے لیا گیا، اور اس نرخ کے مطابق لیں جس پر اہل ملک ان کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں، جو باتیں مجھے معلوم ہوئیں ان میں سے کوئی بات وہ لوگ بغیر تحقیق کیے نہ چھوڑیں گے لہذا تم ان کو نہ روکنا۔
بدری صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت:

یونس بن عبید سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ امیر المؤمنین! میں فلاں ابن فلاں ہوں، میرے دادا جنگ بدر میں شہید ہوئے اور والد جنگ احد میں، وہ اپنے بزرگوں کے مناقب بیان کرنے لگا، عمر رضی اللہ عنہ نے عنہ بن سعید کی طرف دیکھا جو ان کے پاس تھے انہوں نے کہا کہ واللہ یہ مناقب تم لوگوں کے نہیں، اے مسکن و دیر الجمال کے رہنے والو:

تلك المكارم لا تعبان من لبن شيبا بماء فعادا بعد ابو الا

”بزرگیاں یہ ہیں، دودھ کے دو پیالے نہیں ہیں جن میں پانی ملایا گیا ہو کہ بعد کو پیشاب بن کر نکل جائے۔“

بشر بن عبد اللہ بن عمر سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے بشر بن سلمہ کو لکھا: اما بعد، اس معاملے کو درست رکھو جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے اور جان لو کہ میں نے تمہیں بہت بڑی امانت میں شریک کیا ہے، اگر تم نے اللہ کے حقوق میں سے کوئی حق ضائع کر دیا تو تم اس کے نزدیک اس کی مخلوق بھر سے ذلیل ہو گے اور عمر تمہیں اللہ سے ہرگز نہ بچا سکے گا۔

خالد بن یزید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے توضیح کر کے میت پر رونے اور کھیل تماشے کے بارے میں عاملوں کو لکھا کہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ بیوقوفوں کی عورتیں زمانہ جاہلیت کے فعل کی طرح میت پر اپنے بال کھول کر نوحہ کرتی ہوئی نکلتی ہیں، حالانکہ انہیں جب سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ”یضرو لیضرو بن بخمرہن علی جوبہن“ (اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں) دوپٹے اتارنے کی اجازت نہیں دی گئی، لہذا تم لوگ نوحہ خوانی کے روکنے میں سختی سے حکم دو۔
لہو ولعب کو ترک کرنے کا حکم:

یہ نجی ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں جو شیطان نے ان کے لیے خوبصورت بنا دی ہیں، تم ان مسلمانوں کو جو تمہارے پاس ہیں سختی سے منع کرو، میری جان کی قسم ان کے لیے وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کو ترک کر دیں، باوجودیکہ وہ کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں (کھیل تماشے سے باز نہیں آتے) لہذا اس باطل و لہو و لعب سے جو گانا ہو یا اس کے مشابہ کوئی اور چیز، سختی سے منع کرو، اگر باز نہ آئیں تو ان میں سے جو اس کا ارتکاب کرے اسے اس طرح سزا دو کہ حد سے متجاوز نہ ہو۔

اہلیہ کا قیمتی ہیرا بیت المال میں جمع کرادیا:

خلید بن عجلان سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت عبد الملک (زوجہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ) کے پاس ایک ہیرا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا، انہوں نے کہا کہ میرے والد امیر المؤمنین نے دیا ہے، انہوں نے کہا کہ یا تو تم اسے بیت المال میں داخل کرو یا طلاق کی اجازت دو، مجھے یہ پسند نہیں کہ میرے اور تمہارے ساتھ وہ ہیرا بھی ایک ہی گھر میں ہو، انہوں نے کہا کہ اگر اس سے چند گونہ زائد بھی میرے پاس ہو تو اس پر میں آپ ہی کو ترجیح دیتی ہوں، یہ کہا اور اس کو بیت المال میں داخل کر دیا۔

جب یزید بن عبد الملک والی ہوئے تو ان سے کہا کہ اگر تم چاہو تو وہ یا اس کی قیمت تمہیں واپس کر دوں انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی خواہش نہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بطیب خاطر اسے دیا تھا ان کی وفات کے بعد اسے واپس کر لوں؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں یزید نے اسے اپنی بیوی بچوں میں تقسیم کر دیا۔
ایک قبیح رسم کا خاتمہ:

لوط بن یحییٰ الغامدی سے مروی ہے کہ بنی امیہ کے تمام والیان حکومت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے علی رضی اللہ عنہ کو گالی دیتے تھے جب عمر رضی اللہ عنہ والی ہوئے تو وہ اس سے باز رہے اس پر کثیر عزة الخراسانی نے (غالی شیعہ) حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رجعت کا قائل تھا، عمر نے اس کی تکفیر کی تھی (اشعار ذیل کے):

وَلَيْتَ فَلَم تَشْتِمَ عَلِيًّا وَلَمْ تَخْفِ اِ بَرِيًّا وَلَمْ تَتَّبِعْ مَقَالَةَ مَجْرِمٍ
” (اے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ) آپ والی ہوئے مگر علی رضی اللہ عنہ کو گالی نہیں دی نہ (گالی سے) الگ رہنے والے کو خوف دلایا اور نہ کسی مجرم کی بات کی پیروی کی۔

تَكَلَّمْتُ بِالْحَقِّ الْمَسِينِ وَأَنَا ۲ مَتَّبِعُ آيَاتِ الرَّسَدِيِّ بِالْتَكَلِمِ

آپ نے کھلے ہوئے حق کو بیان کر دیا اور ہدایت کی نشانیاں تو بیان کرنے ہی سے ظاہر ہوتی ہیں۔

فَصَدَقْتُ مَعْرُوفَ الَّذِي قُلْتُ بِالذِّى ۳ فَعَلْتُ فَاصْحَى رَاضِيًا كَلَّ مَسْلَمِ

” پھر آپ نے اس خیر کی تصدیق کی جو آپ نے کہا اسی کو کیا لہذا ہر مسلمان خوش ہو گیا۔“

اور یس بن قادم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے میمون بن مہران سے کہا کہ میمون اس خلافت کے مددگاروں پر میرے لیے کیا صورت ہے کہ میں ان پر بھروسہ کر دوں اور ان سے مطمئن ہو جاؤں انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اس میں آپ اپنا دل نہ لگائیے کیونکہ آپ تو بازار ہیں اور ہر بازار میں وہی چیز لائی جاتی ہے جو اس میں رائج ہوتی ہے جب لوگ جان جائیں گے کہ آپ کے پاس سوائے صحیح کے کچھ نہیں چلتا تو صحیح ہی لائیں گے۔

صحابہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلافات پر سکوت:

خالد بن یزید بن بشر نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے علی و عثمان رضی اللہ عنہما اور جنگ جمل و صفین کو اور اس واقعے کو جو ان لوگوں کے درمیان ہوا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ خون ہیں جن سے اللہ نے میرا ہاتھ روک دیا میں ناپسند کرتا ہوں کہ اپنی زبان کو اس میں آلودہ کروں۔

خالد بن یزید بن بشر نے اپنے والد سے روایت کی کہ مسلمانوں کو صائفہ (موسم گرما کی لشکر کشی) میں رومیوں کا ایک کم سن غلام ملا اس کے اعزہ نے فدیہ دینے کو کہلا بھیجا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا لوگوں نے ان کی مخالفت کی تو انہوں نے کہا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں اگر ہم اس کے کم سن ہونے کی حالت میں فدیہ نہ لیں امید ہے کہ اللہ اس کے بڑے ہونے کے بعد اس کی گرفتاری کا موقع دے دے ان لوگوں نے اس سے بہت مال فدیے میں لیا ہشام کی خلافت کے آخر میں گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔

زمین پر بسم اللہ لکھنے کی ممانعت:

محمد بن الزبیر الجعفی سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو زمین پر (بسم اللہ الرحمن الرحیم) لکھ رہا تھا انہوں نے اسے منع کیا اور کہا کہ دوبارہ نہ لکھنا۔

ابویعقوب بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے عبدالحمید بن عبدالرحمن کو جو ان کی طرف سے عراق کے عامل تھے دس ہزار درہم انعام دیا۔

شوق شہادت:

یزید بن عیاض بن جعد بہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن ابی کریمہ کو لکھا کہ اللہ کی تعظیم اور اس کے خوف کا سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جس کو اس نے کسی ایسی چیز میں مبتلا کیا ہو جس میں اس نے مجھے مبتلا کیا ہے اور کوئی شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے مجھ سے زیادہ سخت حساب میں پڑنے والا اور اللہ کے نزدیک ذلیل نہیں ہے میں جس حال میں ہوں اس کے انجام پر قادر نہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مرتبہ جس پر میں کہیں ہلاکت نہ ہو سوائے اس کے کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کا تدارک کر دے مجھے مظلوم ہوا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے ہو برادر من میں چاہتا ہوں کہ جب تم اپنا مورچہ لینا تو اللہ سے دعا کرنا کہ مجھے بھی وہ شہادت عطا کرے کیونکہ میرا حال سخت ہے اور خطرہ بڑا میں اس اللہ سے دعا کرتا ہوں جس نے مجھے اس چیز میں مبتلا کیا جس میں اس نے مجھے مبتلا کیا ہے کہ وہ مجھ پر رحمت کرے اور معاف کر دے۔

خالد بن یزید بن بشر نے اپنے والد سے روایت کی کہ میمون بن مہران درجاء بن حیوہ وریاح بن عبیدہ الکندی، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مخصوص لوگوں میں سے تھے اور وہ جماعت جو ان کے نزدیک ان لوگوں سے کم تھی عمرو بن قیس و عون بن عبداللہ بن عتبہ و محمد بن زبیر الجعفی پر مشتمل تھی۔

گورنری کی اہلیت:

مسلمہ بن محارب وغیرہ سے مروی ہے کہ بلال بن ابی بردہ اور ان کے بھائی عبداللہ بن ابی بردہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور مسجد کی اذان کے معاملے میں ان کے سامنے بھگڑا کیا، عمر رضی اللہ عنہ ان دونوں سے شک میں پڑ گئے (کہ واقعی کون مؤذن بننے کا مستحق ہے)۔

عمر رضی اللہ عنہ نے خفیہ طور پر ہر ایک کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان دونوں سے علیحدہ علیحدہ دریافت کرے کہ اگر میں امیر المؤمنین سے کہوں کہ وہ تم کو عراق کا والی بنا دیں تو تم میرے لیے کیا کرو گے اس شخص نے بلال سے ابتداء کی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ایک لاکھ دوں گا وہ شخص ان کے بھائی کے پاس آیا انہوں نے بھی اس سے ایسا ہی کہا۔

اس شخص نے عمر کو خبر دی انہوں نے حکم دیا کہ تم دونوں اپنے شہر کو چلے جاؤ عبدالحمید بن عبدالرحمن کو لکھا کہ بلال کو جو بلال شہر ہے والی نہ بنانا اور نہ ابوموسیٰ کی اولاد میں سے کسی اور کو۔ بعض نے کہا کہ انہوں نے لکھا: بلیل شہر کو والی نہ بنانا انہوں نے بلال کی (تحقیر کے لیے) تصغیر کر دی۔

فضول خرچی پر تنبیہ:

عوانہ بن الحکم الکلبی سے مروی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک کی وفات واقع میں ہوئی اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے، عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ سنایا اور کہا کہ واللہ نہ میں نے اس کی خواہش کی اور نہ تمنا کی، بس اللہ سے ڈرو اپنی جانب سے حق ادا کرو اور حقوق واپس کرو، کیونکہ واللہ مجھے اہل قبلہ میں سے کسی پر غصہ نہیں ہے، سوائے اسراف کرنے والوں کے، یہاں تک کہ اللہ اسے میانہ روی کی طرف واپس کر دے، انہوں نے مسلمہ کو جو ملک روم میں تھے لکھ کر واپس آنے کا حکم دیا اور لوگوں کو واپسی اور اجازت کو کہلا بھیجا۔

سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو مشعل راہ بنانا:

ثنی بن عبد اللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے سالم کو لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ (فاروق) کی سیرت لکھیں، سالم نے جواب لکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ ایک ایسے زمانے میں تھے جو آپ کا سا زمانہ نہ تھا، وہ ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو آپ کے ساتھیوں جیسے نہ تھے، اگر آپ اپنے زمانے اور اپنے لوگوں میں ویسا ہی عمل کریں گے جیسا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے اور اپنے لوگوں میں کیا تو مشعل عمر رضی اللہ عنہ کے اور افضل بن جائیں گے۔

عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے مروی ہے کہ لوگ سلیمان بن عبد الملک کے پاس گھوڑے لے گئے، قبل اس کے کہ وہ انہیں جاری کریں ان کی وفات ہو گئی، عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے شرمائے اور انہوں نے ان گھوڑوں کو جاری کر دیا جو جمع کیے گئے تھے، آخری گھوڑا بھی جو آیا تھا اس طرح دے دیا کہ انہوں نے کسی کو نامراد نہیں رکھا، اس کے بعد وفات تک کوئی گھوڑا جاری نہیں کیا۔

مسلمہ بن محارب سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے عدی کو لکھا کہ سربراہ اور دکان قبائل کے نائب تو ہم مرتبہ ہیں، تم سردار ان لشکر کے ناہوں کو دیکھو جس کی دیانت داری سے ہمارے لیے اور اس کی فوج کے لیے راضی ہوا سے باقی رکھو اور جس سے راضی نہ ہو اس کو ایسے شخص سے بدل دو جو اس سے بہتر ہو اور دیانت داری اور تقویٰ میں زیادہ افضل ہو۔ حسن بن ابی العزیمہ سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنا کے جانے سے قبل دیکھا، اس وقت یہ حالت تھی کہ تم ان کے چہرے میں خیر پہچان لیتے، جب وہ خلیفہ ہوئے تو مجھے ان کی پیشانی پر موت نظر آئی۔ مالک بن انس سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جب مدینے سے روانہ ہوئے تو کہا کہ اے مزاحم! ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں جن کو مدینے نے نکال دیا ہے۔

آزادی کے اختیار پر کنیزوں کا رونا:

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے متعلقین کے کسی مخصوص شخص سے مروی ہے کہ جس وقت خلافت انہیں پہنچی تو لوگوں نے ان کے مکان میں رونے کی بلند آواز سنی، دریافت کیا گیا تو معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی کنیزوں کو (کنیزی میں رہنے اور آزاد ہو جانے کا) اختیار دے کر کہا ہے کہ مجھ پر ایک ایسا امر نازل ہو گیا ہے جس نے ہمیں تم سے روک دیا ہے جو یہ چاہے کہ میں اسے آزاد کر دوں تو میں نے اسے آزاد کر دیا، اور جس کو میں روکوں گا تو اس کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا، وہ ان سے مایوس ہو کر رونے لگیں۔

احساس ذمہ داری:

ابی عبیدہ بن عقبہ بن نافع القرظی سے مروی ہے کہ میں فاطمہ بنت عبد الملک (زوجہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما) کے پاس گیا اور کہا کہ مجھے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما کا حال بتاؤ انہوں نے کہا کہ جب سے اللہ نے انہیں خلیفہ بنایا اس وقت سے اپنی وفات تک مجھے تو نہیں معلوم کہ انہوں نے کبھی جنابت یا احتلام کی وجہ سے غسل کیا ہو۔

ہشام سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت عبد الملک نے فقہا میں سے کسی کو بلا بھیجا اور کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ امیر المومنین جو کچھ کرتے ہیں اس کی انہیں طاقت نہیں ہے پوچھا وہ کیا ہے فاطمہ نے کہا کہ جب سے وہ والی ہوئے اپنی بیوی سے کوئی تعلق نہ رکھا فقہ مذکور عمر سے ملے اور کہا امیر المومنین مجھے ایک ایسی بات معلوم ہوئی ہے کہ اندیشہ ہے آپ کو اس کی قدرت نہ ہوگی پوچھا وہ کیا ہے؟ فقہ نے کہا کہ آپ کے متعلقین کے لیے بھی آپ پر حق ہے۔ عمر نے کہا کہ وہ شخص اس کے پاس کیسے آسکتا ہے جس کی گردن میں امت محمد ﷺ کا کام ہو جس کو قیامت میں اللہ پوچھے والا ہو۔

ایک شیخ سے مروی ہے کہ جب وابق میں عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما والی ہوئے تو ایک رات کو گشت کے لیے نکلے ہمراہ ایک سپاہی بھی تھا وہ مسجد میں گئے تاریکی میں ایک شخص کے پاس سے گزرے جو سو رہا تھا اسے ان کی خبر ہوگئی سراٹھا کر کہا کہ کیا تم پاگل ہو عمر نے کہا نہیں سپاہی نے مارنے کا ارادہ کیا تو عمر نے کہا کہ خبردار اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم مجنون ہو میں نے کہا نہیں۔

سفیان سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما سے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے فرصت نکالتے (تو بہتر ہوتا) عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ فرصت کہاں فرصت تو گئی فرصت تو سوائے اللہ کے یہاں کہیں نہیں۔ سفیان سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے فرصت دو کیونکہ میرے لیے کام ہے اور حوائج ہیں۔

خوف خدا سے گریہ و زاری:

سری بن یحییٰ سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما نے اللہ کی حمد کی پھر اشک کی روانی نے ان کا حلق بند کر دیا انہوں نے کہا کہ اے لوگو! تم اپنی آخرت درست کرو دنیا خود بخود درست ہو جائے گی تم اپنے باطن کو درست کرو ظاہر آپ ہی درست ہو جائے گا واللہ کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اس کے اور آدم کے درمیان اس کا کوئی باپ ہو اور وہ مر نہ گیا ہو بے شک موت ہی اس کی رگ و پے میں پیوست ہونے والی ہے۔

ریاح بن زید سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما نے عروہ کو لکھا کہ تم میرے پاس خطوط کی مراسلت کرتے رہتے ہو میں جس حق کے متعلق تم کو لکھوں اسے نافذ کرو یا کرو کیوں کہ موت کا وقت معلوم کرنے کا کوئی آلہ ہم نہیں جانتے۔ مزید بن حوشب برادر عوام سے مروی ہے کہ میں نے حسن بن علیؓ اور عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ عنہما سے زیادہ (خدا سے) ڈرنے والا کوئی نہیں دیکھا گویا دوزخ صرف انہیں دونوں کے لیے پیدا ہوئی تھی۔

موت سے بے خوفی:

ارطاط بن المنذر سے مروی ہے کہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما کے پاس ایک جماعت تھی جو ان سے درخواست کرتی تھی کہ اپنے

کھانے کی نگرانی کیجئے (کہ کوئی زہر نہ دے دے) نماز پڑھئے تو کوئی نگہبان ہو کہ حملہ کرنے والا قتل نہ کر دے، ظالموں جہاں ہو وہاں سے دور رہئے انہیں وہ لوگ یہ کہتے کہ پہلے کے خلفاء کا یہی عمل تھا، عمران سے پوچھتے کہ پھر وہ لوگ کہاں ہیں، جب ان لوگوں نے بہت زور دیا تو کہا کہ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں سوائے قیامت کے کسی اور دن سے ڈرتا ہوں تو میرے خوف کو امن نہ دے۔

مجاہد سے مروی ہے کہ ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، گمان یہ تھا کہ وہ ہم سے استفادہ کریں گے، مگر ہم لوگ جب ان کے پاس سے نکلے تو انہیں کے محتاج تھے۔ خسیف نے کہا کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے بہتر کوئی شخص نہیں دیکھا۔
خوشبو سلگانے کی رسم کا سد باب:

محمد بن عجلان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پہلے خلفاء مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایام جمعہ میں لوہان سلگانے اور رمضان میں اس کی صفائی و خوشبو کا خرچ عشر و صدقہ (زکوٰۃ زمین و مال) سے جاری کرتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ والی ہوئے تو انہوں نے اس رسم کو بند کرنے اور مسجد سے خوشبو کا اثر مٹانے کو لکھا، ابن عجلان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ خوشبو کے نشان پانی اور رونالوں سے دھوتے تھے۔

عبید بن الولید سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو بیان کرتے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے لیے عام مطبخ میں پانی گرم کیا جاتا تھا جس سے وہ وضو کرتے، ان کو اس کا علم نہ تھا بعد کو معلوم ہوا تو پوچھا کہ کتنی مدت سے پانی گرم کرتے ہو، لوگوں نے کہا کہ ایک مہینہ یا اس کے قریب، انہوں نے مطبخ میں اتنا ایندھن ڈال دیا۔

عبید بن الولید نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ جب رعایا کے معاملے کی باتیں کرتے تو بیت المال سے چراغ جلاتے اور جب اپنے ذاتی معاملے کی باتیں کرتے تو ذاتی مال کا چراغ جلاتے۔ ایک شب وہ اسی حالت میں تھے کہ چراغ دھبیا ہو گیا، اٹھ کر قریب گئے کہ اسے درست کریں، کہا گیا کہ امیر المؤمنین، ہم لوگ آپ (کی خدمت) کے لیے کافی ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کھڑا ہوں جب بھی عمر ہوں اور بیٹھوں جب بھی عمر ہوں۔
کبھی جھوٹ نہ بولا:

ابراہیم السمری سے مروی ہے کہ سلیمان بن عبد الملک اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلاموں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ اس کو سلیمان نے عمر سے بیان کیا، جس وقت وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے سلیمان نے کہا تم نے جھوٹ کہا، عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بولنا عیب ہے میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ مجاہد سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، مجھے تیس درہم دیئے اور کہا کہ اے مجاہد یہ میرے وظیفے میں سے ہیں۔
غلام آزاد کرنے کا واقعہ:

حفص بن عمر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو آزاد نہیں کیا، وہ ان کے لیے لکڑیاں جمع کرتا اور میکیاں چتا تھا، غلام نے ان سے کہا کہ سوائے میرے اور آپ کے سب لوگ خیر میں ہیں، انہوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی آزاد ہو۔ اسحاق بن یحییٰ سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی خلافت کے زمانے میں آیا، انہیں اس حال میں پایا کہ انہیں کے لیے

علیحدہ بیت المال بنایا تھا، زکوٰۃ کے لیے علیحدہ اور غنیمت کے لیے علیحدہ۔
کفایت شعاری:

عمر بن میمون سے مروی ہے کہ میں اور عمر امت کے معاملات میں حفاظت کیا کرتے تھے میں نے ان سے کہا کہ امیر المؤمنین! ان دفتروں کو دیکھئے کہ موٹے قلم سے لکھ کر طول دیا جاتا ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کے بیت المال کا ہے، عمر رضی اللہ عنہما نے تمام اطراف میں لکھا کہ موٹے قلم سے دفتر میں ہرگز نہ لکھا جائے اور طول نہ دیا جائے ان کے فرمان بھی مختصر ہو کے ایک بالشت یا اس کے قریب رہ گئے۔

حفص بن عمر بن ابی الزبیر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے ابو بکر ابن حزم کو لکھا: اما بعد، تم نے اپنے خط میں بیان کیا ہے کہ وہ کاغذ جو تمہارے پاس تھے ختم ہو گئے ہیں، ہم نے تمہارے لیے اس سے کم نہیں مقرر کیے تھے جتنے تم سے پہلے والوں کے لیے مقرر کیے جاتے تھے لہذا اپنے قلم کو باریک کرو اور سطروں کو قریب جامع طور پر اپنے حواج ظاہر کرو کیونکہ میں اسے ناپسند کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے مال سے وہ چیز نکالوں جس سے وہ مستنفع نہ ہوں۔ عبداللہ بن دینار سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے مسلمانوں کے بیت المال سے کبھی کچھ وظیفہ نہیں لیا اور نہ اسے کم کیا، اسی پر ان کی وفات ہو گئی۔
مرتے دم تک عدل کرتے رہنے کی تمنا:

سبرہ بن عبدالعزیز بن الربیع بن سبرہ نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے کہا کہ واللہ میری دلی خواہش ہے کہ ایک روز عدل کروں اور اسی حالت میں اللہ مجھے اٹھالے، ان کے بیٹے عبدالملک نے کہا کہ امیر المؤمنین! واللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اونٹنی کا دودھ دوہنے میں ایک تھن سے دوسرے تھن تک ہاتھ لے جانے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنی دیر آپ عدل کریں اور اسی حالت میں اللہ آپ کو اپنے پاس بلا لے پھر کہا کہ اللہ وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگرچہ مجھ کو اور آپ کو ہانڈیاں اُبال دیں، عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔
احتساب نفس:

جویریہ ابن اسامہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میرا نفس ہی بڑا حریص ہے کہ جب کوئی چیز دی گئی تو اس سے بہتر کی حرص پیدا ہو گئی، جب اسے وہ چیز دے دی گئی جو جس سے افضل دنیا میں کوئی چیز نہ تھی (یعنی خلافت) تو اسے اس چیز کا شوق ہوا جو اس سے بھی افضل ہے (یعنی جنت) سعید نے کہا کہ جنت خلافت سے افضل ہے۔

میمون سے مروی ہے کہ میں چھ مہینے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے پاس مقیم رہا مگر نہیں دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادر بدلی ہو، سوائے اس کے کہ ایک جھمے سے دوسرے جھمے تک دھو دی جاتی تھی اور ہلکا سا عفرانی رنگ دے دیا جاتا تھا۔
مردار کی ہڈیوں سے بنی اشیاء:

عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی ایک ام ولد سے مروی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہما نے مجھ سے تیل مانگا، تیل اور ہاتھی کی ہڈیوں کا کنگھا ان کے پاس لائی، انہوں نے کنگھا واپس کر دیا اور کہا کہ یہ مردار ہے۔ میں نے کہا کہ اسے مردار کس نے بنایا، انہوں نے کہا کہ تم پر افسوس ہے

ہاتھی کو کس نے ذبح کیا۔

اسماعیل بن ابی حکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مجھے اور مزاحم کو فجر کی نماز سے پہلے بلا بھیجا، ہم ان کے پاس آئے، انہوں نے نہ تیل لگایا تھا اور نہ تیار ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے تیل سے عجلت کی، کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ کنگھا منگاکے اسے اپنی داڑھی میں کرے۔

خوراک و لباس کا حال:

اسماعیل بن عیاش سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں چوبداروں کے سردار عمرو بن الہباجر سے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں کیا پہنا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ استردار سیاہ جبہ۔ یعلیٰ بن حکیم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی چادریں چھ ہاتھ ایک بالشت لمبی اور سات بالشت چوڑی تھیں۔

عمارہ بن ابی حفصہ سے مروی ہے کہ مسلمہ بن عبدالملک عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اپنی بہن فاطمہ بنت عبدالملک زوجہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آج امیر المؤمنین نے فاتحہ کی حالت میں صبح کی ہے، میں ان کا کرتہ میلادیکھتا ہوں، لہذا انہیں اس کے علاوہ کوئی دوسرا کرتہ پہنا دو کہ ہم ان کے پاس لوگوں کو آنے کی اجازت دیں۔ وہ خاموش ہو گئیں، انہوں نے پھر کہا کہ امیر المؤمنین کو اس کے سوا دوسرا کرتہ پہنا دو، تو انہوں نے کہا کہ واللہ ان کے پاس اس کے سوا کوئی کرتہ نہیں۔

قیمت کی قیمت:

عمرو بن میمون سے مروی ہے کہ میں ریشم کا ٹکڑا سلیمان بن عبدالملک کے پاس لایا، ان کے یہاں عمر کو دیکھا کہ سب سے زیادہ سخت اور موٹی گردن والے تھے، عمر رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کے بعد ایک ہی سال گزرا تھا کہ میں ان کے پاس آیا، انہوں نے باہر آ کے ہمیں نماز پڑھائی، حالت یہ تھی کہ بدن پر ایک کرتہ تھا جو ایک دینار یا اسی کے قریب قیمت کا تھا، ایک رومال (ملیہ) بھی اسی قیمت کا تھا اور ایک عمامہ تھا جس کو انہوں نے اپنے شانوں کے درمیان لٹکا لیا تھا، وہ دبلے ہو گئے تھے، گردن بھی تپلی ہو گئی تھی۔

امیر المؤمنین کا باوقار لباس:

رجاء بن حیوہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ عطر لگانے والے اور سب سے اچھا لباس پہننے والے اور چلنے میں سب سے آہستہ خرام تھے، جب خلیفہ ہوئے تو لوگوں نے ان کے کپڑوں کی قیمت کا اندازہ بارہ درہم کیا، یہ کپڑے ٹوپی، عمامہ، کرتہ، قبائلی رومال، موزے اور مصری چادر پر مشتمل تھے۔

سعید بن سوید سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جمعے کی نماز پڑھائی، حالت یہ تھی کہ بدن پر ایک کرتہ تھا جس کے چاک میں آگے اور پیچھے پیوند لگا ہوا تھا، نماز سے فارغ ہو کے وہ بھی بیٹھے اور ان کے ساتھ ہم بھی بیٹھ گئے، جماعت میں سے ایک شخص نے کہا کہ اگر آپ لباس پہنیں اور بنا لیں (تو بہتر ہے) تھوڑی دیر تک سر جھکائے رہے، جس سے ہم سمجھے کہ یہ بات انہیں ناگوار گزری، پھر انہوں نے اپنا سراٹھایا اور کہا کہ بہترین میانہ روی غصے کے وقت اور بہترین عفو قدرت کے وقت ہے۔

ازہر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خناصرہ میں لوگوں کو خطبہ سناتے دیکھا، بدن پر ایک پیوند لگا ہوا کرتہ

تھا۔ عمر بن مہاجر سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے جے ٹخنے اور جوتے کے تے کے درمیان تک دیکھے۔ معرف بن واصل سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ اس طرح کے آنے کے بدن پر دو سبز چادریں تھیں۔

عبید بن الولید بن ابی السائب الدمشقی سے مروی ہے کہ میں نے والد کو بیان کرتے سنا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس خزا کا ایک خاکی اور ایک زرد جبہ تھا اور خزا کی ایک خاکی اور ایک زرد چادر تھی جب خاکی جبہ پہنتے تو زرد چادر اوڑھتے اور جب زرد جبہ پہنتے تو خاکی چادر اوڑھتے پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔

عمر بن موسیٰ الانصاری سے مروی ہے کہ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس آیا وہ برآمد ہوئے، سر پر ایک خاکی رنگ کا شالی رومال تھا میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ خزا کا ہے انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔

ربیع بن صبیح سے مروی ہے کہ مجھ سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے کسی دیکھنے والے نے بیان کیا کہ وہ طہالہ کے جے میں بغیر تہ بند کے نماز پڑھتے تھے۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنی مونچھیں بالکل صاف نہ کر دیتے بلکہ اچھی تراشتے۔ ابوالخصن سے مروی ہے کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے مشک کی خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ محمد بن ہلال سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ پیشانی پر سجدے کا نشان نہ تھا۔ ابوالخصن سے مروی ہے کہ میں نے منبر پر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس کبھی تلوار نہیں دیکھی۔

ایوب سے مروی ہے کہ مجھے خبر دی گئی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے چوتھی قبر کا مقام بیان کیا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس ہے لوگوں نے اس کو ان کے لیے پیش کیا اور کہا کہ اگر آپ مدینے کے قریب ہوتے (تو وہاں دفن ہونے کا امکان تھا) انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کا سوائے آگ کے ہر قسم کا عذاب کرنا اس سے زیادہ پسند ہے کہ وہ یہ جانے کہ میں اپنے کو اس مقام کا اہل سمجھتا ہوں۔

ایوب سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ امیر المؤمنین اگر آپ مدینے آتے اور وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موت دیتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ دفن کیے جاتے انہوں نے کہا کہ واللہ خدا کا مجھے سوائے آگ کے ہر قسم کا عذاب دینا جس پر مجھے صبر بھی نہ ہو سکے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ یہ جانے کہ میں اپنے کو اس کا اہل سمجھتا ہوں۔

اوزاعی سے مروی ہے کہ محمد بن المقدم نے فاطمہ بنت عبد الملک زوجہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کی رائے میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے مرض وفات کی ابتداء کس سے ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ میری رائے میں اس کی ابتداء یا اکثر حصے کی ابتداء خوف الہی سے ہوئی۔

عبد الجبید بن سہیل سے مروی ہے کہ میں نے طیب کو دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس سے نکلا ہم نے پوچھا کہ آج آپ نے الح کا قارورہ کیسا دیکھا اس نے کہا کہ قارورے میں کوئی اندیشہ نہیں البتہ انہیں لوگوں کے معاملات کی فکر ہے۔ ابن لہیعہ سے مروی ہے کہ لوگوں نے بعض خطوط میں پایا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو خوف خدا قتل کر دے گا۔

قبر کی زمین کی قیمت:

محمد بن قیس سے مروی ہے کہ میں امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے ابتدائے مرض میں موجود تھا۔ کیم رجب ۱۰۱ھ کو

علیل ہوئے، میں روز بیمار رہے، کسی ذمی کو بلا بھیجا، ہم لوگ دیر سمان میں تھے اس سے اپنی قبر کے لیے زمین کی قیمت چکائی، ذمی نے کہا کہ امیر المومنین یہ تو بڑی مبارک بات ہے کہ آپ کی قبر میری زمین میں ہو، میں نے اسے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، مگر عمر نے انکار کیا، آخر اس زمین کو دو دینار میں خریدا اور دونوں دینار منگا کر اسے دے دیئے۔ ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے اپنی قبر کی زمین دس دینار میں خریدی۔

ایام علالت:

شیخ اہل مکہ سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت عبدالملک اور ان کے بھائی مسلمہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تھے ایک نے دوسرے سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ان پر گراں ہوں، دونوں اس وقت گئے کہ قبلہ کے خلاف رخ کیے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، کوئی کہنے والا کہتا کہ ہم انہیں نہیں دیکھیں گے تو وہ کہتے:

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.

”یہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے کریں گے جو زمین میں برتری و فساد کا ارادہ نہیں کرتے اور آخرت (کی بھلائی) پر ہیزاروں ہی کے لیے ہے۔“

عمارہ بن ابی حفصہ سے مروی ہے کہ مسلمہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس مرض موت میں آئے اور کہا کہ آپ اپنے متعلقین کے لیے کس کو وصیت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب میں اللہ کو بھول جاؤں تو یاد دلا دینا، دوبارہ انہوں نے یہی پوچھا کہ اپنے متعلقین کے لیے آپ کس کو وصیت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ان میں میرا دوست وہ اللہ ہے جس نے قرآن نازل کیا اور وہ صالحین سے محبت کرتا ہے۔

ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.

یزید بن عبدالملک کو وصیت:

سلیمان بن موسیٰ سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو یزید بن عبدالملک کو لکھا: ”اما بعد تم اس سے بچنا کہ تمہیں غلبے کے وقت چھڑنا نہ پڑے کہ پھر اس کو لغزش کہا جائے اور تمہیں (اصلی حالت پر) لوٹنے کا موقع نہ دیا جائے اور جس کو تم نے پیچھے کر دیا وہ تمہاری تعریف نہ کرے گا اور جس کے خلاف تم نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہیں معذور نہ جانے گا والسلام۔“

سالم بن بشیر سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے یزید بن عبدالملک کو لکھا: ”سلام علیک اما بعد مجھے یہی چیز نظر آتی ہے جو میرے ساتھ ہے (یعنی موت) میرا گمان یہی ہے کہ خلافت عنقریب تمہیں پہنچے گی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارے میں اللہ سے ڈرنا، تم دنیا اس شخص کے لیے چھوڑ دو جو تمہاری مدح نہ کرے اور اس کو پہنچاؤ جو تمہیں معذور نہ جانے والسلام علیک۔“

پانچ کپڑوں میں کفن:

عبدالعزیز بن عمر سے مروی ہے کہ میرے والد نے وصیت کی تھی کہ انہیں پانچ سوتی کپڑوں کا کفن دیا جائے۔ ابو بکر بن محمد

بن حزم سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں پانچ کپڑوں کا کفن دیا جائے جن میں کرتہ اور عمامہ بھی ہو۔ خالد بن ابی بکر سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ انہیں پانچ کپڑوں کا کفن دیا جائے جن میں کرتہ و عمامہ بھی ہوں انہوں نے کہا کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے اعزہ میں سے جو مرنا تھا وہ اس کو اسی طرح کفن دیتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال و ناخن کفن میں رکھنے کی وصیت:

عبدالرحمن بن محمد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے وفات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال اور ناخن منگائے اور کہا کہ جب میں مر جاؤں تو یہ بال اور ناخن لے کے میرے کفن میں رکھ دینا لوگوں نے یہی کیا۔ سفیان بن عاصم بن عبدالعزیز بن مروان سے مروی ہے کہ میں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے پاس تھا انہوں نے اپنی آزاد کردہ کنیر سے کہا کہ میرا گمان ہے کہ تم میرے لیے حنوط (عطریت) کا انتظام کرو گی اس میں مشک شامل نہ کرنا۔

عدل کے بے تاج بادشاہ کی رحلت:

سفیان بن عاصم سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انہیں داہنی کروٹ پر قبلہ رخ کر دیا جائے۔ مغیرہ بن حکیم سے مروی ہے کہ فاطمہ بنت عبدالملک نے کہا کہ میں عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو مرض موت میں کہتے سنتی تھی کہ اے اللہ ان لوگوں پر میری موت کو پوشیدہ رکھ اگرچہ وہ دن کی ایک ہی ساعت کے لیے ہو جب وہ دن ہوا جس دن کہ ان کی وفات ہوئی تو میں ان کے پاس سے چلی گئی تھی اور دوسرے مکان میں بیٹھی تھی میرے اور ان کے درمیان دروازہ حائل تھا وہ اپنے خیمے میں تھے میں نے انہیں کہتے سنا کہ:

تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً في الارض ولا فساداً والعاقبة للمتقين.

اتنے میں ان کی آواز بند ہوگئی جب کوئی حس و حرکت نہ سننے میں آئی تو میں نے وصیف سے جو ان کا خادم تھا کہا کہ امیر المؤمنین کو دیکھو کیا وہ سوتے ہیں جب وہ ان کے پاس گئے تو چیخ ماری میں بھی دوڑی دیکھا تو جاں بحق تسلیم کر چکے تھے رخ قبلے کی طرف تھا آنکھیں ڈھانک لی تھیں ایک ہاتھ منہ پر رکھ لیا تھا اور دوسرا آنکھوں پر۔

قبر میں چہرہ روشن اور قبلہ رخ ہونا:

رجاء بن حیوۃ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مرض موت میں مجھ سے کہا کہ تم بھی ان لوگوں میں ہونا جو مجھے غسل و کفن دیں اور میری قبر میں اتریں جب مجھے میری لحد میں دیکھ دینا تو کفن کی گرہ کھول کے میرے چہرے کو دیکھنا کیونکہ میں نے تین خلفاء کو دفن کیا ہے ہر ایک کو جب قبر میں رکھا تو گرہ کھول دی چہرے کو دیکھا تو سیاہ اور قبلہ رخ سے پھرا ہوا تھا۔ رجاء نے کہا کہ میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو غسل و کفن دیا اور ان کی قبر میں اترے جب میں نے گرہ کھول کر دیکھا تو کاغذوں کی طرح تھا اور قبلہ رخ تھا۔

مخلد بن یزید سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے پچاس (دن) سے ملاقات کی وہ نبی میں اترے ہوئے تھے فاضل و بہترین دن رسیدہ تھے۔ یوسف بن ماہک سے مروی ہے کہ جس وقت ہم لوگ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی قبر پر مٹی برابر کر

رہے تھے تو آسمان سے ایک کاغذ گرا جس میں لکھا تھا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کو دوزخ سے پناہ دے۔“

مدت خلافت و تاریخ وفات:

عمر و بن عثمان سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی ۲۰ برس جب ۱۰ھ کو وفات ہوئی اس وقت وہ انتالیس سال اور چند ماہ کے تھے خلافت دو سال پانچ مہینے کی۔ وفات دیر سمعان میں ہوئی۔

یثم بن واقد سے مروی ہے کہ میری ولادت ۸ھ میں ہوئی اور عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وابق میں ۲۰ صفر ۹۹ھ میں خلیفہ بنائے گئے جو عطاء انہوں نے سالانہ مسلمانوں میں تقسیم کی اس سے مجھے تین دینار ملے۔ وفات ۲۵ برس جب ۱۰ھ یوم چہار شنبہ کو خنصرہ میں ہوئی، بیس دن بیمار رہے ان کی خلافت دو سال پانچ مہینے اور چار دن رہی، انتالیس سال اور چند ماہ کی عمر میں وفات ہوئی اور دیر سمعان میں دفن کیے گئے۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد نے اپنے والد سے روایت کی کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی وفات انتالیس سال پانچ ماہ کی عمر میں ہوئی۔ سعید بن عاص سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما وفات کے دن انتالیس سال اور چند ماہ کے تھے۔ ابو بکر بن عیاش سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما پر انتالیس سال گزرے تھے۔

سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما چالیس سال کے تھے۔ سفیان نے کہا کہ میں نے ان کے فرزند سے پوچھا کہ وہ کس سن کو پہنچے تھے تو انہوں نے کہا کہ چالیس سال سے زائد نہ تھے اور دو سال سے کچھ زائد خلیفہ رہے۔ معاویہ بن صالح سے مروی ہے کہ جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے لوگوں کو وصیت کی کہ میرے لیے قبر کھودنا مگر گہری نہ کرنا کیونکہ زمین کا بہترین حصہ اوپر کا ہے اور بدترین نیچے کا۔ وہیب بن الورد سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی جب وفات ہوگی تو فقہاء ان کی بیوی کے پاس تعزیت کرنے آئے اور کہا کہ ہم اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہما کی تعزیت کریں کیوں کہ.....

طبقہ سادسہ

بن رافع بن خدیج و طماح، ان کی والدہ ام یحیی بنت طماح ابن عبدالحمید بن رافع بن خدیج تھیں، محمد کی کنیت ابو عبداللہ تھی، وفات ابو جعفر کی خلافت میں مدینے میں ہوئی۔

عبداللہ بن الہریر رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالرحمن بن رافع بن خدیج، ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبداللہ بن الہریر کے یہاں فضل پیدا ہوئے ان کی والدہ سہلہ بنت حابس ابن امری القیس بن رفاعہ بن رافع بن خدیج تھیں۔ سہرہ و عیسیٰ والمنذر و عفرأ و ام رافع، ان کی والدہ تامہ بنت بن عیسیٰ بن سہل ابن رافع بن خدیج تھیں۔

محمد بن یحییٰ رضی اللہ عنہما:

ابن سہل بن ابی حمزہ کا نام عبد اللہ بن ساعدہ بن عامر بن عدی بن حشم ابن مجدعہ بن حارثہ بن الحارث تھا ان کی والدہ قیس عیلان کے اشجع میں سے تھیں۔ محمد بن یحییٰ کے یہاں حمادہ پیدا ہوئیں ان کی والدہ ام الحسن بنت عمر ابن عبد العزیز بن محمد بن ابی عیسٰ بن جبر بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ بن الحارث تھیں۔

محمد بن یحییٰ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی ان کی وفات مہدی کی خلافت میں ۱۶۶ھ میں ہوئی۔

عبد الجبید بن ابی عیسٰ رضی اللہ عنہما:

ابن محمد بن ابی عیسٰ بن جبر بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ بن الحارث ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبد الجبید بن ابی عیسٰ کے یہاں احمد و مریم پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ شریفہ بنت القاسم بن محمد بن ابی عیسٰ بن جبر بن عمرو بن زید بن حشم بن حارثہ تھیں۔ عبد الجبید کی کنیت ابو محمد تھی وفات مہدی کی خلافت ۱۶۴ھ میں ہوئی، قلیل الحدیث تھے۔

عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہما:

ابن الفضیل بن الحارث بن عمیر بن عدی بن خرشہ بن امیہ بن عامر بن خطمہ ان کا نام عبد اللہ بن حشم بن مالک بن الاوس تھا ان کی والدہ مریم بنت عدی ابن الحارث بن عمیر الخطمی تھیں۔ عبد اللہ بن الحارث کے یہاں حارث و عیسیٰ پیدا ہوئے دونوں کی والدہ حبابہ بنت عیسیٰ بن معن بن معبد بن شریق بن اوس بن عدی بن امیہ ابن عامر بن خطمہ تھیں۔ عبد اللہ کی کنیت ابو الحارث تھی وفات مہدی کی خلافت ۱۶۳ھ میں ہوئی۔

خالد بن القاسم رضی اللہ عنہما:

ابن عبد الرحمن بن خالد بن قیس بن مالک بن العجلان بن عامر بن بیاضہ وہ خزرج کے تھے۔ خالد بن القاسم کے یہاں ام القاسم پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ خالد کی کنیت ابو محمد تھی وفات ترانوے سال کی عمر میں ۱۶۳ھ میں ہوئی، قلیل الحدیث تھے۔

سعید بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن ابی زید جو معلیٰ بن لوذان بن حارثہ بن عدی بن زید بن ثعلبہ بن مالک ابن زید مناۃ بن حبیب بن عبد حارثہ بن مالک بن غضب بن حشم بن الخزرج کی اولاد میں سے تھے۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ سعید بن محمد بن ابی زید دین و تقویٰ و فضل و عقل والوں میں سے تھے ان کی ایک چھوٹی سی شور زمین تھی جس سے دو دینار سالانہ ملتے وہ اسی آمدنی پر ثابت قدم تھے اور اسی پر قناعت کرتے تھے ان کی کنیز اور وہ خود صبح کو جاتے اپنی زمین سے کچی گری ہوئی کھجوریں چننے اور اس کنیز سے اپنے متعلقین کے پاس بھیج دیتے اشدت پر بہت صابر تھے تھوڑا یا بہت اس کا کبھی کسی سے شکوہ نہ کرتے۔

کچھ بھیجا جاتا تو کہتے کہ میں مالدار ہوں اور جو انہیں کچھ بھیجتا اس سے سخت ناراض اور بے انجبار نجدہ ہوتے سب سے

زیادہ اپنے نفس کو عیوب سے پاک رکھتے ہمارے پاس صرف دو کپڑوں میں آ کر حدیث بیان کرتے، یہی دو کپڑے جاڑے میں بھی اور گرمی میں بھی ہوتے جن کو ہم ہمیشہ صاف اور سترادیکھتے۔

ویسے کی دعوت دی جاتی تو قبول کر لیتے مگر کچھ کھاتے نہ تھے اور دعوت کرنے والوں کو دعادیتے، کہا جاتا کہ ابو محمد آپ کیوں نہیں کھاتے تو جواب دیتے مجھے یہ پسند نہیں کہ اپنے پیٹ کو عمدہ کھانے کا خوگر بناؤں جس سے یہ اس کھانے پر راضی نہ ہو جو میں اسے کھلاتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ اس کی خواہش کروں۔

جب عبدالرحمن بن ابی الزناد خراج مدینے کے والی ہوئے تو انہوں نے سعید بن محمد بن ابی زید کو سودینا بھیجے سعید نے کہا کہ واللہ میں ان کو کبھی قبول نہ کروں گا اور نہ یہ میرے لیے مناسب ہے۔ سبحان اللہ، کیا انہیں اس ہدیے سے شرم نہیں آتی، عبدالرحمن نے سعید کو کسی ولایت کا والی بنایا اور قبیلہ اسد و طے کا ساجی (محصول وصول کرنے کا عہدہ دار) مقرر کیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ خدمت بھی نہ کروں گا۔

عبدالرحمن ان کے پاس قاصد بھیجتے رہے آخر سعید بن محمد ان کے پاس آئے اور کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تم میرے ساتھ احسان کرنا چاہتے ہو میرے ساتھ تمہارا پورا احسان یہ ہے کہ مجھے ان خدمات سے معاف کرو، مجھے ان کی ضرورت نہیں، محمد اللہ میرے پاس اس سے بچنے بھرا کا ہے، عبدالرحمن نے انہیں چھوڑ دیا اور معاف کر دیا۔

ابن ابی حنیبہ رضی اللہ عنہما:

نام ابراہیم بن اسماعیل بن ابی حنیبہ تھا اور کنیت ابو اسماعیل، عبداللہ بن سعد بن زید الاشہلی کے مولیٰ (آزاد کردہ غلام) تھے، بڑے نمازی و عبادت گزار تھے، ساٹھ برس روزے رکھے تھے، وفات بیاسی سال کی عمر میں، بعد خلافت مہدی ۶۵ھ میں ہوئی، قلیل الحدیث تھے۔

کثیر بن عبداللہ بن عوف رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے۔

یزید بن عیاض رضی اللہ عنہما:

ابن جعد بن اللیش، انہیں (لیثیون) میں سے تھے، کنیت ابو الحکم تھی، بصرہ منتقل ہو گئے تھے اور وہیں مہدی کی خلافت میں وفات ہوئی، قلیل الحدیث تھے اور ضعیف سمجھے جاتے تھے۔

اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما:

ابن اسلم مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما بن نفیل، کنیت ابو زید تھی۔ قاسم بن محمد و سالم بن عبداللہ اور نافع مولائے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سنا تھا، کثیر الحدیث تھے مگر معتبر نہ تھے، وفات ابو جعفر کی خلافت میں مدینے میں ہوئی۔

عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہما:

ابن اسلم مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما، حدیث میں اسلم کی اولاد میں سب سے زیادہ معتبر تھے، وفات مہدی کی ابتدائے

خلافت میں مدینے میں ہوئی۔

عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہما۔

ابن اسلم مولائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما وفات ابتدائے خلافت ہارون الرشید میں مدینے میں ہوئی، کثیر الحدیث مگر نہایت

ضعیف تھے۔

داؤد بن خالد رضی اللہ عنہ۔

ابن دینار مولائے آل حنین بنی عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہما کے موالی میں سے تھے، کنیت ابوسلیمان تھی۔ حبل بن محمد بن ابی

یحییٰ سے مروی ہے کہ خالد بن دینار مولائے آل حنین موالی بنی عباس تھے، بڑے بامروت تھے۔

میں والد کے ہمراہ مسجد میں تھا کہ ایک پکارنے والا دروازے پر ندادے رہا تھا کہ جو خالد بن دینار کے جنازے پر آئے

اللہ اس پر رحمت کرے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکلے، ابھی جنازے کے منتظر تھے کہ ایک شخص ان کے مکان سے نکل کر آیا اور کہا کہ اللہ

تم لوگوں کو اجر دے، واپس جاؤ ان کی نبض چل رہی ہے، لوگ واپس گئے۔ اس کے بعد وہ زندہ رہے اور تین بیٹے پیدا ہوئے، داؤد بن

خالد و شمیل بن خالد و یحییٰ بن خالد، سب کے سب عامل حدیث و روای علم ہوئے، خالد کے یہاں بھی بیٹیاں پیدا ہوئیں، ان کے بیٹے

بھی بالغ ہوئے اور ان کے یہاں بھی اولاد پیدا ہوئی، وہ لوگ تاجر تھے۔

عبدالصمد بن علی والی مدینہ ہو کر آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو تعلق والا (آقا و غلام ہونے) کی وجہ سے بلا بھیجا اور جو عہدہ

خالی تھا پیش کیا، ان لوگوں نے کہا کہ اللہ امیر کی اصلاح کرے، ہم لوگ تو تاجر ہیں، ہمیں شاہی عہدے میں داخل ہونے کی ضرورت

نہیں، لہذا ہمیں اس سے معاف کیجئے، انہوں نے ان لوگوں کو معاف کر دیا، وہ ان کا اکرام کیا کرتے تھے۔

شمیل بن خالد رضی اللہ عنہما۔

ابن دینار مولائے آل حنین موالی بنی عباس بن عبدالمطلب، ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

یحییٰ بن خالد رضی اللہ عنہما۔

ابن دینار مولائے آل حنین موالی بنی عباس بن عبدالمطلب، ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عبدالعزیز بن عبداللہ رضی اللہ عنہما۔

ابن ابی سلمۃ الماحشون، کنیت ابو عبداللہ تھی، آل ہدیر القیمی کے مولیٰ تھے۔ وفات مہدی کی خلافت میں ہجرت نبوی کے ۱۲۴

سال بغداد میں ہوئی۔ مہدی نے ان پر نماز پڑھی اور مقابر قریش میں دفن کیا، ثقہ و کثیر الحدیث تھے، بہ نسبت اہل مدینہ کے اہل

بغداد نے ان سے زیادہ روایت کی ہے۔

یوسف بن یعقوب رضی اللہ عنہما۔

ابن ابی سلمۃ یعقوب بنی ماحشون تھے، ان کے اور ان کے چچا کے بیٹے اس نام سے منسوب ہو گئے۔ یوسف بن الماحشون سے

مروی ہے کہ میں سلیمان بن عبدالملک کے زمانے میں پیدا ہوا، سلیمان نے میری عطا مقرر کی، جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما والی ہوئے تو

انہوں نے دیوان کا معائنہ کیا، میرے نام پر پہنچے تو کہا کہ مجھے اس لڑکے کی ولادت کا کسی نے نہیں بتایا، یہ چھوٹا ہے اور اہل فرانس میں سے نہیں ہے، انہوں نے مجھے ناکام واپس کر دیا۔

عبدالرحمن بن ابی الموالم:

فلیح بن سلیمان:

ابن ابی المغیرہ بن حنین کہ خاندان زید بن الخطاب بن نفیل العدوی کے مولیٰ تھے، عبید بن حنین جنہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے، ابو فلیح سلیمان ابن ابی المغیرہ کے چچا تھا۔ فلیح کا نام عبدالملک تھا مگر لقب نام پر غالب آ گیا۔ فلیح جب ابو جعفر کی طرف سے والیٰ مدینہ ہوئے تو حسن بن زید بن حسن بن علی رضی اللہ عنہما پر سختی کی، دونوں کے درمیان سخت کلامی بھی ہو گئی تھی، حسن بن زید انہیں ایذا دیتے اور پریشان کرتے۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد رضی اللہ عنہما:

نام عبداللہ بن ذکوان تھا، ذکوان رملہ بنت شیبہ بن ربیعہ بن عبد شمس کے مولیٰ تھے، رملہ بنت شیبہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھیں۔ عبدالرحمن کی کنیت ابو محمد تھی، ولادت وہ اھ میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔ عبدالرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ محمد بن عبدالعزیز الزہری ابو الزناد کے پاس آئے اور مدینے کے محکمہ قضا کے والی (قاضی) ہو گئے۔ عبدالرحمن ابن ابی الزناد اور عبداللہ بن محمد بن سمعان کے درمیان بحث اور جھگڑا ہوا، عبدالرحمن نے عبداللہ کو باتیں سنائیں، عبداللہ نے (لوگوں سے) کہا کہ ان کے خلاف گواہی دو، اور انہیں محمد بن عبدالعزیز (قاضی مدینہ) کے سامنے لائے، عبدالرحمن کے خلاف شہادت دی گئی، قاضی نے ان کو قید کر دیا اور سترہ تازیانے مارے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد عبدالرحمن بن ابی الزناد مدینے کے والیٰ خراج ہو گئے، اصحاب خیر و تقویٰ اور علمائے حدیث سے مدد لیا کرتے تھے، اپنے کام میں بڑے فاضل اور کثیر الحدیث عالم تھے، ایک شخص نے انہیں قرآن سنایا، قرأت خوش الحانی سے کی، جو لوگ وہاں موجود تھے ان میں سے بعض نے عبدالرحمن خاموش رہے، جب وہ شخص چلا گیا تو انہوں نے ان لوگوں پر عتاب کیا اور کہا کہ تم کو اس (خلاف تہذیب حرکت) سے شرم نہیں آتی۔

راوی نے کہا کہ ایک شخص نے ان کو حدیث سنائی، جس کو وہ لکھتے تھے اور یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ہر شخص سنے، جب وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا تو وہ عبدالرحمن کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اگر میں ان سے کہتا کہ اس کو پوشیدہ رکھنا تو وہ اس پر غل مچاتے، لیکن میں نے انہیں چھوڑ دیا، وہ نہیں جانتے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھتا ہوں، انہوں نے اس کی پروا نہ کی، اور وہ ان تمام حدیثوں کی طرح رہی جو ان کے پاس تھیں۔

عبدالرحمن بن ابی الزناد بغداد آئے، لوگوں سے حدیث بیان کی، بیمار ہو کے وہیں اھ میں چوتھری سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ کثیر الحدیث وضعیف تھے۔ ان کے بھائی:

ابوالقاسم بن ابی الزناد رضی اللہ عنہ:

ان سے بھی روایت کی گئی ہے، وہ بھی بغداد آگئے تھے اور لوگوں نے ان سے سنا۔

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن ابی الزناد کی کنیت ابو عبداللہ تھی، ان کی اور ان کے والد کی عمر میں سترہ سال کا فرق تھا اور موت میں اکیس شب کا فرق رہا، دونوں باب التین کے مقابر میں دفن ہوئے۔ عبدالرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ مجھ سے ابو بکر بن محمد بن عمرو ابن حزم ملے اور کہا کہ عبدالرحمن! تمہارے یہاں اولاد ہوئی، میں نے کہا ہاں، پوچھا، تم کتنے سال کے ہو میں نے کہا سترہ سال کا، میں سترہ سال کا تھا کہ میرے یہاں محمد پیدا ہوئے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمن نے علقمہ و شریک بن عبداللہ بن ابی نمر اور سوائے ابو الزناد کے جتنے ان کے والد کے راوی تھے سب سے ملاقات کی، ان سے حدیث بیان کرنے کی درخواست کی جاتی تو انکار کرتے اور کہتے کہ میں حدیث بیان کروں حالانکہ والد (ابھی) زندہ ہیں، مگر سوائے حدیث کے بعد اس حدیث کے جو ان سے خاص تھی۔

والد بزرگوار کی خدمت اور تعظیم میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہ کرتے اور ان سے بہت زیادہ ڈرتے، میں نے ایک روز ان کو اس حالت میں دیکھا کہ پسی میں درد تھا، دروازے پر بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے کہ والد اجازت دیں تو واپس جائیں، حالانکہ درد شدید تھا، جب ان کے والد کا قاصد نکلا اور کہا کہ واپس جائیے تو وہ واپس ہوئے۔ میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ چلے جاتے تو کچھ حرج نہ تھا، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ کیا اس وقت ضرورت تھی؟ اگر میں اتنا ظہر تا جتنا اللہ چاہتا اور والد اجازت نہ دیتے تو میں اپنی جگہ سے نہ ہٹتا۔

محمد بن عبدالرحمن میں ایسی خصلتیں تھیں کہ ان میں ایک بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتی، ان خصلتوں میں سے ایک بھی اگر کسی شخص میں ہو تو وہ کامل ہو جائے، قرأت قرآن، قرأت سنتر، عربیت، عروض، حساب، اجازت نامے، دفاتر میں رکھنا اور حقوق (مقدمات) کی یادداشتیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے قاضی محمد بن عمران الطلمی سے اس وقت سنا کہ ان کے پاس ایک خط لایا گیا اور سنایا جا رہا تھا کہ اسے محمد بن عبدالرحمن کے سامنے پیش کر دیا گیا کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ لے جاؤ اور ان کے سامنے پیش کر دے، پھر میرے پاس لاؤ۔ تقسیم و فرائض اور اس کے حساب اور اس کی تقسیم اور حدیث کو یقین اور فہم کے ساتھ سب سے زیادہ وہی جانتے تھے۔

سلیمان بن ہلال سے مروی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو زید بن اسلم پر جرات کرے اور ان سے کہے کہ کیا آپ نے محمد بن عبدالرحمن کے سوا بھی کسی سے سنا ہے، مگر میں نے ان کو زید بن اسلم سے کہتے سنا ہے کہ اے ابواسامہ میں نے سنا ہے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرتے تھے ان کے والد حلقے میں ہوتے اور وہ پیچھے ہوتے، ان کے والد کہتے، اے محمد، وہ اس وقت تک جواب نہ دیتے جب تک کہ اپنے والد کے سر ہانے آ کے کھڑے نہ ہو جاتے، پھر لبیک کہتے، ان کے والد اپنی ضرورت بتاتے ہیبت کی وجہ سے وہ سمجھ نہ سکتے اور دوبارہ سمجھنے کی درخواست کرتے، پھر وہ انہیں

بتاتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ محمد بن عبدالرحمن اپنے والد عبدالرحمن بن ابی الزناد کے ہمراہ بغداد میں تھے وفات والد کے اکیس دن کے بعد مکہ میں ہوئی اس وقت ستاون سال کے تھے دونوں (باپ بیٹے) باب التین کے مقابر میں دفن کیے گئے۔ سوائے محمد بن عمر کے ان سے اور کسی نے روایت نہیں کی۔

ابو معشر صحیح البخاری:

بنی مخزوم کی کسی عورت کے مکاتب تھے بدل کتابت ادا کر کے آزاد ہو گئے تھے۔ ام موسیٰ بنت منصور الحمیر یہ نے ان کا دلاء (حق میراث آقا بعد آزادی غلام) خرید لیا تھا۔ وفات بغداد میں ۶۰ھ میں ہوئی کثیر الحدیث وضعیف تھے۔

اسمعیل بن ابراہیم صحیح البخاری:

ابن عقبہ موسیٰ بن عقبہ کے بھتیجے تھے کنیت ابواسحاق تھی نافع مولائے ابن عمر و عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما کو دیکھا تھا اور دونوں سے صحیح حدیث روایت کی مغازی (واقعات جنگ) کے متعلق اپنے چچا موسیٰ بن عقبہ سے روایت کرتے تھے جن سے محمد بن عمرو اسمعیل بن ابی اویس وغیرہ نے سنا وفات مہدی کی خلافت کے شروع میں مدینے میں ہوئی۔

محمد بن مسلم صحیح البخاری:

الجوق مولائے بنی مخزوم کنیت ابو عبداللہ تھی وفات ۶۹ھ میں ہوئی۔

محمد بن مسلم صحیح البخاری:

ابن جہاز مولائے بنی تمیم بن مرہ کنیت ابو عبداللہ تھی فقیہ تھے اور احادیث کے متعلق اپنی رائے میں بصیرت رکھتے تھے لیکن اس کو ترک کر کے عبادت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ وفات ۷۰ھ میں مدینے میں ہارون کی خلافت میں ہوئی۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ جب محمد بن مسلم بن جہاز کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے سوائے چند اشیاء کے اور کوئی وصیت نہیں کی انہوں نے کہا کہ میں گھر والوں کی شکایت سنا کرتا تھا جو وہ ہمارے اس پر نالے کے متعلق کرتے تھے کہ ان کے مکان کے راستے میں ہے۔ میں نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح اس مکان میں پایا کہ پر نالہ اپنے مقام پر تھا میں نے ارادہ کیا کہ اسے دوسری جگہ بدل دوں مگر مکان میں کوئی ایسا موقع نہ پایا جو اس کے لیے مناسب ہو میں منتقل کرنے کے ارادے سے جاتا تھا مگر ہمت نہ ہوتی تھی ڈرتا تھا کہ اپنی بھتیجیوں کو جو چھوٹی چھوٹی پردہ نشین لڑکیاں ہیں منتقل کروں تو ان کے والد کی حال ہی میں وفات ہوئی ہے وہ رنجیدہ ہوں گی لہذا چاہتا ہوں کہ تم لوگ صاحب خانہ سے پر نالے کے بارے میں گفتگو کرو کہ مجھے اس کی اجازت دے دیں البتہ اگر اس میں نقصان ہو تو بحال رکھا جائے۔

اسحاق بن شعیب بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبید اللہ نے مجھ سے اجازت چاہی تھی کہ میرے مکان میں ایک روشندان کھولیں جو ان کے تاریک مکان کو روشن کر دے اور وہ روشن دان کی بلندی تک اونچا کریں گے کہ ہماری بے پردگی نہ ہو میں نے انہیں اجازت دے دی تو وہ سامان لے آئے پھر مجھے خیال آیا کہ میرے بھائی کی لڑکیاں کسمن ہیں اور مجھے ان کی بے پردگی کا اطمینان نہیں

ہے اس لیے میں نے انکار کر دیا لہذا تم لوگ اسحاق سے گفتگو کرو کہ وہ میرے ہاں کہنے اور پھر نہیں کہنے کو معاف کر دیں۔

یہ تین درہم ہیں کہ تیس سال سے زائد مدت سے میرے صندوق کے خانے میں ہیں۔ میں ہتھیار کی مشق کرتا تھا، معلوم نہیں کہ وہ میرے ہیں یا امانت ہیں یا قرض دار نے ادا کیے ہیں دریافت کرنا اور لوگ اس کے بارے میں جو مشورہ دیں اس پر عمل کرنا۔ فلاں خاندان کے لوگوں نے میرے پاس ایک طشت دو دینار میں رہن رکھا تھا مجھے خبر دی گئی کہ میرے متعلقین نے ایک مرتبہ اس میں کھانا کھایا ہے لہذا اس کے مالک سے میرے لیے معاف کرالو اگر وہ معاف کر دے (تو خیر) ورنہ دونوں دینار سے واپس کر دو۔ جو نفعہ کہ میں نے چھوڑا ہے وہ تقریباً ستر دینار ہیں ان کا ایک ٹکٹ بطور وصیت میرے بھائی کی لڑکیوں کے لیے ہے اور دو ٹکٹ بطور میراث میرے بھائی کے بیٹوں کے لیے۔

سجیل بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن ابی یحییٰ، ابن یحییٰ کا نام سمعان تھا کہ سلمین کے مولیٰ تھے، سجیل کا نام عبداللہ تھا اور کنیت ابو محمد تھی، فاضل و عاقل و کریم تھے۔ وفات ۱۶۲ھ میں بعد خلافت مہدی مدینے میں ہوئی، کچھ زیادہ قلیل الحدیث نہ تھے۔

سلبان بن بلال رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو محمد تھی، قاسم بن محمد بن ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے وہ بربری (زنجباری) خوبصورت، خوش ہیئت و عاقل تھے، مفتی شہر اور مدینے کے والی خراج تھے۔ وفات ۱۶۵ھ میں بزمانہ خلافت ہارون مدینے میں ہوئی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن قسیط اللیثی، انہیں لیثون میں سے تھے۔ ان کے بھائی:

قاسم بن یزید رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن قسیط اللیثی، انہیں لیثون میں سے تھے۔

مغیرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن خالد بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ ان کی والدہ ام ولد تھیں ابوالزناد وغیرہ سے روایت کی ہے۔ یہی ہیں کہ قصی کہلاتے تھے اور اسی نام سے مشہور تھے۔

ابی بن عباس رضی اللہ عنہما:

ابن سہل بن سعد بن مالک بن خالد جو خزرج کے بنی ساعدہ میں سے تھے۔ ان کی والدہ جمال بنت جعدہ بن مالک بن سعد بن نافذ بن غیظ بن عوف بنی سلیم کی تھیں۔ ابی کے یہاں سہل و کلثم پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ عاتکہ بنت عبدالرحمن بن خزیمہ بن فراس بن حارثہ بنی سلیم کی تھیں۔ ابی کے یہاں سہل و کلثم پیدا ہوئے ان دونوں کی والدہ عاتکہ بنت عبدالرحمن بن خزیمہ بن فراس بن حارثہ بنی سلیم کی تھیں۔

عبدالمہمن بن عباس رضی اللہ عنہما

ابن سہیل بن سعد بن مالک بن خالد خزرج کے بنی ساعدہ میں سے تھے۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبدالمہمن بن عباس کے یہاں عمر و ظبیہ پیدا ہوئیں دونوں کی والدہ امیمہ بنت عبد اللہ بن الربیع بن سلیم سے تھیں۔
عمر و ابیہ ان دونوں کی والدہ عبدہ بنت عمران ہبیینہ میں سے تھیں۔ سیدہ ان کی والدہ ام عمرو بنت سہم بن معروف جبینہ کی شاخ حرقہ سے تھیں۔

ایوب بن النعمان رضی اللہ عنہما

ابن عبد اللہ بن کعب بن مالک بن ابی کعب بن القین بن کعب بن سواد کہ بنی سلمہ کی تھیں ان کی والدہ ام عثمان تھیں بنت عمرو بن عبد اللہ بن انیس جو بنی سلمہ کے حلیف تھے۔
ایوب بن النعمان کے یہاں ثواب پیدا ہوئے ان کی والدہ نیکنہ بنت مطروف بن عبد العزیز بن ابی الارغاسم کی تھیں۔

عثمان بن الضحاک رضی اللہ عنہما

ابن عثمان بن عبد اللہ بن خالد بن حزام بن خویلد بن اسد بن عبد العزیز ابن قصی محمد بن عمر الواقدی وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔ ان کے بیٹے:
ضحاک بن عثمان رضی اللہ عنہما

ابن الضحاک بن عثمان بن عبد اللہ بن خالد بن حزام بن خویلد بن اسد ابن عبد العزیز بن قصی جن سے مصعب بن عبد اللہ الزبیری وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے۔
ہشام بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

ابن عکرمہ بن عبد الرحمن بن الحارث بن ہشام المخزومی ان کی والدہ بنی مرہ کی تھیں ہشام بن عروہ ہی کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے مخصوصین میں سے تھے ان سے انہوں نے بہت کچھ سنا مگر کوئی روایت نہیں کی انہیں مرد بزرگ سمجھا جاتا تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر کار بند تھے۔

جب امیر المومنین ہارون نے حج کیا تو ابوبکر بن عبد اللہ الزبیری کہ اس زمانے میں والی مدینہ تھے ہارون سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے ہمراہ چند معززین اہل مدینہ کو بھی لے گئے جن میں ہشام بن عبد اللہ بھی تھے ابوبکر خلیفہ سے مقام نقرہ میں ملے اور سلام کیا انہوں نے ان لوگوں کو دریافت کیا جو ہمراہ تھے ابوبکر نے ہشام بن عبد اللہ کا ذکر کیا اور ان کی تعریف کی ہارون نے ان کو بلایا وہ گئے سلام کیا دعادی اور ایسی نصیحت آمیز باتیں کہیں جن سے خوش ہو کے ان کو قضائے مدینہ کا والی بنا دیا اور چار ہزار دینار انعام دیئے۔
ہشام ہی تھے اعزہ کے ساتھ نیکی کرتے کنیت ابوالولید تھی۔

قاسم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما

ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ

عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:ابن دینار مولائے عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما۔عبداللہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:ابن القاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔

طبقہ سابعہ

دراوردی رضی اللہ عنہ:

نام عبدالعزیز بن محمد بن عبید بن ابی عبید تھا، کنیت ابو محمد تھی، قبیلہ قضاعہ کے برک بن دبرہ برادر کلب بن دبرہ کے مولیٰ تھے، خاندانی تعلق خراسان کے ایک گاؤں دراورد سے تھا۔ وہ خود مدینے میں پیدا ہوئے اور وہیں نشوونما پائی، مدینے ہی میں علم حاصل کیا اور احادیث سنیں اور وہیں رہے، ۱۸ھ میں ان کی وفات ہوئی۔ کثیر الحدیث تھے اور غلطی کرتے تھے۔

عبدالعزیز بن ابی حازم رضی اللہ عنہ:

ابو حازم کا نام سلمہ بن دینار تھے، بنی اشجع کے مولیٰ تھے، عبدالعزیز کی کنیت ابو تمام تھی، ۷۰ھ میں ان کی ولادت ہوئی اور ۸۴ھ میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمعے کے دن ناگہانی طور پر وفات ہو گئی، ان کا مکان فروخت کیا گیا تو اس میں چار ہزار دینار مدفون پائے گئے، کثیر الحدیث تھے مگر دراوردی سے کم۔

ابو علقمہ الفروی رضی اللہ عنہ:

نام عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن ابی فروہ تھا۔ آل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولیٰ تھے، نافع و سعید بن ابی سعید المقبری و صلت بن زبید سے ملے ہیں اور ان لوگوں سے روایت بھی کی ہے، انہیں اتنی عمر ملی کہ ہم لوگ ۱۸۹ھ میں مدینے میں ان سے ملے اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی یحییٰ مولائے اسلم، کنیت ابواسحاق تھی، اپنے بھائی حبل سے دس سال چھوٹے تھے۔ وفات ۱۸۴ھ میں مدینے میں ہوئی، کثیر الحدیث تھے، ان کی حدیث ترک کر دی گئی تھی لکھی نہیں جاتی تھی۔

حاتم بن اسماعیل رضی اللہ عنہ:

کنیت ابواسماعیل تھی۔ محمد بن عمر سے مروی ہے کہ حاتم بن اسماعیل نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ بنی عبدالمدان بن الدیان کے، جو بنی الحارث بن کعب سے تھے، مولیٰ تھے، انہوں نے مجھے اپنے والد کا دفتر دیا اور کہا کہ تا وقتیکہ میں مر نہ جاؤں اس کا ذکر نہ کرنا، ان کا خاندان کوئی تھا مگر وہ مدینے میں منتقل ہو کر رہ پڑے اور یہیں ۱۸۶ھ میں ہارون الرشید کی خلافت میں وفات ہوئی، ثقہ و قابل اطمینان و کثیر الحدیث تھے۔

محمد بن عمر الواقدي رحمۃ اللہ علیہ:

ابن واقد کسبت ابو عبد اللہ الواقدي تھی، اسلم کی شاخ بنی سہم کے مولیٰ تھے مدینے سے منتقل ہو کر بغداد کی سکونت اختیار کر لی۔ امیر المؤمنین عبد اللہ ابن ہارون کی جانب سے چار سال تک عسکر مہدی میں حکمہ قضا رہے مغاری و سیرت و فتوح کے زبردست عالم اور حدیث و احکام میں لوگوں کے اختلاف اور اتفاق کے جید فاضل تھے انہوں نے اس کو ان کتابوں میں واضح طور پر بیان کیا ہے جن کو تصنیف و تالیف کیا اور ان میں حدیثیں بیان کی ہیں۔

ہارون الرشید کے لئے مقامات مقدسہ کی زیارت کا اہتمام:

عبد اللہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ مجھ سے واقدی نے کہا کہ امیر المؤمنین ہارون الرشید نے حج کیا اور مدینہ آئے، یحییٰ بن خالد سے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو مدینہ منورہ اور مشاہد سے (یعنی ان مقامات سے جہاں رسول اللہ ﷺ کا قدم مبارک پہنچا) خوب واقف ہو (اس امر سے بھی آگاہ ہو کہ) جبرئیل علیہ السلام کا نبی ﷺ پر نزول کیوں کر ہوتا تھا اور وہ آپ کے پاس کس کس صورت سے آتے تھے اور قبور شہدا کو بھی جانتا ہو۔ یحییٰ بن خالد نے دریافت کیا تو سبر نے مجھی کو بتایا انہوں نے مجھے بلا بھیجا میں ان کے پاس آیا یہ عصر کے بعد کا وقت تھا مجھ سے کہا کہ اے شیخ! امیر المؤمنین اعزہ اللہ چاہتے ہیں کہ آپ عشا کی نماز مسجد میں پڑھیں اور ہمارے ساتھ ان مشاہد تک چلیں، ہمیں ان سے اور اس مقام سے آگاہ کریں جہاں جبرئیل علیہ السلام آتے تھے (اس کے صلے میں) آپ مقرب ہو جائیں گے۔

میں نے عشا کی نماز پڑھ لی تو باہر شمعیں نظر آئیں اور دو شخص گدھوں پر سوار میرے پاس آئے، یحییٰ نے کہا وہ شخص کہاں سے ہیں نے کہا یہ میں ہوں میں انہیں مسجد کے مکانات کی طرف لایا اور بتایا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں جبرئیل علیہ السلام آتے تھے ہارون الرشید و یحییٰ اپنے گدھوں سے اتر پڑے دو دو رکعت نماز پڑھی اور تھوڑی دیر تک اللہ سے دعا کی پھر وہ سوار ہو گئے اور میں ان کے آگے ہوا۔ کوئی مقام یا مشہد ایسا نہ تھا جہاں میں ان کو نہ لے گیا ہوں ہر جگہ وہ نماز پڑھتے اور دعا کرتے تمام رات اسی طرح گزار دی، مسجد کو جس وقت واپس ہوئے تو فجر طلوع ہو چکی تھی اور مؤذن نے اذان کہہ دی تھی جب وہ اپنی قیام گاہ کو پہنچے تو یحییٰ بن خالد نے مجھ سے کہا کہ اے شیخ! جانا نہیں۔ میں نے صبح کی نماز مسجد میں پڑھی وہ کے کی روانگی کو تیار تھے صبح ہونے کے بعد یحییٰ بن خالد نے مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، قریب بٹھایا اور کہا کہ امیر المؤمنین اعزہ اللہ برابر روتے رہے تم نے انہیں جو کچھ بتایا اس سے بہت خوش ہوئے تمہارے لیے دس ہزار درہم کا حکم دیا ہے سر بند توڑہ مجھے دے دیا گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اے شیخ! اسے لو یہ تمہارے لیے مبارک ہو، ہم لوگ آج روانگی کو تیار ہیں، کوئی حرج نہیں، اگر تم ہم سے ملو خواہ ہم کہیں ہوں اور کسی جگہ بھی ٹھہرے ہوں۔ امیر المؤمنین نے کوچ کیا اور میں اپنے مکان آ گیا، ساتھ یہ مال بھی تھا، ہم نے اس سے قرض ادا کیا اور بعض لڑکوں کی شادی کی، ہمیں فراخی ہو گئی۔

یحییٰ بن خالد کی پیشکش اور امام واقدی کا سفر:

اس کے بعد زمانے نے ہمارا ساتھ نہ دیا اور بدی کی میری بیوی ام عبد اللہ نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تمہارا بیٹھنا مناسب

نہیں، امیر المومنین کے وزیر نے تمہیں پہچان لیا ہے اور جہاں کہیں وہ مقیم ہوں تم سے اپنے پاس آنے کی خواہش کی ہے۔ میں مدینے سے روانہ ہوا خیال تھا کہ امیر المومنین عراق میں ہوں گے لہذا عراق آیا، امیر المومنین کی خبر دریافت کی تو لوگوں نے کہا کہ رقد میں ہیں، میں نے مدینہ واپس جانے کا ارادہ کیا، پھر سوچا کہ وہاں پریشان حال ہوں گا اس لیے رقتے کے ارادے سے اس جگہ گیا جہاں کرایے کی سواری ملتی تھی۔

لشکر کے چند نوجوان ملے جو رقتے کا ارادہ رکھتے تھے ان لوگوں نے مجھے دیکھا تو پوچھا کہ اے شیخ! کہاں کا ارادہ ہے، میں نے مختصر اپنا حال بیان کیا اور بتایا کہ رقد جانا چاہتا ہوں۔ اونٹ والوں کے کرایے پر غور کیا تو اس کو اپنے لیے دو چند پایا، ان لوگوں نے کہا کہ اے شیخ! کیا تم کشتی کا سفر پسند کرتے ہو، وہ ہمارے لیے اونٹوں کے کرایے سے زیادہ سہل اور آسان ہے، میں نے کہا کہ اس کے متعلق میں کچھ نہیں جانتا، یہ معاملہ تم لوگوں کے سپرد ہے۔ ہم لوگ کشتیوں تک گئے اور کرایے کا تصفیہ کیا۔ میں نے ان لوگوں سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ شفقت و نیکی کرنے والا اور حرم و احتیاط برتنے والا نہیں دیکھا، وہ لوگ میری خدمت اور اہتمام طعام میں ایسی مشقت برداشت کرتے جو بیٹا ہی اپنے باپ کے لیے کر سکتا ہے۔

بالآخر ہم رقد میں اس مقام پر پہنچے جہاں پروانہ راہداری دیکھا جاتا تھا، یہ معاملہ نہایت دشوار تھا، ان لوگوں نے سردار کو اپنی جماعت کے متعلق لکھا اور مجھے بھی اس میں شریک کر لیا، چند روز ٹھہرے رہے، نام بنام ہر شخص کی اجازت آگئی، اس جماعت کے ساتھ میں بھی چلا اور انہیں کی قیام گاہ خان نزول میں ٹھہرا۔

میں ان لوگوں کے ساتھ چند روز مقیم رہا، یحییٰ بن خالد سے ملنا چاہا تو دشواری ہوئی، ابوالختری کے پاس آیا جو مجھے پہچانتے تھے ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تم نے اپنے آپ کو دھوکا دیا اور غلطی کی، مگر میں یحییٰ سے تمہارے ذکر کو ترک نہ کروں گا۔ میں صبح و شام ان کے دروازے پر جاتا رہا، اس آمد و رفت میں خرچ گھٹ گیا، ہمراہیوں سے شرم آنے لگی، کپڑے پھٹ گئے اور ابوالختری کی جانب سے بھی مایوس ہو گیا، میں نے اپنے ہمراہیوں کو کچھ خبر نذی اور مدینے کی طرف واپس ہوا، کبھی کشتی میں بیٹھتا اور کبھی پیادہ چلتا، اسی طرح سیکلین میں اترا۔ بازار میں بیٹھا سستا رہا تھا کہ بغداد سے ایک قافلہ آیا، دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ مدینہ رسول اللہ ﷺ کے رہنے والے ہیں، ان کے ساتھ بکار الزبیری ہیں جن کو امیر المومنین نے مدینے کا والی قضا بنا کے بھیجا ہے۔ زبیری میرے بڑے گہرے دوست تھے سوچا کہ قیام کر لیں اور نکان رفع ہو جائے تو ان سے ملوں، جب وہ بیدار ہوئے اور صبح کا ناشتہ کر چکے تو میں ان کے پاس آیا، اذن مانگا تو اجازت دی۔

میں ان کے پاس گیا اور سلام کیا، پوچھا اے ابو عبد اللہ اتنے دن باہر کیا کرتے رہے، میں نے اپنا اور ابوالختری کا حال بتایا، انہوں نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ ابوالختری کسی سے تمہارا ذکر کرنا اور نام لینا نہیں چاہتے، پھر اب کیا رائے ہے، میں نے کہا، رائے یہ ہے کہ مدینے واپس چلا جاؤں، انہوں نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں، تم جس بنا پر وہاں سے نکلے اسے جانتے ہی ہو، بہتر یہ ہے کہ میرے ساتھ چلو۔ میں یحییٰ سے تمہارے معاملے کا ذکر کروں گا۔ میں اس جماعت کے ہمراہ سوار ہو کے روانہ ہوا، رقتے پہنچ گیا، جب ہم پروانہ راہداری کے مقام سے آگے بڑھ آئے تو انہوں نے پوچھا کہ میرے ساتھ چلتے ہو۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنے

ساتھیوں کے پاس جاؤں گا اور کل صبح تمہارے پاس آؤں گا پھر دونوں مل کے یحییٰ بن خالد کے مکان پر چلیں گے۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، معلوم ہوتا تھا کہ گویا میں آسمان سے اتر پڑا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ اے ابو عبد اللہ تمہارا کیا حال تھا، ہم تو تمہارے معاملے سے غم میں تھے، میں نے اپنا حال بتایا، جماعت نے مجھے زبیری کے ساتھ رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ کھانے پینے کی فکر نہ کرنا۔ صبح کو زبیری کے مکان پر گیا، معلوم ہوا کہ وہ یحییٰ بن خالد کے پاس سوار ہو کر گئے، میں یحییٰ بن خالد کی ڈیوڑھی پر آیا، دیر تک بیٹھا رہا، بڑے انتظار کے بعد زبیری نکلے، مجھ سے کہا کہ اے عبد اللہ میں ان سے تمہارا حال بیان کرنا بھول گیا، تم ٹھہرو، میں پھر جاتا ہوں۔

وہ اندر گئے، میرے پاس دربان آیا اور کہا کہ اندر چلے، میں بری حالت میں ان کے پاس گیا، یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا، ختم ماہ کو تین یا چار دن باقی تھے، یحییٰ بن خالد نے مجھے اس حال میں دیکھا تو ان کے چہرے سے رنج کا اثر ظاہر ہوا، مجھے سلام کیا اور اپنے قریب بٹھالیا، کچھ لوگ اور بھی تھے جو ان سے باتیں کر رہے تھے، گفتگو میرے سامنے دہرائی میں اس کے قبول کرنے سے باز رہا۔ اور ایسے دلائل پیش کیے جو ان کے موافق نہ تھے، وہ لوگ عمدہ جواب دینے لگے، میں خاموش ہو گیا۔ مجلس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، میں بھی نکلا، یحییٰ بن خالد کا خادم آیا، مجھ سے پردے کے پاس ملا اور کہا کہ وزیر آپ کو آج شام اپنے پاس روزہ افطار کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو اس واقعے کی خبر دی اور کہا کہ اندیشہ ہے کہ انہوں نے میرے متعلق غلطی کی ہو، ان میں سے بعض نے کہا کہ یہ دوروشیاں اور ایک ٹکڑا پیپر کا ہے اور یہ جانور ہے جس پر تم سوار ہونا غلام تمہارے پیچھے ہوگا، اگر دربان اجازت دے دے تو اندر جانا اور توشہ غلام کو دے دینا، دوسری صورت پیش آئے تو کسی مسجد میں جا کر کھانا کھا لینا۔

میں واپس ہوا اور یحییٰ بن خالد کی ڈیوڑھی پر پہنچا، لوگ مغرب کی نماز پڑھ چکے تھے، دربان نے دیکھا تو کہا کہ شیخ تم نے دیر کر دی، متعدد مرتبہ قاصد تمہاری تلاش میں باہر آچکا ہے، جو کچھ پاس تھا غلام کو دے دیا اور اسے ٹھہرنے کو کہا، اس کے بعد اندر گیا، لوگ پہنچ چکے تھے، میں نے سلام کیا اور بیٹھ گیا، پانی لایا گیا، ہم نے ہاتھ دھوئے، میں بہ نسبت دوسروں کے ان سے قریب تھا، ہم نے افطاری کھائی، عشا کا وقت آ گیا تو انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہم اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ یحییٰ بن خالد نے مجھ سے سوال کرنے لگے، حالانکہ میں سب سے الگ تھا، لوگ ایسے جواب دے رہے تھے کہ میرے نزدیک ان کے خلاف دلائل تھے، جب رات زیادہ گئی تو لوگ باہر نکلے، میں بھی ان کے پیچھے نکلا، ایک غلام ملا اور کہا کہ وزیر تمہیں حکم دیتے ہیں کہ کل شام کو ان کے پاس آج جس وقت آئے تھے اس سے پہلے آنا، یہ کہا اور ایک تھیلی دی۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اس میں کیا ہے مگر اس نے مجھ میں خوشی بھردی، میں غلام کے پاس آیا اور سوار ہو گیا، ہمراہ دربان بھی تھا، اس نے مجھے ساتھیوں تک پہنچا دیا، میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ چراغ منگاؤ، تھیلی کو کھولا تو دینار تھے۔

ساتھیوں نے پوچھا کہ یحییٰ کی طرف سے کیا چیز تمہارے ذمے کی گئی؟ میں نے کہا کہ غلام نے حکم دیا ہے کہ ان کے پاس آج رات کے وقت سے پہلے پہنچوں، دینار گئے تو پانچ سو تھے۔ بعض نے کہا کہ تمہاری سواری کا جانور میرے ذمے ہے، کسی نے کہا کہ زین اور لگام اور جو اس کے مناسب ہو میرے ذمے ہے، کسی نے حمام اور داڑھی کا خضاب اور خوشبو اپنے ذمے لی، اور کسی نے

لباس مہیا کرنے کا ذمہ لیا میں غور کرتا تھا کہ یہ جماعت کس ہیئت میں ہے۔ میں نے سو دینار گئے اور صاحب اہتمام کو دینے سب نے قسم کھائی کہ ایک دینار یا ایک درہم بھی بے جا صرف نہ ہوگا، صبح ہوئی تو ہر شخص اپنے ذمے کی چیز مہیا کرنے کے لیے روانہ ہوا، میں ظہر کی نماز بھی نہ پڑھنے پایا تھا کہ سب سے بھلا آدمی بن گیا باقی رقم زبیری کے پاس لے گیا۔

انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، میں نے کل واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ میں مدینے جانے والا ہوں، میں نے کہا اچھا، تم جانتے ہو کہ اپنے عمال کو چھوڑ آیا ہوں، دو سو دینار دیئے کہ انہیں پہنچادیں۔ ان کے پاس سے نکلا، تھیلی لے کر اپنے ساتھیوں کے یہاں آیا، عصر کی نماز پڑھی اچھی طرح اپنی ہیئت درست کی، پھر یحییٰ بن خالد کے در پر حاضر ہوا، دربان نے دیکھا تو اٹھ کر میرے پاس آیا اور اندر جانے کی اجازت دی۔ یحییٰ کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اپنی جگہ پر بیٹھ گیا، جو حدیث وہ پوچھتے میں بیان کرتا، لوگوں نے جو کچھ بیان کیا تھا اس کے مخالف و مغائر میرے جوابات تھے، ان کے چہروں سے میں اس کا اندازہ کر رہا تھا، یحییٰ متوجہ ہو کر یہ حدیث اور وہ حدیث مجھ سے پوچھنے لگے اور جو کچھ وہ پوچھتے میں اس کا جواب دیتا، حاضرین خاموش تھے کوئی کچھ نہ بولتا تھا۔

مغرب کا وقت ہوا تو یحییٰ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی، دسترخوان بچھا اور ہم لوگوں نے کھانا کھایا، پھر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے، علمی مباحث شروع ہو گئے اور یحییٰ نے یہ کیا کہ قوم کے بعض لوگوں سے پوچھتے تھے اور رک جاتے تھے۔ واپسی کا وقت ہوا تو سب لوگ اور ان کے ساتھ میں بھی چلا۔ قاصد باہر ملا اور کہا کہ وزیر آپ کو روزانہ اسی وقت آنے کا حکم دیتے ہیں جس وقت آج آئے تھے، اس نے مجھے ایک تھیلی دی، میں واپس ہوا، ہمراہ دربان کا قاصد بھی تھا، جس نے مجھے اپنے ساتھیوں تک پہنچادیا، ان کے پاس چراغ ملا، تھیلی ان لوگوں کے حوالے کر دی وہ مجھ سے زیادہ اس تھیلی سے خوش ہوئے۔ صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ یہاں قریب ہی ایک مکان کنیز غلام جو روٹی پکاسکے اور اسباب و سامان خانہ داری فراہم کر دو، ظہر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی کہ انہوں نے یہ سب میرے لیے مہیا کر دیا، میں نے درخواست کی کہ افطار میرے پاس کریں، اس کو ان لوگوں نے بڑی دشواری کے بعد قبول کیا۔ میں ہر شب کو وقت معینہ پر یحییٰ بن خالد کے پاس جاتا، مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہر شب کو پانچ سو دینار دیتے، شب عید ہوئی تو کہا کہ ابو عبد اللہ کل تم امیر المومنین سے ملنے کے لیے ایسا لباس پہنو جو قاضیوں کے لباس سے بہتر ہو، اور ان کے جلو میں رہو، مجھ سے تمہارا حال پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا۔

عید کی صبح ہوئی تو میں بہت اچھے لباس میں روانہ ہوا۔ امیر المومنین بھی عید گاہ کو تشریف لے چلے، مجھے کنکھیوں سے دیکھتے رہے، میں برابر شاہی جلوس میں تھا، ان کے واپس ہونے کے بعد میں یحییٰ بن خالد کے در پر گیا۔ یحییٰ امیر المومنین کے مکان میں داخل ہونے کے بعد ہمیں ملے، مجھ سے کہا کہ ابو عبد اللہ ہمارے ساتھ اندر آؤ، میں اندر گیا، لوگ بھی اندر گئے، مجھ سے کہا کہ ابو عبد اللہ امیر المومنین نے تمہیں دریافت کیا، میں نے انہیں حج کا واقعہ بتایا اور کہا کہ تم وہی شخص ہو جس نے اس شب کو سیر کرائی تھی، تمہارے لیے تیس ہزار درہم کا حکم دیا ہے، میں ان شاء اللہ کل ادا کروں گا۔ اس روز میں واپس ہوا، دوسرے دن یحییٰ بن خالد کے پاس گیا اور کہا کہ اللہ وزیر کو صالح کرے، ایک ضرورت پیش آگئی، میں نے اس کا فیصلہ وزیر پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کے پورا کرنے کی

عزت دے۔ پوچھا وہ کیا ہے، میں نے کہا کہ مکان جانے کی اجازت، کیونکہ اہل و عیال کا بہت اشتیاق ہے، انہوں نے کہا کہ ایسا نہ کرو، میں ان سے گفتگو کرتا رہا۔

آخر اجازت دے دی اور تیس ہزار درہم بھی مرحمت فرمائے، حکم دیا کہ ایک آتش بار کشتی اس کے پورے سامان کے ساتھ تیار کی جائے اور ملک شام کے تحائف خریدے جائیں کہ میں اپنے ہمراہ مدینے لے جاؤں، وکیل عراق کو حکم دیا کہ مدینے تک کا کرایہ ادا کریں، مجھے ایک دینار یا ایک درہم کے خرچ کی بھی تکلیف نہ دی جائے۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس گیا، انہیں واقعے سے آگاہ کیا اور قسم دی کہ جو کچھ میں پیش کروں وہ اسے قبول کر لیں، مگر ان لوگوں نے قسم کھائی کہ میرے ایک دینار یا ایک درہم کا بھی نقصان نہ کریں گے، واللہ اخلاق میں ان لوگوں کے مثل کسی کو نہیں دیکھا، پھر مجھے اپنے محبت محبوب یحییٰ بن خالد (کی مدح) کے لیے کیوں کر ملامت کی جاسکتی ہے۔

فقروفاقہ کی زندگی اور ایک عجیب واقعہ:

عبداللہ بن عبید اللہ سے مروی ہے کہ میں واقدمی کے پاس بیٹھا تھا، یحییٰ بن خالد برک کا ذکر کیا گیا، انہوں نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور بہت زیادہ رحمت کی دعا کی، ہم نے کہا کہ ابو عبداللہ تم بہت زیادہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہو، جواب دیا کہ میں کیوں کر اس شخص کے لیے دعا کرتا، رحمت نہ کروں جس کے حال سے تمہیں خبر دیتا ہوں۔ شعبان کے دس دن سے کم باقی رہ گئے تھے کہ مکان میں نہ آتا تھا نہ ستوا اور نہ دنیا کے سامان میں سے کوئی چیز، دل میں اپنے تین بھائیوں کا خیال آیا کہ ان سے اپنی حاجت کہوں گا۔

میں ام عبداللہ کے پاس گیا جو میری بیوی تھیں، انہوں نے کہا کہ ابو عبداللہ آ کر کیا کرنے والے ہو، ہم لوگ اس حالت میں ہیں کہ گھر میں نہ تو سامان دنیا میں سے کچھ ہے نہ کھانا نہ ستونہ اور کوئی چیز اور یہ مہینہ (رمضان) آ گیا ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے تین بھائیوں کا انتخاب کیا ہے جن سے حاجت بیان کروں گا، پوچھا کہ وہ مدنی ہیں یا عراقی، میں نے کہا بعض مدنی اور بعض عراقی، کہا کہ بیان کرو، کون ہیں، میں نے کہا کہ فلاں شخص، انہوں نے کہا کہ آدمی تو شریف و مالدار ہیں مگر احسان جتاتے ہیں، میں مناسب نہیں سمجھتی کہ تم ان کے پاس جاؤ، لہذا دوسرے کا نام بتاؤ، میں نے دوسرے کا نام لیا اور کہا کہ فلاں شخص، انہوں نے کہا کہ آدمی شریف و مالدار ہے مگر بخیل۔ میں تمہارے لیے مناسب نہیں سمجھتی کہ اس کے پاس جاؤ، پھر میں نے کہا کہ فلاں شخص، انہوں نے کہا کہ وہ کریم و شریف آدمی ہے، مگر اس کے پاس کچھ نہیں، وہاں جانے میں کوئی خرچ نہیں۔

میں ان کے پاس گیا، دستک دی تو انہوں نے اپنے پاس آنے کی اجازت دی، اندر گیا تو مرحبا کہا اور مجھے نزدیک بٹھایا، پوچھا کہ ابو عبداللہ تمہیں کیا چیز لائی۔ میں نے قرب رمضان اور اپنی تنگ حالی کا ذکر کیا، انہوں نے تھوڑی دیر غور کیا، پھر مجھ سے کہا کہ فرش کی تہ الٹ کر تھیلی لے لو، اسے دھو ڈالو اور خرچ کرو، اس میں سرمہ آلود درہم ہیں۔ میں تھیلی لے کے اپنے مکان آیا، ایک شخص کو بلایا، جو میری ضروریات فراہم کرتا تھا، اس نے کہا کہ آنا دس قفیز (پیمانہ) لکھ لو، چاول ایک قفیز اور شکر اتنی تمام چیزیں لکھا دیں۔

ہم اسی حالت میں تھے کہ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز سنی، میں نے کہا، دیکھو تو یہ کون ہے، کینر نے کہا کہ یہ فلاں بن فلاں

بن علی بن الحسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم میں نے کہا 'انہیں (اندر آنے کی) اجازت دو ان کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ مرحبا کہا اور قریب بٹھالیا۔ پوچھا 'اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا چیز لائی، انہوں نے کہا کہ چچا اس (رمضان) کی آمد نے نکالا حالت یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔

تھوڑی دیر تک غور کرتا رہا پھر کہا کہ فرش کی تالٹ کر تھیلی میں جو کچھ ہو لے لیجئے، انہوں نے تھیلی لے لی اپنے دوست سے کہا کہ جائے وہ چلے گئے، ام عبداللہ آئیں اور پوچھا کہ اس نوجوان کی حاجت کے متعلق کیا کیا، میں نے کہا کہ وہ تھیلی انہیں دے دی، بولیں تمہیں توفیق دی گئی اور تم نے نیکی کی۔

میں نے مکان کے قریب اپنے ایک دوست کے بارے میں غور کیا، جوتا پہنا اور ان کے پاس گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے اجازت دی، میں اندر گیا، انہوں نے مجھے سلام کیا، مرحبا کہا اور اپنے نزدیک بٹھالیا، پوچھا ابو عبداللہ تمہیں کیا چیز لائی۔ رمضان کی آمد اور اپنی تنگ دستی بیان کی تو کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر مجھ سے کہا کہ فرش کی تالٹ کر تھیلی نکالو، نصف تم لو اور نصف ہمیں دو، اتفاق سے وہ بیعت میری تھیلی تھی، میں نے پانچ سو درہم لے لیے اور پانچ سو انہیں دے دیئے۔ مکان پہنچ کے اس شخص کو بلایا جو میری ضروریات فراہم کرتا تھا اور کہا کہ لکھ لو پانچ قفیز آنا، اس نے تمام چیزیں لکھ لیں۔

اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، میں نے خادمہ سے کہا کہ دیکھو تو یہ کون ہے، وہ نکلی اور واپس آ کے کہا کہ معزز خادم ہے، میں نے کہا کہ اسے (آنے کی) اجازت دے دو وہ آیا تو یحییٰ بن خالد کا ایک خط تھا، انہوں نے مجھ سے فوراً اپنے پاس آنے کی درخواست کی تھی۔

اس شخص سے کہا کہ تم باہر جاؤ، کپڑے پہنے اور اپنی سواری پر خادم کے ساتھ روانہ ہوا۔ یحییٰ بن خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، اپنے مکان کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، میں نے سلام کیا تو انہوں نے مرحبا کہا اور قریب بٹھالیا، غلام سے کہا کہ مکہ لاؤ، میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھ سے کہا کہ ابو عبداللہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں کیوں بلایا۔ میں نے کہا، نہیں کہنے لگے کہ رات تمہارے حال اور اس ماہ (رمضان) کی آمد نے مجھے بیدار رکھا، تمہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ اللہ وزیر کو صالح کرنے میرا قصہ طویل ہے، انہوں نے کہا قصہ طویل ہے تو زیادہ دلچسپ ہوگا۔ میں نے ام عبداللہ کی گفتگو اپنے بھائیوں کا ذکر اور ان بھائیوں کے بارے میں ان کا جواب بیان کیا، انہیں طالبی کی اور دوسرے بھائی کی جس نے ہمدردی کی تھی خبر دی۔

حکم ہوا کہ قلم دوات لاؤ، خازن کو ایک رقعہ لکھا تو ایک تھیلی آئی جس میں پانچ سو دینار تھے، مجھ سے کہا کہ ابو عبداللہ رمضان میں اس سے مدد حاصل کرو۔ خازن کو ایک رقعہ اور بھیجا تو ایک پوٹلی آئی جس میں دو سو دینار تھے، فرمایا کہ یہ ام عبداللہ کے لیے ہے، ان کی نیک رائے اور حسن عقل کی بنا پر ایک اور رقعہ بھیجا تو دو سو دینار آئے، کہا کہ یہ طالبی کے لیے ہیں، چوتھا رقعہ بھیجا تو ایک پوٹلی آئی جس میں دو سو دینار تھے، کہا کہ یہ تمہارے ہمدرد کے لیے ہیں، پھر مجھ سے کہا کہ ابو عبداللہ اللہ کی نگہبانی میں روانہ ہو جاؤ۔

میں فوراً سوار ہو کے اپنے دوست کے پاس آیا، جنہوں نے تھیلی سے ہمدردی کی تھی، انہیں دو سو دینار دیئے اور یحییٰ بن خالد کے واقعے سے آگاہ کیا، قریب تھا کہ انہیں شادی مرگ ہو جائے، طالبی کے پاس آیا، پوٹلی دی اور یحییٰ ابن خالد سے جو گفتگو ہوئی تھی

بیان کی انہوں نے دعا کی اور شکر کیا، میں اپنے مکان آیا، ام عبداللہ کو بلا کر پوٹلی دے دی، انہوں نے دعا کی اور جزائے خیر کی دعا دی۔ اس کے بعد مجھے کیوں کر براء مکہ کی محبت پر، خاص کر یحییٰ بن خالد پر ملامت کی جاسکتی ہے۔

دارقانی سے رحلت:

وفات ذی الحجہ ۲۰ھ میں ہوئی، جو اس وقت عہدہ قضا پر تھے، محمد بن سہامہ التیمی نے جو اس زمانے میں بغداد کے غریب جانب کے قاضی تھے، ان پر نماز پڑھی۔

محمد بن عمر رضی اللہ عنہما نے عبداللہ بن ہارون امیر المؤمنین کو وصیت کی تھی، انہوں نے ان کی وصیت قبول کی اور قرض ادا کیا، وفات کے دن محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کا سن اٹھہتر سال کا تھا۔

محمد بن سعد نے کہا کہ ان کی وفات ۲۰۳ھ کے شروع میں ہوئی۔

حسین بن زید رضی اللہ عنہما:

ابن علی بن حسین بن علی بن محمد بن ابی طالب، کنیت ابو عبداللہ تھی، نظر جاتی رہی تھی، والدہ ام ولد تھیں۔ حسین بن زید رضی اللہ عنہما کے یہاں ملیکہ پیدا ہوئیں اور میمونہ میمونہ سے امیر المؤمنین مہدی نے نکاح کیا، مہدی کی وفات کے بعد عیسیٰ بن جعفر اکبر بن المنصور نے نکاح کیا مگر ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی اور علیہ بنت حسین ان سب کی والدہ کلثم الصماء بنت عبداللہ بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما تھیں۔

یحییٰ بن حسین و سکینہ کہ ہنوز جوان نہیں ہوئی تھیں اور فاطمہ بنت حسین، جن سے محمد بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے نکاح کیا اور حسن و سلیمان و خدیجہ و زینب اور حسین جن کی بقیہ اولاد نہ تھی پیدا ہوئے، ان کی والدہ خدیجہ بنت عمر بن علی بن حسین بن علی رضی اللہ عنہما بن ابی طالب تھیں۔

علی و جعفر ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ حسین کی احادیث ہیں۔

عبداللہ بن مصعب رضی اللہ عنہما:

ابن ثابت بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما بن العوام بن خویلد بن اسد ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ عبداللہ بن مصعب کے یہاں ابو بکر پیدا ہوئے جو امیر المؤمنین ہارون کی جانب سے والی مدینہ تھے، ان کی والدہ عبدہ تھیں، یہی ام عبداللہ بنت طلحہ ابن عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما تھیں۔

مصعب ان کی والدہ امۃ الجبار بنت ابراہیم بن جعفر بن مصعب ابن الزبیر تھیں۔ امۃ الجبار کی والدہ فاختہ بنت عبدالرحمن بن عبداللہ بن الاسود ابن ابی البختری تھیں۔ محمد اکبر و محمد اصغر اور علی و احمد ان سب کی والدہ خدیجہ بنت ابراہیم ابن ابراہیم بن عثمان تھیں، عثمان ہی قرین بن عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم ابن حزام تھے۔ قرین کی والدہ سکینہ بنت الحسن بن علی رضی اللہ عنہما بن ابی طالب تھیں۔ عبداللہ بن مصعب کی کنیت ابو بکر تھی۔ وفات اہتر سال کی عمر میں ربیع الاول ۸۳ھ میں قعد میں ہوئی، ان کے ایک فرزند کی ولادت وفات کے بعد ہوئی جن کا نام عبداللہ رکھا گیا، ان کی والدہ ام ولد تھیں، ان کی احادیث ہیں۔

عمر بن صالح رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن عروہ بن الزبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ان کی والدہ ام حبیب بنت محمد بن صفوان بن امیہ بن خلف الحنظلجی تھیں۔ وفات ہارون کی خلافت میں بغداد میں ہوئی۔ عامر شاعر لوگوں کے امور کے عالم تھے، کنیت ابو الحارث تھی۔

عبد اللہ بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑے عابد تھے ان کی والدہ امۃ الحمید بنت عبد اللہ بن عیاض بن عمرو بن بلبل بن بلال بن احمہ بن الجلاح، اوس کی شاخ بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔ عبد اللہ بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ عابد ناسک (حاجی) اور عالم تھے۔ وفات ۱۸۴ھ میں مدینے میں ہوئی۔

عبد اللہ بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن عمران بن ابراہیم بن محمد بن طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب ابن سعد بن تیم۔ ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ امیر المومنین ہارون نے انہیں مدینہ منورہ کا قاضی بنایا وہاں سے معزول کر کے مکہ معظمہ کا عہدہ قضا دیا، دوبارہ معزول کر کے مدینہ منورہ پر بحال کیا، پھر معزول کر دیا تو امیر المومنین کے پاس چلے گئے اور انہی کے ساتھ رہے ہارون رے گئے تو وہ بھی ساتھ گئے۔ ۱۸۹ھ میں رے ہی میں ان کی وفات ہوئی۔ عبد اللہ بن محمد کی کنیت ابو محمد تھی۔ قلیل الحدیث تھے۔

ابن ابی ثابت الاعرج رضی اللہ عنہ:

نام عبد العزیز بن عمران بن عبد العزیز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف ابن عبد بن الحارث بن زہرہ تھا۔ ان کی والدہ امۃ الرحمن بنت حفص بن عمر ابن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھیں۔

عبد العزیز بن عمران کے یہاں عبیدۃ کبریٰ پیدا ہوئیں، ان کی والدہ امۃ الواحد بنت عائد بن معن بن عبد اللہ بن عاصم بن عدی بن الحد بن العجلان تھیں۔

فاطمہ و عبیدہ صغریٰ یہی فصیحہ تھیں ان کی والدہ صعیبہ بنت عبد اللہ بن ربیعہ ابن ابی امیہ بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ ابراہیم وام یحییٰ وامۃ الرحمن وام حفص وام البنین وام عمرو ان سب کی والدہ ام ولد تھیں۔ برہ وام محمد ان دونوں کی والدہ حمیدہ بنت محمد بن بلال بن ابی بکر بن عبد اللہ ابن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھیں۔

ابن الطویل رضی اللہ عنہ:

نام محمد بن عبد الرحمن تھا، عبد الرحمن الطویل بن طلحہ بن عبد اللہ بن عثمان ابن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھے۔ قلیل الحدیث تھے۔

ابو ضمیرہ رضی اللہ عنہ:

نام انس بن عیاض اللدنی تھا، لیثون میں سے تھے، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

محمد بن معن رضی اللہ عنہ:

ابن محمد بن معن الغفاری کُنیت ابو معن تھی ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابراہیم بن جعفر رضی اللہ عنہما:

ابن محمود بن عبداللہ بن محمد بن مسلمہ بن سلمہ بن خالد بن عدی بن مجدعہ ابن خارشہ اوس کے تھے ان کی والدہ کبلہ بنت المسائب قیس عیمان کے بنی محارب بن نصفہ میں سے تھیں۔

ابراہیم بن جعفر کے یہاں یعقوب و اسماعیل و امامہ مختلف ام والد سے پیدا ہوئے۔ ابراہیم بن جعفر کی کُنیت ابواسحاق تھی وفات

۱۹۱ھ میں ہوئی۔

زکریا بن منظور القرظی رضی اللہ عنہ:

کُنیت ابویحییٰ تھی کانے تھے ابو حازم و عمر مولائے غفرہ سے ملے تھے۔

معن بن عیسیٰ رضی اللہ عنہما:

ابن معن کُنیت ابویحییٰ تھی اشجع کے مولیٰ تھے مدینے میں ریشم (کا کپڑا) بناتے ریشم خریدتے بننے کے لیے غلام تھے وہ خرید کر انہیں بتا دیتے تھے ۱۹۸ھ میں مدینے میں ان کی وفات ہوئی ثقہ و کثیر الحدیث و قابل اعتماد تھے۔

محمد بن اسماعیل رضی اللہ عنہما:

ابن مسلم بن ابی فدیک کُنیت ابواسماعیل تھی بنی الدیل کے مولیٰ تھے ۱۹۹ھ میں مدینے میں وفات ہوئی حمید الخراط و محمد بن اسحاق و عبدالرحمن ابن حرمہ و ضحاک بن عثمان و ربیعہ بن عثمان و یحییٰ بن عبداللہ بن ابی قتادہ سے روایت کی ہے کثیر الحدیث تھے مگر ان کی حدیث حجت نہیں۔

عبداللہ بن نافع الصائغ رضی اللہ عنہما:

کُنیت ابو محمد تھی بنی مخزوم کے مولیٰ تھے بڑی پابندی سے مالک بن انس کے ساتھ رہتے تھے اور کسی کو ان پر مقدم نہ کرتے تھے۔ رمضان ۲۰۶ھ میں مدینے میں وفات ہوئی معن سے کم تھے۔

ابوبکر العشی رضی اللہ عنہما:

نام عبدالحمید بن عبداللہ تھا عبداللہ بن ابی اویس بن عبداللہ بن اویس ابن مالک بن عامر تھے ان کی والدہ مالک بن انس کی بہن تھیں ابوبکر عربیت و قرأت و روایت کے ماہر تھے یہ چیزیں انہوں نے نافع بن ابی نعیم و سلیمان بن بلال وغیرہ سے حاصل کی تھیں۔ ان کے بھائی:

اسماعیل بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

عبداللہ بن ابی اویس بن عبداللہ بن اویس بن مالک ابن ابی عامر تھے ان کی والدہ مالک بن انس کی بہن تھیں اسماعیل کی کُنیت ابو عبداللہ تھی انہوں نے مالک بن انس اور اپنے والد اور کثیر بن عبداللہ و نافع بن ابی نعیم و دیگر شیوخ اہل مدینہ سے روایت کی ہے۔

مطرف بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن یسار الیساری، کنیت ابو مصعب تھی، یسار قبیلہ اسلم کے ایک شخص کے مکاتب تھے، عبد اللہ بن ابی فروہ نے ان کی جانب سے بدل کتابت ادا کر دیا اور وہ آزاد ہو گئے، پھر وہ اور ان کے بیٹے عبد اللہ بن ابی فروہ کے ساتھ اور ان کی دعوت میں ہو گئے، مطرف مالک بن انس کے شاگردوں میں تھے، ثقہ اور بہرے تھے، ۲۲۶ھ کے شروع میں مدینے میں وفات ہوئی۔

عبد العزیز بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو والا کبر بن اویس بن سعد الا کبر بن ابی سرح بن الحارث بن الحبیب بن جذیمہ ابن مالک بن حسل بن عامر بن لوی۔
عبد اللہ بن نافع رضی اللہ عنہ:

ابن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بن العوام بن خویلد بن اسعد بن عبد العزیز ابن قسوی، ان کی والدہ ام ولد تھیں، جن کا نام عصیمہ تھا۔

مصعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن مصعب بن ثابت بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ بن العوام ان کی والدہ امۃ الجبار بنت ابراہیم بن جعفر بن مصعب بن الزبیر بن العوام تھیں۔

عتیق بن یعقوب رضی اللہ عنہ:

ابن صدیق بن موسیٰ بن عبد اللہ بن زبیر بن العوام، کنیت ابو بکر تھی، ان کی والدہ حفصہ بنت عمر بن عتیق بن عامر بن عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہ تھیں، حفصہ کے دادا عمر بن عتیق اور ان کے والد عتیق بن عامر قدیم میں قتل کر دیے گئے، عتیق ابن یعقوب سوار قبہ میں رہنے لگے، پھر مدینے میں آ کر وہیں مقیم ہو گئے، مالک بن انس کے ساتھ رہے، ان کی کتابیں الموطا وغیرہ لکھیں، عبد اللہ بن عبد العزیز العمری العابد کے ساتھ رہا کرتے تھے اور عتیق ہمیشہ بہترین مسلمان تھے۔ ۲۲۷ھ یا ۲۲۸ھ میں وفات ہوئی۔

عبد الجبار بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن سلیمان بن نوفل بن مسحق بن عبد اللہ بن محرمہ بنی عامر بن لوی میں سے تھے، ان کی والدہ بنت عثمان الزبیر بن عبد اللہ بن الولید بن عثمان بن عفان تھیں، یہی ان کی اور ان کے سب بھائیوں کی والدہ تھیں، عبد الجبار امیر المومنین مامون کی جانب سے مدینے کے والی قضا تھے، ان کے والد سعید بن سلیمان بھی مہدی کی جانب سے مدینے کے والی قضا تھے، عبد الجبار کے پاس احادیث تھیں اور ان سے سنی گئی، وفات ۲۲۹ھ میں مدینے میں ہوئی۔

ابو غزیہ رضی اللہ عنہ:

نام محمد بن موسیٰ تھا، بنی مازن بن النجار میں سے تھے، تنہیال کی جانب سے اسامہ بن زید بن حارثہ الکلبی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں تھے۔ روایت و فتویٰ و فقہ میں علم و بصیرت رکھتے تھے، عبد اللہ بن الحسن العلوی کی ولایت مدینہ کے زمانے میں مدینے کے والی قضا تھے، یہ زمانہ امیر المومنین المامون کی خلافت کا تھا۔

ابو مصعب رضی اللہ عنہما:

نام احمد بن ابی بکر بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھا۔ مالک بن انس سے سنا اور ان سے روایت کی، فقہائے اہل مدینہ تھے، ابو غزیہ کے بعد عبد اللہ بن الحسن کی جانب سے مدینے کے والی قضا و شرط (شحنہ) رہے۔

یعقوب بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن عیسیٰ بن عبد الملک بن حمید بن عبد الرحمن بن عوف، کنیت ابو یوسف تھی، ان کے والد محمد بن عیسیٰ مدینے کے بلند مرتبہ اور اہل مروءت میں سے تھے، جسیم و خوبصورت تھے، یعقوب کثیر العلم تھے، بکثرت احادیث سنی تھیں، مالک ابن انس کی صحبت نہیں پائی، لیکن مالک کے بعد فقہا اور ان لوگوں کے راویوں اور ان کے اہل علم سے ملے تھے، حافظ حدیث تھے۔

محمد بن عبید اللہ:

ابن محمد بن ابی زید، کنیت ابو ثابت تھی، خاندان عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے مولیٰ اور تاجر تھے، انہوں نے مالک وغیرہ راویان اہل مدینہ سے سنا تھا، فاضل و برگزیدہ تھے، محرم ۲۲۷ھ میں ان کی وفات ہوئی۔

ابراہیم بن حمزہ رضی اللہ عنہما:

ابن محمد بن حمزہ بن مصعب بن الزبیر بن العوام، ان کی والدہ خالد بن الزبیر بن العوام کے خاندان سے تھیں، ان کے والد کی والدہ ام ولد تھیں، اور دادا کی والدہ بھی ام ولد تھیں۔ ابراہیم کی کنیت ابو اسحاق تھی، حمزہ بن مصعب اور ان کے بیٹے عمارہ بن حمزہ قادیان میں قتل کر دیئے گئے۔ ابراہیم بن حمزہ نے مالک بن انس کی صحبت نہیں پائی، عبد العزیز بن محمد الدر اور دی اور عبد العزیز بن ابی حازم وغیرہ راویان اہل مدینہ سے سنا تھا، ثقہ اور حدیث میں نہایت صادق تھے، ربذہ میں اکثر آ کر قیام کرتے اور وہاں اس میں تجارت کرتے، عیدین میں مدینے حاضر ہوتے۔

عبد الملک بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما:

ابن عبد اللہ بن ابی سلمہ الماحشون، کنیت ابو مروان تھی، مالک بن انس کے شاگرد تھے، صاحب فقہ و روایت تھے۔
(تابعین کے طبقہ ہفتم کا یہ آخری حصہ تھا جو تابعین کے طبقات کا بھی آخری حصہ ہے)۔



رسول اللہ ﷺ

کے وہ اصحاب جو مکہ معظمہ میں مقیم ہو گئے تھے

ابوسبرہ بن ابی رہم رضی اللہ عنہ:

ابن عبد العزی بن ابی قیس بن عبد و بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی والدہ برہ بنت عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

محمد بن عمر نے کہا کہ سوائے ابوسبرہ کے مہاجرین اہل بدر میں سے ہم کسی کو نہیں جانتے جو نبی ﷺ کی وفات کے بعد مکہ واپس آ کر وہاں مقیم ہو گئے ہوں وہ نبی ﷺ کی وفات کے بعد مکہ واپس ہوئے اور مقیم ہو گئے ان کا یہ فعل مسلمانوں نے ناپسند کیا ان کے لڑکے اس کا انکار کرتے تھے اور اس کی تردید کرتے تھے کہ کئے سے ہجرت کرنے کے بعد واپس آ کر اس میں مقیم ہو گئے ہوں اس کے ذکر سے وہ لوگ ناراض ہوتے تھے۔ ابوسبرہ بن ابی رہم رضی اللہ عنہ کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔

عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ:

ابن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ اسماء بنت خریہ ابن جندل بن ابیر بن نہشل بن وارم بن تمیم میں سے تھیں ابو جہل بن ہشام کے اخیالی بھائی تھے عیاش مہاجرین حبشہ میں سے تھے۔ پھر آ کر نبی ﷺ کی وفات تک مدینے ہی میں رہے بعد کو شام چلے گئے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا واپس آ کر مکہ میں وفات تک مقیم رہے۔ لیکن ان کے بیٹے عبد اللہ بن عیاش رضی اللہ عنہ وفات تک مدینے ہی میں رہے۔

عبد اللہ بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ:

ابن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ اسماء بنت خریہ ابن جندل بن ابیر بن نہشل بن وارم تھیں زمانہ جاہلیت میں عبد اللہ کا نام بکیر تھا رسول اللہ ﷺ نے ان کا نام عبد اللہ رکھا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے انہیں والی یمن بنایا تھا۔

حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ:

ابن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم ان کی والدہ اسماء بنت خریہ ابن جندل بن ابیر بن نہشل بن وارم تھیں حارث بن ہشام فتح مکہ کے دن اسلام لائے تھے۔ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک مکہ ہی میں مقیم رہے ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں شام چلے گئے جنگ فیل و اجنادین میں شریک ہوئے ۱۸ھ میں بزمانہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ بن الخطاب عمواس کے طاعون میں وفات ہوئی۔

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ:

ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام بن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھا ان کی والدہ ام ماجد بنت یزید بن ہلال بن عامر کی تھیں، عکرمہ رضی اللہ عنہ فتح مکہ میں اسلام لائے اور مکہ ہی میں مقیم رہے۔ حجۃ الوداع ہوا تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں قبیلہ ہوازن پر عامل بنایا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کریں رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو اس زمانے میں وہ تبالہ میں تھے پھر مجاہد بن کرشام چلے گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جنگ اجنادین میں شہید ہو گئے۔

عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ:

ابن ابی السائب بن عابد بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم، کنیت ابو عبد الرحمن تھی ان کی والدہ رملہ بنت عروہ ذی البردین بنی ہلال بن صعصعہ میں سے تھیں، عبد اللہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکہ ہی میں مقیم رہے عبد اللہ بن الربیع رضی اللہ عنہما کے زمانے میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔

عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب وہ عبد اللہ بن السائب رضی اللہ عنہ کے دفن سے فارغ ہوئے اور لوگ ان سے (فارغ ہو کر) کھڑے ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہما کھڑے ہوئے ان کے پاس ٹھہرے دعا کی اور پھر واپس ہوئے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ ہم چار کا ذکر لوگوں سے فخر یہ کرتے تھے اپنے فقیہ قصہ گو مؤذن اور قاری کا ہمارے فقیہ ابن عباس رضی اللہ عنہما تھے مؤذن ابو محذورہ قاری عبد اللہ ابن السائب اور قصہ گو عبید بن عمیر رضی اللہ عنہم تھے۔

خالد بن العاص رضی اللہ عنہ:

ابن ہشام بن المغیرہ بن عبد اللہ بن مخزوم ان کی والدہ عاتکہ بنت الولید ابن المغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم تھیں، عکرمہ بن خالد اور الحارث بن خالد شاعران کے فرزند تھے خالد بن العاص فتح مکہ کے دن مشرف بہ اسلام ہوئے اور وہیں مقیم رہے ان کی بقیہ اولاد ہے۔ خالد بن العاص رضی اللہ عنہ والی مکہ ہوئے تھے۔

عطاء سے مروی ہے کہ میں نے ابو محذورہ کو دیکھا کہ اذان نہ کہتے تا وقتیکہ خالد بن العاص رضی اللہ عنہ کو دروازہ مسجد سے داخل ہوتے نہ دیکھ لیتے۔

قیس بن السائب رضی اللہ عنہ:

مجاہد کے مولیٰ کو آزاد کیا تھا۔ مجاہد سے مروی ہے کہ یہ آیت میرے آقا قیس بن السائب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يَطْمِقُونَ فِدْيَةَ طَعَامِ مَسْكِينٍ﴾ (اور ان لوگوں پر جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ایک مسکین کی خوراک فدیہ ہے) انہوں نے روزہ ترک کیا اور ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا۔

عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ:

ابن ابی العیسیٰ بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ اروی بنت ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس تھیں۔ فتح مکہ پر اسلام لائے رسول اللہ ﷺ حنین تشریف لے گئے تو عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا عامل بنایا جو لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے ان

سے فرمایا: تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کن لوگوں پر عامل بنایا، عرض کی اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ فرمایا: میں نے تمہیں اہل اللہ (اللہ والوں) پر عامل بنایا ہے۔

اس سال عتاب بنی النضر نے لوگوں کے لیے حج کا انتظام کیا، ہجرت کا یہ آٹھواں سال تھا، رسول اللہ ﷺ کی وفات تک عتاب بن اسید بنی النضر عامل مکہ تھے۔ ان کے بھائی: خالد بن اسید بنی النضر:

ابن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی، فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور وہیں مقیم رہے۔ حکم بن ابی العاص بنی النضر:

ابن امیہ بن عبد شمس، ان کی والدہ رقیہ بنت الحارث بن عبید بن عمر ابن مخزوم تھیں، فتح مکہ پر اسلام لائے اور عثمان بن عفان بنی النضر کی خلافت تک وہیں مقیم رہے، عثمان بنی النضر نے بلایا تو مدینے چلے گئے اور وہیں ان کی خلافت میں وفات پائی۔ مروان بن الحکم کے والد اور عثمان بن عفان بنی النضر کے چچا تھے۔ عقبہ بن الحارث بنی النضر:

ابن عامر بن نوفل بن عبد مناف بن قصی، ان کی والدہ خدیجہ یا امامہ بنت عیاض بن رافع خزاعہ کی تھیں، فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ عبد اللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ عقبہ بن الحارث سے سنا کہ میں نے ام یحییٰ بنت ابی اہاب سے نکاح کیا، ایک حبشی عورت آئی اور دعویٰ کیا کہ اس نے ہم دونوں کو دودھ پلایا ہے۔ میں نے نبی ﷺ سے بیان کیا تو آپ نے میری طرف سے منہ پھیر لیا، عرض کی کیا وہ جھوٹی ہے، فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ جھوٹی ہے اور جو کہنا تھا وہ کہہ دیا، تم اسے اپنے سے جدا کر دو۔ عثمان بن طلحہ بنی النضر:

ابن ابی طلحہ، ابی طلحہ کا نام عبد اللہ بن عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی تھا، ان کی والدہ سلافہ الصغریٰ بنت سعد بن الشہید انصار میں سے تھیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عثمان مکہ واپس آ کر مقیم ہو گئے، معاویہ بن ابی سفیان بنی النضر کے ابتدائی زمانہ خلافت میں وہیں ان کی وفات ہوئی۔ شیبہ بن الحجاب بنی النضر:

ابن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزیٰ بن عثمان بن عبد الدار بن قصی، ان کی والدہ ام جمیل بنت عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی تھیں۔ شیبہ قریش کے ہمراہ قبیلہ ہوازن کے پاس حنین چلے گئے اور وہیں اسلام لائے، شیبہ بنی النضر ہی صنیعہ بنت شیبہ کے والد تھے، یزید بن معاویہ بنی النضر کے زمانے تک زندہ رہے۔ نضیر بن الحارث بنی النضر:

ابن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی، کنیت ابو الحارث تھی۔ ان کی والدہ حارث بن عثمان بن عبد الدار بن قصی کی بیٹی تھیں۔ حنین میں اسلام لائے، رسول اللہ ﷺ نے انہیں حنین کے مال غنیمت سے سواون دینے تھے، ان کے بھائی نضر بن

الحارث کو رسول اللہ ﷺ کے حکم سے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بدر کے دن صفراء میں بہادری کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ نصیر کی اولاد میں محمد بن المرتفع بن النصیر تھے جن سے سفیان بن عیینہ وغیرہ نے روایت کی ہے۔

ابو السائب بن بعلک رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن السباق بن عبدالدار بن قصی ان کی والدہ عمرہ بنت اوس ابن ابی عمرو بنی عذرہ میں سے تھیں سبیحہ بن الحارث الاسلمیہ ان کی بی بی تھیں۔

صفوان بن امیہ رضی اللہ عنہ:

ابن خلف بن وہب بن حذافہ بن جحج بن عمرو بن ہصیص بن کعب بن لوی، کنیت ابو وہب تھی ان کی والدہ صفیہ بنت معمر بن حبیب بن وہب بن حذافہ بن جحج تھیں۔ صفوان حنین میں اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں حنین کے مال غنیمت سے پچاس اونٹ دیئے۔

صفوان بن امیہ سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں رسول اللہ ﷺ نے مجھے عطا فرمایا، آنحضرت ﷺ میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت تھے پھر اتنا عطا فرمایا کہ آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صفوان بن امیہ سے کہا گیا کہ اس کا اسلام نہیں جو ہجرت نہ کرے وہ مدینے آگئے اور نبی ﷺ کو اس کی اطلاع کی فرمایا: اے ابو وہب! جب تم مکے کی ریگستانی زمین کی طرف لوٹے تھے تو میں نے تمہارے خلاف قصد کیا تھا۔ ہجرت کے بعد وہ پھر مکے واپس آگئے اور وہیں مقیم رہے جس زمانے میں لوگ مکے سے جنگ جمل کو نکلے ان کی وفات ہوئی۔ یہ شوال ۳۷ھ میں ہوا لوگوں کو جنگ جمل میں شریک ہونے کی ترغیب دیتے تھے۔

ابو محذورہ رضی اللہ عنہ:

نام اوس بن معیر بن لوذان بن ربیعہ بن عوث بن سعد بن جحج تھا ان کی والدہ خزاعیہ تھیں۔ ابن سعد نے کہا کہ ایک شخص کو ابو محذورہ کا نسب بیان کرتے سنا کہ ان کا نام سمرہ بن عمیر بن لوذان بن وہب بن سعد بن جحج تھا ان کا ایک حقیقی بھائی تھا جس کا نام اوس تھا اور جنگ بدر میں بحالت کفر مارا گیا۔

ابو محذورہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکے ہی میں مقیم رہے ہجرت نہیں کی۔ زبیر بن المنذر بن ابی اسید الساعدی نے اپنے دادا سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ فتح مکہ کے دن تشریف لائے تو ابو محذورہ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کا مؤذن بنوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم اذان کہا کرو وہ بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ اذان کہا کرتے تھے جب رسول اللہ ﷺ مدینے واپس ہوئے تو ابو محذورہ رہ گئے کہ مکے میں اذان کہیں۔ انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اب تک اذان مسجد حرام مکہ میں ان کے بیٹوں اور بیٹوں کے بیٹوں میں ورثہ چلی آتی ہے ابو محذورہ کی وفات مکے میں ۵۹ھ میں ہوئی۔

مطبع بن الاسود رضی اللہ عنہ:

ابن حارث بن نصلہ بن عوف بن عبید بن عوث بن عدی بن کعب ان کی والدہ امیہ بنت عامر بن الفضل خزاعیہ تھیں اور

مہاجر بن قنفذ رضی اللہ عنہ:

ابن عمیر بن جدعان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ان کی والدہ ہند بنت الحارث بن مسروق بن غنم بن مالک بن کنانہ میں سے تھیں۔ فتح مکہ کے روز اسلام لائے۔ قنفذ کا نام خلف تھا۔ مہاجر نے نبی ﷺ سے روایت کی ہے۔

مطلب بن ابی وداعہ رضی اللہ عنہ:

ابی وداعہ کا نام حارث بن ضمیرہ بن سعید بن سعد بن بہم بن عمرو بن ہبصین ابن کعب بن لوی تھا ان کی والدہ اروی بنت الحارث بن عبدالمطلب بن ہاشم ابن عبدمناف تھیں۔

سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی ان کی والدہ جسی بنت قیس بن ضبیس خزاعہ میں سے تھیں۔ سہیل بن عمرو باوجود اپنے شرک پر قائم ہونے کے نبی ﷺ کے ہمراہ مکے سے حنین گئے پھر الجعراندہ میں اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ نے اس روز انہیں غنائم حنین میں سے سواونٹ عطا فرمائے، سہیل نے نبی ﷺ سے احادیث روایت کی ہیں۔ ابن سعد بن ابی فضالہ الانصاری رضی اللہ عنہ سے جو صحابی تھے مروی ہے کہ جن ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے اور سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو غازی بنایا تو میں اور وہ ملک شام تک ساتھ رہے پھر میں نے سہیل سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ فرماتے تھے کہ تم میں سے کسی کا اللہ کی راہ میں تھوڑی دیر کھڑا رہنا بھی اپنے متعلقین میں ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ سہیل نے سنا کہ میں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم رہوں گا تا وقتیکہ موت نہ آجائے اور میں نے کبھی واپس نہ جاؤں گا ۱۸ھ کی دباے عمواس میں ملک شام میں وفات پا گئے، کنیت ابو یزید تھی۔

عبداللہ بن السعدی رضی اللہ عنہ:

سعدی کا نام عمرو بن واقد ان بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل ابن عامر بن لوی تھا ان کی والدہ حجاج بن عامر بن حذیفہ بن سعید بن بہم کی بیٹی تھیں، عبداللہ بن السعدی فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔

حویطب بن عبد العززی:

ابن ابی قیس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر ابن لوی کنیت ابو محمد تھی ان کی والدہ زینب بنت علقمہ بن غزو ان بن ربوع ابن الحارث بن مناف تھیں، حویطب بن عبد العززی فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔

منذر بن الجہم سے مروی ہے کہ حویطب بن عبد العززی العامری ایک سو بیس سال کی عمر کو پینچے ساٹھ سال جاہلیت میں اور ساٹھ سال اسلام میں رہے فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حنین طائف میں حاضر ہوئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں حنین کے مال غنیمت میں سے سواونٹ عطا فرمائے، حویطب کی وفات ۵۴ھ میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ہوئی۔

ضرار بن الخطاب رضی اللہ عنہ:

ابن مرداس بن کبیر بن عمرو بن حبیب بن عمرو بن شیبان بن محارب ابن فہر قریش کے شہسوار اور شاعر تھے فتح مکہ کے دن اسلام لائے اور مکہ ہی میں مقیم رہے یمامہ گئے اور وہاں شہید ہو گئے۔

ابو عبد الرحمن القہری رضی اللہ عنہ:

میں نے ایک شخص سے سنا کہ ان کا نام کرز بن جابر تھا۔ ابی عبد الرحمن القہری سے مروی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک ہوئے انہوں نے اس کے متعلق ایک طویل حدیث بیان کی ہے۔

عتبہ بن ابی لہب رضی اللہ عنہ:

ابولہب کا نام عبد العزی بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی تھا۔ ان کی والدہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔

فتح مکہ کے روز اسلام لائے اور مکہ ہی میں مقیم رہے ہجرت نہیں کی غزوہ حنین میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھے اس روز رسول اللہ ﷺ کے جو اہل بیت و اصحاب آپ کے ہمراہ ثابت قدم رہے ان میں وہ بھی تھے۔ بنی ہاشم میں سے فتح مکہ کے بعد سوائے عتبہ و معتب فرزند ان ابولہب کے کسی نے مکہ میں قیام نہیں کیا۔

معتب بن ابی لہب رضی اللہ عنہ:

ابن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ ام جمیل بنت حرب بن امیہ تھیں فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ حنین گئے اور اس روز رسول اللہ ﷺ کے جو اہل بیت و اصحاب ثابت قدم رہے ان میں وہ بھی تھے اسی روز ان کی آنکھ زخمی ہوئی۔

یعلیٰ بن امیہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی بن عبیدہ بن ہمام بن الحارث بن مکر بن زید بن مالک بن حنظلہ ابن مالک بن زید مناۃ بن تمیم ان کی والدہ منیہ بنت جابر بن وہب بن نسیب ابن زید بن مالک بن الحارث بن عوف بن مازن بن منصور تھیں، یعلیٰ بن امیہ بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے وہ خود اور ان کی والدہ امیہ اور ان کے بھائی سلمہ بن امیہ اسلام لائے، یعلیٰ و سلمہ فرزند ان امیہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ تبوک میں حاضر ہوئے، یعلیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ یعلیٰ بن امیہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ غزوہ حنین العسرة (تنگی کے لشکر یعنی غزوہ تبوک) میں تھا یہ میرا سب سے زیادہ قابل وثوق عمل تھا۔

حجیر بن ابی اہاب رضی اللہ عنہ:

ابن عزیز بن قیس بن سوید بن ربیعہ بن زید بن عبد اللہ بن دارم بنی تمیم کے تھے اور بنی نوفل بن عبد مناف کے حلیف تھے۔

عمیسر بن قنابہ رضی اللہ عنہ:

ابن سعد بن عامر بن جندع بن لیث بن مکر بن عبد مناۃ بن کنانہ عبید ابن عمیر اللبیش کے والد تھے۔ عبد اللہ بن عبید بن عمیر

نے اپنے باپ دادا سے روایت کی کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ! اسلام کیا ہے؟ آپ نے اس کے طریقے بتائے حدیث طویل ہے۔

ابو عقرب رضی اللہ عنہ:

نام خویلد بن خالد بن بحیر بن عمرو بن حماس بن عریج بن مکر بن عبد مناة بن کنانہ تھا۔ اسلام لائے اور نبی ﷺ کے ساتھ رہے۔ ان کے بیٹے:

عمرو بن ابی عقرب رضی اللہ عنہ:

نبی ﷺ کی صحبت پائی، آپ کو دیکھا اور آپ سے روایت کی۔ ابی نوفل بن ابی عقرب کے دادا تھے۔ ابی نوفل کا نام معاویہ بن مسلم بن عمرو بن ابی عقرب تھا، ابو نوفل آخر تک بصرے میں رہے اور ان سے بصرہ میں نے روایت کی۔

ابو الطفیل رضی اللہ عنہ:

نام عامر بن واثلہ بن عبد اللہ بن عمیر بن جابر بن حمیس بن جزء بن سعد بن لیث تھا۔

کلدہ بن جھیل رضی اللہ عنہ:

صفوان بن امیہ کے اخیانی بھائی تھے۔ کلدہ بن الحسنیل سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن صفوان بن امیہ نے نبی ﷺ کو میرے ہاتھ پیوسی اور ہرن کا بچہ اور کھیرے بھیجے، نبی ﷺ وادی کے بالائی قلعے میں تھے، میں اندر گیا، نہ اجازت مانگی اور نہ سلام کیا۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ باہر جاؤ اور کہو السلام علیکم، میں اندر آتا ہوں۔ یہ واقعہ صفوان کے اسلام کے بعد کا ہے۔ ایک روایت اور بھی ہے مگر اس میں امیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے کلدہ سے سنا ہے۔

بسر بن سفیان رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن عویمر بن صرمہ بن عبد اللہ خزاعہ کے تھے۔ انہیں کونبی ﷺ نے اسلام کی تحریری دعوت دی تھی۔

کرز بن علقمہ رضی اللہ عنہ:

ابن ہلال بن جریرہ بن عبد نہم بن حلیل بن حبشیہ بن سلوان خزاعہ کے تھے۔ یہ وہی شخص ہیں کہ جب نبی ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہما ہجرت کر کے مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو آپ کے نقش قدم پر چلے، اس عار تک پہنچ گئے جس میں آپ دونوں تھے اور کہا کہ نشان قدم یہاں تک ختم ہو گیا۔ یہی وہ شخص ہیں کہ نبی ﷺ کا قدم مبارک دیکھ کر کہا کہ یہ اسی قدم کا جزو ہے جو مقام ابراہیم میں ہے یعنی قدم ابراہیم صلوات اللہ علیہ وسلمہ کا۔ کرز نے بڑی عمر پائی، فتح مکہ کے دن اسلام لائے، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل مکہ کو لکھا کہ اگر کرز بن علقمہ زندہ ہوں تو ان سے کہو کہ علامات حرم بتادیں۔ انہوں نے بتا دیئے وہی اب تک ان لوگوں کے علامات ہیں۔

تمیم بن اسد رضی اللہ عنہ:

ابن سوید بن اسعد بن مشوء بن عبد بن جہر خزاعہ سے تھے اور شاعر تھے۔ نبی ﷺ نے انہیں فتح مکہ کے دن حرم کے جنوں

کو توڑنے کا حکم دیا۔

اسود بن خلف رضی اللہ عنہ:

ابن اسعد بن عامر بن بیاضہ بن سبیح بن جشمہ بن سعد بن ملیح بن عمرو بن ربیعہ خزاعی تھے نبی ﷺ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے دن حاضر خدمت ہوئے۔

اسود بن خلف سے مروی ہے کہ نبی ﷺ کو فتح مکہ کے دن قرن کے پاس لوگوں سے بیعت لیتے دیکھا، قرن وہ مصلحہ (صیقل کرنے کا مقام) تھا جس کی طرف ابی ثمامہ کے مکانات کا پانی بہتا تھا اور جو ابن سمرہ کے مکان اور اس کے اطراف کے درمیان تھا، اسود نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مرد عورتیں بچے اور بوڑھے حاضر خدمت ہوئے اور اسلام پر کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ و محمد عبدہ ورسولہ پر بیعت کر رہے تھے۔

بدیل بن ورقاء رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالعزیٰ بن ربیعہ بن جری بن عامر بن مازن بن عدی بن عمرو ابن ربیعہ خزاعی تھے یہ وہی تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی تحریری دعوت دی تھی۔

ابو شریح الکعبی رضی اللہ عنہ:

نام خویلد بن صخر بن عبدالعزیٰ بن معاویہ بن الحشرش بن عمرو بن زمان ابن عدی بن عمرو بن ربیعہ خزاعی تھے زمان و مازن دونوں بھائی تھے۔

نافع بن عبدالجاریث رضی اللہ عنہ:

ابن حبالہ بن عمیر بن الحارث بن حارث غنشان بن عبد عمرو بن عمرو بن بوی ابن ماکان بن افضلی تھے جو خزاعی تھے، نافع بن عبدالجاریث کے پر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے والی تھے۔

عالمہ بن الفقواء رضی اللہ عنہ:

ابن عبید بن عمرو بن زمان بن عدی بن عمرو بن ربیعہ خزاعی تھے۔

محرش الکعبی رضی اللہ عنہ:

بعض راوی انہیں محرش کہتے ہیں۔

عبداللہ بن حبشی الخشمی رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن بن صفوان رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن بن صفوان سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن میں نے کپڑے پہنے اور روانہ ہوا، نبی ﷺ جس وقت بیت اللہ سے برآمد ہوئے تو میں قدم بوس ہوا۔ میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی ﷺ جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ دو رکعت نماز پڑھی۔

لقیط بن صبرۃ العقیلی رضی اللہ عنہ:

کے قریب رکیہ و جلدان کے نواح میں رہا کرتے اور کثرت سے مکے میں آ کر قیام کرتے۔

ایاس بن عبدالمزنی رضی اللہ عنہ:

کیسان رضی اللہ عنہ:

انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں براء العلیا کے پاس نماز پڑھائی۔ عبد الرحمن بن کیسان نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ شیعہ العلیا میں دن کو آخری دو نمازیں ظہر یا عصر میں سے ایک نماز ایک ہی چادر میں پڑھ رہے تھے جس کو آپ اس طرح اوڑھے ہوئے تھے کہ اس کا ایک کنارہ دوسرے کنارے پر ڈال لیا تھا۔

مسلم رضی اللہ عنہ:

راطلہ بنت مسلم نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے ہمرکاب حنین حاضر ہوئے، آنحضرت ﷺ نے ان سے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا کہ غراب (کوا) فرمایا تمہارا نام مسلم ہے۔

عبد الرحمن بن ابی ہریرہ مولائے خزاعہ رضی اللہ عنہ:

عبد اللہ بن عبد الرحمن بن ابی ہریرہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ نماز پڑھی، آنحضرت ﷺ جب سجدہ کرتے تو تکبیر نہیں کہتے تھے۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبد الرحمن بن ابی ہریرہ کے والی تھے نافع بن الحارث جب عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس روانہ ہوئے تو انہیں اپنا جائشین بنا گئے تھے۔

اہل مکہ کا وہ طبقہ اولیٰ

جس نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کی ہے

علی بن ماجدۃ السہمی رضی اللہ عنہ:

ماجده کے والد تھے ابوبکر و عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔

عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ:

ابن قتادہ اللیثی، کنیت ابو عامر تھی ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔ ابو خلف مولائے بنی جمح نے ایک حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی ہے۔ جس میں عبید بن عمیر کا ذکر ہے کہ ان کی کنیت ابو عامر تھیں۔ ثابت سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلے جس نے قصہ بیان کیا وہ عبید بن عمیر تھے۔ کسی نے عطاء سے کہا کہ ”جن لوگوں نے قصہ بیان کیا ان میں سب سے پہلے کون ہے“ انہوں نے کہا کہ عبید بن عمیر۔ عطاء سے مروی ہے کہ میں اور عبید بن عمیر عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے انہوں نے کہا یہ کون ہیں، عرض کی میں

عبید بن عمیر ہوں۔ فرمایا کہ اہل مکہ کے قصہ گو، عرض کی جی ہاں، فرمایا کہ کمی کرو، کیوں کہ ذکر (اللہ کی یاد) قلیل (ثواب میں گراں) ہے۔ عبد الواحد بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے عبید بن عمیر کو دیکھا کہ سر کے بال ان کی گدی تک یا اسی کے قریب تک تھے۔ عبد الواحد بن امیہ سے مروی ہے کہ میں نے عبید بن عمیر کو دیکھا کہ داڑھی زرد تھی۔

ابو سلمہ بن سفیان رضی اللہ عنہما:

ابن عبد الاسد المخزومی ان کی والدہ ام جمیل بنت المغیرہ بن ابی العاص ابن امیہ تھیں۔ انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

حارث بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی ربیعہ بن المغیرہ المخزومی ان کی والدہ ام ولد تھیں، قلیل الحدیث تھے۔

نافع بن علقمہ رضی اللہ عنہما:

عبد اللہ بن ابی عمار رضی اللہ عنہما:

جو قریش میں سے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ایسے مقام پر نماز پڑھتے دیکھا جہاں لوگوں میں آسیب کا خطرہ تھا۔ قلیل الحدیث تھے۔

سباع بن ثابت رضی اللہ عنہما:

بنی زہرہ کے حلیف تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

ہشام بن خالد الکعبی رضی اللہ عنہما:

خزاعہ کے قبیلے سے تھے اور قلیل الحدیث تھے، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے سنا ہے ثنیہ لغت کے پیچھے قدید میں رہا کرتے تھے، ان کے والد خالد الاشعر اور کرز بن جابر الفہری فتح مکہ کے دن شہید کر دیے گئے، یہ دونوں راستہ بھول گئے تھے، مشرکین کا ایک لشکر ملا جس نے ان لوگوں کو قتل کر دیا، یہی ان حزام بن ہشام کے والد تھے جن سے عبد اللہ بن مسلمہ بن قعب اور ابو النصر ہاشم بن القاسم اور محمد بن عمرو غیرہ نے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن صفوان رضی اللہ عنہما:

ابن امیہ بن خلف، انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

سعید بن الحویرث رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے۔

خیشم رضی اللہ عنہما:

قارہ کے ایک شخص تھے، عبد اللہ بن عثمان بن خیشم کے دادا تھے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ خیشم سے مروی ہے جو القارہ کے ایک شخص تھے سعید نے کہا کہ وہ ابن خیشم کے دادا تھے (انہوں نے کہا) کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ آئے جو لوگوں کو (کوہ) مردہ کے

پاس زمین دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین مجھے بھی زمین دیجئے جو میرا اور میری اولاد کا مکان ہو۔ عمر بنی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور کہا کہ وہ اللہ کا حرم ہے، اس میں وہاں کارہنے والا اور باہر والا برابر ہے۔

طبقہ ثانیہ

مجاہد بن جبر رضی اللہ عنہ:

کنیت ابوالحجاج تھی، قیس بن السائب الحزومی کے مولیٰ تھے۔ مجاہد سے مروی ہے کہ میں اپنے آقا سائب کی جو نایاب تھیں رہبری کرتا تھا، وہ کہتے کہ اے مجاہد کیا آفتاب ڈھل گیا، میں ہاں کہتا تو وہ اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھتے۔ ابراہیم بن عبد اللہ علی سے مروی ہے کہ مجاہد کی کنیت ابوالحجاج تھی۔ فضل بن میمون سے مروی ہے کہ میں نے مجاہد کو کہتے سنا کہ میں نے قرآن کے تیس دور ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیے ہیں۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے مجاہد کو دیکھا کہ سر اور داڑھی سفید تھی۔ قرظہ بن خالد سے مروی ہے کہ میں نے مجاہد کو دیکھا کہ سر اور داڑھی سفید تھی۔ لیث سے مروی ہے کہ عطاء اور طاؤس اور مجاہد انگوٹھی نہیں پہنتے تھے۔ اعمش سے مروی ہے کہ میں جب مجاہد کو دیکھتا تھا تو خیال کرتا تھا کہ وہ ایسے ”خر بندج“^① ہیں جس کا گدھا کھو گیا ہے اور وہ فکر میں ہیں۔ مجاہد سے مروی ہے کہ سیاہ خضاب کو ناپسند کرتے تھے۔

ابو بکر بن عیاش سے مروی ہے کہ میں نے اعمش سے کہا کہ لوگوں کو کیا ہوا جو مجاہد کی تفسیر سے پرہیز کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجاہد اہل کتاب سے پوچھتے ہیں، دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مجاہد جابر کی کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہد کے بعض شاگردوں سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات بعد کی حالت میں ہوئی۔ سیف بن سلیمان سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات ۱۰۳ھ میں ہوئی۔ ابن جریج سے مروی ہے کہ مجاہد وفات کے دن تراسی سال کی عمر کو پہنچ گئے تھے۔ فضل بن دکین سے مروی ہے کہ مجاہد کی وفات ۱۰۲ھ میں بعد کی حالت میں ہوئی۔ یحییٰ بن سعید القطان نے کہا کہ مجاہد کی وفات ۱۰۳ھ میں ہوئی، فقیہ عالم ثقہ اور کثیر الحدیث تھے۔

عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ:

ابی رباح کا نام اسلم تھا، عطاء الجند کے جوہن کے دیہات میں سے تھا، غیر خالص عربوں میں سے تھے، مکے میں پیدا ہوئے اور ابو میسرہ بن ابی خثیم الفہری کے خاندان کے مولیٰ تھے۔ عطاء سے مروی ہے کہ میری اتنی عمر تھی کہ قتل عثمان رضی اللہ عنہ کو سمجھتا تھا۔ عبد الملک سے مروی ہے کہ عطاء کی کنیت ابو محمد تھی۔ عطاء سے مروی ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم دیتے تھے، لوگوں نے کہا کہ وہ ثقہ و عالم و فقیہ و کثیر الحدیث تھے۔

① مقرب ”خر بندہ“ وہ شخص جو گدھے کی رکھوالی کرتا ہو۔

اسلم المصقری سے مروی ہے کہ میں ابو جعفر کے ہمراہ بیٹھا ہوا تھا کہ عطاء بن رباح ان کے پاس سے گزرے، کہنے لگے کہ روئے زمین پر عطاء بن رباح سے زیادہ مسائل حج کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔

بسام الصیرنی سے مروی ہے کہ کسی نے ابو جعفر کے پاس مسائل حج کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ روئے زمین پر عطاء بن ابی رباح سے زیادہ مسائل حج کا جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ قنادہ سے مروی ہے کہ عطاء سب سے زیادہ مسائل حج کا علم رکھتے تھے۔

اسلم المصقری سے مروی ہے کہ ایک اعرابی آیا اور کہنے لگا کہ ابو محمد کہاں ہیں لوگوں نے سعید بن جبیر کی طرف اشارہ کیا، پھر اس نے کہا کہ ابو محمد کہاں ہیں سعید نے کہا کہ اس جگہ عطاء کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ سلمہ سے مروی ہے کہ سوائے ان تین شخصوں عطاء و طاؤس و مجاہد کے میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو اس علم سے صرف خدا کی خوشنودی چاہتا ہو۔ اسماعیل بن امیہ سے مروی ہے کہ عطاء کلام کرتے تھے، جب ان سے مسئلہ دریافت کیا جاتا (تو ان کے علم کی یہ حالت تھی) گویا (منجانب اللہ) ان کی تائید کی جاتی تھی۔

یعقوب بن عطاء سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو کوئی چیز اس قدر یاد کرتے نہیں دیکھا جس قدر مسائل حج کو یاد کرتے تھے۔

محمد بن عبد اللہ بن عمرو بن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ میں نے عطاء بن ابی رباح سے بہتر کوئی مفتی نہیں دیکھا، ان کی مجلس میں صرف اللہ ہی کا ذکر ہوتا تھا جس کا سلسلہ منقطع نہ ہوتا اور لوگ بھی اسی میں مشغول رہتے تھے اگر وہ کلام کرتے یا ان سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو اچھا جواب دیتے تھے۔

معاذ بن سعید الاغور سے مروی ہے کہ ہم لوگ عطاء کے پاس تھے، ایک شخص نے کوئی حدیث بیان کی، دوسرے شخص نے درمیان سے اسے کاٹ دیا، عطاء ناراض ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے اخلاق ہیں اور یہ کسی طبیعتیں ہیں، واللہ ایک شخص ایسی حدیث بیان کرتا ہے جو میں اس سے زیادہ جانتا ہوں اور اکثر تو وہ اسے مجھی سے سنے ہوئے ہوتا ہے مگر میں اس کے آگے خاموش ہو جاتا ہوں اور اسے یہ باور کراتا ہوں کہ گویا میں نے اس کے قبل اسے نہیں سنا۔ عمرو بن عاصم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث عبد اللہ بن المبارک سے بیان کی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنا جوتانہ اتاروں گا تا وقتیکہ مہدی (راوی حدیث) کے پاس جا کر اس کو ان سے نہ سن لوں۔

ابو اسلم سے مروی ہے کہ میں نے اور ایک اور شخص نے حج کیا، میں عطاء بن ابی رباح کے پاس آیا کہ ان سے کوئی مسئلہ دریافت کروں، ان کے پاس بیٹھ گیا، ایک حبشی حنا کا خضاب لگا رہا تھا، ان کے پاس والی مکہ کا قاصد آیا اور اس نے انہیں اٹھا دیا، میں پلٹ کر ان کے پاس نہیں آیا۔

ابن جریج سے مروی ہے کہ عطاء جب کچھ بیان کرتے تو میں پوچھتا کہ یہ علم ہے یا (آپ کی) رائے، اگر وہ مقتول ہوتا تو علم کہتے اور ان کی رائے ہوتی تو رائے کہتے۔ عبد الرحمن سے مروی ہے کہ واللہ تمام روئے زمین والوں کے ایمان کو میں ابو بکر رضی اللہ عنہم کے ایمان کے برابر نہیں سمجھتا اور میں اہل مکہ کے ایمان کو عطاء کے ایمان کے برابر نہیں سمجھتا۔ عطاء سے مروی ہے کہ اپنے مردہ

والدین کی طرف سے صدقہ فطر دیتے تھے اور وفات تک ایسے کرتے رہے۔ ابو معاویہ المخرومی سے مروی ہے کہ میں نے عطاء بن ابی رباح کی دونوں آنکھوں کے درمیان سجدے کا نشان دیکھا۔ فطر سے مروی ہے کہ میں نے عطاء کو دیکھا کہ داڑھی میں زرد خضاب کرتے تھے۔ بعض اہل علم سے مروی ہے کہ عطاء کالے کانے، چپٹی ناک والے لٹھے اور لنگڑے تھے اس کے بعد نابینا ہو گئے تھے اہل مکہ کا فتویٰ ان کے اور مجاہد کے زمانے میں انہیں دونوں کے پاس تھا اور اس کا اکثر حصہ عطاء کے پاس تھا۔ محمد بن عمر سے مروی ہے کہ عطاء کی وفات کے میں ۱۱۵ھ میں ہوئی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ جس روز ان کی وفات ہوئی اٹھاسی سال کے تھے۔ ابو اسحاق سے مروی ہے کہ عطاء کی وفات ۱۱۴ھ میں ہوئی جب میمون کو ان کی خبر مرگ پہنچی تو کہا کہ انہوں نے اپنے بعد کوئی اپنا مثل نہیں چھوڑا۔

یوسف بن ماہک رضی اللہ عنہما:

انہوں نے اپنی والدہ سے جن کا نام مسکہ تھا روایت کی ہے۔ ابن جریر سے مروی ہے کہ میں نے عطاء سے کہا کہ یہ یوسف بن ماہک ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں انہوں نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ انہیں کیا معلوم کہ موت سے کیسا سابقہ پڑے گا۔ ام یوسف بنت ماہک سے مروی ہے کہ جب یوسف کی موت کا وقت آیا تو وصیت کی کہ انہیں ان کے کپڑوں میں کفن دیا جائے انہیں کپڑوں میں وہ جسے نماز پڑھاتے تھے اور یہ وصیت کی کہ ان کے چہرے پر اور اس کپڑے پر جو جنازے پر اڑھایا جائے حنوط (عطر میت) نہ لگائیں اور کہا کہ میرے دونوں پاؤں کسی عملے سے باندھ دیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ یوسف بن ماہک کی وفات ۱۱۳ھ میں ہوئی۔ میں نے کسی اور سے سنا کہ ان کی وفات ۱۱۴ھ میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

مقاسم رضی اللہ عنہما:

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے صحبت یافتہ اور عبداللہ بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبدالمطلب کے آزاد کردہ غلام تھے۔ کنیت ابوالقاسم تھی ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہے اور ان سے روایت کی ہے بعض لوگ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ رہنے اور خدمت کرنے کی وجہ سے انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا مولیٰ (آزاد کردہ غلام) کہتے تھے حالانکہ وہ عبداللہ بن الحارث ہی کے مولیٰ تھے سب نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان کی وفات ۱۱۴ھ میں ہوئی، کثیر الحدیث و ضعیف تھے۔

عبداللہ بن خالد رضی اللہ عنہما:

ابن اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف ان کی والدہ ریثہ بنت عبداللہ بن خزاعی بن اسید ثقیف کی تھیں۔ عبداللہ بن خالد کے یہاں خالد و امیہ و عبدالرحمن پیدا ہوئے ان سب کی والدہ ام جحیر بنت شیبہ بنت عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیٰ بن عثمان بن عبدالدار ابن قسی تھیں۔ عثمان بن عبداللہ ان کی والدہ ام سعید بنت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہما تھیں۔ عبدالعزیز و عبدالملک ان دونوں کی والدہ ام حبیب بنت جبیر بن مطعم ابن عدی بن نوفل بن عبد مناف تھیں۔

عمران بن عبداللہ و عمرو قاسم و ام عمرو و زینب ان سب کی والدہ سریہ بنت عبد عمرو بن حصین بن حذیفہ بن بدر الفزاری تھیں۔ محمد و حصین و مجارق و ام عبدالعزیز و ام عبدالملک و ام محمد و مریم ان سب کی والدہ ملیکہ بنت الحصین بن عبد یغوث بن الارزق قبیلہ مراد کی تھیں۔ ابو عثمان بن عبداللہ ایک ام ولد سے تھے اور حارث بن عبداللہ ایک ام ولد سے۔ عبداللہ بن خالد قلیل الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالرحمن بن سابط بن ابی حمیضہ بن عمرو بن اہیب بن حذافہ بن نجح، اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ان کی وفات کے میں ۱۱۸ھ میں ہوئی۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبداللہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن ابی ملیکہ بن عبداللہ بن جدعان بن عمرو بن کعب بن (سعد بن) تیم ابن مرہ ان کی والدہ میمونہ بنت الولید بن ابی حسین بن الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبدمناف تھیں۔ ابی ملیکہ کا نام زہیر تھا۔ عبداللہ بن عبید اللہ کی بقیہ اولاد نہ تھی۔ ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ مجھے ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے والی قضاء بنایا تھا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہما نے مجھے قضائے طائف پر مامور کر کے بھیجا، میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا کہ انہوں نے مجھے قضائے طائف پر مامور کر کے بھیجا ہے، مگر مجھے بغیر آپ سے مسائل قضا پوچھے چارہ نہیں، انہوں نے مجھ سے کہا اچھا، تمہیں جو معاملہ پیش آئے مجھ سے دریافت کر لینا۔

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ میں طائف میں قاضی تھا۔ نافع بن عمرو سے مروی ہے کہ ابن ابی ملیکہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ رمضان کی تراویح میں قاریوں کی قرأت کو گراں سمجھتے تھے، مجھ سے کہا کہ میں تو تراویح کی ایک رکعت میں سورہ ملائکہ پڑھتا تھا مگر کسی نے اس کی شکایت نہیں کی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن السائب کے بعد ابن ابی ملیکہ رمضان میں کئے میں لوگوں کو تراویح پڑھاتے تھے۔ ابن ابی ملیکہ کی وفات کے میں ۷۱ھ میں ہوئی، انہوں نے ابن عباس و عائشہ و ابن الزبیر و عقبہ بن الحارث رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔ ان کے بھائی:

ابوبکر بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن ابی ملیکہ بن عبداللہ بن جدعان ان کی والدہ میمونہ بنت الولید ابن ابی حسین بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبدمناف تھیں۔ ابوبکر بن عبید اللہ کے یہاں عبدالرحمن پیدا ہوئے ان کی والدہ عمو نہ بنت مصعب ابن عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زہرہ تھیں، انہوں نے ابوبکر سے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

ابویزید رضی اللہ عنہما:

عبید اللہ بن ابی یزید کے والد تھے۔ ان سے ان کے فرزند نے روایت کی ہے۔

ابونجیح رضی اللہ عنہما:

ثقیف کے مولیٰ اور عبداللہ بن ابی نجیح کے والد تھے، ابی نجیح کا نام یسار تھا، قلیل الحدیث تھے۔ واقدی نے کہا کہ ان کی وفات ۱۰۹ھ میں ہوئی۔

عبداللہ بن عبید اللہؓ:

ابن عمیر بن قنادة اللیثی۔ داؤد العطاء سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عبید بن عمیر اہل مکہ میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ ایک ایسے شخص سے مروی ہے جو عبداللہ بن عبید بن عمیر کی بیماری میں ان کے پاس تھے کہ ان سے کہا گیا کہ آپ کا جی کیا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ میرا جی صرف ایسے ماہر قرأت کو چاہتا ہے جو میرے پاس قرأت کرے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن عبید بن عمیر کی وفات کے میں ۱۳ھ میں ہوئی، ثقہ و صالح تھے، ان کی احادیث ہیں۔

عمر بن عبداللہؓ:

ابن صفوان بن امیہ بن خلف بن وہب بن خداذہ بن جمح الحنفی، ان کی والدہ بنت مطیع بن شریح بن عامر بن عوف بن ابی بکر بن کلاب تھیں۔ ان سے عمرو بن دینار و زہری نے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

صفوان بن عبداللہؓ:

ابن صفوان بن امیہ بن خلف بن وہب بن خداذہ بن جمح الحنفی، ان کی والدہ حلقہ بنت وہب بن امیہ بن ابی الصلت اشجعی تھیں۔ صفوان بن عبداللہ بن صفوان کے یہاں عبداللہ و آمنہ پیدا ہوئیں۔ ان کی والدہ ام الحکم بنت امیہ بن صفوان تھیں۔ زہری نے ان سے روایت کی ہے، قلیل الحدیث تھے۔

یحییٰ بن حکیمؓ:

ابن صفوان بن امیہ بن خلف، ان کی والدہ ابی بن خلف کی بیٹی تھیں۔ یحییٰ بن حکیم کے یہاں شرمیل پیدا ہوئے، ان کی والدہ حسینہ بنت کلدہ ابن العنبل تھیں۔ یحییٰ بن حکیم، یزید بن معاویہ کی جانب سے والی مکہ تھے۔ ان سے روایت بھی کی گئی ہے۔

عکرمہ بن خالدؓ:

ابن العاص بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ کلیب بن حزن بن معاویہ بن خلف بن عمرو بن عقیل کی بیٹی تھیں۔ عکرمہ بن خالد کے یہاں عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی والدہ حفصہ بنت عبداللہ بن کلیب بن حزن تھیں۔ سلیمان و ام سعید ایک ام ولد سے تھیں۔ ام عبدالعزیز، ان کی والدہ جلالہ بنت عبداللہ بن کلیب بن حزن تھیں۔ ثقہ تھے، ان کی احادیث ہیں۔

محمد بن عبادؓ:

ابن جعفر بن رفاعہ بن امیہ بن عابد بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ زینب بنت عبداللہ بن السائب بن ابی السائب الحزومی تھیں، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ہشام بن یحییٰؓ:

ابن ہشام بن العاص بن ہشام بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم، ان کی والدہ ام حکیم بنت ابی حبیب بن امیہ بن ابی حذیفہ بن المغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم تھیں۔ ہشام بن یحییٰ کے یہاں یحییٰ و عبدالرحمن و اسماعیل پیدا ہوئے، ان سب کی والدہ ام حکیم بنت خالد بن ہشام بن العاص بن ہشام بن المغیرہ تھیں۔ ان کی احادیث ہیں۔

مسافع بن عبداللہ الاکبر رضی اللہ عنہ:

ابن شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ ابی طلحہ کا نام عبداللہ بن عبدالعزیز بن عثمان بن عبدالدار بن قصی تھا ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ مسافع بن عبداللہ کے یہاں عبداللہ ومصعب و عبدالرحمن پیدا ہوئے ان سب کی والدہ سعدہ بنت عبداللہ بن وہب بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبدالعزیز بن عثمان بن عبدالدار بن قصی تھیں۔ مسافع قلیل الحدیث تھے۔

عبدالحمید بن جبیر رضی اللہ عنہ:

ابن شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ ان کی والدہ ابی عمرو بن الحکم بن المرقع کی بیٹی تھیں اور قبیلہ ازد کی شاخ قاعد سے تھیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ہشام بن محمد بن السائب الکھمی نے بیان کیا کہ حنظل بن المرقع بطور وفد کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ عبدالحمید ثقہ و قلیل الحدیث تھے ان سے ابن جریر و سفیان نے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن طارق رضی اللہ عنہ:

ابن علقمہ بن غنم بن خالد بن عریق بن جذیمہ بن سعد بن عوف بن الحارث ابن عبدمنافہ ابن کنانہ۔ عبدالرحمن قلیل الحدیث تھے۔ نافع بن سرجس رضی اللہ عنہ:

ثقفہ و قلیل الحدیث تھے۔

مسلم بن یناق رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث تھے۔

ایاس بن خلیفہ البکری رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث تھے۔

ابو المنہال رضی اللہ عنہ:

نام عبدالرحمن بن مطعم تھا۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابو یحییٰ الاعرج رضی اللہ عنہ:

نام مصدع تھا، معاذ ابن عفرہ انصاری کے مولیٰ تھی ان کی احادیث ہیں۔

ابوالعباس الشاعر رضی اللہ عنہ:

نام سائب بن فروخ تھا بنی جذیمہ بن عدی بن الدیل بن بکر بن عبدمنافہ ابن کنانہ کے مولیٰ تھے۔ قلیل الحدیث تھے اور شاعر تھے ابن الزبیر بن علی رضی اللہ عنہما کے زمانے میں مکہ میں تھے مگر ان کا دل بنی امیہ کے ساتھ تھا۔

عطاء بن مینا رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث تھے۔

طبقہ ثالثہ

امیہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس ان کی والدہ ام حجیر بنت شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزی بن عثمان بن عبدالدار بن قصی تھیں، قلیل الحدیث تھے۔

ابراہیم بن ابی خدش رضی اللہ عنہ:

ابن عتبہ بن ابی لہب بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی ان کی والدہ صفیہ بنت اراکہ بنی الدیل کی تھیں۔ ابراہیم بن ابی خدش کے یہاں عتبہ پیدا ہوئے ان کی والدہ ہند بنت قیس ابن طارق سکا سک سے تھیں، حمیر کے حلیف تھے۔

محمد بن المرتفع رضی اللہ عنہ:

ابن الضمر بن الحارث بن علقمہ بن کلدہ بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی ان کی والدہ ام ولد تھیں۔ محمد بن المرتفع کے یہاں ایک ام ولد سے جعفر پیدا ہوئے۔ محمد بن المرتفع ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابن الرہین رضی اللہ عنہ:

نضر بن الحارث بن کلدہ کی اولاد سے تھے جو غزوہ بدر میں بحالت کفر مارا گیا۔

قاسم بن ابی بزہ رضی اللہ عنہ:

بعض اہل مکہ کے مولیٰ تھے، محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات ۲۲ھ میں مکہ میں ہوئی۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے، بروایت محمد بن سعد ابی بزہ کا نام نافع تھا۔

حسن بن مسلم رضی اللہ عنہ:

ابن یناق، وفات طاؤس سے پہلے ہوئی۔ طاؤس کی وفات ۱۰ھ میں ہوئی۔ ہرزبرادر حسن بن مسلم نے ایک شخص سے کہا کہ جب تم کوفہ آنا تو لیث بن ابی سلیم کو تنگ کرنا اور کہنا کہ ابن حسن مسلم کی کتاب واپس کر دیں، کیوں کہ وہ انہوں نے ان سے لی ہے۔ حسن بن مسلم ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

عمرو بن دینار رضی اللہ عنہ:

بازان کے مولیٰ تھے، عجمی تھے، عرب میں پیدا ہوئے۔ طاؤس سے مروی ہے کہ انہیں ابن دینار نے اپنا کان ہر عالم کے لیے قیف (.....) بنا دیا تھا۔ ابن طاؤس سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے کہا کہ جب تم مکہ آنا تو عمرو بن دینار ہی کی صحبت میں رہنا کیونکہ ان کے دونوں کان علماء کی قیف تھے۔

سفیان نے کہا کہ عمر مسجد (حرم) میں آنا ترک نہ کرتے تھے حالانکہ انہیں گدھے پر سوار کر کے لایا جاتا تھا، میں نے انہیں اپناج ہی پایا، کم سنی کی وجہ سے انہیں سوار نہیں کرا سکتا تھا، پھر ان کے سوار کرانے کی مجھ میں طاقت آگئی، ان کا مکان (حرم سے)

دور تھا ان کی عمر پورے طور پر ہمیں معلوم نہ تھی۔

ایوب کہتے تھے کہ جو روایت عمرو کی کسی سے روایت کی جاتی تھی تو میں انہیں آگاہ کرتا تھا کہتا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آپ کے لیے لکھ دوں، تو وہ کہتے تھے۔ ہاں۔ سفیان نے کہا کہ عمرو بن دینار سے کہا گیا کہ سفیان آپ کی روایت لکھتے ہیں تو وہ کروٹ لیٹ گئے اور روئے اور کہا کہ میں اسے منع کرتا ہوں جو میری روایت لکھے، سفیان نے کہا کہ پھر ہم نے ان سے کوئی روایت نہیں لکھی، ہم یاد رکھتے تھے۔

صعمر سے مروی ہے کہ میں نے عمرو بن دینار کو کہتے سنا کہ جو لوگ ہم سے رائے دریافت کرتے ہیں انہیں ہم آگاہ کرتے ہیں تو وہ اسے اس طرح لکھ لیتے ہیں کہ گویا وہ پتھر میں نقش ہے، ممکن ہے کہ ہم کل اس سے رجوع کر لیں۔ ایک شخص نے عمرو بن دینار سے کچھ دریافت کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا، اس شخص نے کہا کہ اس کے متعلق میرے دل میں کچھ ہے، لہذا مجھے جواب دیجئے، عمرو نے کہا کہ واللہ تمہارے دل میں جبل ابی قیس کے برابر (اعتراض و شبہ) ہوتا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میرے دل میں اس میں سے بال کے برابر بھی ہو۔

سفیان سے مروی ہے کہ عمرو بن دینار نے کہا کہ مجھ سے ابن ہشام نے کہا کہ میں آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دوں کہ آپ لوگوں کو فتویٰ دیا کریں، میں نے کہا کہ میں اسے نہیں چاہتا۔ سفیان سے مروی ہے کہ عمرو معانی بیان کرتے تھے اور وہ فقیہ تھے۔ سفیان سے مروی ہے کہ میں نے ایوب کو کچھ روایتیں لکھ دیں، اور ان کے متعلق عمرو بن دینار سے دریافت کیا۔ سفیان سے مروی ہے کہ عمرو خضاب نہیں لگاتے تھے۔

فضیل بن دکین سے مروی ہے کہ عمرو بن دینار کی وفات ۱۲۶ھ میں ہوئی۔ بلد حرام کے مفتی تھے، ان کی وفات کے بعد ابن ابی نجیح فتویٰ دیا کرتے تھے، عمرو ثقہ و ثبوت (حافظ) و کثیر الحدیث تھے۔

ابوالزبیر رضی اللہ عنہ:

نام محمد بن مسلم بن مدرّس تھا۔ عطاء سے مروی ہے کہ ہم لوگ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتے تھے، وہ ہم سے حدیث بیان کرتے، جب ہم ان کے پاس سے نکلتے تو باہم ان کی حدیث کا ذکر کرتے، ابوالزبیر ہم سب سے زیادہ حدیث یاد رکھتے تھے۔ سفیان سے مروی ہے کہ ابوالزبیر خضاب نہیں لگاتے تھے۔

ابوالزبیر سے مروی ہے کہ عطاء مجھے جابر رضی اللہ عنہ کے آگے کر دیا کرتے کہ میں لوگوں کے لیے حدیث دریافت کروں۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے، سوائے اس کے کہ شعبہ نے انہیں کسی وجہ سے ترک کر دیا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے کسی معاملے میں ان کا کوئی فعل دیکھا، لوگوں نے ان سے روایت کی ہے۔

عبید اللہ بن ابی یزید رضی اللہ عنہ:

خاندان قانظ کے مولیٰ تھے، بنی کنانہ کے ان لوگوں میں سے تھے جو بنی زہرہ کے حلیف تھے، ابن جریر و سفیان بن عیینہ نے ان سے روایت کی ہے۔

سفیان نے کہا کہ میں نے عبید اللہ بن ابی یزید سے کہا کہ آپ کس کے ساتھ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس جاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ عطاء اور عوام کے ساتھ طاؤس خواص کے ساتھ جاتے تھے۔ سفیان نے کہا کہ میں ان سے پوچھتا کہ آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کیا کام کرتے دیکھا اور کس حالت سے دیکھا میں ان سے مسائل دریافت کرتا اور جو کچھ وہ چاہتے ان کے پاس لاتا۔ راوی نے کہا قبل اس کے کہ میں ابن جریج سے ملتا وہ ہم سے عبید اللہ کی حدیث بیان کرتے، ہم ان سے ان کو پوچھتے تو وہ کہتے کہ یہ پرانے شیخ تھے اس سے ہمیں شبہ دلاتے کہ ان کی وفات ہو چکی۔

ایک مرتبہ میں کے میں کسی مکان کے دروازے پر اپنے کام میں مصروف تھا کہ ایک شخص کو کہتے سنا کہ ہمیں عبید اللہ بن ابی یزید کے پاس لے چلو میں نے کہا کہ کون عبید اللہ بن ابی یزید اس نے کہا کہ اس مکان میں ایک شخص ہیں جنہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی ہے، مگر وہ اس قدر کمزور ہو گئے ہیں کہ باہر نہیں نکل سکتے، میں نے کہا کہ کیا میں تم لوگوں کے ہمراہ ان کے پاس چل سکتا ہوں ان لوگوں نے کہا کہ ہاں۔

ہم ان کے پاس گئے وہ لوگ ان سے مسائل پوچھنے لگے اور وہ ان لوگوں سے بیان کرنے لگے میں نے کہا کہ میں انہیں وہ حدیثیں بتاؤں گا جو ابن جریج نے ان کی روایت سے ہم سے بیان کی ہیں وہ مجھ سے ان حدیثوں کے متعلق بیان کرنے لگے۔ اس روز میں نے ان سے چند حدیثیں سنیں پھر ابن جریج کے پاس آیا اور پاس بیٹھ گیا انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کی یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبید اللہ بن ابی یزید نے یہ حدیث بیان کی میں نے کہا کہ عبید اللہ بن ابی یزید نے مجھ سے یہ بیان کیا بولے کہ تم بھی ان کے پاس جا پیچھے۔ راوی نے کہا کہ پھر میں ان کی وفات تک برابر ان کے پاس آمد و رفت کرتا رہا۔

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے سفیان بن عیینہ سے دریافت کیا کہ عبید اللہ بن یزید کی وفات کب ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ۱۲۶ھ میں وہ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

ولید بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی مغیث، قلیل الحدیث تھے۔

عبد الرحمن بن ایمن رضی اللہ عنہ:

عبد الرحمن بن معبد رضی اللہ عنہ:

عبد اللہ بن عمرو القاری رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث تھے۔

قیس بن سعد رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو عبید اللہ تھی عطاء بن ابی رباح کے بعد ان کی مجلس کے خلیفہ تھے انہیں کے قول کے مطابق فتویٰ دینے اور اس میں مستقل ہو گئے تھے، لیکن ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں ۱۱۹ھ میں وفات ہوئی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن ابی حجاج رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یاسر تھی، ثقیف کے مولیٰ تھے۔ سفیان سے مروی ہے کہ ابن ابی حجاج خضاب نہیں لگاتے تھے ۳۱ھ کے طاعون سے پہلے ان کی وفات ہو چکی تھی۔ محمد بن عمر نے کہا کہ عبداللہ بن حجاج کی وفات ۳۲ھ میں مکہ میں ہوئے، ثقہ و کثیر الحدیث تھے، لوگ بیان کرتے ہیں کہ قدر کے قائل تھے۔

سلیمان الاحول رضی اللہ عنہما:

ابن ابی حجاج کے ماموں تھے۔ ثقہ تھے ان کی حدیثیں ہیں۔

عبدالحمید بن رافع رضی اللہ عنہما:

ان سے سفیان الثوری رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

ہشام بن حجر رضی اللہ عنہما:

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ مجھ سے ابن شبرمہ نے کہا کہ مکہ میں ہشام بن حجر کا نظیر نہ تھا، ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

ابراہیم بن میسرہ رضی اللہ عنہما:

بعض اہل مکہ کے مولیٰ تھے۔ سفیان سے مروی ہے کہ ابراہیم بن میسرہ حدیث جہمی سنتے تھے ویسی ہی بیان کرتے تھے۔ سوائے عبدالرحمن بن یونس کے مروی ہے کہ ابراہیم بن میسرہ کی وفات مروان بن محمد کی خلافت میں ہوئی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی عمار قریش سے تھے ان کے والد وہی ہیں جنہوں نے عمر بنی رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کی کہ انہوں نے ان کو خوب صورت فرس پر نماز پڑھتے دیکھا، ثقہ تھے اور ان کی احادیث ہیں۔

خلاد بن الشیخ رضی اللہ عنہما:

عبداللہ بن کثیر الداری رضی اللہ عنہما:

ثقہ تھے ان کی حدیثیں صحیح ہیں۔

اسماعیل بن کثیر رضی اللہ عنہما:

ابونعیم الفضل بن ذکین سے مروی ہے کہ اسماعیل بن کثیر کی کنیت ابو ہاشم تھی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

کثیر بن کثیر رضی اللہ عنہما:

ابن المطلب بن ابی وداعہ بن ضمیرہ بن سعید بن سعد بن سہم ان کی والدہ عاتکہ بنت عمرو بن ابی عقرب تھیں۔ ابی عقرب خویلد بن عبداللہ بن خالد بن حجر بن حماس ابن عریق بن بکر بن مناة بن کنانہ تھے۔ انہیں سفیان بن عیینہ نے دیکھا ہے اور ان سے روایت کی ہے ان کی وفات اس طرح ہوئی کہ کوئی پس ماندہ نہ تھا۔ شاعر قلیل الحدیث تھے۔

صدیق بن موسیٰ رضی اللہ عنہما:

ابن عبد اللہ بن الزبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کنیت ابو بکر تھی۔ ان کی والدہ ام اسحاق بنت مجبج بن زید بن جاریہ بن العطف بنی عمرو بن عوف میں سے تھیں۔ ابن جریج نے صدیق بن موسیٰ سے روایت کی ہے۔
صدقہ بن یسار رضی اللہ عنہما:

غیر خالص عرب اور بعض اہل مکہ کے مولیٰ تھے۔ وفات ابتدائے خلافت بنی عباس میں ہوئی۔ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ میں نے صدقہ بن یسار سے کہا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ تم لوگ خوارج ہو انہوں نے کہا کہ میں ان میں تھا پھر اللہ نے مجھے پچا دیا ان کا خاندان اہل جزیرہ سے تھا۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبد اللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن ابی حسین ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عمر بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن ابی حسین۔

عثمان بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہما:

ابن حمیر ابن مطعم بن عدی بن نوفل بن عبد مناف بن قصی ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

حمید بن قیس الاعرج رضی اللہ عنہما:

زبیر بن العوام رضی اللہ عنہما کے خاندان کے مولیٰ تھے اہل مکہ کے قاری تھے ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔ وہیب بن الورد سے مروی ہے کہ اعرج مسجد حرم میں قرأت کرتے تھے۔ جب وہ قرآن ختم کرتے تو لوگ ان کے پاس جمع ہوتے جس شب کو انہوں نے قرآن ختم کیا ان کے پاس عطاء آئے تھے۔

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ حمید الاعرج اہل مکہ میں سب سے زیادہ علم حساب و علم فرائض جانتے تھے اہل مکہ سوائے ان کی قرأت کے اور کسی کی قرأت پر جمع نہیں ہوتے تھے انہوں نے مجاہد سے قرأت حاصل کی تھی مکے میں ان سے اور عبد اللہ بن کثیر سے اچھا کوئی قاری نہ تھا۔ ان کے بھائی:

عمر بن قیس رضی اللہ عنہما:

لقب سندل تھا لوگوں کے ساتھ فحش کلامی اور عجلت کرتے اس لیے لوگ ان کی حدیث سے باز رہے اور انہیں ترک کر دیا۔ حدیث میں ضعیف اور ناقابل اعتبار تھے۔ محمد بن سعد نے کہا کہ عمر بن قیس وہی ہیں کہ مالک کے ساتھ گستاخی کی تھی انہوں نے کہا کہ کبھی وہ خطا کرتے ہیں اور کبھی صواب کو نہیں پہنچتے یہ واقعہ والی مکہ کے پاس آیا تو اس نے ان سے کہا کہ لوگ مالک ہی جیسے ہوتے ہیں اور شیخ نے بے پروائی کی ہے مالک کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں ان سے کبھی نہ بولوں گا۔

منصور بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن طلحہ بن الحارث بن طلحہ بن ابی طلحہ بن عبد العزیز بن عثمان بن عبدالداران کی والدہ صفیہ بنت شیبہ الحاحب بن عثمان بن ابی طلحہ تھیں۔ منصور بن عبد الرحمن کے یہاں امۃ الکریم وصفیہ پیدا ہوئیں ان دونوں کی والدہ ام ولد تھیں۔ ہشام بن محمد نے اپنے والد سے روایت کی کہ میں نے منصور بن عبد الرحمن کو جو خالد بن عبد اللہ بنی ہاشم کے زمانے میں بیت اللہ کے حاجب (دربان) تھے دیکھا ہے بہت بوڑھے تھے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

سعید بن ابی صالح رضی اللہ عنہما:

وفات ۱۲۹ھ میں ہوئی۔ قلیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما:

ابن ہشام قارہ کے تھے اور بنی زہرہ کے حلیف تھے ان کی وفات آخر خلافت ابوالعباس واول خلافت ابو جعفر میں ہوئی۔ ثقہ

تھے اور ان کی احادیث حسن ہیں۔

داؤد بن عاصم النقفی رضی اللہ عنہما:

ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

مزاحم بن ابی مزاحم رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے۔

مصعب بن شیبہ رضی اللہ عنہما:

ابن جبیر بن شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ بن عبد العزیز بن عثمان بن عبدالداران کی والدہ ام عمیر بنت عبد اللہ الاکبر بن شیبہ بن

عثمان بن ابی طلحہ تھیں، قلیل الحدیث تھے۔

یحییٰ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن صفی الحزومی ثقہ تھے۔ ان کی احادیث ہیں۔

وہیب بن الورد رضی اللہ عنہما:

ابن ابی الورد مولائے بنی مخزوم سکونت کے میں تھی عبادت گزاروں میں تھے ان کی زہد و مواعظ کی حدیثیں ہیں نام

عبدالوہاب تھا، تصغیر کر کے وہیب کہہ دیا گیا ان سے عبد اللہ بن المبارک رضی اللہ عنہما وغیرہ نے روایت کی ہے۔ ان کے بھائی:عبدالجبار بن الورد رضی اللہ عنہما:

ابن ابی ملیکہ وغیرہ سے روایت کی ہے۔

خالد بن مفرس رضی اللہ عنہما:

سلیمان بن عقیلؓ:

مولائے بنی البرصاء۔ قلیل الحدیث تھے۔

عمر بن یحییٰؓ:

ابن قحطہ، قلیل الحدیث تھے۔

یعقوب بن عطاءؓ:

ابن ابی رباح، ان کی احادیث ہیں۔

عبداللہؓ:

مولائے انصاء، قلیل الحدیث تھے۔

عبدالرحمن بن فروخؓ:

بنو ذبیحہ بن ابی سلیمانؓ:

ان سے ابی عیینہ نے روایت کی ہے۔ قلیل الحدیث تھے۔

وردان صالحؓ:

وہ مکہ میں تھے۔ ان سے سفیان بن عیینہ نے روایت کی کہ میں نے ابن عمرؓ سے سونے کے عووض میں سونا (لینے

دینے) کو پوچھا۔

زُرَّارؓ:

سفیان بن عیینہ نے کہا کہ وہ جبیر بن مطعمؓ کے مولیٰ اور قلیل الحدیث تھے۔

عبدالواحد بن ایمنؓ:

عبدالواحد بن ایمن سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے بیان کیا کہ وہ عتبہ بن ابی لہب کے غلام تھے، عتبہ کی وفات ہو گئی تو

ان کے بیٹے کے وارث ہوئے، پھر انہیں ابن ابی عمرو نے خرید کر آزاد کر دیا۔ فرزند ان عتبہ نے ولاء (میراث غلام) کی شرط

ٹھہرائی (کہ یہ میرے گے تو ان کے مال کے ہم وارث ہوں گے) وہ عاتشہ بنتیؓ کے پاس گئے اور ان سے بیان کیا تو انہوں نے

نبیؐ سے حدیث بریرہ روایت کی۔

محمد بن شریکؓ:

ان سے وکیع بن الجراح اور ابونعیم الفضل بن دکین نے روایت کی ہے۔

طبقہ رابعہ

عثمان بن الاسود الحمیریؓ:

وفات ۱۵۱ھ میں مکے میں ہوئی ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

ثنیٰ بن الصباحؓ:

غیر خالص عرب تھے محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات ۱۴۹ھ میں ہوئی دوسروں نے کہا ۱۴۲ھ میں ہوئی۔ داؤد بن عبد الرحمن الطارودی سے مروی ہے کہ میں نے اس مسجد (حرم) میں ثنیٰ بن الصباح اور زنجی بن خالد سے زیادہ عبادت گزار کسی کو نہیں پایا۔ ان کی احادیث ہیں (حدیث میں) ضعیف تھے۔

عبید اللہ بن ابی زیادؓ:

بعض اہل مکہ کے مولیٰ تھے۔ وفات ۱۵۱ھ میں ہوئی۔

عبد الملک بن عبد العزیزؓ:

ابن جریج، کنیت ابوالولید تھی، جریج ام حبیب بنت جبیر کے غلام تھے جو عبد العزیز بن عبد اللہ بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ کی بیوی تھیں اس لیے وہ ان کی ولاء کی طرف منسوب ہو گئے (یعنی مولیٰ کہلانے لگے) عبد الملک بن عبد العزیز عام الحجاب ۸۰ھ میں پیدا ہوئے مکہ معظمہ میں ایک سال سیلاب آیا تھا اس کا نام عام الحجاب تھا۔ محمد بن عبد اللہ الانصار سے مروی ہے کہ ابن جریج ہم لوگوں کے پاس بصرے میں سفیان بن معاویہ کی ولایت میں ابراہیم بن عبد اللہ کے خروج سے ایک سال پہلے آئے۔ محمد بن عمر سے مروی ہے کہ میں نے ابن جریج سے محدث کے پاس حدیث پڑھنے کو پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم جیسے (فاضل) اس کو دریافت کریں لوگوں نے صحیفے (تخریری احادیث) کے بارے میں اختلاف کیا ہے کہ اسے لے کے یہ کہے کہ جو کچھ اس میں ہے میں اسے بیان کرتا ہوں اور انہیں پڑھے نہیں، لیکن جب اسے پڑھ لے تو وہ برابر ہے (خواہ وہ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو)۔

ابوبکر بن عبد اللہ بن ابی سبرہ سے مروی ہے کہ ابن جریج نے کہا کہ مجھے احادیث سنن لکھ دو میں نے ایک ہزار حدیثیں لکھ کر ان کے پاس بھیج دیں جو انہوں نے مجھے پڑھ کر سنائیں اور نہ میں نے انہیں پڑھ کر سنائیں۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد میں نے ابن جریج کو بہت سی احادیث اس طرح بیان کرتے سنا کہ ہم سے ابوبکر بن ابی سبرہ نے بیان کیا۔ عبد الرحمن بن ابی الزناد سے مروی ہے کہ میں ابن جریج کے پاس موجود تھا جب وہ ہشام بن عروہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ اے ابوالمنذر جو کتاب تم نے فلاں شخص کو دی ہے وہ تمہاری ہی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا ہاں! محمد بن عمر نے کہا کہ اس کے بعد میں نے ابن جریج کو اتنی بار یہ کہتے سنا ”مجھ سے ہشام بن عروہ نے حدیث بیان کی“ کہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ ابن جریج نے کہا کہ میں یمن کے ویران ملک میں آیا اور لوگوں کے لیے علم کا صندوق جھاڑ دیا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ابن جریج کی ابتدا اے عشرہ ذی الحجہ ۱۵۱ھ میں وفات ہوئی اس وقت وہ چھترسا ل کے تھے وہ اعلیٰ درجے کے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

حظلمہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالرحمن بن صفوان بن امیہ بن خلف بن وہب بن حذافہ بن نجیح، ان کی والدہ حفصہ بنت عمرو بن ابی عقرب بنی عریج بن بکر بن عبدمناتہ بن کنانہ میں سے تھیں، وفات ابو جعفر کی خلافت میں ۱۵۱ھ میں ہوئی، ثقہ تھے ان کی احادیث ہیں۔

زکریا بن اسحاق رضی اللہ عنہما:

عبدالرزاق نے کہا کہ مجھ سے والد نے کہا کہ تم زکریا بن اسحاق کے ساتھ رہا کرو کیوں کہ میں نے انہیں ایک ہی مقام میں ابن ابی نجیح کے پاس دیکھا ہے۔ میں ان کے پاس آیا، وہ بھول گئے تھے اور البادیہ میں رہنے لگے تھے، پھر مجھے معلوم ہوا کہ ابن المبارک ان کے پاس آئے اور اپنے ہمراہ ان کی کتاب لے گئے۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبدالعزیز بن ابی رواد رضی اللہ عنہما:

مولائے مغیرہ بن امہلب بن ابی صفرة العنسی۔ احمد بن محمد الارزقی سے مروی ہے کہ عبدالعزیز بن ابی رواد کی وفات ۱۵۹ھ میں مکے میں ہوئی، ان کی احادیث ہیں، فرقہ مرجیہ میں سے تھے، صلاح و تقویٰ و عبادت میں مشہور تھے۔

سیف بن سلیمان رضی اللہ عنہما:

بعض لوگ ابن ابی سلیمان کہتے ہیں۔ بنی مخزوم کے مولیٰ تھے، ان کی وفات ۱۵۱ھ کے بعد مکے میں ہوئی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

طلحہ بن عمرو الحضرمی رضی اللہ عنہما:

وفات ۱۵۲ھ میں مکے میں ہوئی، کثیر الحدیث اور (روایت میں) بہت ہی ضعیف تھے، ان سے لوگوں نے روایت کی ہے۔

نافع بن عمر الحمجی رضی اللہ عنہما:

شہاب بن عباد العبیدی سے مروی ہے کہ نافع بن عمر الحمجی کی وفات ۱۶۹ھ میں مکے میں ہوئی، ثقہ و قلیل الحدیث تھے، ان کی نسبت کچھ اختلاف تھا۔

عبداللہ بن المؤمل الحمزومی رضی اللہ عنہما:

شہاب بن عباد نے کہا کہ عبداللہ بن المؤمل کی وفات مکے میں حسین والے سال میں فتح میں ہوئی یا اس کے ایک سال بعد۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

سعید بن حسان الحمزومی رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہما:

ابن ابی سلیمان۔ قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن ابی ربیعہ، قلیل الحدیث تھے۔

ابراہیم بن یزید الخوزی رضی اللہ عنہما:مولائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما، خوزی اس لیے کہلاتے تھے کہ کے میں شعب الخوز میں رہتے تھے، وفات ۱۵۱ھ میں ہوئی،

ان کی احادیث ہیں، ضعیف تھے۔

رباح بن ابی معروف رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے۔

عبداللہ بن لاحق رضی اللہ عنہما:ابراہیم بن نافع رضی اللہ عنہما:عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہما:

ابن ابی ملیکہ، انہیں کوشوہر جبرہ کہا جاتا ہے۔ احادیث ضعیف ہیں۔

سعید بن مسلم رضی اللہ عنہما:

ابن قمازین، قلیل الحدیث تھے۔

حزام بن ہشام رضی اللہ عنہما:

ابن خالد الاشعری الکلبی، قدید میں رہتے تھے، ان سے ابوالنضر ہاشم بن القاسم و محمد بن عمرو و عبداللہ بن مسلمہ بن قعب و غیر ہم نے روایت کی ہے۔ ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

عبدالوہاب بن مجاہد رضی اللہ عنہما:

ابن جبر، اپنے والد سے روایت کرتے تھے۔ حدیث میں ضعیف تھے۔

ابن ابی سارہ رضی اللہ عنہما:

طبقہ خامسہ

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی عمران، کنیت ابو محمد تھی، بنی ہلال بن عامر بن صعصعہ والے بنی عبداللہ ابن رویہ کے مولیٰ تھے۔ سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ ۶۰ھ میں پیدا ہوئے، خاندان کو نے کا تھا، ان کے والد خالد بن عبداللہ القسری کے عاملوں میں سے تھے۔ جب خالد عراق سے معزول کر دیئے گئے اور یوسف بن عمر اشقی والی عراق ہوئے تو انہوں نے خالد کے عمال کی تلاش کی، وہ لوگ بھاگے عیینہ بن ابی سفیان کے میں آگئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ عبدالرحمن بن یونس سے مروی ہے کہ سفیان بن عیینہ کو کہتے سنا کہ میں سب سے پہلے جن کی مجلس میں بیٹھا وہ ابوامیہ عبدالکریم تھے، اس وقت میری عمر پندرہ سال کی تھی۔ ان کی وفات ۱۲۶ھ میں ہوئی۔

سفیان نے کہا کہ میں نے ۱۱۶ھ میں پھر ۱۲۰ھ میں حج کیا، زہری ہمارے پاس ابن ہشام خلیفہ کے ہمراہ ۱۲۳ھ میں آئے اور ۱۲۴ھ میں روانہ ہوئے، میں نے ان سے سعد بن ابراہیم کی موجودگی میں حدیث پوچھی، انہوں نے جواب نہ دیا۔ سعد نے کہا کہ اس لڑکے کو جو اس نے آپ سے پوچھا جواب دیجئے، انہوں نے کہا کہ میں تو اسے اس کا حق ادا کر دوں گا، میں اس زمانے میں سولہ برس کا تھا، سفیان نے کہا کہ میں ۱۵۰ھ اور ۱۵۲ھ میں یمن گیا، معمر زندہ تھے اور ثوری مجھ سے ایک سال پہلے گئے تھے۔

حسن بن عمران بن عیینہ بن ابی عمران، فرزند برادر سفیان سے مروی ہے کہ میں نے اپنے چچا سفیان کے ہمراہ ۱۹۷ھ میں حج کیا، یہ ان کا آخری حج تھا، ہم مزدلفہ میں تھے اور وہ نماز پڑھ چکے تھے کہ اپنے بستر پر لیٹ گئے اور کہا میں اس جگہ ستر سال میں آیا ہوں، ہر سال یہی کہا ہے کہ اے اللہ اس مقام کی زیارت کا میرے لیے یہ آخری موقع نہ کو، میں بکثرت اس کو اللہ سے مانگنے سے شرماتا ہوں، وہ واپس ہوئے اور آنے والے سال میں شنبہ یکم رجب ۱۹۸ھ کو ان کی وفات ہوگئی، جن میں دفن کیے گئے، ثقہ و مثبت و حیدر و کثیر الحدیث تھے، ان کو نوے سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی۔

داؤد بن عبد الرحمن العطار رضی اللہ عنہ:

احمد بن محمد بن الولید الارزقی سے مروی ہے کہ داؤد العطار کے والد عبد الرحمن شام کے نصرانی طبیب تھے، مکہ آ کر رہ گئے اور وہیں ان کی اولاد پیدا ہوئی، جو سب کے سب اسلام لائے، وہ انہیں کتاب و قرآن و فقہ کی تعلیم دیتے تھے، جبیر بن مطعم بن عدی ابن نوفل بن عبد مناف کے خاندان نے ان سے روایت کی، داؤد بن عبد الرحمن ۱۰۰ھ میں پیدا ہوئے، ان کے والد عبد الرحمن منارہ مسجد حرام کے نیچے جو صفا کی جانب تھا بیٹھتے تھے، ان کے متعلق مثل کہی جاتی تھی کہ عبد الرحمن سے زیادہ کافران کے اذان و مسجد کے قریب ہونے اور ان کے لڑکوں کے حال اور ان کے اسلام کی وجہ سے (یہ مثل کہی جاتی تھی) وہ لڑکوں کو اعمال لشکر کی اجازت دیتے اور ادب کی تاکید کرتے اور مسلمان اہل خیر کی صحبت پر براہیختہ کرتے، داؤد بن عبد الرحمن کی ۴۲ھ میں مکہ میں وفات ہوئی، کثیر الحدیث تھے۔

زنجی رضی اللہ عنہ:

نام مسلم بن خالد بن سعید بن جرجہ تھا، ان کا خاندان شام کا تھا، سفیان بن عبد الاسد الحزومی کے خاندان کے مولیٰ تھے، کہا جاتا ہے کہ مولائے مولا تھے، مولائے عتاقہ نہ تھے (یعنی محض ان کی ترغیب پر اسلام لانے کی وجہ سے خاندان میں شامل ہو گئے تھے۔ جسے عقد مولا کہا جاتا تھا، مولائے عتاقہ نہ تھے، یعنی ان لوگوں کے آزاد کرنے کی وجہ سے ان سے تعلق نہ تھا)۔

ابو بکر بن محمد بن ابی مرۃ المکی سے مروی ہے کہ مسلم بن خالد سرخی مائل گورے تھے۔ زنجی لقب تھا جو انہیں بچپن میں دیا گیا تھا۔ احمد بن محمد بن الولید الارزقی سے مروی ہے کہ زنجی بن خالد فقیہ و عابد تھے، ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کنیت ابو خالد تھی، وفات مکہ میں ۱۸۰ھ میں ہارون کے زمانے خلافت میں ہوئی، کثیر الحدیث تھے اور اپنی حدیث میں بکثرت خطا اور غلطی کرتے تھے، اپنی ذات تک بہت اچھے آدمی تھے لیکن غلطی کرتے تھے۔ داؤد العطار حدیث میں ان سے بلند رتبہ تھے۔

محمد بن عمران الجعفی رضی اللہ عنہ:

قلیل الحدیث تھے۔

محمد بن عثمان الخزومی رضی اللہ عنہما:

قلیل الحدیث تھے۔

یحییٰ بن سلیم الطاکمی رضی اللہ عنہما:

مکہ میں رہتے تھے اور وہیں وفات پائی، چڑے کا کام کرتے تھے انہوں نے اسماعیل بن کثیر و عبد اللہ بن عثمان بن غنیم سے روایت کی ہے ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

فضیل بن عیاض التیمی رضی اللہ عنہما:

بنی یربوع کی ایک فرد تھے، کنیت ابو علی تھی، ولادت خراسان کے ایک گاؤں ابی ورد میں ہوئی، بڑے ہو کر کوفہ آ گئے، منصور بن المعتمر وغیرہ سے حدیث سنی عابد بن کر مکہ منتقل ہو گئے، وہیں سکونت اختیار کر لی، اور آغاز کے ۱۸ھ میں بزمانہ خلافت ہارون وفات ہوئی، ثقہ و ثبت و فاضل و عابد و متقی و کثیر الحدیث تھے۔

عبد اللہ بن رجاء رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو عمران تھی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے، لنگڑے تھے، بصرے کے باشندے تھے، منتقل ہو کر مکہ میں رہ گئے اور وہیں ان کی وفات ہوئی۔

بشر بن السری رضی اللہ عنہما:

عبد الحمید بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما:

ابن ابی رواذ، کنیت ابو عبد الحمید تھی، کثیر الحدیث اور ضعیف تھے، فرقہ مرجیہ سے تھے۔

عبد اللہ بن الحارث الخزومی رضی اللہ عنہما:

حمزہ بن الحارث رضی اللہ عنہما:

ابن عمیر، ثقہ و قلیل الحدیث تھے۔

ابو عبد الرحمن المقرئ رضی اللہ عنہما:

نام عبد اللہ بن یزید تھا، جب ۲۱۳ھ میں مکہ میں وفات پائی، ان کا خاندان بصرے کا تھا۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عثمان بن الیمان رضی اللہ عنہما:

ابن ہارون، کنیت ابو عمرو تھی، وفات کیم ذی الحجہ ۲۱۲ھ کو مکہ میں ہوئی، ان کی حدیثیں ہیں۔

موتل بن اسماعیل رضی اللہ عنہما:

ثقلہ و کثیر الغلط تھے۔

علاء بن عبد الجبار العطار رضی اللہ عنہما:

بصرے کے تھے، مکہ میں سکونت اختیار کر لی۔ کثیر الحدیث تھے۔

سعید بن منصور رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو عثمان تھی۔ ۲۱۷ھ میں مکہ میں وفات ہوئی۔

احمد بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابن الولید الارزقی، ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

عبداللہ بن الزبیر الحمیدی رضی اللہ عنہ:

بنی اسد بن عبد العزی بن قصی کے تھے، سفیان بن عیینہ کے شاگرد اور ان کے راوی تھے، ربیع الاول ۲۱۹ھ میں مکہ میں ان

کی وفات ہوئی۔ ثقہ و کثیر الحدیث تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کے وہ اصحاب جنہوں نے طائف کی سکونت اختیار کر لی تھی

عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

ابن معتب بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقیف جو قسی بن مہبہ ابن بکر بن ہوازن بن منصور بن عکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلمان بن مضر تھے، عروہ کی کنیت ابو عوف تھی، ان کی والدہ سبیحہ بنت عبد شمس بن عبد مناف بن قصی تھیں۔ عبداللہ بن یحییٰ نے متعدد اہل علم سے روایت کی کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ فرمایا تو عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ طائف میں نہیں تھے بلکہ جوش میں دبابات و منجیق (آلات حرب جن سے دشمن کی فوج پر پتھر پھینکے جاتے ہیں) کا کام سیکھتے تھے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے بعد طائف آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں اسلام ڈال دیا۔ ربیع الاول ۹ھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ آئے اور مشرف بہ اسلام ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام سے بہت خوش ہوئے۔ عروہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اترے تھے مگر مغیرہ بن شعبہ نے نہ چھوڑا اور اپنے پاس لے گئے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے پاس جانے کی اجازت چاہی کہ انہیں اسلام کی دعوت دیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پھر تو وہ لوگ تم سے جنگ کریں گے، عرض کی وہ لوگ اگر مجھے سوتا ہوا پائیں گے تو بیدار نہ کر سکیں گے۔

عروہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئے، پانچ رات چلے، عشاء کے وقت طائف آئے اور اپنے مکان میں داخل ہوئے ان کے پاس (بنی) ثقیف آئے اور طریقہ جاہلیت کے مطابق سلام کیا، انہوں نے اعتراض کیا اور کہا تمہیں اہل جنت کا سلام "السلام" اختیار کرنا چاہیے، لوگوں نے انہیں ایذا دی اور سخت ست کہا مگر انہوں نے ان سے درگزر کیا۔ لوگ ان کے پاس سے چلے گئے اور مشورہ کرنے لگے، صبح ہوئی تو عروہ رضی اللہ عنہ اپنی کھڑکی پر آئے اور ان کو ہر طرف سے بنی ثقیف نکل کر ان کے پاس آگئے، بنی مالک میں سے ایک شخص نے جس کا نام اوس بن عوف تھا انہیں تیر مارا جو رگ ہفت اندام میں لگا اور خون بند نہ ہوا۔

غیلان بن سلمہ اور کنانہ بن عبدیاللیل اور حکم بن عمرو اور معزز بن حلفاء اٹھ کھڑے ہوئے اور ہتھیار سے مسلح ہو کر کہا کہ یا تو ہم اپنے آخری شخص تک مرجائیں گے یا دس روسائے بنی مالک سے ان کا انتقام لیں گے۔

عروہ نے یہ دیکھا تو کہا کہ میرے بارے میں جنگ نہ کرو میں نے اپنے خون کرنے والے کو معاف کر دیا ہے کہ اس کے ذریعے سے تم لوگوں میں صلح کراؤں یہ تو ایک کرامت ہے جس کے ذریعے سے اللہ نے میرا اکرام کیا ہے اور شہادت ہے جسے اللہ نے مجھ تک بھیجا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں۔ جنہوں نے مجھے اس کے متعلق خبر دے دی تھی کہ تم لوگ مجھے قتل کرو گے۔

انہوں نے اپنی قوم کو بلا کر کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے ان شہدائے ساتھ دفن کرنا جو رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ قتل اس کے کہ آنحضرت ﷺ تم لوگوں کے پاس سے کوچ کریں قتل کیے گئے وفات ہو گئی تو لوگوں نے انہیں ان شہدائے ساتھ دفن کر دیا۔ نبی ﷺ کو ان کے قتل کی خبر پہنچی تو فرمایا عروہ کی مثال صاحب یسین کی ہے کہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو ان لوگوں نے انہیں قتل کر دیا۔

ابولیح بن عروہ رضی اللہ عنہما:

ابن مسعود بن معتب بن مالک۔ راوی نے کہا کہ جب عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قتل کر دیے گئے تو ان کے فرزند ابولیح ابن عروہ رضی اللہ عنہما اور ان کے بھتیجے قارب بن الاسود بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اہل طائف سے کہا کہ تم نے عروہ کو قتل کر دیا ہے، ہم کسی بات پر تم سے اتفاق نہ کریں گے۔ دونوں رسول اللہ ﷺ سے قدمبوس ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ جسے چاہو مولانا (عقد محبت) کر لو عرض کی ہم تو اللہ اور اس کے رسول سے موالات کرتے ہیں۔

نبی ﷺ نے فرمایا کہ ابوسفیان بن حرب تمہارے ماموں ہیں لہذا ان سے معاہدہ حلف کر لو۔ اس ارشاد کی تعمیل کی اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اترے۔ رمضان ۹ھ میں وفد ثقیف کے آنے تک مدینے میں مقیم رہے۔ ان لوگوں نے نبی ﷺ سے جو معاہدہ کرنا تھا کیا اور اسلام لائے ابولیح اور قارب بن الاسود رضی اللہ عنہما بھی وفد کے ساتھ واپس گئے۔ ابولیح نے عرض کی یا رسول اللہ! میرے والد تو قتل کر دیئے گئے ان پر دو سو مثقال سونا قرض ہے اگر لات کے زیورات سے ادا فرمانا مناسب سمجھیں تو ادا فرمادیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں۔

قارب بن الاسود رضی اللہ عنہ:

ابن مسعود بن معتب بن مالک، عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے برادر زادے تھے۔ ابولیح بن عروہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کا قرض ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی تو قارب بن الاسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے والد اسود بن مسعود کی جانب سے (بھی قرض ادا فرما دیجئے) کیونکہ انہوں نے بھی عروہ رضی اللہ عنہ کی طرح قرض چھوڑا ہے لہذا اسے بھی سرکشوں کے مال سے ادا فرما دیجئے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اسود تو کافر مرا ہے، قارب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ اس کا حق قرابت ادا فرمائیں گے، قرض تو مجھ پر ہے اور مجھی سے اس کا مطالبہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تب تو میں ادا کروں گا۔ آنحضرت ﷺ نے عروہ

واسود کا قرض سرکشوں کے مال سے ادا فرما دیا۔

حکم بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن وہب بن معتب بن مالک اس وفد ثقیف میں تھے جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر اسلام لائے۔

غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

ابن معتب بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقیف سلمہ بن معتب کی والدہ کنہ بنت کسیرہ بن شمالہ ازد کی تھیں ان کے اخیافی بھائی اوس بن ربیعہ ابن معتب تھے دونوں کنہ کے فرزند تھے جن کی طرف منسوب کیے جاتے تھے۔ غیلان بن سلمہ رضی اللہ عنہ شاعر تھے کسریٰ کے پاس گئے اور اس سے درخواست کی کہ ان کے لیے طائف میں قلعہ بنوادے اس نے قلعہ بنوادیا۔ اسلام آیا تو غیلان مسلمان ہوئے اس وقت ان کے پاس دس عورتیں تھیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ان میں سے چار کو انتخاب کر لو اور بقیہ کو چھوڑ دو انہوں نے کہا کہ یہ عورتیں اس طرح تھیں کہ کوئی یہ نہ جانتی تھی کہ ان میں سے مجھے کون زیادہ محبوب ہے لیکن آج وہ اسے معلوم کر لیں گی۔

ان میں سے چار کو منتخب کر لیا جسے رکھنا چاہتے تھے اس سے کہتے تھے کہ سامنے آؤ اور جس کو نہیں چاہتے تھے اس سے کہتے کہ پیچھے جاؤ اس طرح چار کو منتخب کر لیا اور بقیہ کو چھوڑ دیا۔

عروہ بن غیلان بن سلمہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ نافع غیلان بن سلمہ کے غلام تھے نبی ﷺ کے پاس بھاگ آئے اور اسلام لائے۔ غیلان ابھی مشرک تھے غیلان اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ان کی ولاء (میراث غلام) واپس کر دی۔ ان کے بھائی:

شرحبیل بن غیلان رضی اللہ عنہ:

ابن سلمہ بن معتب وہ بھی اس وفد میں تھے جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تھا۔ شرحبیل کی وفات ۶۹ھ میں ہوئی۔

عبد یالیل بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غبیرہ بن عوف بن ثقیف اس وفد ثقیف کے رئیس تھے جو رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تھا وہ لوگ اسلام لائے عبد یالیل رضی اللہ عنہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ہم عمر تھے۔

کنانہ بن عبد یالیل رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن عمیر بن عقدہ بن غبیرہ بن عوف شریف (یعنی سردار) تھے وفد ثقیف کے ساتھ اسلام لائے۔

حارث بن کلدہ رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن علاج نام عمیر بن ابی سلمہ بن عبد العزی بن غبیرہ بن ثقیف تھا طبیب عرب تھے جس کو کوئی بیماری ہوتی تو نبی ﷺ ان کے پاس جانے کا مشورہ دیتے پھر ان سے اس کی بیماری کو دریافت فرماتے تھے سبب والدہ زیادۃ الحارث بن کلدہ کی کنیز تھیں۔ ان کے فرزند:

نافع بن الحارث رضی اللہ عنہما:

ابن کلدہ عبد اللہ کے والد تھے جو بصرہ منتقل ہو گئے تھے وہاں انہوں نے لشکر کا تعلق ترک کر دیا تھا۔

علاء بن جاریہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن ابی سلمہ بن عبد العزئی بن غیرہ بن عوف بن ثقیف بنی زہرہ کے حلیف تھے۔

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ:

ابن بشر بن عبد وہمان بن عبد اللہ بن ہمام بن ابان بن یسار بن مالک بن حطیط ابن شہم بن ثقیف۔ عثمان بن العاص وفد ثقیف کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے سب سے کسن تھے لوگ انہیں اپنے کجاؤں پر چھوڑ جاتے کہ اس کی حفاظت کریں۔

جب وہ لوگ رسول اللہ ﷺ کے پاس سے واپس آ کے سو گئے اور دو پہر ہو گئی تو عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان لوگوں سے پہلے چھپ کے اسلام لائے اپنے اسلام کو پوشیدہ رکھا رسول اللہ ﷺ سے دین کو دریافت کرتے اور آپ سے قرآن سننے لگے چند سورتیں رسول اللہ ﷺ کی زبان مبارک سے سن کے پڑھیں۔ رسول اللہ ﷺ کو سوتا ہوا پاتے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قصد کرتے ان سے دریافت کرتے اور پڑھواتے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ان سے پوچھتے اور قرآن سنتے رسول اللہ ﷺ خوش ہوئے اور آپ کو ان سے محبت ہو گئی۔

جب وفد اسلام لایا اور رسول اللہ ﷺ نے ان کے لیے وہ تحریر لکھ دی جس پر ان سے صلح تھی اور ان لوگوں نے اپنے وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم میں سے کسی کو امیر بنا دیجئے رسول اللہ ﷺ نے ان پر عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو امیر بنا دیا حالانکہ وہ سب سے چھوٹے تھے اس لیے کہ رسول اللہ ﷺ نے اسلام پر ان کی حرص دیکھی تھی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخری وصیت جو رسول اللہ ﷺ نے مجھے فرمائی یہ تھی کہ کوئی ایسا مؤذن بناؤ جو اذن کا معاوضہ نہ لے قوم کی امامت کرو تو ان کے کمزور ترین کا اندازہ کر لو اور جب خود نماز پڑھو تو تم (جانو) اور یہ (نماز جانے) یعنی خواہ طویل پڑھو یا خفیف۔

عبد اللہ بن الحکم سے مروی ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ مجھ کو رسول اللہ ﷺ نے طائف کا عامل بنایا آخری وصیت جو رسول اللہ ﷺ نے فرمائی یہ تھی کہ لوگوں کو نماز آسان پڑھانا۔

عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے مجھے طائف پر عامل بنایا تو فرمایا کہ لوگوں کو نماز آسان پڑھانا آپ نے آگاہ کیا یا اندازہ مقرر کر دیا کہ ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق﴾ اور قرآن کی اسی کے مشابہ سورتیں (پڑھانا بڑی بڑی سورتیں نہ ہوں)۔

موسیٰ بن عمران بن مناح سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ طائف کے عامل تھے۔ مطرف سے مروی ہے کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

محمد بن عمر نے کہا کہ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی وفات اور خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہم و خلافت عمر بن

الخطاب رضی اللہ عنہ تک طائف کے عامل رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بحرین پر عامل مقرر کرنا چاہا تو لوگوں نے عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ امیر ہیں جنہیں رسول اللہ ﷺ نے طائف پر مامور فرمایا، میں انہیں معزول نہ کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین انہیں حکم دیجئے کہ جسے چاہیں اپنا جانشین کر دیں اور آپ ان سے مدد لیجئے، اس صورت میں عزل نہیں ہوگا، انہوں نے کہا کہ ہے تو اچھا، ان کو لکھا کہ جس کو چاہے خلیفہ بنا دیجئے اور آپ میرے پاس آئیے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ کو طائف پر اپنا قائم مقام کیا اور خود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے، عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بحرین کا والی بنا دیا، بحرین سے معزول ہوئے تو مع اپنے اہل بیت کے بصرے کی سکونت اختیار کر لی اور وہاں کے شرفاء میں ہو گئے۔ بصرے کا وہ مقام جسے شط عثمان کہا جاتا ہے انہیں کی طرف منسوب ہے۔ ان کے بھائی:

حکم بن ابی العاص رضی اللہ عنہ:

ابن بشر بن عبد رمان نے نبی ﷺ کی صحبت پائی تھی۔

اوس بن عوف الثقفی رضی اللہ عنہ:

بنی مالک کے ایک فرد تھے یہی وہ شخص تھے کہ عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ عنہ کو تیر مار کر قتل کیا تھا، اس کے بعد وفد ثقیف کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ کے ثقیف سے صلح کرنے سے پہلے انہیں ابی لیح بن عروہ رضی اللہ عنہ اور قارب بن الاسود بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خوف تھا، اس بناء پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے شکایت کی تو انہوں نے ان دونوں کو مع کر دیا اور کہا کہ کیا تم مسلمان نہیں ہو، انہوں نے کہا کہ بے شک ہیں، کہا کہ شرک کے زمانے کا انتقام لیتے ہو، حالانکہ یہ اسلام کے ارادے سے آئے ہیں اور انہیں ذمہ داری و امان ہے، اگر وہ مسلمان ہوتے تو ان کا خون تم لوگوں پر حرام ہو جاتا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے درمیان قربت کرا دی، سب نے باہم مصافحہ کیا اور وہ لوگ ان سے باز آ گئے۔ اوس بن عوف کی وفات ۵۵ھ میں ہوئی۔

اوس بن حذیفہ الثقفی رضی اللہ عنہ:

عمر بن اوس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ہم وفد ثقیف کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اہل فہین مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے اور مالکین کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے خیمے میں اتارا۔ راوی نے کہا کہ آنحضرت ﷺ بعد عشاء ان لوگوں کے پاس تشریف لے جاتے اور کھڑے کھڑے باتیں کرتے، پاؤں ڈکھنے لگتے تو کبھی ایک پاؤں پر اور کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے، آنحضرت ﷺ کی اکثر گفتگو اہل مکہ و قریش کی شکایت ہوتی، فرماتے کہ ہمارے اور ان کے درمیان جنگ مساوی تھی، کبھی ہمارے خلاف ہوتی اور کبھی مفید۔ ایک شب کو آنحضرت ﷺ تشریف نہیں لائے، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ رات آپ کو ہم لوگوں سے کس نے باز رکھا، فرمایا، جنوں کی ایک جماعت میرے پاس اتری تھی، وظیفہ قرآن کچھ باقی رہ گیا تھا اس لیے بغیر اس کے پڑھے ہوئے مسجد سے نکلنا مجھے اچھا معلوم نہ ہوا۔

محمد بن عبد اللہ الاسدی نے اپنی حدیث میں بیان کیا کہ صبح ہوئی تو ہم نے اصحاب سے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے ہم لوگوں سے بیان کیا کہ آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت ایسے وقت میں اتری کہ آپ پر قرآن کا وظیفہ باقی تھا آپ لوگ قرآن کا وظیفہ کس طرح سے پڑھتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تین سورتیں پانچ سورتیں سات سورتیں نو سورتیں گیارہ سورتیں پڑھتے ہیں اور حزب مفصل جو سورہ قاف سے ختم تک ہے تلاوت کرتے ہیں۔

اوس بن حذیفہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ اہلاف و بنی مالک کے ستر آدمی طائف سے نکلے اہل انبیین مغیرہ بن شعبہ کے پاس اترے اور ہم لوگوں کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے ایک خیمے میں اتارا جو دولت خانہ اور مسجد کے درمیان تھا اس کے بعد انہوں نے وہی مضمون بیان کیا جو حدیث بالا میں مذکور ہوا۔ محمد بن عمر نے کہا کہ اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کی وفات لیالی حرہ (۶۳ھ) میں ہوئی۔

اوس بن اوس الشققی رضی اللہ عنہ:

اوس بن اوس الشققی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جمعے کے دن جو شخص طہارت کرے نہائے سویرے سے مسجد جائے امام کے قریب بیٹھے خطبہ سنے اور خاموش رہے تو اس کے لیے ہر اس قدم پر جو وہ چلے گا ایک سال کے روزے نماز کا ثواب ہوگا۔ ایک شخص سے جن کے دادا اوس بن اوس تھے مروی ہے کہ میرے دادا نے نماز میں اشارہ کیا کہ میرے جوتے مجھے دے دو میں نے جوتے انہیں دے دیئے انہوں نے جوتوں کے ساتھ نماز پڑھی اور کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نعلین میں نماز پڑھتے دیکھا ہے۔

اوس بن اوس یا اویس بن اوس سے مروی ہے کہ میں نے نصف ماہ رسول اللہ ﷺ کے پاس قیام کیا آپ کو دیکھا کہ دو برابر کے نعلین میں نماز پڑھتے تھے اور نماز میں اپنے داہنے اور بائیں تھوکے تھے۔

محمد بن سعد نے کہا کہ یہ اوس بن اوس ہی ہیں (اویس بن اوس نہیں ہیں) شعبہ کو ان کا نام زیادہ یاد تھا۔ انہوں نے قیاس کی طرح شک نہیں کیا۔

حارث بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن اوس الشققی - حارث بن عبد اللہ بن اوس الشققی سے مروی ہے کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے اس عورت کا مسئلہ پوچھا جسے (منیٰ سے رمی کے بعد) روانہ ہونے سے پہلے حیض آجائے انہوں نے کہا کہ اس کا سب سے آخری فعل طواف بیت اللہ ہونا چاہیے حارث نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے بھی مجھے اسی طرح فتویٰ دیا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اپنے سامنے ہی (کی بات) سے شک میں تھے (کہ رسول اللہ ﷺ کا فتویٰ ملنے پر بھی مجھ سے پوچھا حالانکہ) تم مجھ سے پوچھ کے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کرتے کہ میں خلاف نہ بتاتا۔ محمد بن سعد نے کہا کہ ابو عسان مالک بن اسماعیل النہدی نے ہم سے یہی حدیث بیان کی مگر نام میں خطا کی۔ انہوں نے سند حدیث میں حارث بن عبد اللہ کے بجائے عبد اللہ بن الحارث سے روایت کی کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا کہ جو شخص حج یا عمرہ کرے تو اس کا آخری زمانہ بیت اللہ میں ہونا چاہیے۔ محمد بن سعد نے کہا کہ وہ حارث بن عبد اللہ بن اوس ہی ہیں

جیسا کہ ابوعمرانہ نے یعلیٰ بن عطاء کی روایت سے یاد رکھا۔
حارث بن اویس الشقی حنی اللہ عنہ:

نبی ﷺ کی صحبت پائی اور آنحضرت ﷺ سے روایت کی ہے۔

شرید بن سوید الشقی حنی اللہ عنہ:

شرید بن سوید الشقی سے مروی ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ مکان کا پڑوسی اس کے غیر سے اس مکان کا زیادہ حق دار ہے
(یعنی اسے حق شفع حاصل ہے)۔

شرید، عمرو بن الشرید کے والد تھے ان کو نبی ﷺ نے اونٹ پر اپنا ہم نشین بنایا تھا اور امیہ بن ابی

الصلت کے شعر پڑھوائے تھے انہوں نے کہا میں شعر سنانے لگا تو فرمایا عنقریب وہ اسلام لائیں گے۔ شرید بن سوید کی وفات یزید
بن معاویہ بن ابی سفیان کی خلافت میں ہوئی۔

نمیر بن خرشہ الشقی حنی اللہ عنہ:

وفد ثقیف کے ان افراد میں تھے جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

سفیان بن عبد اللہ الشقی حنی اللہ عنہ:

والی طائف تھے اس وفد میں بھی تھے جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا تھا۔

حکم بن سفیان الشقی حنی اللہ عنہ:

ابوزہیر بن معاذ الشقی:

ان کی یہ حدیث کہ ”رسول اللہ ﷺ نے ہم سے النباۃ علاقہ طائف میں خطبہ ارشاد فرمایا“ ان سے ان کے بیٹے ابوبکر بن

ابی زہیر نے روایت کی ہے۔

کردم بن سفیان الشقی حنی اللہ عنہ:

ابن جریج سے مروی ہے کہ کردم بن سفیان الشقی حنی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں

نے نذرمانی ہے کہ بوانہ میں دس اونٹ کی قربانی کروں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم نے نذرمانی ہے اس وقت زمانہ

جاہلیت کی کوئی بات تمہارے دل میں تھی عرض کی یا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جاؤ اور قربانی کرو۔

وہب بن ثویلد حنی اللہ عنہ:

ابن ظویلیم بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف، مسلمان ہوئے اور نبی ﷺ کی صحبت پائی رسول اللہ ﷺ کے

زمانے ہی میں وفات پائی۔ ان کی میراث میں بنو غیرہ نے بھگڑا کیا تو رسول اللہ ﷺ نے وہ (میراث) وہب بن امیہ بن ابی الصلت

کو دی۔

وہب بن امیہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی الصلت بن ربیعہ بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف اسلام لائے اور نبی ﷺ کی صحبت پائی۔ امیہ بن ابی الصلت شاعران کے والد تھے۔

ابو محجن بن حبیب رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن عمیر بن عوف بن عقدہ بن غیرہ بن عوف بن ثقیف شاعر تھے ان کی احادیث ہیں۔
حکم بن حزن الکلفی رضی اللہ عنہ:

بنی کلفہ بن عوف بن نصر بن معاویہ بن بکر بن ہوازن میں سے تھے۔ شعیب بن زریق الطائفی سے مروی ہے کہ میں ایک شخص کے پاس بیٹھا جنہیں نبی ﷺ کی صحبت حاصل تھی اور نام حکم بن حزن الکلفی تھا انہوں نے کہا کہ میں بطور وفد کے رسول اللہ ﷺ کے پاس گیا۔ میں سات کاساتواں یا نوکانواں شخص تھا ہمارے لیے اجازت مانگی گئی بعد اجازت ہم حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم نے آپ کی زیارت اس لیے کی ہے کہ ہمارے لیے کوئی عمدہ چیز منگائیں لہذا آپ ہمارے متعلق حکم دیجئے۔ آنحضرت ﷺ نے ہمیں اتارا اور ہمارے لیے کچھ کھجوروں کا حکم دیا حالت یہ تھی کہ یہ بھی تھوڑی تھیں ہم نے اس سے چند روز گزارے انہیں ایام میں ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جعے میں حاضر ہوئے۔ آنحضرت ﷺ عصا یا کمان پر تکیہ لگا کے کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا میں چند مبارک و پاکیزہ کلمات فرمائے پھر فرمایا کہ اے لوگو! تم کو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان سب کے بجالانے کی تمہیں ہرگز طاقت نہ ہوگی یا تم ہرگز نہیں کر سکو گے لہذا درست کرو اور خوشخبری حاصل کرو۔

زفر بن حریثان رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن حریثان بن ذکوان بن کلفہ بن عوف بن نصر بن معاویہ ابن بکر بن ہوازن وفد کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔

مقرس بن سفیان رضی اللہ عنہ:

ابن خنجاہ بن النابغہ بن عتر بن حبیب بن وائلہ بن دہمان بن نصر بن معاویہ ابن بکر بن ہوازن وفد کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے جنگ حنین میں شریک ہوئے عباس بن مرداس نے اپنے شعر میں ان کا ذکر کیا ہے۔

یزید بن الاسود العامری رضی اللہ عنہ:

بنی سواۃ میں سے تھے۔ جابر بن یزید بن الاسود السواقی نے اپنے والد سے روایت کی کہ حجۃ الوداع میں ہم نے مسجد منیٰ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی جب آنحضرت ﷺ نماز پوری کر کے متوجہ ہوئے تو دو آدمیوں کو دیکھا کہ نماز نہیں پڑھی تھی فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ ان دونوں کو اس حالت میں لایا گیا کہ (خوف سے) ان کے شانے تھر تھرا رہے تھے۔ فرمایا کہ تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے کس نے روکا۔ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم نے اپنے کجاووں میں نماز پڑھ لی۔ فرمایا کہ جب تم لوگ آؤ اور امام نماز پڑھتا ہو تو اس کے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ وہ تمہارے لیے نفل ہے۔ یزید بن الاسود سے مروی ہے کہ وہ

حنین میں مشرکین کے ساتھ تھے پھر اسلام لائے اور نبی ﷺ کی صحبت پائی، کنیت ابو حازمہ تھی۔
عبد اللہ بن معین السوائی رضی اللہ عنہ:

سعید بن السائب الطائفی سے مروی ہے کہ میں نے بنی سواۃ کے ایک شیخ سے بنی عامر بن حصصہ کے ایک شخص سے ساجن کا نام عبد اللہ بن معین تھا اور ولادت نبی ﷺ کے عہد میں یا اس کے قریب ہوئی تھی، زمانہ جاہلیت بھی پایا تھا کہ غزوہ طائف میں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے دو شخص طائف کے باب بنی سالم کے پاس قتل کر دیئے گئے، انہیں اٹھا کر رسول اللہ ﷺ کے پاس پہنچایا گیا۔ آنحضرت ﷺ کو معلوم ہوا تو حکم دیا کہ ان کو اسی مقام پر دفن کیا جائے جہاں وہ زخمی ہوئے یا جہاں ان سے مقابلہ کیا گیا، دونوں اپنے قتل اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان دفن کیے گئے اور اسی جگہ قبر بنائی گئی جہاں ان سے مقابلہ کیا گیا تھا۔

ابورزین العقیلی رضی اللہ عنہ:

نام لقیظ بن عامر بن المنتفق تھا۔ ابی زرین سے مروی ہے کہ وہ نبی ﷺ کے پاس آئے اور عرض کی یا رسول اللہ میرے والد اس قدر بوڑھے ہیں کہ نہ حج کر سکتے ہیں اور نہ عمرہ اور نہ سفر فرمایا کہ تم اپنے والد کی جانب سے حج و عمرہ کرو۔ محمد بن سعد نے کہا کہ ابوالولید نے (اپنی روایت میں) سفر کا ذکر نہیں کیا۔ عفان و یحییٰ بن عباد نے (اپنی روایتوں میں) اس کا ذکر کیا ہے۔

ابوطریف رضی اللہ عنہ:

طائف کے حسب ذیل فقہاء و محدثین

عمر بن الشرید بن سوید اشقی رضی اللہ عنہ:

عاصم بن سفیان اشقی رضی اللہ عنہ:

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔

ابو ہندیہ رضی اللہ عنہ:

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے یہ ان محمد بن ابی ہندیہ کے والد تھے جن سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے۔

عمر بن اوس رضی اللہ عنہ:

ابن حذیفہ اشقی اپنے والد سے روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن عثمان بن عبد اللہ بن ربیعہ بن الحارث بن حبیب بن الحارث بن مالک بن حلیط بن جسم بن ثقیف، ان کی والدہ ام الحکم بنت ابی سفیان بن حرب بن امیہ تھیں اور ماموں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے، انہیں کو فرزند ام الحکم کہا جاتا تھا، ان کے دادا عثمان بن عبد اللہ تھے جو غزوہ حنین میں مشرکین کا جھنڈا لیے تھے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں قتل کر دیا تو رسول اللہ نے فرمایا کہ

خدا سے دور کرنے و اقریش سے بغض رکھتا تھا۔ عبدالرحمن بن عبداللہ نے عثمان بن عفان بنی النضر سے سنا ہے وہ والی مصر و کوفہ تھے آج ان کی اولاد کی سکونت دمشق میں ہے۔

وکیع بن عدس رضی اللہ عنہما۔

شعبہ نے یعلیٰ بن عطاء کی روایت سے اسی طرح کہا ہے، ابورزین العقیلی کے بھتیجے تھے، کنیت ابو مصعب تھی، انہوں نے اپنے چچا ابورزین سے اور ان سے یعلیٰ بن عطاء نے روایت کی ہے۔ حماد بن سلمہ و ابو عوانہ نے کہا کہ یعلیٰ بن عطاء نے وکیع بن عدس سے روایت کی ہے۔

یعلیٰ بن عطاء رضی اللہ عنہما۔

بنی امیہ کے آخر زمانہ سلطنت میں واسط آ کر مقیم ہو گئے تھے ان سے شعبہ و ہشیم و ابو عوانہ اور ان کے ساتھیوں نے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن یزید الطائفی رضی اللہ عنہ۔

وفات ۱۲۰ھ میں ہوئی۔

بشر بن عاصم رضی اللہ عنہ۔

ابن سفیان الثقفی۔ اپنے والد سے روایت کی ہے۔ بشر بن عاصم بن سفیان الثقفی سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب بنی النضر اپنے صدقین (صدقہ وصول کرنے والوں) کو گرمیوں کے آغاز میں بھیجا کرتے تھے۔

ابراہیم بن مینسرہ رضی اللہ عنہ۔

عطیف بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما۔

وفات ۱۲۰ھ میں ہوئی۔

عبید بن سعد رضی اللہ عنہما۔

محمد بن ابی سوید رضی اللہ عنہما۔

ابو بکر بن ابی موسیٰ بن ابی شیخ رضی اللہ عنہما۔

سعید بن السائب الطائفی رضی اللہ عنہما۔

وکیع و حمید الرواسی و معن بن عیسیٰ نے ان سے روایت کی ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما۔

ابن یعلیٰ بن کعب الثقفی، وکیع و ابو عاصم النہیل و ابو نعیم و محمد بن عبداللہ الاسدی و غیر ہم نے ان سے روایت کی ہے۔

یونس بن الحارث الطائفی رضی اللہ عنہما۔

جن سے وکیع بن الجراح و ابو عاصم النہیل و غیر ہما نے روایت کی ہے۔

محمد بن عبد اللہ ﷺ:

ابن ارح الطامی - کعب وغیرہ نے ان سے سنا ہے۔

محمد بن ابی سعید الشقیفی ﷺ:

محمد بن مسلم ﷺ:

ابن سوسن الطامی کے میں رہتے تھے ان سے کعب بن الجراح و ابو نعیم و حسن بن عیسیٰ وغیرہم نے سنا ہے۔

یحییٰ بن سلیم الطامی ﷺ:

وفات تک کے ہی میں رہے چہرے کا کام کرتے تھے۔

رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب جو یمن میں رہتے تھے

ابن حمال المازنی نبی اللہ ﷺ:

حمیر کے تھے۔ عبد معمر بن ادریس بن شان نے کہا کہ اُزد کے تھے اور عمرو بن عامر کی ان اولاد میں تھے جنہوں نے مآرب میں اقامت اختیار کر لی تھی۔

ابن حمال سے مروی ہے کہ بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ملح کو جاگیر میں مانگا، آنحضرت ﷺ نے عطا فرمادیا جب سامنے سے ہٹا تو کسی نے عرض کی یا رسول اللہ معلوم ہے کہ آپ نے انہیں کیا چیز بطور جاگیر عطا فرمادی انہیں تو کثیر آب رواں (کانواں) عطا فرمادیا آنحضرت نے رجوع فرمایا۔

راوی نے کہا کہ میں نے نبی ﷺ سے عرض کی یا رسول اللہ! جو درخت پہلو تقسیم نہ کیے گئے ہوں (میں لے لوں) فرمایا کہ جن پر (چرنے کے لیے) اونٹوں کے پاؤں نے پہنچتے ہوں (وہ لے لو)۔

ابن حمال سے مروی ہے کہ وہ بطور وفد مدینے میں نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور اپنے تین بھائیوں پر جو کندہ کے تھے اسلام لائے۔ تینوں زمانہ جاہلیت میں ان کے غلام تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے ستر (کپڑے کے) جوڑوں پر صلح فرمائی انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے مآرب کا ملح شذا بطور جاگیر مانگا تو آنحضرت ﷺ نے انہیں دے دیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے واپس مانگا تو انہوں نے اسے واپس کر دیا۔ بعد کو رسول اللہ ﷺ نے انہیں جوف مراد میں پہاڑوں کی پشت پر زمین عطا فرمائی۔ ابن حمال سے مروی ہے کہ ان کے چہرے میں مرض داد تھا جس نے چہرے کا رنگ بدل دیا تھا نبی ﷺ نے ان کے چہرے پر مس کیا اس روز سے وہ نہ بڑھا اگرچہ نشان تھا۔

فروہ بن مسیک نبی اللہ ﷺ:

ابن الحارث بن سلمہ بن الحارث بن الذؤیب بن مالک بن معبہ بن عطیف ابن عبد اللہ بن ناجیہ بن یحییٰ بن جو مالک بن ادو

تھے اور مذبح سے تھے۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک کندہ کو چھوڑ کر رسول اللہ ﷺ کے تابع ہو گئے اور شاہ میں قدموں ہوئے شریف آدمی تھے انہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس اتارا صبح کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں گئے۔ آنحضرت ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے انہوں نے سلام کیا اور عرض کی یا رسول اللہ میں اپنی قوم سے پیچھے ہو گیا (یعنی اسلام میں میں نے اپنی قوم سے تاخیر کی) فرمایا تم کہاں اترے عرض کی سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس۔ فرمایا: اللہ سعد رضی اللہ عنہ پر برکت کرے۔ رسول اللہ ﷺ جب بیٹھے تو وہ حاضر ہوتے اور قرآن و فرائض و شرائع اسلام سیکھتے پھر رسول اللہ ﷺ نے انہیں قبیلہ مرادزیب و مذبح سب پر عامل بنا دیا وہاں وہ جایا کرتے تھے آنحضرت ﷺ نے ان کے ہمراہ خالد بن سعید ابن العاص رضی اللہ عنہ کو بھی صدقات (وصول کرنے) کے لیے بھیجا تھا جو رسول اللہ ﷺ کی وفات تک وہیں ان کے ساتھ رہے۔ محسن بن وہب الخزاعی نے اپنی قوم سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فروہ بن مسیک کو بارہ اوقیہ (سونا) انعام فرمایا ایک عمدہ اونٹ سواری کے لیے اور ایک حذہ (جوڑا) عمان کے بے ہوئے کپڑوں کا بھی عطا فرمایا۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ کی وفات ہوئی تو فروہ بن مسیک اسلام پر قائم رہ کر اپنے فرماں برداروں کے ہمراہ مخالفین پر حملہ کرتے رہے وہ مرتد نہیں ہوئے جیسا کہ (قبائل یمن) کے اور لوگ مرتد ہو گئے تھے۔ ہشام بن محمد الکلبی سے مروی ہے کہ فروہ بن مسیک شاعر تھے۔

قیس بن مکشوح رضی اللہ عنہ:

مکشوح کا نام ہبیرہ بن عبد یغوث بن الغزیل بن سلمہ بن بدایہ بن عامر بن عوثیان ابن زاہر بن مراد تھا ہبیرہ بن عبد یغوث قبیلہ مراد کے سردار تھے کج (پہلو) آگ سے داغ دیا گیا تھا اس لیے انہیں مکشوح کہا گیا ان کے بیٹے قیس بن مکشوح مذبح کے سوار تھے بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے انہیں نے اسود العنسی کو قتل کیا جس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

عمرو بن معدی کرب رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن عمرو بن عصم بن عمرو بن زبید الصغیر وہ مدینہ بن ربیعہ بن سلمہ ابن مازن بن ربیعہ بن مدینہ تھے اور منبہ زبید کے مورث اعلیٰ قبیلہ مذبح کے تھے عمرو بن معدی کرب عرب کے شہسوار تھے۔

محمد بن عمارہ بن خزیمہ بن ثابت سے مروی ہے کہ عمرو بن معدی کرب قبیلہ زبید کے دس آدمیوں کے ہمراہ مدینہ آئے اس وقت وہ اپنے اونٹ کی گھیل پکڑے ہوئے آبادی میں داخل ہوئے تو کہا کہ اس پست بستی کے باشندوں میں بنی عمرو بن عامر کا سردار کون ہے کہا گیا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہیں وہ اپنی سواری کو ہنکاتے ہوئے آگے بڑھے اور ان کے دروازے پر اونٹ بٹھا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے مرحبا کہا کجاوہ کھلوا یا ان کا اکرام کیا اور حفاظت کی پھر انہیں نبی ﷺ کے پاس لے گئے وہ اسلام لائے اور چند روز قیام کیا رسول اللہ ﷺ نے انہیں بھی انعام دیا جس طرح آپ وفد کو انعام دیا کرتے تھے وہ اپنے شہر کے ارادے سے واپس ہوئے۔

رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی تو مرتدین یمن کے ساتھ عمرو بن معدی کرب بھی مرتد ہو گئے پھر انہوں نے اسلام کی طرف رجوع کیا اور عراق کو ہجرت کی فتح قادسیہ وغیرہا میں شریک ہوئے ان کا اچھا امتحان لیا گیا۔

صدر بن عبداللہ الازدی رضی اللہ عنہ:

جرش میں رہتے تھے۔ منیر بن عبداللہ الازدی سے مروی ہے کہ صدر بن عبداللہ الازدی اپنی قوم کے انیس آدمیوں کے ہمراہ آئے اور فروہ ابن عمرو البیاضی کے پاس اترے انہوں نے ان کی حمایت کی اور اکرام کیا یہ لوگ دس روز تک ان کے پاس مقیم رہے صدر ان میں سب سے بڑے قاضی (قوت فیصلہ رکھنے والے) تھے۔

نبی ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے رسول اللہ ﷺ ان سے مسرور ہوتے اور ان کی قوم کے اسلام لانے والوں پر امیر بنا دیا، مشرکین یمن میں سے جو ان کے قریب تھے انہیں مسلمانوں کے ہمراہ جہاد کرنے کا حکم دیا اور انہیں اس جماعت کے ساتھ جو ان کے ہمراہ تھے نیکی کی وصیت فرمائی۔

رسول اللہ ﷺ کے حکم سے وہ روانہ ہوئے جرش میں اترے اس زمانے میں وہ ایک محفوظ اور بند شہر تھا۔ بعض قبائل یمن وہاں قلعہ بند تھے صدر نے انہیں اسلام کی دعوت دی جو اسلام لایا اسے چھوڑ دیا اور اپنے ساتھ ملا لیا اور جس نے انکار کیا اس کی گردن مار دی انہوں نے لوگوں کا مقابلہ کیا اور کامیاب ہوئے۔ پھر بہت دن چڑھے قتل کیا۔ موسیٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت صدر بن عبداللہ الازدی جرش کے عامل تھے۔

نمط بن قیس رضی اللہ عنہ:

ابن مالک بن سعد بن مالک بن لای بن سلمان بن معاویہ بن سفیان بن ارحب ہمدان کے تھے بطور وفد اپنی قوم کی ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے پاس ۱۰ھ میں مدینہ آئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں اناج کی زمین دی جو آج تک ان لوگوں کے پاس ہے۔

حدیفہ بن الیمان الازدی رضی اللہ عنہ:

موسیٰ بن عمران بن مناخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات کے وقت دبا کے عامل حدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ تھے۔

صخر الغامدی الازدی رضی اللہ عنہ:

قیس بن الحصین رضی اللہ عنہ:

ذی القصبہ بن یزید بن شداد بن قنان بن سلمہ بن وہب بن عبداللہ ابن ربیعہ بن الحارث بن کعب مذحج سے تھے۔ قیس بن الحصین خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے نبی ﷺ نے انہیں بنی الحارث پر امیر بنا دیا ایک فرمان لکھ دیا اور ساڑھے بارہ اوقیہ انعام دیا وہ اور ان کے ہمراہی اپنے شہر نجران یمن میں واپس ہوئے چار بنی مہینے ٹھہرنے پائے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی۔

عبداللہ بن عبدالمدان رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن الدیان تھا اور ان کا نام یزید بن قطن بن زیاد بن الحارث بن مالک بن ربیعہ بن کعب بن الحارث بن کعب تھا۔ مدح سے تھے عبداللہ اس وفد میں تھے جو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا تھا۔ ان کا نام عبداللہ بن کعب تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے کہا کہ میں عبداللہ بن کعب ہوں۔ فرمایا: تم عبداللہ ہو۔ ان کے بھائی یزید بن عبدالمدان رضی اللہ عنہ:

ابن الدیان بن قطن بن زیاد بن الحارث بن مالک شریف و شاعر تھے اور وفد میں تھے۔ ہشام بن الکلبی نے کہا کہ ”الدیان الحاکم“ دیان حاکم تھے۔ یزید بن الکحل رضی اللہ عنہ:

ان کا نام معاویہ بن حزن بن موالہ بن معاویہ بن الحارث بن مالک بن کعب بن الحارث بن کعب تھا۔ مدح سے تھے اس وفد میں وہ بھی تھے جو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حُجران سے آیا تھا۔ انہیں خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان میں اٹارنا تھا۔ ان کے والد کا نام کحل اس سفیدی کی وجہ سے تھا جو ان میں تھی وہ رئیس تھے۔ شداد بن عبداللہ القنانی رضی اللہ عنہ:

بنی الحارث بن کعب میں سے تھے اس وفد میں شریک تھے جو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ آیا تھا۔ عبداللہ بن قمراد رضی اللہ عنہ:

بنی الحارث بن کعب میں سے تھے اس وفد میں تھے جو خالد بن الولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ حُجران سے آیا تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں دس اوقیہ انعام دیا وہ اور ان کے ہمراہ جو ہم قوم تھے اپنے وطن واپس ہوئے چارہ ماہ گزرے تھے کہ رسول اللہ ﷺ کی وفات ہو گئی۔ زرعة ذویزن الحمیری رضی اللہ عنہ:

شہاب بن عبداللہ الحولانی سے مروی ہے کہ زرعة ذویزن اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے انہیں تحریر فرمایا کہ محمد ﷺ گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ مالک ابن مرارہ الرہادی نے مجھ سے بیان کیا کہ حمیر میں سب سے پہلے تم اسلام لائے اور تم نے مشرکین کو قتل کیا لہذا تم خیر کی خوشخبری سنو اور خیر کی امید رکھو۔

حارث و نعیم فرزندان عبدالکلال و نعمان

قیل ذی رعیین رضی اللہ عنہ:

شہاب بن عبداللہ الحولانی سے مروی ہے کہ حارث و نعیم فرزندان عبدالکلال و نعمان قیل ذی رعیین (رعیین ذی رعیین) و معافروہدان اسلام لائے تو رسول اللہ ﷺ نے ابی بن کعب کو بلا کر فرمایا کہ ان لوگوں کو لکھو کہ ”ملک روم سے مدینہ واپس آنے پر ہمیں تم لوگوں کا قاصد ملا تم نے جو کچھ بھیجا وہ اس نے پہنچایا تمہارے یہاں کی خبر دی اور ہمیں تمہارے اسلام اور قتل مشرکین سے

آگاہ کیا، بے شک اللہ نے تمہیں اپنی ہدایت کا راستہ بتا دیا ہے، اگر تم لوگ نیکی کرو گے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی فرماں برداری کرو گے، اچھی طرح نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، مال غنیمت سے اللہ کا خمس اور نبی ﷺ کا حصہ اور اس کا خاص حصہ اور وہ صدقہ جو مومنین پر فرض ہے دو گے (تو تمہیں فلاح و کامیابی ہوگی)۔“

مالک بن مرارہ الرہادی رضی اللہ عنہ:

رہا قبیلہ مذحج کی ایک شاخ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کو اپنے فرمان کے ساتھ شاہان حمیر کے پاس بھیجا تھا، رسول اللہ ﷺ نے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو یہ ان کے ہمراہ تھے، اپنے ایک فرمان میں ان لوگوں کے متعلق انہیں وصیت کی تھی۔

مالک بن عبدادہ رضی اللہ عنہ:

وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ان قاصدوں میں سے تھے جن کو آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یمن بھیجا تھا، اپنے ایک فرمان میں ان لوگوں کے متعلق انہیں وصیت کی تھی۔

عقبہ بن نمر رضی اللہ عنہ:

وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ان قاصدوں میں سے تھے جن کو آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یمن بھیجا تھا، آنحضرت ﷺ نے ایک فرمان میں زرعدی بزن کو ان لوگوں کے متعلق وصیت فرمائی تھی اور حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ جمع کر کے قاصدوں کو دے دیں۔

عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ:

وہ بھی رسول اللہ ﷺ کے ان قاصدوں میں سے تھے جن کو آنحضرت ﷺ نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ہمراہ یمن بھیجا تھا۔

زرارہ بن قیس رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن عدار بن الحارث بن عوف بن حشم بن کعب بن قیس بن سعد بن مالک ابن النخج قبیلہ مذحج کے تھے، اس وفد نخج میں تھے جو وسط محرم ۱۱ھ کو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا تھا، وہ دوسو آدمی تھے، رملہ بنت المحمّد کے مکان پر اترے، رسول اللہ ﷺ کے پاس اسلام کا اقرار کرتے ہوئے آئے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یمن میں بیعت کر چکے تھے۔ زرارہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے اس سفر میں ایک عجیب خواب دیکھا، فرمایا تم نے کیا دیکھا، عرض کی میں نے خواب میں ایک گدھی کو دیکھا کہ قبیلے میں چھوڑا ہے، اس کے یہاں بھورے رنگ کا بھیڑ کا بچہ پیدا ہوا، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی کوئی کنیز چھوڑی ہے جو حمل کی حالت میں ہے، عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ ﷺ میں نے اپنی کنیز چھوڑی ہے جو حاملہ ہے، فرمایا: اس کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے جو تمہارا بیٹا ہے۔

عرض کی اس کے اسقع و احوی (بھورے، سبز و سرخ) ہونے کی کیا تعبیر ہے، فرمایا کہ میرے قریب آؤ، وہ آپ کے قریب

گئے تو فرمایا کہ کیا تمہارے برص (سفید داغ) ہے جسے تم چھپاتے ہو، عرض کی، جی ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا کہ اس کا کسی کو علم نہیں اور نہ آپ کے سوا اس پر کسی کو اطلاع ہے، فرمایا کہ وہ (بھورارنگ) یہی ہے۔

عرض کی یا رسول اللہ میں نے نعمان بن المنذر رضی اللہ عنہ کو خواب میں اس طرح دیکھا کہ ان کے بدن پر دو بندے دو چوڑیاں اور دو پازیب ہیں، فرمایا کہ یہ ملک عرب ہیں جو اپنی عمدہ شکل اور صورت کی طرف واپس ہوئے ہیں۔ عرض کی، میں نے ایک کھجڑی بال والی بوڑھیا کو (خواب میں) دیکھا جو زمین سے نکلی ہے، فرمایا کہ یہ دنیا کی بقیہ (عمر) ہے۔

عرض کی، میں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے ایک آگ نکلی جو میرے اور میرے بیٹے عمرو کے درمیان حائل ہوگئی، وہ کہتی ہے کہ بنیادنا بیٹا جلا جلا، تم مجھے کھاؤ، میں تمہارے متعلقین و مال کو کھالوں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ ایک فتنہ ہے جو آخر زمانے میں ہوگا۔

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ فتنہ کیا چیز ہے، فرمایا کہ لوگ اپنے امام کو قتل کر دیں گے اور آپس میں لڑیں گے، سر سے سر مل جائیں گے، رسول اللہ ﷺ نے اپنی انگلیوں کو باہم ملا کر اور نکال کر اشارہ فرمایا (اس فتنے میں) بدکار اپنے کو نیکو کار سمجھے گا اور مومن کا خون مومن کے نزدیک پانی پینے سے زیادہ حلال ہوگا، اگر تمہارا بیٹا مر جائے گا تو تم اس فتنے کو پاؤ گے اور اگر تم مر گے تو تمہارا بیٹا اس کو پائے گا، عرض کی یا رسول اللہ ﷺ سے دعا کیجئے کہ میں اسے نہ پاؤں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ اس فتنے کو نہ پائیں، ان کی وفات ہوگی اور عمر و زندہ رہے، وہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے کوفے میں عثمان رضی اللہ عنہ سے بغاوت کی۔

ارطاط بن کعب رضی اللہ عنہ:

ابن شراحیل بن کعب بن سلمان بن عامر بن حارث بن سعد بن مالک بن النخع، وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور مسلمان ہوئے، ان کے لیے جھنڈا باندھا گیا جس کو وہ لے کے قادسیہ میں آئے، قتل کر دیئے گئے تو وہ جھنڈا ان کے بھائی درید بن کعب نے لے لیا اور وہ بھی قتل کر دیئے گئے۔

ارقم بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن مالک بن عبد اللہ بن الحارث بن بشر بن یاسر بن جشم بن مالک بن بکر بن عوف ابن النخع، وفد میں نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے۔

وبر بن یحییٰ رضی اللہ عنہ:

ان غیر خالص عربوں میں سے تھے جو یمن میں تھے، نبی ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے، نبی ﷺ کی خدمت سے روانہ ہو کے یمن کے غیر خالص عربوں کے پاس آئے، نعمان بن بزرج کی لڑکیوں کے پاس اترے، وہ سب اسلام لائیں، انہوں نے فیروز بن الدیلیسی کو بلا بھیجا، وہ مسلمان ہوئے، مرکبوز کو بلا لیا، وہ بھی اسلام لائے، ان کے بیٹے عطاء بن مرکبوز پہلے شخص تھے جنہوں نے صنعا میں قرآن کو جمع کیا، یمن میں باذان اسلام لائے، اپنے اسلام کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کو بھیجی، یہ واقعہ صحیح ہے۔

فیروز بن الدیلی رضی اللہ عنہ:

فارس کے ان لوگوں کی اولاد میں ہیں جن کو کسریٰ نے سیف بن ذبی یزن کے ہمراہ یمن بھیجا تھا انہوں نے حبشیوں کو یمن سے نکال کر اس پر قبضہ کر لیا جب انہیں رسول اللہ ﷺ کا حال معلوم ہوا تو فیروز بن الدیلی وفد میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے اور اسلام لائے آنحضرت ﷺ سے سن کر احادیث روایت کی ہیں، بعض محدثین تو کہتے ہیں ہم سے فیروز بن الدیلی نے حدیث بیان کی اور بعض کہتے ہیں الدیلی نے دونوں ایک ہی شخص ہیں سب کی مراد فیروز بن الدیلی سے ہوتی ہے یہ بات اس حدیث سے ظاہر ہوتی ہے جس کو ایک ہی شخص نے روایت کیا ہے لوگ ان کے نام میں اختلاف کرتے ہیں جیسا کہ میں نے تم سے بیان کیا۔ دیلمی سے مروی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم لوگ سرد ملک میں ہیں اور گیبوں کی شراب سے مدد لیتے ہیں فرمایا کیا وہ نشہ کرتی ہے عرض کی جی ہاں فرمایا بس تو پھر اسے نہ پیو انہوں نے دوبارہ پوچھا فرمایا کہ کیا وہ نشہ کرتی ہے عرض کی جی ہاں فرمایا تو بس پھر اسے نہ پیو عرض کی لوگ اس سے باز نہیں آسکتے فرمایا اگر اس سے باز نہ آئیں تو قتل کر دو۔ محمد بن سعد نے کہا کہ یہ حدیث ہمیں دیلمی الحمیری کی روایت سے بھی پہنچی ہے۔ فیروز بن الدیلی نے ایک حدیث قدر کے بارے میں روایت کی ہے فیروز کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

عبدالمعمر بن ادریس نے کہا کہ ان کی اولاد بنی نضہ کی طرف منسوب تھی ان لوگوں نے کہا کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں پر گرفتاری کی مصیبت آئی فیروز ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اس اسود بن کعب العنسی کو یمن میں قتل کیا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا رسول اللہ ﷺ نے اس پر فرمایا کہ اسے مرد صالح فیروز بن الدیلی نے قتل کیا فیروز کی وفات عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یمن میں ہوئی۔

داؤد بن علی رضی اللہ عنہ:

غیر خالص عربوں میں سے تھے بہت بوڑھے تھے رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں اسلام لائے وہ بھی ان لوگوں میں تھے جنہوں نے اسود بن کعب العنسی کو قتل کیا اس نے یمن میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔

قیس بن مکشوح، عنسی کی قوم سے ڈرے انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ داؤد بن علی نے اسے قتل کیا ہے اور داؤد بن علی پر حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا کہ اس سے عنسی کی قوم کو خوش کریں۔ ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے مہاجر بن ابی امیہ کو لکھا کہ قیس بن مکشوح کو بیڑیاں ڈال کے ان کے پاس بھیج دیں انہوں نے بیڑیاں ڈال کے ان کو بھیج دیا ابوبکر الصدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے مرد صالح داؤد بن علی کو قتل کر دیا انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔

قیس نے گفتگو کی قسم کھائی کہ میں نے قتل نہیں کیا اور کہا کہ یا خلیفہ رسول اللہ اپنی جنگ کے لیے مجھے باقی رکھے مجھے جنگ میں بصیرت ہے اور دشمن کے لیے داؤ گھات معلوم ہیں ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں باقی رکھا عراق بھیج دیا اور حکم دیا کہ کوئی کام ان کے سپرد نہ کیا جائے صرف جنگ میں مشورہ لیا جائے۔

نعمان بن علی رضی اللہ عنہ:

سبائ کے یہودی تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کے مسلمان ہوئے پھر اپنی قوم کے ملک کو واپس گئے اسود بن کعب العنسی کو معلوم ہوا تو اس نے انہیں بلا بھیجا اور پکڑ کے ان کا ایک ایک عضو گلے گلے کر دیا۔

یمن کے حسب ذیل محدثین

طبقہ اولیٰ

مسعود بن الحکم الثقفی رضی اللہ عنہ:

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملے ان سے حدیث روایت کی ہے۔

سعد الاعرج رضی اللہ عنہ:

یعلیٰ ابن مدیہ کے ساتھیوں میں سے تھے انہوں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی ہے۔

عبدالرحمن بن البیلہانی رضی اللہ عنہ:

عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے انخاس میں سے تھے (یعنی غلام تھے اور مال غنیمت کے اس پانچویں حصے میں تھے جو حضرت فاروق رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا) عبدالمنعم بن ادریس نے کہا کہ وہ یمن کے ایرانیوں کی اولاد میں تھے عبدالرحمن نجران میں رہتے تھے ولید ابن عبدالملک کی ولایت میں ان کی وفات ہوئی۔

حجر المدری رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے تھے انہوں نے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان سے طاؤس نے روایت کی ہے۔

ضحاک بن فیروز الدیلیمی رضی اللہ عنہ:

ابنائے اہل فارس سے تھے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

ابوالاشعث الصنعانی رضی اللہ عنہ:

شراحیل بن شرحبیل بن کلیب بن ادہ ابنائے فارس میں سے تھے آخر عمر میں دمشق کی سکونت اختیار کر لی تھی ان سے شامیوں نے روایت کی ہے وفات معاویہ ابن سفیان رضی اللہ عنہ کے قدیم زمانہ خلافت میں ہو گئی تھی۔

حنش بن عبداللہ الصنعانی رضی اللہ عنہ:

وہ بھی ابنائے فارس میں سے تھے پھر منتقل ہو کر مصر کی سکونت اختیار کر لی تھی ان سے مصریوں نے روایت کی ہے وہیں ان کی وفات ہوئی۔

شہاب بن عبداللہ الخولانی رضی اللہ عنہ:

وہب الذماری رضی اللہ عنہ:

ذمار میں رہتے تھے جو یمن کا ایک گاؤں ہے انہوں نے کتب (ساویہ) پڑھی تھیں۔

طبقة ثانیہ

طاؤس بن کیسان رضی اللہ عنہ:

حبيب ابن ثابت سے مروی ہے کہ طاؤس کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ محمد بن عمرو سے مروی ہے کہ طاؤس، بحیر بن ریمان الحیری کے مولیٰ تھے اور جند میں رہتے تھے، فضل بن دکین وغیرہ نے کہا کہ وہ ہمدان کے مولیٰ تھے۔ عبد المنعم ابن ادریس نے کہا کہ ابن ہوذہ الہمدانی کے مولیٰ تھے۔ طاؤس کے والد جواہل فارس میں سے تھے اور اس گھر والوں سے مولانا کر لی تھی وہ جند میں رہا کرتے تھے۔

عادات و خصائل:

بنی طاؤس سے مروی ہے کہ طاؤس زردی کا خضاب لگاتے تھے۔ جریر بن حازم سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو دیکھا کہ تیز سرخی والی مہندی کا خضاب کرتے تھے۔

حظلمہ سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو دیکھا کہ سر اور داڑھی میں حنا کا خضاب کرتے تھے۔ فطر سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو دیکھا کہ وہ مہندی سے خضاب کرتے تھے۔

فطر سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو سب سے زیادہ کپڑے سے چہرہ چھپاتے دیکھا، راوی نے کہا کہ میں نے فطر سے کہا کہ کیا وہ بکثرت کپڑے سے چہرہ چھپاتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔

ہانی بن ایوب الجعفی سے مروی ہے کہ طاؤس اس طرح کپڑے سے چہرہ چھپاتے کہ کبھی اس کو ترک نہ کرتے۔ خارجہ بن مصعب سے مروی ہے کہ طاؤس کپڑے سے چہرہ چھپاتے تھے اور جب رات ہوتی تو کھول دیتے تھے۔ یونس بن الحارث سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو کپڑے سے چہرہ چھپاتے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا۔ طاؤس سے مروی ہے کہ وہ سابری باریک کپڑے کو اور اس کی تجارت کو ناپسند کرتے تھے۔

عمارة بن زاذان سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس یمنی کو دیکھا کہ ان کے جسم پر دو گیسوے رنگ کی چادریں تھیں۔ ابوالاشہب سے مروی ہے کہ میں نے احرام کی حالت میں طاؤس کو دیکھا کہ جسم پر گیسو سے رنگی ہوئی دو چادریں تھیں۔ ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ اس طرح عمامہ باندھنا ناپسند کرتے تھے کہ اس کا کچھ حصہ ٹھوڑی کے نیچے نہ کریں۔

ایوب السخنی سے مروی ہے کہ وہ عبد اللہ بن طاؤس سے پوچھتے کہ آپ کے والد سفر میں کیا پہنتے تھے انہوں نے کہا کہ تلے اوپر دو کرتے پہنتے جن کے نیچے تہ بند نہیں باندھتے تھے۔

یعقوب بن قیس سے مروی ہے کہ میں نے حالت احرام میں طاؤس کے بدن پر گیسو سے رنگی ہوئی دو چادریں دیکھیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر السلمی سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کی آنکھوں کے درمیان (پیشانی پر) جدوں کا نشان دیکھا۔

اسماعیل بن مسلم سے مروی ہے کہ لوگوں نے حسن کے پاس طاؤس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ طاؤس (مور) کیا

ان کے عزیزوں سے یہ تہ ہو سکا کہ وہ اس کے سوا ان کا کوئی اور نام یا اس سے بہتر نام رکھتے۔ ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ ان کے پاس جب خطوط جمع ہو جاتے تو وہ انہیں جلوادیتے۔ حبیب بن ابی ثابت سے مروی ہے کہ مجھ سے طاؤس نے کہا کہ جب میں تم سے حدیث بیان کروں اور وہ ثابت کر دوں تو پھر اس کو ہرگز کسی سے نہ پوچھو۔

طاؤس سے مروی ہے کہ وہ یمن سے اس وقت آتے کہ لوگ عرفے میں ہوتے اور مکے سے پہلے عرفے سے (حج) شروع کرتے۔ عبدالکریم بن ابی الخارق سے مروی ہے کہ طاؤس نے ہم لوگوں سے کہا کہ جب میں طواف کروں تو مجھ سے کچھ نہ پوچھو کیونکہ طواف بھی نماز ہی ہے۔

ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ وہ انسان کے اللہ کے نام پر بھیک مانگنے کو ناپسند کرتے تھے۔ طاؤس سے مروی ہے کہ وہ اپنی کسی لڑکی کو خواہ وہ کالی ہو یا نہ ہو بغیر اس کے نہ رہنے دیتے تھے کہ اس سے عید الفطر و عید الاضحیٰ میں ہاتھ پاؤں پر مہندی لگواتے اور کہتے کہ یہ عید کا دن ہے۔

حفظہ سے مروی ہے کہ میں طاؤس کے ہمراہ جا رہا تھا ایک قوم پران کا گزر ہوا جو قرآن فروخت کر رہے تھے انہوں نے اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ پڑھا۔

محمد بن سعید سے مروی ہے کہ طاؤس کی دعا یہ تھی کہ ”اللّٰہُمَّ احْرَمْنِی الْمَالَ وَالْوَلَدَ وَارْزُقْنِی الْاِیْمَانَ وَالْعَمَلَ“ (اے اللہ مجھے مال اور اولاد سے محروم رکھ اور مجھے ایمان و عمل عطا کر)۔

طاؤس سے مروی ہے کہ میں کسی ساتھی کو مالدار اور ذی شرف سے زیادہ برا نہیں جانتا۔ عبداللہ بن طاؤس سے مروی ہے کہ طاؤس کہتے تھے کہ جب تمہیں یہودی و نصرانی سلام کرے تو اس سے کہو کہ ”عَلَاکَ السَّلْمُ“ (سلامت تجھ پر غالب رہے)۔ سلمہ بن وہرام سے مروی ہے کہ لوگ ایک چور کو طاؤس کے پاس لے گئے انہوں نے ایک دینار اس کا نڈیہ دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ طاؤس سے مروی ہے کہ وہ بروایت ابن عباس خلع و طلاق کا تذکرہ کرتے اور سعید بن جبیر اعتراض کرتے طاؤس ان سے ملے اور کہا کہ میں نے تمہارے پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھا ہے اور ایسے وقت میں اسے سنا ہے کہ تم اس وقت ترید (بھیگی روٹی) کی فکر میں رہتے تھے۔

ابن طاؤس نے اپنے والد سے روایت کی کہ مجھے اپنے ان عراقی بھائیوں سے تعجب ہے جو حجاج (بن یوسف) کو مومن کہتے ہیں۔ طاؤس سے مروی ہے کہ تم جو کچھ سیکھتے ہو اپنے لیے سیکھو کیوں کہ لوگوں سے امانت چلی گئی وہ حدیث کا حرف شمار کرتے تھے۔

قیس بن سعد سے مروی ہے کہ طاؤس ہم میں ایسے ہی تھے جیسے ابن سیرین تم لوگوں میں۔ ایوب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے طاؤس سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مجھے گلے میں رسی ڈال کر نچایا جائے۔ ایوب سے مروی ہے کہ ایک شخص نے طاؤس سے ایک مسئلہ دریافت کیا تو انہوں نے اسے جھڑک دیا اس نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن میں تو آپ کا بھائی ہوں انہوں نے کہا مسلمانوں کو میرا بھائی (کوئی نہیں)۔

داؤد بن شاور سے مروی ہے کہ ایک شخص نے طاؤس سے کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجئے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت اس کے لیے خلوص نہیں پاتا۔

ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ محمد بن یوسف نے طاؤس کو تحصیل وصول کے بعض کاموں پر مقرر کیا، ابراہیم نے کہا کہ میں نے طاؤس سے پوچھا کہ آپ نے کس طرح کام کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آدمی سے کہتے تھے کہ خدا تم پر رحم کرے تم اس مال کی زکوٰۃ دیتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، اگر وہ ہمیں دیتا تو اس سے لے لیتے اور اگر وہ پشت پھیرتا تو ہم اسے بلاتے نہ تھے۔

ابو اسحاق الصنعانی سے مروی ہے کہ طاؤس و وہب بن منبہ کسی اچھے وقت محمد بن یوسف برادر حجاج بن یوسف کے پاس گئے جو ہم پر عامل تھا، طاؤس کرسی (چارپائی) پر بیٹھ گئے، محمد نے کہا کہ اے غلام یہ طیلسان (چادر فارسی) ابو عبد الرحمن (طاؤس) کو اڑھا دو، ان لوگوں نے وہ انہیں اڑھا دی، وہ اپنے شانے ہلاتے رہے یہاں تک کہ اپنے اوپر سے طیلسان کو گرادیا۔

محمد بن یوسف کو غصہ آیا تو وہب نے طاؤس سے کہا کہ واللہ اگر تمہیں اس کے ہم پر ناراض کرنے کی پروا نہیں ہے تو نہ ہو تم اس طیلسان کو لے کر فروخت کر دیتے اور اس کی قیمت مساکین کو دے دیتے، انہوں نے کہا کہ ہاں، اگر ایسا نہ ہوتا کہ میرے بعد یہ کہا جاتا کہ اسے طاؤس نے لے لیا ہے، پھر اس میں وہ نہ کیا جاتا جو میں کرتا ہوں تو میں ضرور کرتا۔

عمران بن عثمان سے مروی ہے کہ عطا کہا کرتے کہ اس مسئلے میں طاؤس کیا کہتے ہیں، میں کہتا کہ اے ابو محمد آپ اسے کس سے لیتے ہیں، انہوں نے کہا، ثقہ طاؤس سے۔ ابی بشر سے مروی ہے کہ طاؤس نے قریش کے چند نوجوانوں سے جو کعبے کا طواف کر رہے تھے کہا کہ تم لوگ ایسا لباس پہنتے ہو جو تمہارے بزرگ نہیں پہنتے تھے اور تم لوگ ایسی چال چلتے ہو جو ناپنے والے بھی اچھی طرح نہیں چل سکتے۔

عبد الملک سے مروی ہے کہ طاؤس قارن ہو کر (یعنی حج قرآن کی نیت سے) آتے تھے مگر عرفات جانے تک مکہ نہیں آتے تھے۔ عبد اللہ بن طاؤس سے مروی ہے کہ والد کے ہمراہ ہمارا سفر مکہ ایک مہینے تک ہوتا تھا جب ہم لوگ واپس ہوتے تو وہ ہمیں دو مہینے تک چلاتے تھے، ہم نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آدمی اپنے مکان آنے تک اللہ ہی کی راہ میں رہتا ہے۔

مرض الموت اور وفات:

لیث سے مروی ہے کہ میں نے طاؤس کو مرض موت میں دیکھا کہ اپنے بستر پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور اسی پر سجدہ کرتے تھے۔ سیف بن سلیمان سے مروی ہے کہ طاؤس کی وفات کے میں یوم الترویہ (۸ ذی الحجہ) سے ایک روز پہلے ہوئی، ہشام بن عبد الملک نے اس سال حج کیا تھا اور وہ اسی ۱۰ھ میں خلیفہ ہوئے تھے، انہیں نے طاؤس کی نماز جنازہ پڑھائی، وفات کے دن ان کی عمر نانوے سال کی تھی۔

وہب بن منبہ رضی اللہ عنہما:

ابناء فارس میں سے تھے، کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میری امت میں دو شخص ہوں گے جن میں ایک وہب ہوگا جس کو اللہ حکمت عطا کرے گا اور دوسرا غیلان ہوگا جس کا فتنہ

اس امت پر شیطان کے فتنے سے بدتر ہوگا۔

داؤد بن قیس الصنعائی سے مروی ہے کہ میں نے وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ میں نے بانوے کتابیں پڑھی ہیں جو سب کی سب آسمان سے نازل کی گئی ہیں ان میں سے بہتر سبکی عبادت گاہوں اور لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں اور میں کو سوائے چند کے کوئی نہیں جانتا میں نے ان سب میں یہ مضمون پایا کہ جس نے مشیت کا کوئی حصہ بھی اپنی طرف منسوب کر لیا وہ کافر ہے۔

ثقی بن الصباح سے مروی ہے کہ وہب بن منبہ چالیس سال تک اس حالت میں رہے کہ کسی ذی روح کو براندہ کہا اور بیس سال تک اس طرح رہے کہ عشاء اور صبح کے درمیان وضو نہیں کیا وہب نے کہا کہ میں نے تیس کتابیں پڑھی ہیں جو تیس نبیوں پر نازل ہوئی ہیں۔

عبدالمعتم بن ادریس سے مروی ہے کہ وہب بن منبہ کی وفات صنعا میں ۱۰۱ھ میں شروع خلافت ہشام بن عبدالملک میں ہوئی۔
ہمام بن منبہ رضی اللہ عنہ:

ابناء فارس میں سے تھے اپنے بھائی وہب بن منبہ سے بڑے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے ہیں اور ان سے بہت روایت کی ہے وفات وہب سے پہلے ۱۰۱ھ یا ۱۰۲ھ میں ہوئی۔ کنیت ابو عقبہ تھی۔
معقل بن منبہ رضی اللہ عنہ:

ابناء میں سے تھے کنیت ابو عقیل تھی۔ وفات اپنے بھائی وہب سے پہلے ہوئی۔ ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔
عمر بن منبہ رضی اللہ عنہ:

ابناء میں سے تھے کنیت ابو محمد تھی ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔
عطاء بن مرکب رضی اللہ عنہ:

ابناء میں سے تھے ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔ قاری قرآن تھے وہ اور وہب بن منبہ بظاہر پہلے شخص تھے جنہوں نے یمن میں قرآن جمع کیا۔

مغیرہ بن حکیم الصنعائی رضی اللہ عنہ:

ابناء میں سے تھے۔

سہاک بن الفضل الخولانی رضی اللہ عنہ:

اہل صنعا میں سے تھے۔

عمرو بن مسلم الجندی رضی اللہ عنہ:

زیاد بن الشیخ رضی اللہ عنہ:

ابناء اہل صنعا میں سے تھے۔

طبقہ ثالثہ

عبداللہ بن طاؤس رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو محمد تھی، وفات امیر المؤمنین ابوالعباس کی خلافت کے شروع میں ہوئی۔

حکم بن ابان رضی اللہ عنہ:

اہل عدن میں سے تھے۔ ۱۵۳ھ میں وفات ہوئی۔

سلم الصنعانی رضی اللہ عنہ:

جو عطاء سے روایت کرتے ہیں۔

اسماعیل بن شروس رضی اللہ عنہ:

ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

معمر بن راشد رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو عمرو تھی، قبیلہ ازد کے مولیٰ تھے، راشد کی کنیت ابو عمرو تھی اور ازد کے مولیٰ تھے، وہ اہل بصرہ سے تھے، پھر منتقل ہو کر یمن میں رہ گئے، جب معمر بصرے سے روانہ ہوئے تو ابویوب نے ان کی مشایعت کی اور ان کی دعوت کی معمر اپنی ذات سے بامروت و حلیم و خجی آدمی تھے۔

عبید اللہ بن عمرو سے مروی ہے کہ میں بصرے میں ایوب کا کئے سے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ اس طرح آئے کہ معمر اونٹ پر ان کے ہم نشین تھے، معمر اپنی والدہ کی زیارت کے لیے آئے تھے، میں ان کے پاس آیا تو وہ مجھ سے عبدالکریم کی حدیث پوچھنے لگے، میں بیان کرنے لگا۔

محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات رمضان ۱۵۳ھ میں ہوئی، عبدالمنعم ابن ادریس نے کہا کہ ان کی وفات شروع ۱۵۳ھ میں ہوئی۔ سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ عبدالرزاق سے دریافت کیا کہ مجھے اس کے متعلق بتائیے جو لوگ معمر کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو کچھ (علم) تم لوگوں کے پاس تھا وہ انہیں کے ساتھ جاتا رہا، عبدالرزاق نے کہا کہ معمر کی وفات ہمارے پاس ہوئی اور ہمارے ہی پاس ان کی موت آئی، ان کی زوجہ سے ہمارے قاضی مطرف ابن مازن نے نکاح کیا۔

یوسف بن یعقوب رضی اللہ عنہما:

ابن ابراہیم بن سعید بن داؤد بن ابنا میں سے تھے، کنیت ابو عبد اللہ تھی، صنعا کے قاضی و مفتی تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ ان کی وفات ۱۵۳ھ میں ہوئی اور عبد المعتم بن ادریس نے کہا کہ ۱۵۱ھ میں ہوئی۔

بکار بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن سہوک ابنا میں سے تھے، چند میں رہتے تھے ان سے عبد اللہ بن المبارک وغیرہ نے روایت کی ہے۔

عبد الصمد بن معقل رضی اللہ عنہما:

ابن منبہ وہ وہب بن منبہ سے روایت کرتے ہیں۔

طبقہ رابعہ

رباح بن زید رضی اللہ عنہما:

مولائے خاندان معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، محمد بن عمر نے کہا کہ میں نے انہیں دیکھا ہے، صاحب فضل اور معمر بن راشد کی حدیث کے عالم تھے۔

مطرف بن مازن رضی اللہ عنہما:

کنیت ابویوب تھی، صنعا کے محکمہ قضا کے والی تھے۔ محمد بن عمر نے کہا کہ وہ کنانہ کے مولیٰ تھے اور بیچ میں ان کی وفات ہوئی، عبد المعتم بن ادریس نے کہا کہ قیس کے مولیٰ تھے اور وفات ہارون کے زمانہ خلافت میں رقد میں ہوئی۔

ہشام بن یوسف رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو عبد الرحمن تھی، ابنا میں سے تھے اور قاضی یمن تھے، معمر ابن جریج وغیرہما سے بکثرت روایت کی ہے۔ وفات ۱۵۷ھ میں یمن میں ہوئی۔

عبد الرزاق بن ہمام رضی اللہ عنہما:

ابن نافع، کنیت ابو بکر تھی، قبیلہ حمیر کے مولیٰ تھے، وفات وسط شوال ۲۱۱ھ کو یمن میں ہوئی۔ ہمام بن نافع کی روایت ہے۔ جو انہوں نے سالم بن عبد اللہ وغیرہ سے کی ہے۔

ابراہیم بن الحکم بن ابان رضی اللہ عنہما:

غوث بن جابر رضی اللہ عنہما:

اسماعیل بن عبد الکریم رضی اللہ عنہما:

ابن معقل بن منبہ کنیت ابوہشام تھی وفات ۲۱۰ھ میں یمن میں ہوئی۔

رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب جو یمامہ میں رہتے تھے

مجامعہ بن مرارہ رضی اللہ عنہ:

ابن سلمیٰ بن زید بن عبید بن ثعلبہ بن ربیع بن یزید بن الدول بن حنیفہ بن لجم بن صعب بن علی بن بکر بن وائل بن ربیعہ وہ اس وفد بنی حنیفہ کے ارکان میں تھے جو رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام لائے تھے۔

دخیل برادر زادہ مجامعہ بن مرارہ نے اپنے والد سے روایت کی کہ خالد بن الولید یمامہ کے ارادے سے جب فرض میں اترے تو انہوں نے دو سو سوار کے لشکر کو آگے بھیجا اور کہا کہ تم جن لوگوں کو پا جاؤ انہیں گرفتار کر لو وہ لوگ روانہ ہوئے انہوں نے مجامعہ بن مرارہ لکھنی کو ان کی قوم کے تیس آدمیوں کے ہمراہ جو بنی نمیر کے ایک شخص کی تلاش میں نکلے تھے گرفتار کر لیا۔

مجامعہ سے پوچھا گیا تو کہا کہ واللہ میں مسیلمہ کے قریب بھی نہیں جاتا میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا ہوں پھر میں اسلام لایا اور تبدل و تغیر نہیں کیا قوم کو خالد کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سب کی گردن مار دی مجامعہ کو باقی رکھا انہیں قتل نہیں کیا وہ شریف تھے انہیں ”مجامع الیمامہ“ (یمامہ کا بے حیا) کہا جاتا تھا۔

ساریہ بن عمرو نے خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اگر آپ کو اہل یمامہ کی ضرورت ہے تو ان کو یعنی مجامعہ بن مرارہ کو باقی رکھیے خالد رضی اللہ عنہ نے ان کو قتل نہیں کیا لوہے کی ایک مضبوط زنجیر میں جکڑ کر اپنی بیوی ام تمیم کے حوالے کر دیا انہوں نے مجامعہ کو اور مجامعہ نے حنیفہ کے فتح مند ہونے کی صورت میں ان کو قتل سے پناہ دے دی اس پر باہم حلف سے معاہدہ ہو گیا۔

خالد رضی اللہ عنہ انہیں بلا تے باتیں کرتے اور یمامہ و بنی حنیفہ و مسیلمہ کا حال دریافت کرتے مجامعہ کہتے کہ واللہ میں نے اس کی بیروی نہیں کی ہے میں تو مسلمان ہوں انہوں نے کہا کہ پھر تم کیوں نہ ہمارے پاس چلے آئے یا تم نے اس طرح کی گفتگو کیوں نہیں کی جس طرح کی ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ نے کی تھی انہوں نے کہا کہ اگر آپ کی رائے ان سب باتوں کو معاف کرنے کی ہو تو معاف کر دیجئے انہوں نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا۔ یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے قتل مسیلمہ کے بعد یمامہ اور اس کے اندر کی تمام چیزوں کے متعلق خالد بن الولید رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی خالد بن الولید رضی اللہ عنہ انہیں وفد کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے اور ان کے اسلام اور کارگزاری کا تذکرہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں معاف کر دیا اور امان دے دی ان کے اور وفد کے لیے امان نامہ لکھ دیا۔ اور ان لوگوں کو ان کے وطن یمامہ واپس کر دیا۔

ثمامہ بن أثال رضی اللہ عنہ:

ابن العنمان بن مسلمہ بن عبید بن ثعلبہ بن یربوع بن ثعلبہ بن الدول ابن الحنفیہ الحنفی رسول اللہ ﷺ کے ایک قاصدان کے پاس سے گزرے ثمامہ رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل کا ارادہ کیا ان کے چچا نے اس سے روکا رسول اللہ ﷺ نے ثمامہ رضی اللہ عنہ کا خون حلال کر دیا۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کی نیت سے روانہ ہوئے جب مدینے کے قریب آئے تو رسول اللہ ﷺ کے قاصدوں نے بغیر کسی عہد و پیمان کے انہیں گرفتار کر لیا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سزا دیں گے تو ایک گنہگار کو سزا دیں گے اور معاف کریں گے تو ایک شکر گزار کو معاف کریں گے۔

رسول اللہ ﷺ نے ان کا گناہ معاف کر دیا اور وہ اسلام لائے رسول اللہ ﷺ نے عمرے کے لیے مکہ جانے کی انہیں اجازت بھی دے دی وہ گئے اور عمرہ کر کے واپس آئے انہوں نے قریش پر تنگی کر دی یمامہ سے ایک دانہ بھی ان کے پاس نہ جانے دیتے۔

جب مسلمانہ ظاہر ہوا اور نبوت کا دعویٰ کیا تو ثمامہ بن أثال رضی اللہ عنہ اپنی قوم میں کھڑے ہوئے انہیں وعظ و نصیحت کی اور کہا کہ ایک ہی امر کے لیے دو نبی جمع نہیں ہوتے محمد ﷺ اللہ کے ایسے رسول ہیں کہ ان کے بعد کسی قسم کا نبی نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی نبوت کے ساتھ کوئی نبی شریک کیا جاتا ہے انہیں یہ آیت پڑھ کر سنائی:

﴿حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو

اليه المصير﴾

”حم۔ کتاب کا نازل کرنا اللہ زبردست دانا کی طرف سے ہے جو گناہ کا معاف کرنے والا اور توبہ کا قبول کرنے والا سخت سزا دینے والا مقدر والا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے پاس پھر جانا ہے۔“

یہ کلام اللہ ہے یہ (کلام مسلمانہ) اس کے مقابلے میں کہاں ہے اے مینڈک یہ ایسی پاک و صاف ہے کہ نہ شراب کو روکتی ہے اور نہ پانی کو گندہ کرتی ہے واللہ تم لوگ بھی سمجھتے ہو کہ یہ وہ کلام ہے جو کہنے سے نہیں نکلا ہے۔ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ یمامہ آئے تو ان کے اس فعل کو پسند کیا اور اس سے ان کے اسلام کی صحت کو پہچانا۔

علی بن شیبان رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن عبد اللہ بن عمرو بن عبد العزیز بن عجم بن مرہ بن الدول بن حنیفہ۔ عبد الرحمن بن علی نے اپنے والد سے جو وفد میں تھے روایت کی کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی آنحضرت ﷺ نے سبھیوں سے ایک شخص کو دیکھا کہ رکوع و سجدہ میں اپنی پیٹھ سیدھی نہیں کرتا نماز پوری کر لی تو فرمایا کہ اے گروہ مسلمان اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو رکوع و سجدہ میں اپنی پیٹھ سیدھی نہ کرے۔

ہم نے آنحضرت ﷺ کے پیچھے دوسری نماز پڑھی آنحضرت ﷺ نے نماز پوری کر لی ایک شخص تنہا صف کے پیچھے

نماز پڑھ رہا تھا، آنحضرت ﷺ نماز پوری کر کے اس کے پاس کھڑے ہوئے، اس شخص نے بھی نماز پوری کر لی تو آنحضرت ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نماز دوبارہ پڑھو، کیوں کہ صف کے پیچھے تہا شخص کی نماز نہیں ہوتی۔ عبدالرحمن بن علی بن شیبان نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھتا جو رکوع و سجود کے درمیان پشت سیدھی نہیں کرتا۔

طلق بن علی الحنفی رضی اللہ عنہ:

وہ ابو قیس بن طلق تھے۔ طلق سے مروی ہے کہ ہم لوگ بطور وفد نبی ﷺ کی جانب روانہ ہوئے، خدمت نبوی میں آئے اور بیت کی ساتھ نماز پڑھی۔ عرض کی ہمارے وطن میں ایک مسجد عبادت خانہ ہے، ہم نے خواہش کی کہ وضو کا بچا ہو پانی عنایت ہو، آنحضرت ﷺ نے پانی منگا کر اس سے وضو کیا اور کھلی کی پھرا سے ایک چمڑے کے ظرف میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ، جب تم اپنے وطن میں آنا تو مسجد عبادت خانے کو توڑ ڈالنا اور اس کی جگہ اس پانی سے دھو کر مسجد بنا لینا۔

عرض کی یا رسول اللہ ﷺ گرمی سخت ہے اور وطن دور پانی خشک ہو جائے گا، فرمایا: اس میں پانی ملاستے رہنا کیونکہ وہ اس کی پاکیزگی ہی بڑھائے گا۔ ہم لوگ روانہ ہوئے، اپنے وطن آئے، مسجد عبادت خانہ توڑ ڈالا اور اس کی جگہ کو دھویا، وہاں مسجد بنا کر نماز کی اذان کہی۔

طلق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوا کہ آنحضرت اپنی مسجد بنا رہے تھے اور مسلمان اس میں کام کر رہے تھے، میں مٹی کا گار بنانا جانتا تھا، پھاوڑہ لے کر گار بنانے لگا، رسول اللہ ﷺ میری طرف دیکھ کر فرما رہے تھے کہ یہ حنفی گارے کا کام جانتا ہے۔ قیس بن طلق نے اپنے والد سے روایت کی کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو نہ روکے خواہ وہ (عورت) کجاوے کی پشت پر ہو۔ نبی ﷺ نے فرمایا کہ ایک شب میں دو وتر (نمازیں) نہیں ہیں۔

خدمت نبوی میں ایک شخص آیا، عرض کی یا نبی اللہ ہم میں سے جب کوئی اپنی شرمگاہ چھوئے تو کیا وضو کرے، فرمایا: وہ تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ہی ہے (جیسے اور حصوں کے چھونے سے وضو نہیں ہے اسی طرح اس سے بھی نہیں ہے)۔

ایک شخص بعد ظہر حاضر خدمت ہوا اور عرض کی یا نبی اللہ! کیا ہم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے، آنحضرت ﷺ نے سکوت فرمایا، عصر کی نماز کا وقت آیا تو اپنا تہبند کھول ڈالا اور چادر پر تہبند باندھ کے دونوں کو اپنے کندھے پر ڈال لیا، جب نماز عصر ادا کر لی اور فارغ ہوئے تو فرمایا کہ وہ شخص جو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کو دریافت کرتا تھا کہاں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ یا نبی اللہ میں ہوں، فرمایا: کیا ہر شخص دو کپڑے پاسکتا ہے۔

ہر ماس بن زیاد الباہلی رضی اللہ عنہ:

ہر ماس بن زیاد الباہلی سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس حالت میں دیکھا کہ والد مجھے اپنے اونٹ پر اپنے

ساتھ بٹھائے ہوئے تھے میں چھوٹا بچہ تھا میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ یوم الاضحیٰ (۱۰ ذی الحجہ) کو منیٰ میں اپنی کان کٹی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ہر ماس بن زیاد الباہلی جی اللہ سے مروی ہے کہ میں یوم الاضحیٰ کو اونٹ پر والد کا ہم نشین تھا اور منیٰ میں نبی ﷺ اپنی اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔

جاریہ ابو نمران الحنفی جی اللہ سے:

نمران بن جاریہ الحنفی نے اپنے والد سے روایت کی کہ ایک قوم نے ایک جھونپڑی کے بارے میں باہم جھگڑا کیا اور مقدمہ نبی ﷺ کے پاس لائے۔ آنحضرت ﷺ نے حذیفہ جی اللہ سے کو ان کے ہمراہ کر دیا حذیفہ جی اللہ نے فیصلہ ان لوگوں کے حق میں کیا جن کے قریب رسی تھی وہ نبی ﷺ کی خدمت آئے اور آنحضرت ﷺ سے اس کا ذکر کیا آنحضرت ﷺ نے اس کو جائز رکھا۔



یمامہ کے حسب ذیل فقہاء و محدثین

ضمضم بن حوس البغفانیؒ:

انہوں نے ابو ہریرہ و عبد اللہ بن حظلہ رضی اللہ عنہما سے اور ان سے عکرمہ بن عمار وغیرہ نے روایت کی ہے۔

ہلال بن سراجؒ:

ابن مجاہد الحنفی ان سے یحییٰ بن ابی کثیر نے روایت کی ہے۔

ابو کثیر الغبریؒ:

نام یزید بن عبد الرحمن بن امیہ بن اذینہ الحنفی تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملے اور ان سے روایت کی ابو کثیر سے اوزاعی و عکرمہ

بن عمار نے روایت کی ہے۔

عبد اللہ بن اسودؒ:

عکرمہ ڈاک کے افسر تھے۔

ابو سلیمانؒ:

نام موطور تھا ان سے یحییٰ بن کثیر نے روایت کی ہے۔

یحییٰ بن ابی کثیرؒ:

طے کے مولا اور اہل بصرہ میں سے تھے یمامہ میں منتقل ہو گئے۔ یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی سے مروی ہے کہ میں نے اپنے چچا

نصر بن یحییٰ بن ابی کثیر کو دیکھا ہے انہیں کے نام سے یحییٰ بن ابی کثیر الیمامی کی کنیت تھی (یعنی ابونصر) دوسرے راوی نے کہا کہ یحییٰ بن ابی کثیر کی کنیت ابویوب تھی۔

یوب السخنی سے مروی ہے کہ روئے زمین پر یحییٰ بن ابی کثیر کے مثل کوئی باقی نہیں ہے۔ اسماعیل بن علیہ سے مروی ہے

کہ میں یوب کے پاس حاضر تھا جب وہ یحییٰ بن ابی کثیر کو خط لکھ رہے تھے۔ سفیان بن عیینہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ یحییٰ بن ابی کثیر کے اپنے پاس آنے کی امید کرتے تھے۔ ابو نعیم الفضل بن دکین سے مروی ہے کہ یحییٰ بن ابی کثیر کی وفات ۱۲۹ھ میں ہوئی۔ بنی تمیم کے ایک اہل علم نے کہا کہ کثیر کا نام دینا تھا۔

عکرمہ بن عمارؒ:

انہوں نے ایاس بن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، ہرماس بن زیاد الباہلی، عاصم بن شیبغ الغیلانی سے جو بنی تمیم کے ایک فرد تھے

عطاء بن ابی رباح، ضمضم بن حوس، حضرمی بن لاحق، یحییٰ بن ابی کثیر، ابوالنجاہی مولائے رافع بن خدیج، طارق بن عبد الرحمن القرشی اور

ساک الحنفی ابو زمیل سے روایت کی ہے، قاسم بن محمد، سالم بن عبد اللہ، نافع مولائے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، طاؤس ابو کثیر الغمری اور یزید الرقاشی سے سنا ہے۔

ایوب بن عقبہ رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یحییٰ تھی، یمامہ کے قاضی تھے، انہوں نے ایاس بن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، قیس بن طلق اور عبد اللہ بن بدر سے روایت کی ہے، ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم و طیسلمہ ابن علی و ابو کثیر الغمری الحنفی و ابو النجاشی مولائے رافع بن خدیج و یحییٰ بن ابی کثیر و یزید بن عبد اللہ بن قبیط سے سنا ہے۔

عبد اللہ بن یحییٰ رضی اللہ عنہما:

ابن ابی کثیر، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ہے۔

خالد بن الہیثم رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو الہیثم تھی، بنی ہاشم کے مولیٰ تھے، انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے اور ان سے محمد بن عمر نے بہت سی احادیث روایت

کی ہیں۔

محمد بن جابر الحنفی رضی اللہ عنہما:

کوفہ میں پیدا ہوئے، عمیر بن سعید سے سنا ہے۔

ایوب بن التجار الیمامی رضی اللہ عنہما:

یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی ہے۔

عمر بن یونس الیمامی رضی اللہ عنہما:

مکرمہ بن عمار سے روایت کی ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے وہ اصحاب جو بحرین میں تھے

ابن عبد قیس رضی اللہ عنہ (منذر بن عائد):

محمد بن سعد نے کہا کہ ہم سے ان کے نام میں اختلاف کیا گیا ہے۔ عروۃ بن الزبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے فرمان سے بحرین کے میں آدمی حاضر خدمت ہوئے جن کے رئیس عبد اللہ بن عوف الأشجعی رضی اللہ عنہ تھے، ان میں بنی عبید کے تین آدمی بنی غنم کے تین آدمی اور بنی عبد القیس کے بارہ آدمی تھے، ہمراہ جارود نصرانی بھی تھے۔ عبد الحمید بن جعفر نے اپنے والد سے روایت کی کہ جس وقت یہ لوگ آئے رسول اللہ ﷺ سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ ﷺ وفد عبد القیس حاضر ہے، فرمایا: انہیں مرحبا، عبد القیس کیسی اچھی قوم ہے، اس روز ان کے رئیس عبد اللہ ابن عوف الأشجعی رضی اللہ عنہ تھے۔

وفد آیا، جب ان لوگوں سے ذکر کیا گیا تو رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، سب نے کہا کہ ہم رسول اللہ ﷺ

کو سلام کریں گے۔ وہ لوگ اپنے کپڑوں میں آئے، اونٹ رملہ بنت الحدث کے مکان کے دروازے پر بٹھا دیئے تھے ارکان و فدویٰ کیا کرتے تھے۔

انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو سلام کیا، رسول اللہ ﷺ ان سے دریافت فرمانے لگے کہ تم میں عبد اللہ الاشجعیؓ کون ہے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! ابھی آتے ہیں، عبد اللہؓ نے اپنے سفر کے کپڑے اتار کے اچھے کپڑے پہن لیے تھے، گندی رنگ کے آدی تھے، جب آئے تو رسول اللہ ﷺ نے ایک گندی رنگ کا آدی دیکھا۔ عبد اللہ نے عرض کی یا رسول اللہ! انسان کی کھال کی مٹک میں پانی نہیں پیا جاتا، انسان کو تو صرف اس کی دوسب سے چھوٹی چیزوں کی حاجت ہوتی ہے یعنی دل اور زبان کی، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں دو حصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، عرض کی یا رسول اللہ! وہ دونوں کون سی ہیں، فرمایا، ”علم اور انتظار“ عرض کی یا رسول اللہ! یہ وہ چیز ہے جو پیدا ہوگئی ہے یا میری فطرت اسی پر ہے، فرمایا، تمہاری فطرت اسی پر ہے۔

رسول اللہ ﷺ کی ضیافت وفد عبد القیس پر دس روز تک جاری رہی، عبد اللہ الاشجعیؓ رسول اللہ ﷺ سے فقہ و قرآن دریافت کرتے، اور جب بیٹھے تو رسول اللہ ﷺ انہیں اپنے نزدیک کر لیتے، ابی بن کعبؓ آتے اور انہیں قرآن سناتے۔ رسول اللہ ﷺ نے وفد کے لیے انعامات کا حکم دیا، ان سب پر عبد اللہ الاشجعیؓ کو فضیلت دی، آنحضرت ﷺ نے انہیں ساڑھے بارہ اوقیہ عطا فرمایا، رسول اللہ ﷺ وفد کو جو انعامات دیا کرتے تھے یہ اس سے زیادہ تھا۔

یونس سے مروی ہے کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ نے دعویٰ کیا کہ اشجعیؓ نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا کہ تم میں دو عادتیں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، عرض کی وہ دونوں کون سی ہیں، فرمایا، ”حلم و حیا“، عرض کی یہ دونوں قدیم ہیں یا جدید فرمایا، قدیم۔ عرض کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی دو حصلتوں پر پیدا کیا، جنہیں وہ پسند کرتا ہے۔

راوی نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے اشجعیؓ سے فرمایا کہ تم میں دو عادتیں ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ کون سی ہیں، فرمایا، حلم و حیا۔ عرض کی کیا اس کو میں نے اسلام میں حاصل کیا ہے یا میری فطرت اسی پر ہے۔ فرمایا، تمہاری فطرت اسی پر ہے، عرض کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے ایسی فطرت پر پیدا کیا جسے وہ پسند کرتا ہے۔

ہشام بن محمد بن سائب الکھلی نے اپنے والد سے روایت کی کہ اشجعیؓ کا نام منذر بن الحارث بن عمرو بن زیاد بن عمرو بن عوف بن عمرو بن عوف بن جذیمہ بن عوف بن بکر بن عوف بن انمار بن عمرو بن ودیعہ بن لکیز بن افضی بن عبد القیس ابن افضی بن دعی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ تھا، لیکن علی بن محمد بن عبد اللہ ابن ابی یوسف المدائنی نے کہا کہ ان کا نام منذر بن عائد بن الحارث بن المنذر ابن العمان بن زیاد بن عمرو تھا۔ حسن سے مروی ہے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ ﷺ نے عائد بن المنذر الاشجعیؓ سے فرمایا۔ محمد بن بشر العبیدی نے کہا کہ میں نے اپنے شیخ سحری سے اشجعیؓ کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ان کا نام منذر بن عائد تھا۔

جارود رضی اللہ عنہ:

نام بشر بن عمرو بن حنش بن المعلى تھا جو حارث بن زید بن حارثہ بن معاویہ ابن ثعلبہ بن جذیمہ بن عوف بن بکر بن عوف بن انمار تھے انہیں جارود رضی اللہ عنہ اس لیے کہا گیا کہ عبد القیس کا علاقہ ان کے باعث تباہ ہو گیا کچھ بقیہ رہ گیا تھا تو وہ اسے اپنے ماموں کے یہاں جو بنی شیبان کے بنی ہند میں سے تھے جلدی سے لے گئے اور ان میں مقیم ہو گئے ان کا اونٹ خارش تھا اس نے لوگوں کے اونٹوں میں خارش پھیلا دی تو وہ مر گئے لوگوں نے کہا کہ بشر نے سب کو تباہ کیا بس ان کا نام جارود (ہلا کو) رکھ دیا گیا۔ شاعر کہتا ہے:

جو دن اہم بالسيف من كل جانب كما جرد الجارود بکر بن وائل

”ہم نے ان کو ہر طرف سے تلوار سے ہلاک کیا جیسا کہ جارود نے بکر بن وائل کو ہلاک کیا۔“

جارود کی والدہ درمکہ بنت رویم ہمشیرہ یزید بن رویم پدر حوشب ابن یزید الشیبانی تھیں جارود جاہلیت میں شریف تھے اور نصرانی تھے وفد کے ہمراہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئے رسول اللہ ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور اس کو ان کے سامنے پیش کیا جارود نے عرض کی میں ایک دین پر تھا اب آپ کے دین کے لیے اپنا دین ترک کر دوں گا تو کیا آپ میرے دین کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے اس امر کا ذمہ دار ہوں کہ اللہ نے تمہیں ایسے دین کی ہدایت کی جو اس سے بہتر ہے جارود اسلام لائے ان کا اسلام اچھا تھا کذب کا ان پر الزام نہیں لگایا گیا تھا۔

وطن کی واپسی کا ارادہ کیا تو نبی ﷺ سے سواری مانگی فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر تمہیں سوار کرادوں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میرے اور میرے وطن کے درمیان بہت سے راستے بھولے ہوئے اونٹ ہیں کیا میں ان پر سوار ہوں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ وہ تو دوزخ کا ایندھن ہیں ان کے قریب نہ جانا۔

جارود نے ارتداد کا زمانہ پایا تھا جب معرور بن المذہر بن النعمان کے ساتھ ان کی قوم واپس آئی تو جارود کھڑے ہوئے شہادت حق ادا کی اسلام کی دعوت دی اور کہا کہ اے لوگو! میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اور جو شہادت نہ دے گا میں اس کے لیے کافی ہوں پھر یہ شعر پڑھا:

رضينا بدين الله من كل حادث وباللّٰه والرحمن نوضي به ربنا

”ہم ہر حادثے میں اللہ کے دین پر راضی ہیں اور ہم اللہ والرحمن کے رب ہونے کو پسند کرتے ہیں۔“

عبداللہ بن عامر بن ربیعہ سے مروی ہے کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے قدامہ ابن مظعون کو بحرین کا والی بنایا قدامہ رضی اللہ عنہ اپنے عہدے پر روانہ ہو گئے انہوں نے اس طرح انتظام کیا کہ نہ تو کسی مقدمے میں شکایت کی جاتی تھی نہ کسی خلیل کی سوائے اس کے کہ وہ نماز میں حاضر نہ ہوتے تھے۔

سردار عبد القیس جارود عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین قدامہ رضی اللہ عنہ نے شراب پی ہے میں نے

اللہ کے حدود میں سے ایک حد دیکھی ہے مجھ پر واجب ہے کہ اسے آپ کے پاس پہنچا دوں عمر بنی اللہ نے کہا کہ تمہارے بیان پر کون گواہ ہے۔ جارود نے کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

عمر بنی اللہ نے قدامہ بنی اللہ کو اپنے پاس آنے کو لکھا وہ آئے جارود آ کر عمر بنی اللہ سے گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ان پر کتاب اللہ کو قائم کیجئے عمر بنی اللہ نے پوچھا کہ تم گواہ ہو یا فریق جارود نے کہا کہ میں گواہ ہوں عمر بنی اللہ نے کہا کہ تم نے اپنی شہادت ادا کر دی ہے جارود خاموش ہو گئے۔

دوسرے روز پھر عمر بنی اللہ کے پاس گئے اور کہا ان پر حد قائم کیجئے عمر بنی اللہ نے کہا کہ مجھے تو تم فریق ہی معلوم ہوتے ہو ان کے خلاف صرف ایک ہی شخص گواہ ہے دیکھو خبردار تم اپنی زبان قابو میں رکھو ورنہ میں تم سے بری طرح پیش آؤں گا۔ جارود بنی اللہ نے کہا کہ واللہ یہ تو حق نہیں ہے کہ شراب تمہارے چچا کا بیٹا پیئے اور برائی تم میرے ساتھ کرو۔ پھر عمر بنی اللہ نے انہیں روک دیا۔

عبدالرحمن بن سعید بن ربیع سے مروی ہے کہ جارود العبیدی جب آئے تو انہیں عبداللہ بن عمر بنی اللہ ملے اور کہا کہ واللہ امیر المؤمنین تمہیں ضرور تازیانے ماریں گے جارود بنی اللہ نے کہا کہ واللہ تمہارے ماموں کو تازیانے ماریں گے یا تمہارے والد اپنے رب کا گناہ کریں گے اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما تم اس خبر سے مجھے دل شکستہ کرنا چاہتے ہو۔

جارود عمر بنی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ ان پر کتاب اللہ قائم کیجئے عمر بنی اللہ نے انہیں جھڑک دیا کہ واللہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو تمہارے ساتھ یہی کرتا جارود نے کہا کہ واللہ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں اس کا قصد نہ کرتا عمر بنی اللہ نے کہا کہ تم نے سچ کہا واللہ تم گھر سے کنارہ کش اور بڑے خاندان والے ہو عمر بنی اللہ نے قدامہ بنی اللہ کو بلا کر تازیانے مارے۔ علی بن محمد سے مروی ہے کہ جارود کہا کرتے تھے کہ میں عمر بنی اللہ کے بعد قریشی کے خلاف قریشی کے سامنے شہادت دیتے ڈرتا تھا۔

حکم بن ابی العاص نے جارود کو جنگ سہرگ میں بھیجا ۲۰ھ میں عقبہ الظہین میں شہید کر دیئے گئے اسی لیے اس کو عقبہ الجارود کہا جاتا ہے جارود کی کنیت ابو غیاث تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابو المہذرتھی۔

ان کی اولاد میں منذر و حبیب و غیاث تھے جن کی والدہ امامہ بنت العثمان جذیمہ کے نصفات میں سے تھیں۔ عبداللہ و سلم ان دونوں کی والدہ دختر جد تھیں کہ عبدالقیس کے بنی عایش کے ایک فرد تھے۔ مسلم و حکم جن کی بقیہ اولاد نہ تھی وہ بختان میں قتل کر دیئے گئے اور ان کے بیٹے اشراف تھے۔

منذر بن جارود سردار و سخی تھے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے انہیں اصطر کا والی بنایا تھا جو شخص ان کے پاس آتا وہ اس کے ساتھ احسان کرتے عبید اللہ بن زیاد نے انہیں سرحد ہند کا والی بنایا وہیں ۶۱ھ یا شروع ۶۲ھ میں ان کی وفات ہوئی اس وقت وہ ساٹھ سال کے تھے۔

صہار بن عباس العبیدی رضی اللہ عنہ:

بنی مرہ بن ظفر بن الدیل کے تھے کنیت ابو عبدالرحمن تھی وہ بھی وفد عبدالقیس میں تھے۔ خالدہ بنت طلح سے مروی ہے کہ مجھ سے والد نے کہا کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ صہار عبدالقیس آئے عرض کی یا رسول اللہ اس شراب کے

بارے میں کیا حکم ہے جو ہم اپنے بھلوں سے بناتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا انہوں نے تین مرتبہ یہی پوچھا۔

رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی نماز ادا کر لی تو فرمایا کہ نشہ کرنے والی چیز کو کون دریافت کرتا تھا تم مجھ سے نشہ والی چیز کو پوچھتے ہو تو نہ اسے تم خود پیو اور نہ اپنے بھائی کو پلاؤ کیونکہ تم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد ﷺ کی جان ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اسے نشہ کی لذت حاصل کرنے کے لیے پے اور پھر وہ اسے قیامت کے دن شراب پلائے صماریان لوگوں میں تھے جنہوں نے خون عثمان رضی اللہ عنہ کا مطالبہ کیا تھا۔

سفیان بن خولی رضی اللہ عنہ:

ابن عبد عمرو بن خولی بن ہمام بن الناسک بن جابر بن جدر جان بن عیاس ابن لیث بن حداد بن ظالم بن ذبل بن عجل بن عمرو بن وریع بن لکیز بن افضی ابن عبد القیس وفد کے ساتھ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حارث بن مزیدہ رضی اللہ عنہ:

ابن مالک بن ہمام بن معاویہ بن شبابہ بن عامر بن خطمہ بن عمرو بن حارث عبد القیس کے تھے بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے تھے۔

عبیدہ بن مالک رضی اللہ عنہ:

ابن ہمام بن معاویہ بن شبابہ بطور وفد نبی ﷺ کے پاس آئے تھے۔

زارع بن الوازع العبیدی رضی اللہ عنہ:

وفد عبد القیس میں تھے۔ اس کے بعد انہوں نے بصرے کی سکونت اختیار کر لی تھی۔

ابان العبیدی رضی اللہ عنہ:

وفد میں تھے بعض نے حدیث میں کہا کہ وہ غسان تھے۔

جابر بن عبد اللہ العبیدی رضی اللہ عنہ:

معتز بن حیان العبیدی رضی اللہ عنہ:

یہ ان اشج کے بھانجے تھے جن کے چہرے پر نبی ﷺ نے مسح کیا تھا (اور داد کی شکایت رک گئی تھی)۔

عمرو بن المرجوم رضی اللہ عنہ:

مرجوم کا نام عبد قیس بن عمرو بن شہاب بن عبد اللہ بن عصر بن عوف ابن عمرو تھا عبد القیس کے تھے وفد میں تھے یہی ہیں جو

خاندان عبد القیس میں سب سے پہلے بصرہ آئے۔

شہاب بن المتروک رضی اللہ عنہ:

متروک کا نام عباؤ بن عبید بن شہاب بن عبد اللہ بن عصر تھا عبد القیس کے تھے اور وفد میں تھے۔

عمر و بن عبد قیس رضی اللہ عنہ:

بنی عامر بن عصر سے تھے ان کے بھانجے اور ان کی دختر ابامہ بنت اللاح کے شوہر تھے انہیں انج نے بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کا علم حاصل کریں اور کھجور بار کرادی جس سے ظاہر ہو کہ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں ساتھ بنی عامر ابن الحارث کا ایک رہبر جس کا نام اریقط تھا کر دیا ان سے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آنحضرت ﷺ ہدیہ نوش فرماتے ہیں اور صدقہ نہیں کھاتے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے لہذا تم اس کا علم حاصل کرو۔

عمر و بن عبد قیس روانہ ہوئے ہجرت کے سال مکہ آئے نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کھجوریں لائے عرض کی یہ صدقہ ہے آنحضرت ﷺ نے اس کو قبول نہیں فرمایا پھر اس کو انہوں نے کسی اور کے ہاتھ بھجوایا اور کہا کہ یہ ہدیہ ہے آنحضرت ﷺ نے اسے قبول فرمایا انہوں نے حیلہ کیا اور آنحضرت ﷺ کے شانوں کے درمیان دیکھ لیا نبی ﷺ نے انہیں اسلام کی دعوت دی وہ اسلام لائے۔ آنحضرت ﷺ نے انہیں ”الحمد“ اور ”اقراء باسم ربک الذی خلق“ تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ اپنے ماموں کو دعوت دو۔

عمر و اپس ہوئے ان کا رہبر کے میں مقیم ہو گیا یہ بحرین آئے گھر میں اسلامی سلام کے ساتھ داخل ہوئے ان کی بیوی نفرت سے اپنے والد کے پاس چلی گئیں اور کہا کہ رب کعبہ کی قسم عمر و بنی ہذیل بے دین ہو گئے باپ نے بیٹی کو جھڑک دیا اور کہا کہ میں اس عورت کا دشمن ہوں جو اپنے شوہر کی مخالفت کرے۔

انج ان کے پاس آئے تو انہیں انہوں نے واقعہ بتایا اور کچھ زمانے تک اپنا اسلام چھپایا پھر وہ اپنے اسلام کو پوشیدہ کیے ہوئے اہل ہجر کے سترہ اور بقول بعض بارہ آدمیوں کے ہمراہ بطور وفد نبی ﷺ کی جانب روانہ ہوئے یہ لوگ نبی ﷺ کی خدمت میں آ کر اسلام لائے۔

طریف بن ابان رضی اللہ عنہ:

ابن سلمہ بن جار یہ جو بنی جدیلہ بن اسد بن ربیعہ کے تھے بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں آئے۔

عمر و بن شعیب رضی اللہ عنہ:

عبد القیس کے بنی عصر میں سے تھے بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

جار یہ بن جار بن رضی اللہ عنہ:

بنی عصر کے تھے اور وفد میں شریک تھے۔

ہمام بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

بنی عصر کے تھے اور وفد میں شریک تھے۔

خرزیمہ بن عبد عمرو رضی اللہ عنہ:

بنی عصر کے تھے اور وفد کے ایک رکن تھے۔

عامر بن عبد قیس رضی اللہ عنہ:

بنی عامر بن عمرو کے تھے اور وفد میں شریک تھے ان عمرو بن عبد قیس کے بھائی تھے جن کو الاشج نے رسول اللہ ﷺ کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔

عقبہ بن جروہ رضی اللہ عنہ:

بنی صباح بن لکیز بن افضی بن عبد القیس کے تھے اور وفد میں تھے۔

مطر رضی اللہ عنہ:

عقبہ بن جروہ کے اخیافی بھائی اور قبیلہ عمرہ کے حلیف تھے۔

سفیان بن ہمام رضی اللہ عنہ:

بنی ظفر بن ظفر بن محارب بن عمرو بن ودیعہ بن لکیز بن افضی بن عبد القیس سے تھے بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں آئے تھے۔ ان کے فرزند:

عمرو بن سفیان رضی اللہ عنہ:

یہ وہی شخص ہیں کہ ابن الاصحث جب بصرہ آئے تو انہیں کے مکان میں اترے بعد کوزاویہ چلے گئے۔

حارث بن جندب العبدی رضی اللہ عنہ:

بنی عائش بن عوف بن الدیل سے تھے اور بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

ہمام بن معاویہ رضی اللہ عنہ:

ابن شیبہ بن عامر بن حطمہ عبد القیس سے تھے اور بطور وفد نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔



طبقات ابن سعد

حصہ ششم

اصحابِ کوفہ و تابعینؓ

وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ جنہوں نے کوفہ کی اقامت اختیار کی جو اصحاب علم و فن اور صاحب فتویٰ و تقویٰ کہلائے جن کے دم قدم سے دینی علم کی مشعلیں روشن ہوئیں محفلوں میں علم و عرفان کے پھول کھلے اور جو اسلامی تہذیب و روایت کا مرقع ثابت ہوئے۔ نیز ان کے بعد آنے والے تابعین اور اہل علم و فقہ کے حالات۔

مصنف

محمد بن سعد (البتوی ۲۳۰ھ)

ترجمہ

مولوی نذیر الحق میرٹھی

نقیس اکیسی
اُردو بازار، کراچی طبعی

طبقات ابن سعد

کے اردو ترجمہ کے دائمی حقوق طباعت و اشاعت

چوہدری طارق اقبال گامندری

مالک "نفیس اکیڈمی" محفوظ ہیں

نام کتاب طبقات ابن سعد (حصہ ششم)

مصنف علامہ محمد بن سعد المتوفی ۲۴۰ھ

مترجم مولوی نذیر الحق میرٹھی

اضافہ عنوانات و حواشی مولانا عبدالمنان صاحب

ناشر نفیس اکیڈمی اردو بازار - کراچی

قیمت /- روپے

نفیس اکیڈمی
اردو بازار، کراچی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کوفہ میں اقامت اختیار فرمانے والے صحابہ کرام

اور تابعین عظام رضی اللہ عنہم

از: چوہدری محمد اقبال سلیم گاہنڈری

یہ کتاب جو اس وقت آپ کے پیش نظر ہے اسلامی تاریخ و تذکرہ کی قدیم ترین کتاب اور خیر القرون کے بزرگوں کا قدیم ترین تذکرہ طبقات ابن سعد کا حصہ ششم ہے۔ ابن سعد کی وفات ۲۳۰ھ میں ہوئی ہے۔

یہ کتاب ہمیشہ ہی سے قدیم ترین اور وسیع ترین ماخذ تاریخ میں شمار ہوتی رہی ہے۔ اور زمانہ مابعد کے ارباب تاریخ مثلاً ابن الاثیر جزیری، ابن کثیر دمشقی، ابن خلدون المغربی اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہم جیسے بزرگان تاریخ و روایات نے اس کتاب کو بطور ماخذ تاریخ اپنی جلیل القدر تصانیف میں ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ اس کتاب کی عظمت و افادیت کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ اہل علم کے نزدیک اس کتاب کا مطالعہ تاریخ اسلامی کے ہر طالب علم کے لیے ناگزیر سمجھا جاتا ہے۔

اس عظیم و وسیع کتاب کا یہ حصہ جو اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ چھٹا حصہ ہے۔ اس میں ابن سعد نے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حال لکھا ہے۔ جو شہر کوفہ میں آئے تھے۔ اور ان تابعین یعنی شاگردان صحابہ رضی اللہ عنہم کا تذکرہ کیا ہے۔ جو عموماً شہر کوفہ میں رہتے تھے۔ شہر کوفہ عہد خلافت فاروقی میں ایک فوجی چھاؤنی کی حیثیت سے آباد ہوا اور بہت جلد ایک اچھا بڑا شہر بن کر تیار ہو گیا۔ بلکہ عراق میں اس کا کل وقوع سابق دولت ساسانیہ ایران کے مقبوضات عراق میں بحری راستہ کے قریب اور سرزمین عرب سے نزدیک ہونے کی وجہ سے فوجی اور کشوری دونوں اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ جہاں ابتداء ہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما قیام پذیر تھے۔ اور جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ جیسے خلیفہ راشد کی مسند خلافت بھی ہوئی تھی۔

یہی وہ شہر ہے جہاں حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ اور امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ زمانہ ابن سعد رضی اللہ عنہ سے پہلے ہی یہ شہر اہل روایات، اہل قانون اور زبان دانوں کا مرکز بن چکا تھا۔ اور ابن سعد کی پیدائش سے پہلے ہی کوفہ کے نواح میں عباسی خلفاء کا اولین دار الخلافہ انبار تعمیر ہو چکا تھا۔ یہیں سے تاریخ اسلامی کے تمدن آفریں دور کی ابتداء ہوتی ہے۔ جس کی تکمیل خلیفہ منصور کے نو تعمیر شہر بغداد میں ہوئی۔

بہر حال طبقات ابن سعد کا یہ حصہ ششم اسی شہر کوفہ میں اقامت پذیر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین عظام کا تذکرہ ہے۔ اندازہ

لگائیے کہ اس حصہ میں کیا کچھ نہیں اور کیوں نہ یہ کتاب مؤرخین کی آنکھ کا تارا بن جاتی۔

اس حصہ کا ترجمہ مولوی نذیر الحق صاحب میرٹھی نے کیا ہے اور اردو ترجمہ کا حق ادا کر دیا ہے بہت سلیس اور عام فہم۔

ملک کے موجودہ سیاسی اور بدلتے ہوئے معاشی حالات میں ایک ناشر کے لیے اپنے موجودہ کام کو جاری رکھنا ہی ایک بڑا

مشکل مسئلہ بن گیا ہے چہ جائیکہ حوصلہ مندانه ارادوں کی تکمیل۔ اس کے لیے تو صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ ع

اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کی بات نہیں

لیکن شکر ہے اللہ رحیم و رؤف کا اس نے توفیق عطا فرمائی۔ حالات پر قابو پانے کے لیے تو انائی بھی ذی۔ اور ہم اس

حوصلہ مندانه ارادہ کی تکمیل کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھ سکے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو مقبولیت و افادیت دونوں عطا

فرمائے۔ آمین!

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ



فہرست مضامین

طبقات ابن سعد (حصہ ششم)

صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
۳۱	حضرت ہبل بن حنیف رضی اللہ عنہ	۲۷	نگاہ اولیٰ
//	حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ	//	مولوی نذیر الحق میرٹھی
//	حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ	۲۸	مہاجرین و انصار کا مقام قرآن حکیم کی نظر میں
//	حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ	//	راہ حق میں ہجرت کی حقیقت
۳۲	حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ	۲۹	اسلام میں ہجرت کا مقام اور اہمیت
//	حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ	۳۰	لسان نبوی سے ہجرت کی عظمت کا بیان
//	حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ	۳۲	کوفہ کے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم
//	حضرت عبید بن عازب رضی اللہ عنہ	//	کوفہ اور اہل کوفہ کا تعارف
۳۳	قرظہ بن کعب رضی اللہ عنہ	۳۳	اہل کوفہ کے طبقات کا تعارف
//	حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ	//	تاریخ اسلام میں کوفہ کی حیثیت
//	الحارث بن زیاد رضی اللہ عنہ	۳۶	کوفہ کی امارت اور وزارت کے لئے حضرت عمار بن یاسر
//	عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ	//	سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا تقرر
//	نعمان بن عمرو رضی اللہ عنہ	۳۷	حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی مقام
//	معتقل بن مقرن رضی اللہ عنہ	//	اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مغرب سے قبل دور کھت نہ پڑھنا
//	شان بن مقرن رضی اللہ عنہ	۳۸	ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصحاب علم کی رائے
۳۴	سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ	۳۹	حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ
//	عبدالرحمن بن مقرن رضی اللہ عنہ	//	حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ
//	عتیق بن مقرن رضی اللہ عنہ	۴۰	حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ
//	عبدالرحمن بن عقیل رضی اللہ عنہ	//	حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ
۳۵	حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ	//	حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
//	خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ	//	حضرت خیاب بن الارت رضی اللہ عنہ

۵۱	سلمہ بن قیس و ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہما	۴۵	حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ
//	عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ	//	حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ
۵۲	حضرت سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ	۴۶	حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
//	جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	//	اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ
//	مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ	//	سعید بن حریت رضی اللہ عنہ
//	حارث بن حسان رضی اللہ عنہ	//	عمرو بن حریت رضی اللہ عنہ
//	جابر بن ابی طارق رضی اللہ عنہ	//	سمرة بن جنانہ رضی اللہ عنہ
//	ابو حازم رضی اللہ عنہ	//	جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ
۵۳	قطیبہ بن مالک اور معن بن یزید رضی اللہ عنہما	//	خدیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ
//	طارق بن الائمہ ابو مریم السلولی رضی اللہ عنہ	//	ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ
//	جھشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ	۴۷	عمرو بن حنظل رضی اللہ عنہ
//	دکین بن سعید اور یرمہ بن معاویہ رضی اللہ عنہما	//	سلیمان بن صرد رضی اللہ عنہ
//	خریم بن الاحزم رضی اللہ عنہ	//	ہانی بن اوس رضی اللہ عنہ
۵۴	ضرار بن الازور رضی اللہ عنہ	//	حارث بن وہب و وائل بن حجر رضی اللہ عنہ
//	فرات بن حبان اور یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہما	۴۸	صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ
//	عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ	//	اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ
۵۵	عبدالرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ	//	مالک بن عوف رضی اللہ عنہ
//	عقبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ	//	غامر بن شہر رضی اللہ عنہ
//	عبید بن خالد رضی اللہ عنہ	۴۹	نبیط بن شریط رضی اللہ عنہ
//	طارق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	۵۰	سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ
۵۶	ابن ابی شیخ الحاربی رضی اللہ عنہ	//	عرقہ بن شریح اور حزر بن عمیلہ رضی اللہ عنہما
//	عبیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ	//	عروہ بن مضرک رضی اللہ عنہ
۵۷	سالم بن عبید رضی اللہ عنہ	۵۱	مہلب بن یزید رضی اللہ عنہ
//	نوفل الاشجعی رضی اللہ عنہ	//	زاہر و نافع بن عثیمہ رضی اللہ عنہما
//	سلمہ بن نعیم رضی اللہ عنہ	//	لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ
//	شکل بن حمید رضی اللہ عنہ	//	حب و سواہ رضی اللہ عنہما خالد کے بیٹے

۶۳	ابوطیبہ اور ابوسلمی رضی اللہ عنہما	۵۷	اسود بن نعلبہ رضی اللہ عنہ
//	بنی تغلب کا ایک شخص	//	رشید بن مالک رضی اللہ عنہ
۶۴	طلحہ بن مطرف کے دادا رضی اللہ عنہ	۵۸	شیخ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
//	ابومرہب رضی اللہ عنہ	//	عتاب بن شمیر رضی اللہ عنہ
//	قیس بن حارث رضی اللہ عنہ	//	ذوالجوشن بن ربیعہ
//	فلتان بن عاصم اور عمرو بن احوص رضی اللہ عنہما	۵۹	عالم بن ابجر رضی اللہ عنہ
//	نقادۃ الاسدی اور مستورد بن شداد رضی اللہ عنہما	//	عامر اور الاعز المزنی رضی اللہ عنہما
۶۵	محمد بن صفوان، محمد بن صفی اور وہب بن جہش رضی اللہ عنہم	//	ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ
//	مالک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ	//	ابوہمرہ رضی اللہ عنہ
//	ابو کمال الاحسی، عمرو بن خارجہ اور ضان بن الامسر رضی اللہ عنہم	//	مسور بن یزید رضی اللہ عنہ
//	مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ	۶۰	بشیر بن خصاصہ رضی اللہ عنہ
//	عمیر ذی مران اور ابو حقیقۃ السوائی رضی اللہ عنہما	//	نمیر ابو مالک رضی اللہ عنہ
//	طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ	//	ابورمضہ تمیمی ابو امیہ الفزازی اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم
۶۶	ابو الطفیل رضی اللہ عنہ	//	مجمع بن جاریہ، ثابت بن ودیعہ اور سعد بن بکیر رضی اللہ عنہم
//	محمد بن یزید بن لغامہ اور ابوخلاد رضی اللہ عنہم	//	قیس بن سعد رضی اللہ عنہ
۶۷	تابعین رضی اللہ عنہم کا پہلا طبقہ	۶۱	نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ
	یعنی کوفے کے وہ تابعین جو حضرت ابوبکر صدیق،	//	ابوہلی، عمرو بن لیلی اور شیبان رضی اللہ عنہم
	حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت	//	قیس بن ابی غزرة الانصاری اور حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہما
	عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں	//	ریاح بن ربیع معقل بن سنان عدی بن عمیرہ اور مرداس
//	طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ	۶۲	بن مالک رضی اللہ عنہ
//	قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ	//	عبدالرحمن بن حسنہ جہنی اور عبداللہ ابوالمغیرہ رضی اللہ عنہما
۶۸	رافع بن ابی رافع رضی اللہ عنہ	//	ابوشہم رضی اللہ عنہ
//	سوید بن غفلة رضی اللہ عنہ	۶۳	ابو الخطاب رضی اللہ عنہ
۶۹	اسود بن یزید رضی اللہ عنہ	//	حریر رضی اللہ عنہ
۷۰	مسروق بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ	//	رسم رضی اللہ عنہ
		//	ابن سیلان رضی اللہ عنہ

۸۳ دولت دنیا سے بے رغبتی	۷۲ باہمی جنگوں سے کنارہ کشی
// حجاج کے ساتھ مکالمہ	۷۳ صفین میں جنگ سے روکنے کی کوشش
۸۵ اوصاف و کمالات	// فضل و کمال
// ابو وائلؓ کی وفات	۷۴ بے نیازی اور فیاضی
۸۶ زید بن وہبؓ	// عبادت اور اطاعت گزاری
// عبداللہ بن سحرہؓ	 ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی شہادتی کا
// یزید بن شریکؓ	۷۵ اعتراف
// ابو عمرو الغیبانیؓ	// دنیا سے بے رغبتی
۸۷ زر بن حبیشؓ	// منصب قضاء
// عمرو بن شرمیلؓ	۷۶ آخری کلمات اور وفات
۸۸ عبدالرحمن بن ابی سلمیٰؓ	// مسروقؓ کے وسیلہ سے بارش کی دعا
// اکابر صحابہؓ سے استفادہ	// سعید بن نمرانؓ
۸۹ قرآن مجید سے تعلق	۷۷ زوال بن سہرہؓ
// طبیعت میں سادگی	// زہرہ بن حمیضہؓ
// محدثین میں علمی مقام	// معدی کربؓ
// فقہی کمالات	// علقمہ بن قیسؓ
۹۰ اختلاف مسلک اور وسعت ظہنی	// نام و نسب اور پیدائش
// وفات	۷۸ شغف بالقرآن
۹۰ عبداللہ بن حکیمؓ	// جنگ صفین میں شرکت
۹۱ عبداللہ بن ابی ہذیلؓ	// شہاں و خصائل
// حارث بن مضربؓ	۷۹ ریاء کاری سے اجتناب
۹۲ عبداللہ بن سلمہؓ	// امراء کے تعلق سے پرہیز
// مرہ بن شراحیلؓ	۸۰ آپ کی علمی حیثیت
// عبید بن نضیلہؓ	// وصیت اور وفات
// عمرو بن میمونؓ	۸۱ عبیدہ بن قیسؓ
// معروف بن سویدؓ	۸۲ ابو وائلؓ

۱۰۰	عہدہ قضاء پر تقرر کا واقعہ	۹۲	ہمام بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جھوٹی گواہی کا سدباب	۹۳	حارث بن ازعم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خفیہ تحقیقات کا اہتمام	//	اسود بن ہلال <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۱	فیصلہ کرنے میں احتیاط اور سرعت	//	اور سلیم بن حظلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بیٹے کے خلاف فیصلہ	//	نعمان بن حمید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۲	غیر جانبدارانہ فیصلہ کی ایک مثال	//	عبداللہ بن عتبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قریبی عزیز کی گواہی ناقابل اعتبار	۹۴	ابوعبیدہ <small>رضی اللہ عنہ</small> الوداعی
۱۰۳	شرعی فیصلہ کے مقابلہ میں خاندانی رواج کی حیثیت	//	عامر بن مطر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عجیب مقدمہ کا دلچسپ فیصلہ	//	عبداللہ بن خلیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۵	فتن کے زمانے میں آپ کا معمول	//	عبدالرحمن بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبادت و ریاضت	//	عائس بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن اخلاق کے پیکر	//	کلیب بن شہاب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۶	وفات	۹۵	یزید بن صوحان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صہبی بن معبد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۶	عبداللہ بن شداد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قیصہ بن جابر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ربیع بن حراش <small>رضی اللہ عنہ</small> اور عباہ بن ربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۷	اور یسار بن نمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۷	دوب بن الاعدع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عقیف بن معدی کرب، حصین بن حدیر اور قیس بن مردان <small>رضی اللہ عنہم</small>	//	نعیم بن وجاجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یسیر بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شرح بن ہانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عباہ بن رداد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۸	ابوخالد <small>رضی اللہ عنہ</small> الوالی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خرشہ بن الحر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مستقل بن حصین <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حظلہ الشیبانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قیس بن خانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بشر بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زیاد بن حدیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۰۸	حصین بن سبرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۹۹	سلمان بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سیار بن معرور <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قاضی شرح <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسان بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	برزبان خود اپنا تعارف
//		//	علی مقام

۱۱۳	سويد بن شعيب	۱۰۸	ابو قرة الكندي
۱۱۴	معهذ بن يزيد	//	عمرو بن ابي قرة
//	قيس بن يزيد	//	معقل بن ابي بكر
//	اويس قرني	//	كثير بن شهاب
//	ابتدائی تعارف	//	مسعود بن حراش اور ان کے ہمائی ربيع ابن حراش
//	پہلی شناخت کا واقعہ	۱۰۹	حارث بن لقيط
۱۱۵	حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غائبانہ تعارف	//	سليک بن معقل
//	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ سے دُعا کروانا	//	زيد بن عياض
۱۱۶	جنگ صفین میں شہادت	//	عياض الاشعري
۱۱۷	زهد و تقویٰ	۱۱۰	شميل بن عوف
//	ہرم بن جہان کی حضرت اویس رضی اللہ عنہ سے ملاقات	//	سعيد بن ذی لعيوة
۱۱۸	عبدة بن بلال	//	رياح بن الحارث
//	ابو عذرة الضحیٰ	//	عبد اللہ بن شهاب
//	سعد بن مالک	۱۱۱	حسان بن فائد
//	حبيب بن صهبان	//	کبير بن فائد حمیل ابو جرود اور نجاته الجعفی
//	حارث بن سويد	//	ابو جریر الجعفی سلامه اور ہانی بن حزام
//	حارث بن قيس	//	عبد اللہ بن مالک
۱۱۹	حارث الامور	//	مسلم بن قحيف
//	عمير بن سعيد	//	بشر بن قحيف
۱۲۰	سعيد بن وهب	۱۱۲	نہیک بن عبد اللہ مدرک بن عوف اور اسیم بن حصین
//	هميره بن يريم	//	ابو اليج
//	عمر بن سلمه	//	دحيه بن عمرو
//	ابو الاعراء	//	بلال بن عبد اللہ
۱۲۱	ابو عبد الرحمن سلمي	//	حملة بن عبد الرحمن
//	بے لوث قرآنی خدمت	//	اسق
۱۲۲	عبد اللہ بن معقل	۱۱۳	ربيع بن زياد

۱۲۶	ربیع بن خثیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۲۲	عبدالرحمن بن معقل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	نام و نسب	۱۲۳	سعد بن عیاض <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۲۷	عبادت میں ذوق و انہماک	//	ابوفاطمہ سعید بن علاقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	وعظ و فصاحت	//	ربیع بن عمیلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۲۸	بنی ثور کی خصوصیات	//	قیس بن سکن <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۲۹	گفتگو میں احتیاط	//	ہزیم بن شریحیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علم کے بقدر عمل کی ترغیب	//	ارقم بن شریحیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۰	عاجزی طبع پر سیدنا ابن مسعود کی گواہی	//	ابوالکھو والازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خوف خدا اور فکر آخرت	۱۲۴	شدا بن معقل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	نماز باجماعت کا اہتمام	//	حبیب بن جویں <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۱	انفاق فی سبیل اللہ کا دلچسپ واقعہ	//	عمیر بن مالک ہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	تقویٰ اور احتیاط	//	عمر بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۲	تکلیف پر صبر و شکر	//	عبداللہ بن سنان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جہاد فی سبیل اللہ	//	زاذان ابو عمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۳	توکل علی اللہ	//	عباد بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	آخری کلمات	۱۲۵	کمیل بن زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	وفات	//	قیس بن عبد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۴	ابوالعمید بن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حصین بن قبیصہ
//	حریث بن ظہیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالقحطاع الجرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مسلم ابوسعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوزرین <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قبیصہ بن برمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شقیق بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صلہ بن زفر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عرفجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالعشاء الحارثی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	معدی کرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مستورد بن احنف <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۲۶	عبدالرحمن بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عامر بن عبیدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شثیر بن شکل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابن معیر السعدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالاحوص <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۳۸	عدسة الطائي	۱۳۵	شداد بن الازم
"	سليمان بن شهاب	"	عبدالله بن ربيعة
"	مؤثر بن عفاوه	"	عتر ليس بن عروق
"	والان	"	عمرو بن الحارث
"	عميرة بن زياد	"	ثابت بن قتيبة
۱۳۹	ابوالبرص	"	ابوعقرب الاسدي
"	ابوزيد	"	عبدالله بن زياد
"	واكل بن مهران	"	خارجة بن الصلت
"	بلاز بن عصمه	۱۳۶	حكيم بن نوفل
"	واكل بن ربيعة	"	عبدالله بن مرداس
"	وليد بن عبدالله	"	يشم بن شهاب
"	عبدالله بن حلام	"	مروان ابو عثمان
"	فلقلا الجعفي	"	ابو حيان
"	يزيد بن معاوية	"	ابوزيد
"	ارقم بن يعقوب	"	عبدة بن ربيعة
"	حظله بن خويلد	۱۳۷	الاحض
"	عبدالرحمن بن بشر	"	ابوماجد الجعفي
۱۴۰	براء بن ناجية	"	ابوالجعد
"	تميم بن حذلم	"	سعد بن الاحرم
"	حوط العبدى	"	ضرار الاسدي
"	عمرو بن عتبة	"	ابوكنف
"	قيس بن عبد	"	عم مهاجر بن شماس
۱۴۱	قيس بن جبر	"	ابوليس الكندي
"	عنيس بن عقبة	۱۳۸	خشف بن مالك
"	لقيط بن قبيصة	"	منهال
"	حصين بن عقبة	"	نضج

۱۳۴	ابو الحجاج الازدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۱	شبرمہ بن لطفیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۵	محمد ابوالرداع الازمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرحمن بن حنیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبید بن ربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مسیب بن نجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کردوس بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مطرب بن عکاس السلی <small>رضی اللہ عنہ</small> اور ملحان بن ثروان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۲	سلمہ بن صہبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	فضیل بن یزیدان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدہ النهدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حجر بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبیدہ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۷	صعصعہ بن صوحان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبید بن نصیلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۸	عبدخیر بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	موسیٰ بن طلحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۳	سلمہ بن سمرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مصعب بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عزرة بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عاصم بن ضمیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ضمصع بن <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زید بن شیح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	الاشتر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شریح بن العمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یحییٰ بن رافع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہانی بن ہانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بلال العنسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالہباج الاسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوداؤد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبید بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یشم بن الاسود <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۳۹	میسرہ ابوصالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۳۴	ابوعبداللہ الفاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	میسرہ بن عزیز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبید بن کرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	میسرہ ابو جلیلہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعمار الفاشی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	میسرہ بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوراشد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوظبیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	فائد بن بکیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حجیہ بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	خالد بن ربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہند بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعد بن حذیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حش بن المعتمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن ابی بصیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماء بن الحکم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سلیم بن عبد <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۵۳	ریاش بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۰	اصح بن نباتہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	کعب بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قابوس بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خالد بن عرعرة <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ربیعہ بن ناجد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حبیب بن حماز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علی بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابن النباح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوصالح السمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۵۴	حرث بن خثعم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوصالح الزیات <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	طارق بن زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوصالح الحنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یحییٰ الحضرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۱	عمارہ بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمارہ بن عبد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد اللہ بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوصالح الحنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یزید بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوعبد اللہ الحدادی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عنترة <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مسلم بن قنبر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ولید بن عتبه <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوخالد الوالی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یزید بن مذکور <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ناجیه بن کعب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۵۵	یزید بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمیرہ بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوماویہ الشیبانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد الرحمن بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد الاعلیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۲	ظبیان بن عمارہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حیان بن مرشد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد الرحمن بن عوججہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	امن عبید بن الابرص <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ریان بن صبره <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو بشیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد اللہ بن خلیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	تمیم بن مشج <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یزید بن حلیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شریک بن حنبل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سوید بن جهل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	کثیر بن نمر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حجار بن ابرج <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوحیه الوادعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عدی بن الفرس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ثعلبه بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۳	قبیصه بن ضعیفه <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عاصم بن شریب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مغیره بن حذاف <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۵۹	سعید بن ذی حدان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۶	رباش بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۰	رافع بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۷	قنبر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۱	اکمل بن شامخ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۸	مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۲	اوس بن معلق <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۵۹	ابورجاء <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۳	طریف <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۰	خرشہ بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۴	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا دوسرا طبقہ	۱۶۱	زیاد بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۵	وہ حضرات جو حضرت عبد اللہ بن عمرو، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبد اللہ، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ابو ہریرہ <small>رضی اللہ عنہم</small> وغیرہ سے روایت کرتے ہیں	۱۶۲	ابونصر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۶	حضرت عامر بن شراحیل (امام شععی) <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۳	معتقل <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۷	وجہ تسمیہ	۱۶۴	ابوراشد السلمانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۸	۵۰۰ صحابہ کرام <small>رضی اللہ عنہم</small> کی زیارت	۱۶۵	ابورملہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۶۹	حضرت ابن عمر <small>رضی اللہ عنہما</small> سے شرف تلمذ	۱۶۶	ابوسعید اشوری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۰	شیعت سے توبہ اور شیعہ مذہب کی پروردگارت	۱۶۷	ابوالقریف <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۱	حجاج اور حضرت امام شععی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۶۸	لمخضف العامری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۲	قوت حافظہ	۱۶۹	عبدالرحمن بن سوید <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۳	روایت حدیث میں احتیاط	۱۷۰	حصین بن جنذب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۴	حدیث میں علمی مقام	۱۷۱	مالک بن الجون <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۵	امام شععی <small>رضی اللہ عنہ</small> اور امام ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۲	حارث بن ثوب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۶	فکر آخرت	۱۷۳	ابویحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۷	فقہ اور عالم کی پہچان	۱۷۴	سائب <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۸	خصائل اور لباس	۱۷۵	عبداللہ بن ابی الجبل <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۷۹	دارفانی سے رحلت	۱۷۶	نہیک بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۰	حضرت سعید بن جبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	۱۷۷	الاغر بن سلیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۱۸۱	نام و نسب	۱۷۸	عمرو بن مر <small>رضی اللہ عنہ</small>
		۱۷۹	عبداللہ بن ابی الخلیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
		۱۸۰	عمرو بن بھجہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
		۱۸۱	حمید بن عریب <small>رضی اللہ عنہ</small>

۱۸۱ علمی رعب و بدبہ	۱۶۷ حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے ملاقات
.. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے علمی استفادہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حلقہ درس میں شرکت
.. فرامین نبوی کو بیان کرنے میں احتیاط	۱۶۹ اوصاف و کمالات
۱۸۲ عقائد و اعمال کی درنگی کا اہتمام قرآن مجید سے خاص شغف
۱۸۳ فرقہ مرجیہ کا تعارف	۱۷۰ کھانے کے بعد کی دعا
۱۸۳ فتنہ مرجیہ کی مذمت	۱۷۱ ذوق عبادت و تقویٰ
.. تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسن ظن علمائے سوء کا فتنہ
.. کمالات و محاسن	۱۷۲ تفسیر قرآن میں مہارت
۱۸۵ اصلاح کا ایک دلچسپ واقعہ	۱۷۳ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سیاسی سرگرمیاں اور مجاہدانہ کارنامے
۱۸۶ خالموں پر لعنت کا قرآنی جواز جامع مسجد کوفہ میں امامت
.. ہدیہ قبول فرمانا حجاج کی مخالفت اور گرفتاری
۱۸۷ لغو کام میں مشغول لوگوں کو سلام نہ کرنا	۱۷۴ حجاج کے ساتھ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز مکالمہ
.. خوش ذوق اور خوش لباس	۱۷۶ مقتل کی طرف روانگی اور شوق شہادت
.. دار البقاء کی طرف روانگی	۱۷۷ شہادت گاہ اُلفت میں
۱۸۸ ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ خون کا غورہ اور روحانی قوت
.. حجاج اور ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ	۱۷۸ شائستگی و خصائل
۱۸۹ دولت سے بے نیازی لائقیت فی الاسلام
.. ذوق و شوق عبادت	۱۷۹ ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
.. خیمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ موسیٰ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
.. نعیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ ابو بکر بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ
۱۹۰ عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہ	۱۸۰ عروہ بن المغیرہ رضی اللہ عنہ
.. ابو الصحی رضی اللہ عنہ عقیق بن المغیرہ رضی اللہ عنہ
.. تنیم بن طرفہ رضی اللہ عنہ یعقوب بن المغیرہ رضی اللہ عنہ
.. حکیم بن جابر رضی اللہ عنہ حمزہ بن المغیرہ رضی اللہ عنہ
.. عبد الرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہ
۱۹۱ عبد اللہ بن مرہ رضی اللہ عنہ مزاج میں سادگی اور انکساری

۱۹۵	عبدالرحمن بن ابی نعمان <small>رضی اللہ عنہما</small>	۱۹۱	سالم بن ابی الجعد <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	ابو السفر سعید بن محمد <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	عبید بن ابی الجعد <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	عبداللہ ابی <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	عمران بن ابی الجعد <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	ابو الوذاک <small>رضی اللہ عنہما</small>	۱۹۲	زیاد بن ابی الجعد <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	یحییٰ بن وثاب <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	مسلم بن ابی الجعد <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	ابو ہلال <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ابو البختری الطائی <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	حمیمی <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ذری بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہما</small>
۱۹۶	جرود بن جمیل <small>رضی اللہ عنہما</small>	۱۹۳	مسیب بن رافع <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	بشر بن غالب <small>رضی اللہ عنہما</small> اور ضحاک بن مزاحم <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ثابت بن عبید <small>رضی اللہ عنہما</small>
۱۹۷	القاسم بن خیمرة <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ابو حازم الاشجعی <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	القاسم بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	مری بن قطری <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	معن بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	مالک بن الحارث <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	زیاد بن ابی مریم <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	یحییٰ بن الجزار <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	عبداللہ بن الحارث <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	حسن العرنی <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	ابو بکر بن عمرو <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	قبیصہ بن ہلب <small>رضی اللہ عنہما</small>
۱۹۸	محمد بن المثنی <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ابو مالک الغفاری <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	منیرہ بن المثنی <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ابو صادق الازدی <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	سلیمان بن میسرہ <small>رضی اللہ عنہما</small>	۱۹۴	ابو صالح <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	سلیمان بن مسہر <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	یزید بن البراء <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	نعیم بن ابی ہند <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	سوید بن البراء <small>رضی اللہ عنہما</small>
۱۹۹	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا تیسرا طبقہ	//	موسیٰ بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	مخارب بن دثار <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	رباح بن الحارث <small>رضی اللہ عنہما</small> اور ابراہیم بن جریر <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	عمیرار بن حریش <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ابوزرعہ بن عمرو <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	مسلم بن ابی عمران <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	ہلال بن یساف <small>رضی اللہ عنہما</small>
//	عدی بن ثابت الانصاری <small>رضی اللہ عنہما</small> اور طلحہ بن مصرف <small>رضی اللہ عنہما</small>	//	سعد بن عبیدہ <small>رضی اللہ عنہما</small>
//		۱۹۵	محمد بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہما</small>

٢٠٠	عبد الملك بن سعيد <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٠	زيد بن الحارث <small>رضي الله عنه</small>
//	نسير بن ذعلوق <small>رضي الله عنه</small>	٢٠١	شمر بن عطية <small>رضي الله عنه</small>
//	جواب بن عبدة الله <small>رضي الله عنه</small>	//	بكر بن ماغر الشوري <small>رضي الله عنه</small>
//	اسماعيل بن رجاء <small>رضي الله عنه</small>	//	ابو يعلى منذ الشوري <small>رضي الله عنه</small>
//	جامع بن شداد <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الرحمن بن سعيد <small>رضي الله عنه</small>
٢٠٥	معبد بن خالد <small>رضي الله عنه</small>	//	ابو هبيرة <small>رضي الله عنه</small>
//	واصل بن حيان <small>رضي الله عنه</small>	//	كبير بن الراض <small>رضي الله عنه</small>
//	عبد الملك بن ميمونة <small>رضي الله عنه</small>	//	علي بن مدرك النخعي <small>رضي الله عنه</small>
//	اشعث بن ابي الشعثاء <small>رضي الله عنه</small>	//	موسى بن طريف الاسدي <small>رضي الله عنه</small> علي بن الاقر <small>رضي الله عنه</small>
//	عون بن ابي حنيفة السوائي <small>رضي الله عنه</small> وهب السوائي <small>رضي الله عنه</small>	//	كلثوم بن الاقر <small>رضي الله عنه</small>
//	خليفة بن الحسين <small>رضي الله عنه</small>	//	جبله بن سحيم الشيباني <small>رضي الله عنه</small>
//	حبيب بن ابي ثابت <small>رضي الله عنه</small>	//	وبره بن عبد الرحمن <small>رضي الله عنه</small>
٢٠٦	عاصم بن ابي الجود <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٢	ابو الزنباغ <small>رضي الله عنه</small>
//	ابو حصين <small>رضي الله عنه</small>	//	ابو عون الثقفي <small>رضي الله عنه</small>
//	آدم بن علي الشيباني <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الجبار بن وائل <small>رضي الله عنه</small>
//	ابو الجويرة الجرمي <small>رضي الله عنه</small>	//	يحيى بن عبدة <small>رضي الله عنه</small>
//	ابو قيس الاودي <small>رضي الله عنه</small>	//	زائدة بن عمير <small>رضي الله عنه</small>
//	عبد الله بن حنش الاودي <small>رضي الله عنه</small>	//	عون بن عبد الله <small>رضي الله عنه</small>
٢٠٧	عائذ بن نصيب الكاهلي <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الله بن ابي الجالد <small>رضي الله عنه</small>
//	مجمع التيمي <small>رضي الله عنه</small>	//	ابو اسحاق السبيعي <small>رضي الله عنه</small>
//	عبد الله بن عصم الجعفي <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٣	عمر بن مره <small>رضي الله عنه</small>
//	سماك بن حرب الذهلي <small>رضي الله عنه</small>	//	عبد الملك بن عمير <small>رضي الله عنه</small>
//	شميب بن غرقم البارق <small>رضي الله عنه</small>	٢٠٤	زيد بن علاقة العجلي <small>رضي الله عنه</small>
//	كليب بن وائل الكعبي <small>رضي الله عنه</small>	//	سلة بن كهيل <small>رضي الله عنه</small>
//	اسماعيل بن عبد الرحمن <small>رضي الله عنه</small>	//	ميسرة بن حبيب <small>رضي الله عنه</small>
//	محمد بن قيس الهمداني <small>رضي الله عنه</small>	//	قيس بن مسلم <small>رضي الله عنه</small>

۲۰۹	ربیع بن ابی راشد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۷	طارق بن عبدالرحمن الاحمسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو الحجاج <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	خزاع بن عبداللہ الاحمسی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۰	قیس بن وہب الہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالعزیز بن رفیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ثابت بن ہرمز <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالعزیز بن حکیم الحضرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبدہ بن ابی لہابہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو المعجل <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مقدام بن شرح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن شریک العامری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محل بن خلیفۃ الطائی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعید بن ابی بردہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سنان بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حصین بن عبدالرحمن النخعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زبیر بن ابی ثابت العسسی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۸	ابو صخرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عامر بن شقیق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو السوداء الشہدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مغیرہ بن النعمان النخعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عثمان بن المغیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو نہیک <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرحمن بن عائش النخعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوفروہ الہمدانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عیاش بن عمرو العامری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوفروہ الجبئی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسود بن قیس العبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۱	ابونعامة الکوفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	رکین بن الربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زید بن جبیر الجبئی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو الزعراء <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بدر بن دثار <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہلال الوزان الجبئی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زبیر بن عدی الیامی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ثویر بن ابی فاختہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوجعفر الفراء <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۰۹	زیاد بن قیاض الخزاعی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	المحر بن صیاح النخعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	موی بن ابی عائشہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابومعشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حکیم بن جبیر الاسدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شباک الضعی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حکیم بن الدیلم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بیان بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعید بن مسروق <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علقمہ بن مرشد الحضرمی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعید بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابراہیم بن المهاجر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سعید بن اشوع <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۲	حکم بن عتیبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	جامع بن ابی راشد <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۱۷	محمد بن سواقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۲	سماذین ابی سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۸	حبیب بن ابی عمرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۳	فضیل بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	یزید بن ابی زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حارث العکلی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمار بن ابی معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حارث بن حمیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن عمرو <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۴	عبداللہ بن السائب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عاصم بن کلیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالاعلیٰ بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ربیع بن حکیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	آدم بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو مسکین <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن مجاہدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو اسحاق ابراہیم بن مسلم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالملک بن ابی بشیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اعمش <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	سالم بن ابی حفصہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۱۹	قرأت قرآن میں بے مثال مہارت	۲۱۵	ابان بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محدثین میں امتیازی حیثیت	۲۱۶	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا چوتھا طبقہ
۲۲۰	فقرو استغناء	//	منصور بن المعتمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن ابی خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مغیرہ بن مقسم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	فراس بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عطاء بن سائب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جابر بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حصین بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۱	ابو اسحاق الشیبانی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن ابی السفر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مطرف بن طریف <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو سنان ضرار بن مرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن سمیع الحنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۱۷	ابو یحییٰ القنات <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علاء بن عبدالکریم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو الہیثم العطار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عیسیٰ بن المسیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمرو بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن ابی اسماعیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	موسیٰ بن ابی کثیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۲	خالد بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	معاویہ بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بکیر بن عتیق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قابوس بن ابی ظہیان الحنفی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	جعفر بن ذکوان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبیدالکتب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حلام بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	

۲۲۵	خفش بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۲	ابو اہیشم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	وقاء بن ایاس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زیرقان بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بدر بن عثمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو یحییٰ العبدی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن المرزبان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عیسیٰ بن ابی عزہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سلیمان بن یسیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علاء بن المسیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبیدہ بن معتب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ہارون بن عسکرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	زکریا بن ابی زائدہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسن بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۶	ابان بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مجالد بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صباح بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۳	لیث بن ابی سلیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبدالرحمن بن زید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	الحج بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعید بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالملک بن ابی سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	موسیٰ الصغیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قاسم بن الولید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	معرف بن واصل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن شبرمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عیسیٰ بن المغیرہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۴	عمارہ بن القعقاع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو بحر الہدالی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یزید بن القعقاع <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۷	ابو بحر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسین بن حسین <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	شوذب ابو معاذ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	غیلان بن جامع <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو العدرس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابراہیم بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو العنبر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مخول بن راشد <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۸	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا پانچواں طبقہ	//	عمیر بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حجاج بن عاصم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اشعث بن سوار <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۵	ابو حیان التیمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن السائب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	موسیٰ الجبئی <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۲۹	حجاج بن ارطاة <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حسن بن المحر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو جناب الکھی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ولید بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
		//	صلت بن بہرام <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۳۲	المسعودی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۲۹	ابان بن تغلب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبد الجبار بن عباس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن سالم <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	امی بن ربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو کبران المرادی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	بسام الصیرفی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بشیر بن سلمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۳	موتی بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بشیر بن المهاجر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	داؤد بن نصیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	بکیر بن عامر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سوید بن نجیح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محل بن محرز <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن عبید اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن قیس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حسن بن عمارہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۰	طلحہ بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہارون بن ابی ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبدالرحمن بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۴	مجموع بن یحییٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسحاق بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو حنیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمر بن ذر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوروق <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عقبہ بن ابی صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو یعقور الصغیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عقبہ بن ابی العیزار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سری بن اسماعیل <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبد العزیز بن سیاہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن عبد الملک <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یوسف بن صہیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سلمہ بن عریط <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یونس بن ابی اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۵	دہم بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۱	داؤد بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	محمد بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ادریس بن یزید <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عیسیٰ بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عبداللہ بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سعد بن اوس <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	فطر بن خلیفہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۶	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا چھٹا طبقہ	//	ابو حمزہ الثمالی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	سفیان بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	مسعر بن کدام <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	علم، تبلیغ و اشاعت	۲۳۲	مالک بن مغول <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	خلیفہ مہدی اور سفیان بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوشہاب الاکبر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	ابو عمیس <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۳۲	مفضل بن یونس <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۷	زابدانہ زندگی
//	مفضل بن مہلب <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۸	انتقال پر ملال
//	حبان بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسرائیل بن یونس <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مندل بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یوسف بن اسحاق <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۳۳	ابوزبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	علی بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابو کدینہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۳۹	حسن بن حمی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہریم بن سفیان <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	اسباط بن نصر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ہانی بن ایوب <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	یعلیٰ بن الحارث <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	منصور بن ابی الاسود <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	محمد بن طلحہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	صالح بن ابی الاسود <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زہیر بن معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عبدالرحمن بن حمید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۰	رحیل بن معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابراہیم بن حمید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	حدیج بن معاویہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مسلمہ بن جعفر <small>رضی اللہ عنہ</small> اور جعفر بن زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	شیبان بن عبدالرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	عمرو بن ابی المقدام <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قیس بن الربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۱	سلمہ بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	قیصہ بن جابر <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حشر بن بنیہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	زابدہ بن قدامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	قاسم بن معن <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوبکر اشعری <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوشیبہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۱	شریک بن عبداللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوالحیاء <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عیسیٰ بن الحقار <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	مبارک بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابوالاحوص <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	اسماعیل بن ابراہیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	کامل بن العلاء <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	حمزہ الزیات <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	عمرو بن شمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۵	محمد بن ابان <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۲	محمد بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۴۶	تابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا ساتواں طبقہ	//	یحییٰ بن سلمہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
//	ابوبکر بن عیاش <small>رضی اللہ عنہ</small>	//	ابو اسرائیل المملانی <small>رضی اللہ عنہ</small>
//		//	جراح بن ملیح <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۴۹	علی بن ہاشم <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۶	سعید بن انس <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبد الرحمن بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبد السلام بن حرب <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عثام بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	مطلب بن زیاد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	ابومعاویہ الضری <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	سیف بن ہارون <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبد الرحمن بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	سان بن ہارون <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۰	یحییٰ بن عبد الملک <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۷	عمر بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	یحییٰ بن زکریا <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	زفر بن الہذیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	اسباط بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عمار بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	محمد بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	علی بن مسہر <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبد اللہ بن نیر <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	مسعود بن سعد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	دکج بن الجراح <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عمر بن شیب <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	ابوأسامہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عمار بن سیف <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۱	حسن بن ثابت <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	محمد بن الفضیل <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عقبہ بن خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبد اللہ بن ادريس <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	زیاد بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۸	موسیٰ بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	احمد بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	حفص بن غیاث <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	جعفر بن عون <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابراہیم بن حمید <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	حسین بن علی <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	قاسم بن مالک <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۲	عائذ بن حبیب <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبد الرحمن بن عبد الملک <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	یعلیٰ بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبدة بن سلیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	محمد بن عبید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۴۹	ابو خالد الاحمر <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عمران بن عیینہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	یحییٰ بن الیمان <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	یحییٰ بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابوشہاب الحناط <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۳	عبد الملک بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبید اللہ بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	محاضر بن المورع <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	علی بن غراب <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	حمید بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابو مالک الجنبی <small>رضی اللہ عنہ</small>

۲۵۸	مکرم بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۳	محمد بن اربیعہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	خالد بن مخلد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	سعید بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	اسحاق بن منصور <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	قران بن تمام <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبید بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	یونس بن کبیر <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عنینہ بن سعید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبد الحمید بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	رباح بن خالد <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۴	عبید اللہ بن موسیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	نوفل <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابو نعیم <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۵۹	عبد الرحیم بن عبد الرحمن <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	محمد بن القاسم <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	زکریا بن عدی <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۵	محمد بن عبدالاعلیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبد الرحمن بن مصعب <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	علی بن ظہیران <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	علی بن عبد الحمید <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۶	تتابعین <small>رضی اللہ عنہم</small> کا آٹھواں طبقہ
"	عون بن سلام <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	یحییٰ بن آدم <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	سوید بن عمرو الکلی <small>رضی اللہ عنہ</small> اور یحییٰ بن یعلیٰ <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	زید بن الحباب <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عمرو بن حماد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابو احمد الزبیری <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	محمد بن الصلت <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ابوداؤد الحضری <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۶۰	اسماعیل بن ابان <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	قبیصہ بن عقیقہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	حسن بن الربیع <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عمرو بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عبد الحمید بن صالح <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۷	معاویہ بن ہشام <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	حسن بن بشر <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	عبد العزیز بن ابان <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	احمد بن الفضل <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	علی بن قادم <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	عثمان بن حکیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ثابت بن محمد <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	علی بن حکیم <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	ہشام بن المقدام <small>رضی اللہ عنہ</small> اور ابو عسان <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	شہاب بن عباد <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	احمد بن عبد اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	یشتم بن عبید اللہ <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	طلق بن غنام <small>رضی اللہ عنہ</small>
"	یحییٰ بن عبد الحمید <small>رضی اللہ عنہ</small>	"	اسحاق بن منصور <small>رضی اللہ عنہ</small>
۲۶۱	یوسف بن السہلول <small>رضی اللہ عنہ</small>	۲۵۸	

مہاجرین و انصار کا مقام قرآن حکیم کی نظر میں:

مہاجرین و انصار صحابہ رضی اللہ عنہم نے اپنے عمل سے دنیا والوں اور آئندہ نسلوں کو یہ بتلادیا اور کر کے دکھا دیا کہ اللہ والے یعنی حقیقی معنوں میں مومن اور سچے مسلمان وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں یعنی اس کے دین کی حفاظت و اشاعت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں، جن کو دین دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ پیارا ہو جو ہر حال میں دین کو دنیا پر مقدم رکھیں اور صدق و اخلاص کا پیکر اور ایثار و قربانی کا مجسمہ ہوں۔ ہر صحابی کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی اور ہماری مردہ رگوں میں خون حیات دوڑاتی ہے، مومن و مسلم کی زندگی کی معراج رضائے الہی کا حصول ہے اور اس کا انحصار ایمان، عمل صالح، جہاد اور ایثار و قربانی ہے اور یہی صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کے چار ستون تھے، جن کی وجہ سے ان کو بارگاہ الہی سے یہ سند ملی:

﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (سورۃ التوبہ بارہ: ۱۰۰)

”اور سبقت لے جانے والے مہاجرین و انصار میں سے پہلے لوگ اور وہ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔ اور اس نے ان کے لیے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ انہیں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔“

سابقون: سبق کے معنی ہیں۔ چلنے میں آگے بڑھ جانا۔ یہ ہر قسم کے تقدم پر بولا جاتا ہے۔ فضیلت و بزرگی حاصل کرنے پر بھی بولا جاتا ہے اور اس سے مراد نفوذ بھی ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے ایمان لانے نیک اعمال بجا لانے، فضیلت و بزرگی حاصل کرنے اور اللہ کی رضا مندی و خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کی اور آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کا اعلیٰ نمونہ چھوڑا تاکہ وہ بھی انہی کے نقوش قدم پر چلیں۔ جس طرح انہوں نے دنیوی ترقی و کامرانی اور آخری نجات و سعادت حاصل کی تھی اسی طرح اس دور کے مسلمان بھی حاصل کریں۔ اگر وہ ترقی و کامرانی کے ایک مسلمان کی حیثیت سے خواہاں ہیں تو جس طرح مہاجرین نے قربانی، انصار نے ایثار اور باہمی محبت و اخوت کا دنیا والوں کے سامنے عظیم الشان مظاہرہ کیا اسی طرح ایثار و قربانی اور محبت و اخوت کا ثبوت اس دور کے مسلمان بھی دیں اور ایک دوسرے پر ان صفات میں سبقت کریں جس طرح انہوں نے سبقت کی تھی۔

آیت زیر بحث میں دوسرا لفظ ”اول“ اس کے معنی ہیں اصل کی طرف رجوع کرنا۔ اول ہونا کئی لحاظ سے ہوتا ہے۔ جیسے زمانے کے لحاظ سے ریاست و مرتبے کے اعتبار سے وغیرہ۔ جب کہ سورۃ الانعام میں ہے ﴿أَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ میں پہلا مسلمان ہوں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ ایمان و اسلام میں دوسروں کو میرا اقتداء کرنا چاہیے قرآن نے ان کو وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ کہا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو ان مقدس نفوس کا اقتداء کرنا چاہیے۔

راہ حق میں ہجرت کی حقیقت:

برأت و ہجرت حقیقت میں دعوت حق کا دوسرا مرحلہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور داعیان حق کے لیے پہلا مرحلہ تبلیغ کا مرحلہ ہوتا

ہے۔ یعنی پہلے وہ انسانوں کے سامنے دعوت تو حید دیتے ہیں۔ ان کو دلتیش انداز میں توحید کی حقیقت اور شرک و بت پرستی کی ضلالت و تباہ کاری سے پر زور دلائل کے ساتھ بار بار واقف و آگاہ کرتے ہیں۔ غیر اللہ کی بندگی سے نجات دلا کر خدائے واحد کی بندگی اختیار کرنے کی تاکید و ہدایت کرتے ہیں۔ یہ کام انتہائی سرگرمی و تندہی اور جوش و انہماک سے برابر کیے چلے جاتے جتنے بھی زہرہ گداز مصائب و آلام اس راہ میں پیش آتے ہیں ان کو ہنسی خوشی برداشت کیے چلے جاتے ہیں اور اس طرح تبلیغ کے ذریعہ اپنی قوم یا اپنی سوسائٹی کا جو ہر نکال لیتے ہیں۔ اس قوم یا ملک میں جتنے بھی قابل اور سعید انسان ہوتے ہیں ان سب کو محض اپنی تبلیغ اپنے اخلاق اور اپنی پاکیزگی سے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ جس طرح مفاطیس لوہے کے کھینچ لیتا ہے اسی طرح ایک نبی یا داعی حق جو ہر قابل رکھنے والے افراد کے قلوب کو مسخر کر لیتا ہے۔ اس طرح جب اس کی قوم یا سوسائٹی کا جو ہر نکل آتا ہے تو صرف چھا جھکی مانند افراد اس میں باقی رہ جاتے ہیں۔ مکہ میں ہجرت کے بعد جو عرب یا دیہاتی باقی رہ گئے تھے شاید انہیں کے حق میں ارشاد ہوا ہے:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَدُ الْأَيْدِي حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (سورۃ التوبۃ)

”اعراب یا دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں اور اسی کے زیادہ لائق ہیں کہ اس کی حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔“

یعنی یہ قرآن کی کاپی لٹ تعلیم کا اعجاز و کمال تھا کہ ایسے سخت لوگوں کو جو علم سے اس قدر دور تھے کہ یہ حدود اللہ کا علم حاصل کرنے کے لیے گویا پیدا ہی نہیں ہوئے تھے ان کو بھی حدود اللہ پر قائم کر دکھایا۔ اس سے مقصود یہ بتلانا ہے کہ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کی اصلاح قرآن نہ کر سکتا ہو اب جن لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کے حق میں ارشاد فرمایا:

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتُ الرَّسُولِ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سِمْخَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (سورۃ التوبۃ)

”اور اعراب میں ایسے بھی ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں قرب اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ سنو وہ ان کے لیے قرب ہی کا ذریعہ ہوگا اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ اور آخرت پر سچا ایمان وہی ہے جو مومن میں مالی قربانی کا جذبہ پیدا کرے۔ نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل مالی قربانی ہے۔ یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اسی کی وجہ سے مہاجرین و انصار نے وہ قرب مکان حاصل کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اور یہ ان کا بہت بڑا مرتبہ اور بہت بڑی فضیلت ہے۔

ہجرت کے ذریعہ مہاجرین نے ثابت کر دیا کہ ان کو اللہ سے شدید محبت تھی، وہ رسول اللہ کے سچے عاشق تھے اور اللہ کی راہ میں مرنے والے۔

اسلام میں ہجرت کا مقام اور اہمیت:

قرآن مجید میں جتنے انبیاء علیہم السلام کی ہجرت کا ذکر ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہجرت کا اعلان اس وقت کیا جب

کہ ان کی قوموں نے ان کو سنگسار کر دینے یا قتل کر دینے یا اپنے ملک سے نکال دیئے جانے کا آخری فیصلہ کر لیا۔ ایسی ہجرت کا حکم ہر زمانے کے لیے ہے۔ دنیا میں جب کبھی بھی اور جہاں کہیں بھی مسلمان دعوت حق اور اسلامی تبلیغ کا حق ادا کر دیں اور وہاں ان کا ایک مسلمان کی حیثیت سے جینا ناممکن ہو جائے تو یہ حکم ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائیں۔ بشرطیکہ کوئی ایسا دارالسلام بھی موجود ہو جیسا مدینہ میں ہجرت کے بعد بن گیا تھا۔ اگر کہیں ہجرت کر جانا ممکن نہ ہو تو پھر وہیں راہ حق میں فنا ہو جائیں اور اپنے دین و اخلاق پر کوئی آٹھنچ نہ آنے دیں۔

یہ ہجرت اس ہجرت سے بالکل مختلف ہے جو ایک قوم دوسری قوم کی نا انصافیوں زیادتیوں اور چہرہ دستیوں سے مجبور ہو کر کرتی ہے۔ جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے۔ یہ ہجرت ایک قوم سے دوسری قوم کی طرف یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف ہوتی ہے۔ یہ ہجرت جان و مال کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے اس میں دین و اخلاق کا جذبہ کارفرما نہیں ہوتا، صرف قوم پرستی کا جذبہ محرک ہوتا ہے۔ اس کو ہجرت الی اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح معنوں میں ہجرت وہی ہے جو عہد نبوت میں مہاجرین نے کی تھی اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی سند حاصل کی تھی۔ ان کی شان دنیا سے زالی ہے۔

دنیا کی ہر قوم اور ہر انسان اپنے مقصد کے لیے قربانی دیتا ہے اپنا وقت اپنی محنت اپنی قابلیت اپنی راحت و آسائش قربان کرتا ہے۔ تب کہیں جا کر کوئی مقصد حاصل ہوتا ہے اور کچھ عرصے تک مصائب و آلام برداشت کر لینا، کوئی آٹھنچ بات نہیں۔ دنیا میں ہمیشہ ایسا ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہر با مقصد انسان اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ مالی نقصان بھی برداشت کر سکتا ہے جسمانی اذیتیں بھی سہہ سکتا ہے اور کبھی جان بھی دے سکتا ہے۔ مگر جیتے جی ہمیشہ کے لیے اپنی دولت و جائیداد پر لات مار دینا، اہل و عیال اور خویش و اقارب کو چھوڑ دینا، دوستانہ تعلقات کا توڑ لینا، اپنے تمام اغراض و مفاد کو اپنے مقصد پر قربان کر دینا اور یہ سب کچھ اپنی خوشی سے برداشت کر لینا یہ صرف مہاجرین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا سب سے بڑا ایثار سب سے بڑی قربانی سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا شرف ہے۔

انہوں نے صرف اللہ و رسول ﷺ کی اطاعت و فرماں برداری اور خوشنودی کے لیے جلا وطنی اختیار کی، اپنے گھریاں اپنی دولت و جائیداد اور اہل و عیال تک سے منہ موڑا۔ اس جذبہ ایثار و فدویت کی مثال دنیا کی کوئی قوم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ نہ آج اس کی کوئی مثال دی جاسکتی ہے اور نہ شاید قیامت تک دی جاسکے گی۔ یہ تھی ان کی خدا پرستی، دینداری اور حقیقی عظمت و شان۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے فضائل و مناقب سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ ہم نے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف دو تین آیتوں پر ہی اکتفا کیا ہے۔

لسان نبوی سے ہجرت کی عظمت کا بیان:

اب ہجرت کے بارے میں دو تین حدیثیں بھی نمونہ ملاحظہ فرمائیے اور اپنے دین و ایمان کو تازہ کر لیجئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک اعرابی نے آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ہجرت کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے فرمایا: تجھ پر انسوس ہے ہجرت بہت ہی سخت ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے پس جس کی ہجرت دنیا کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہوگی تو یہ ان ہی چیزوں کے لیے ہوگی۔ اس کا اللہ و رسول کی خوشنودی سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔“ (بخاری)

حضرت خیاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: ”ہم لوگوں نے آنحضرت ﷺ کے ساتھ ہجرت خالص نیت سے اللہ و رسول کی خوشنودی کے لیے کی تھی۔ اس لیے ہم اجر کے مستحق ہو گئے۔“ (بخاری)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم طلوع آفتاب کے وقت آنحضرت ﷺ کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا: ”عنقریب قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے کہ جن کا نور آفتاب کی مانند ہوگا۔“ ہم لوگوں نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا فقراء، مہاجرین، جن کے ذریعہ مصیبتوں کا تحفظ کیا جاتا ہے، اپنی حسرتیں اور تمنائیں سینوں میں لیے ہوئے دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مختلف اقطاع عالم سے اٹھائے جائیں گے۔

اب آپ سمجھ لیجئے کہ مہاجرین صحابہ رضی اللہ عنہم کی فضیلت اور عظمت و شان کیا ہے؟ ہمارے مایہ ناز مورخ ابن سعد رضی اللہ عنہ نے امت پر کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان مقدس نفوس کے سوانح حیات، کارنامے اور سیرتیں دے گئے، اس باب میں کتنا اہم اور کتنا قیمتی سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ گئے؟ اور اس کی تبلیغ و اشاعت دین کی کتنی بڑی ٹھوس خدمت ہے۔

آپ کا محبوب علمی ادارہ ”نفیس سن کیڈمی“ یہ نایاب و گراں قدر علمی سرمایہ اسی نیت کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہے۔ اب اس کی پذیرائی و قدر دانی آپ کا کام ہے۔ ہم نے اپنی بساط کے مطابق یہ اندوختہ آخرت آپ کے حوالہ کر دیا ہے۔ ہمارا علمی فرض پورا ہوا اب آپ اپنا فرض ادا کریں۔

”گر قبول افتد زہے عز و شرف“

نذیر الحق (میرٹھی)

مؤرخہ ۱۵ جولائی ۱۹۶۹ء



کوفہ کے مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم

وہ اصحاب رسول اللہ ﷺ جنہوں نے کوفہ کی اقامت اختیار کی، جو اصحاب علم و فن اور صاحب فتویٰ و تقویٰ کہلائے، جن کے دم قدم سے دینی علم کی مشعلیں روشن ہوئیں، محفلوں میں علم و عرفان کے پھول کھلے اور جو اسلامی تہذیب و روایات کا مرقع ثابت ہوئے۔

نیز ان کے بعد آنے والے تابعین رضی اللہ عنہم اور اہل علم و فقہ!

کوفہ اور اہل کوفہ کا تعارف:

کوفہ کے متعلق ہم سب سے پہلے حضرت علامہ شبلی نعمانی کی ”الفاروق“ سے اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

دوسرا شہر جو بصرے سے زیادہ مشہور ہوا وہ کوفہ تھا۔ مدائن وغیرہ جب فتح ہو چکے تو سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں رہ کر عرب کا رنگ روپ بدل گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ اہل عرب کو وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آسکتی ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے جو بری و محری دونوں جہتیں رکھتی ہو چنانچہ سلیمان اور حذیفہ رضی اللہ عنہما نے جو خاص اسی کام پر مامور رہے کوفہ کی زمین انتخاب کی یہاں کی زمین ریختی اور کنکریں تھیں اور اسی وجہ سے اس کا نام کوفہ رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے نعمان بن منذر کا خاندان جو عراق کا فرمانروا تھا ان کا پایہ تخت یہی مقام تھا اور ان کی مشہور عمارتیں خورنق اور سدیرا سی کے آس پاس واقع تھیں، منظر نہایت خوشنما اور دریائے فرات سے صرف ڈیڑھ دو میل کا فاصلہ تھا، اہل عرب اس مقام کو خدا العذار یعنی عارض محبوب کہتے تھے۔ کیونکہ وہ مختلف قسم کے عمدہ عربی پھولوں مثلاً اقحوان، شقائق، فیصوم اور خرمی کا چمن زار تھا۔ غرض اے اہل کوفہ اس کی بنیاد شروع ہوئی اور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تصریح کے ساتھ لکھا تھا ۴۰ ہزار کنبوں کی آبادی کے قابل مکانات بنائے گئے۔

ہجاج بن مالک کے اہتمام سے عرب کے جدا جدا قبیلے جدا جدا محلوں میں آباد ہوئے۔ شہر کی ساخت اور وضع کے لیے خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تحریری حکم آیا تھا کہ شارع ۴۰۔۳۰ ہاتھ اور اس سے گھٹ کر ۳۰۔۳۰ ہاتھ اور ۲۰۔۲۰ ہاتھ جوڑے رکھے جائیں اور گلیاں ۷۰۔۷۰ ہاتھ جوڑی ہوں۔ جامع مسجد کی عمارت جو ایک مربع بلند چبوترہ دے کر بنائی گئی تھی اس قدر وسیع تھی کہ اس میں چالیس ہزار آدمی آسکتے تھے اس کے ہر چہار طرف دور دور تک زمین کھلی چھوڑ دی گئی تھی۔ عمارتیں اول گھاس پھونس کی تھیں لیکن جب آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور اینٹ گارے کی عمارتیں تیار ہوئیں۔ جامع مسجد کے آگے ایک وسیع سا باہان بنایا گیا جو دو سو ہاتھ لمبا تھا ستون نوشیروانی عمارت سے نکال کر لائے گئے تھے۔ اس موقع پر یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ باوجود اس کے کہ دراصل نوشیروانی عمارت کا کوئی وارث نہ تھا اور اصول سلطنت کے لحاظ سے اگر کوئی وارث ہو سکتا تھا تو خلیفہ

وقت ہوتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عدل و انصاف تھا کہ محمدی رعایا کو ان ستونوں کی قیمت ادا کی گئی۔ ان کی تخمینہ قیمت جو شہری اور ان کے جزیے میں سے مجرادی گئی۔ مسجد سے دوسو ہاتھ کے فاصلے پر ایوان حکومت تیار ہوا جس میں بیت المال یعنی خزانے کا مکان بھی شامل تھا۔

ایک مہمان خانہ عام بھی تیار کیا گیا جس میں باہر کے آئے ہوئے مسافر قیام کرتے تھے اور ان کو بیت المال سے کھانا ملتا تھا۔ چند روز کے بعد بیت المال میں چوری ہو گئی اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہر جزی و واقعہ کی خبر بھی پہنچتی تھی انہوں نے سعد کو لکھا کہ ایوان حکومت مسجد سے ملا دیا جائے چنانچہ روز بہ نام کے ایک پارسی معمار نے جو مشہور استاد تھا اور تعمیرات کے کام پر مامور تھا نہایت خوبی اور موزونی سے ایوان حکومت کی عمارت کو بڑھا کر مسجد سے ملا دیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے روز بہ کو معذور کارگیروں کے اس صلہ میں دربار خلافت کو روانہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی بڑی قدر دانی کی اور ہمیشہ کے لیے روزینہ مقرر کر دیا۔ جامع مسجد کے سوا ہر ہر قبیلے کے لیے جدا جدا مسجدیں تعمیر ہوئیں جو قبیلے آباد کیے گئے ان میں یمن کے بارہ ہزار اور زرار کے آٹھ ہزار آدمی تھے اور قبائل جو آباد کیے گئے ان کے نام حسب ذیل ہیں سلیم، ثقیف، ہمدان، نجیلہ، نیم، الات، تغلب، بنی اسد، نضج، کندہ، ارد، مزینہ، تمیم و محارب، اسد و عامر، بجال، جدید و اخلاط، مدح اور ہوازن وغیرہ۔

یہ شہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی کے زمانے میں اس عظمت و شان کو پہنچا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو اس الاسلام یعنی اسلام کا سر فرمایا کرتے تھے اور درحقیقت یہ عرب کی طاقت کا اصلی مرکز بن گیا تھا۔ زمانہ بعد میں اس کی آبادی برابر ترقی کرتی چلی گئی۔ مگر یہ خصوصیت قائم رہی کہ آباد ہونے والے عموماً عرب کی نسل سے ہوتے تھے۔ ۶۳ھ میں اس کی مردم شماری ہوئی تو ۵۰ ہزار گھر خاص قبیلہ ربیعہ و مضر کے اور ۲۴ ہزار گھر اور قبائل کے تھے۔ اہل یمن کے ۶ ہزار گھر ان کے علاوہ تھے ابن بطوطہ جس نے آٹھویں صدی میں اس مقدس مقام کو دیکھا تھا۔ اپنے سفر نامے میں لکھا ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ نے جو ایوان حکومت بنایا تھا اس کی بنیاد اب بھی قائم ہے۔ اس شہر کی علمی حیثیت یہ ہے کہ فن نحو کی بنیاد یہیں ہوئی۔ یعنی ابوالاسود دؤلی نے اول اول نحو کے قواعد یہیں بیٹھ کر وضع کیے۔ فقہ حنفی کی بنیاد یہیں پڑی۔ حضرت امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ نے قاضی ابویوسف رضی اللہ عنہ وغیرہ کی شرکت سے فقہ کی جو مجلس قائم کی وہ یہیں قائم کی۔ حدیث، فقہ اور علوم عربیت کے بڑے بڑے ائمہ فن جو یہاں پیدا ہوئے ان میں امام نخعی، حماد، امام ابوحنیفہ اور امام شععی رضی اللہ عنہم یادگار زمانہ تھے۔

(الفاروقی۔ حصہ دوم۔ ص ۳۸، ۳۹)

اہل کوفہ کے طبقات کا تعارف

تاریخ اسلام میں کوفہ کی حیثیت:

ناصح بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”کوفہ میں مختلف ذہنیاتوں اور مسالک کے لوگ ہیں“ وکیع بن الجراح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شعبی رضی اللہ عنہ سے سنا: آپ نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو جو خط لکھا اس کا سرنامہ تھا ”اہل اسلام کے سربراہوں کے نام“۔

جابر عامر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ والوں کو لکھا ”الی راس العرب“ عرب کے سر کی طرف۔ بنی عامر کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کی طرف جو خط لکھا اس میں اہل کوفہ کا ذکر ان الفاظ میں ”اللہ کانیزہ یا بھالا“ ایمان کا خزانہ اور عرب کا سر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اور شہروں کو تہذیب و تمدن سے آراستہ و پیراستہ کرنے والے۔

اعمش رضی اللہ عنہ سے شمر بن عطیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”عراق میں یہ ایمان کا خزانہ ہے اللہ کی تلوار ہے اور اس کا نیزہ ہے جہاں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے۔ قسم خدا کی اللہ ضرور ضرور کوفہ والوں کی مدد کرے گا۔ زمین کے مشارق و مغارب میں جیسا کہ اس نے کنکریوں سے مدد کی تھی“۔

عمار الدضی رضی اللہ عنہ سلم رضی اللہ عنہ سے اور وہ سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ”کوفہ اسلام اور مسلمانوں کا قبہ ہے“۔

سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ”جس جوش و جذبے کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ کی حفاظت کی جاتی تھی اسی جوش و جذبے کے ساتھ کوفہ کی مدافعت کی جاتی ہے جو شخص بھی اس کو خراب و ویران کرنا چاہے گا اللہ اسے ہلاک و برباد کرے گا“۔

یہی مضمون اگلی روایت کا ہے۔ اور اس سے اگلی روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی بستی و شہر والا اپنے شہر کی حفاظت و مدافعت اس طرح نہیں کرتا جس طرح کوفہ کی کرتے ہیں۔ مگر اصحاب محمد جنہوں نے آپ کی پیروی کی“۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اگلی روایت کا بھی یہی مضمون ہے۔

سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابی صادق نے کہا ”میں اس بات کو سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ سب سے پہلے و جال کس شہر والوں کا دروازہ کھٹکھٹائے گا“ لوگوں نے پوچھا وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا وہ تم ہی لوگ تو ہو گے۔

شعبی کہتے ہیں کہ قرظہ ابن کعب الانصاری نے کہا ”ہم نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باصرار ہمیں رخصت

کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چلے۔ آپ نے وضو غسل کیا دو مرتبہ اور فرمایا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں رخصت کرنے تمہارے ساتھ کیوں آ رہا ہوں؟ ہم نے کہا ہاں۔ ہم جانتے ہیں۔ ہم رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہی نہیں ہیں۔ اس لیے آپ ہمارے ہمراہ چل رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا (ہاں یہ بات تو ہے ہی۔ ایک اور اہم بات بھی ہے) تم ایسے لوگوں کی طرف جا رہے ہو کہ وہ تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں اور اس طرح گنگناتے رہتے ہیں جیسے شہد کی کھیاں بھینباتی ہیں۔ تم احادیث کے ذریعہ ان کو اس چیز سے روک مت دینا۔^۱ کہ وہ احادیث کے ذکر و شغف میں مشغول ہو کر قرآن کو مجبوری کی حالت میں ڈال دیں۔ لہذا رسول اللہ ﷺ کی روایات بہت کم بیان کیا کرنا۔ جاؤ دین کی حفاظت و اشاعت کا کام سہرا انجام دو اور اس کام میں تمہارا شریک ہوں۔

سلمہ ابن کہیل نے حیا العری کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا ”اے کوفہ والو! تم عرب کا سراور اس کا تاج ہو اور تم میرے تیر ہو جو ادھر ادھر پھینکا جاتا ہے (یعنی تم مدافعت اشاعت اور جہاد کا کام خوب کر رہے ہو) میں نے تم پر ایک اللہ کا بندہ عامل بنا کر بھیجا ہے اور میں نے اس کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے۔



۱ اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس قدر حقیقت شناس ذہین و فطین اور دور اندیش تھے کہ یہ ہدایت فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تلاوت قرآن کے ذوق و شوق میں کمی واقع ہو جائے۔ قرآن وحدیث دونوں کے فہم و عمل میں وہ ربط و توازن قائم رہنا چاہیے جو حضرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے عملاً دکھایا اور بتلایا۔ کاش اس زمانے کے اہل علم اس نکتے کو سمجھ سکیں۔ (مترجم)

کوفہ کی امارت اور وزارت کے لئے حضرت عمار بن یاسر

اور

سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم کا تقرر

حارث بن المضرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے وہ حکم نامہ پڑھا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا تھا۔ اس کا مضمون یہ تھا: ”میں نے تم پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو امیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو معلم و وزیر بنا کر بھیجا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی افسری بھی دی ہے یہ دونوں آنحضرت ﷺ کے ان ذی وقار اصحاب میں سے ہیں جو معرکہ بدر میں شریک تھے۔ اس لیے ان کے احکام کو دل سے سننا اور اطاعت کرنا۔ ان کی پیروی کرنا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے۔“

ابی اسحاق حارث سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم نامہ پڑھا گیا جس کا مضمون یہ تھا:

”میں تمہاری طرف عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو امیر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو معلم و وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے بزرگ اور گرامی قدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ہیں اور اصحاب بدر ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تمہارے بیت المال کی افسری بھی بنایا ہے ان دونوں سے دین کا علم حاصل کرو اور ان دونوں کی اطاعت و پیروی کرو۔ میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے۔“

حارث کہتے ہیں کہ بدان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بکریاں بھیجی گئیں عمار رضی اللہ عنہ کے لیے نصف اور چوتھائی حصہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے اور چوتھائی حصہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کے لیے۔

حارث بن مضرب کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو لکھا۔ و کعب بن العتیر کی حدیث میں یہ ہے کہ ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نامہ پڑھا گیا۔ میں نے تم پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما کو اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو امیر بنا کر بھیجا ہے و کعب بن العتیر کی روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم و وزیر بتلایا گیا ہے۔

ابونعیم و قبیسہ نے مؤدب و وزیر روایت کیا ہے۔ اور اس روایت میں ہے۔ یہ دونوں رسول اللہ ﷺ کے گرامی قدر صحابہ رضی اللہ عنہم اور اصحاب بدر میں سے ہیں سوان دونوں کی اطاعت و پیروی کرو ان کا حکم سنو۔ میں نے اللہ کے بندے (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے۔

عفان بن مسلم اور موسیٰ بن اسماعیل کہتے ہیں کہ داؤد نے عامر سے روایت کی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہجرت کر

کے حصے میں آگئے تھے پھر جلد ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ میں بھیج دیا اور کوفہ والوں کو لکھا کہ میں اس ذات کی قسم کھاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ میں نے اپنے نفس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ترجیح دی ہے پس ان سے دین یکھو۔

ابراہیم حلقہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے میں نے اہل کوفہ کے لیے اپنے نفس پر ایک اللہ کے بندے کو ترجیح دی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا علمی مقام:

ضحاک کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں نے اہل کوفہ کے لیے اپنے نفس پر ابن ام عبد (عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ) کو ترجیح دی ہے۔ بے شک وہ ہم میں سب سے زیادہ سمجھ دار اور علم کی بھرپور حفاظت کرنے والے ہیں۔“

ابن ودرجہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ فرمایا وہ بھرپور علم کی حفاظت کرنے والے ہیں اور میں نے اہل قادیسیہ کے لیے ان کو ترجیح دی ہے۔

ابن خالد رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی صورت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ہم نے اپنی نیک خدمات کا آپ سے صلہ چاہا۔ آپ نے اہل شام کو انعام دینے میں ہم پر ترجیح دی۔ ہم نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ ہم پر اہل شام کو فضیلت دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اس میں تمہارے لیے شکایت کی کون سی بات ہے کہ میں نے اہل شام کو ان کے دور ہونے کی وجہ سے فضیلت دی ہے اور میں نے تمہارے لیے تو تو ام عبد کو اپنی ذات پر ترجیح دی ہے (کیا تمہارے لیے فضیلت کی یہ بات کافی نہیں)۔

اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مغرب سے قبل دو رکعت نہ پڑھنا:

ابراہیم کہتے ہیں کوفہ میں تین سواصحاب الشجرہ (یعنی وہ اصحاب جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی) آئے اور ستر اہل بدر میں سے۔ ہم نہیں جانتے کہ ان میں سے کسی نے نماز قصر کی ہو اور نہ وہ مغرب سے پہلے دو رکعتیں پڑھتے تھے۔

عثمان بن مغیرہ کہتے ہیں کہ ہم سالم کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے پاس ایک عورت کوئی فتویٰ پوچھنے آئی۔ ہم نے اس کے بارے میں باہمی گفتگو کی۔ اس نے کہا میرے حجرے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کا سر ہے۔ مجھے کوئی مسجد کوفہ سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس میں چار رکعتیں پڑھوں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: ”مجھ پر کوئی دن اتنا بھاری نہیں ہوتا کہ میں تمہارے فرات کے کنارے پر ٹھہروں اور برکات جنت میں سے کوئی برکت حاصل کروں۔“

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ ہدایت یافتہ لوگ اہل کوفہ ہیں۔ قاسم کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب اس بستی کے چراغ ہیں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس بستی کے چراغ ہیں (جو لوگوں کو علم دین کی روشنی دے رہے ہیں)۔

ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں اصحاب علم کی رائے:

ابی خالد عامر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے کوئی بھی اصحاب ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا نہیں (علم و فقہ میں ان کا مقام سب سے بلند ہے)۔ مغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نزدیک اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے زیادہ سچے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے)۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم میں ستر شیوخ اصحاب عبداللہ رضی اللہ عنہ میں سے تھے۔

ابی یعلیٰ کہتے ہیں کہ ان میں (قبیلہ) بنی ثور کے تیس شیوخ سے سوائے ربیع بن شمیم کے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ منصور سے اور وہ ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب یا شاگردوں میں بڑے بڑے ارباب فقہ و علم تھے جو قاری اور مفتی تھے۔ وہ یہ تھے: علقمہ، اسود، مسروق، عبیدہ، حارث ابن قیس اور عمرو بن شریک۔

ایوب رضی اللہ عنہ محمد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مشہور و محروف اور جید علماء میں پانچ بڑے ممتاز و نمایاں تھے۔ ان میں بعض عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے تھے بعض علقمہ رضی اللہ عنہ کو مگر اس باب میں کوئی اختلاف نہیں کہ ان سب کے آخر شرح رضی اللہ عنہ تھے۔ حماد رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے وہ یہ ہیں: عبیدہ، علقمہ، مسروق، ہمدانی اور شرح رضی اللہ عنہ۔ حماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ابتداء ہمدانی رضی اللہ عنہ سے ہوئی یا شرح رضی اللہ عنہ سے۔

ہشام، محمد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جلیل القدر اصحاب جنہوں نے ان کی احادیث کو ضبط و حفظ کر رکھا تھا وہ پانچ تھے۔ وہ سب ان میں آخر شرح رضی اللہ عنہ کو سمجھتے تھے کہتے ہیں کہ بعض ان کی ابتداء حارث رضی اللہ عنہ سے کرتے تھے اور دوسرے مقام پر عبیدہ رضی اللہ عنہ کو رکھتے تھے۔ بعض عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پہلا درجہ دیتے تھے۔ پھر علقمہ رضی اللہ عنہ اور پھر مسروق رضی اللہ عنہ کا درجہ تھا۔

عبدالجبار بن عباس رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا ”میں عطا رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا اور کچھ سوال ان سے کئے انہوں نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں نے کہا: میں اہل کوفہ میں سے ہوں۔ یہ سن کر عطا نے کہا کہ ہم نے تو علم تم لوگوں سے حاصل کیا ہے۔

عمارہ ابن القحطاع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے شمرہ سے سنا انہوں نے کہا ”میں نے بنی ثور سے زیادہ بہادر و غیرت مند عبادت گزار اور دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا کسی کو نہیں دیکھا“۔

ابن عون رضی اللہ عنہ محمد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کوفہ کے جن لوگوں کو چھوڑا ہے ان سے زیادہ علم و فقہ کو جاننے والا اور بہادر و شجاع کسی کو نہیں دیکھا۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حسن رضی اللہ عنہ سے کہا۔ اے ابوسعید! علم و فقہ میں اول اہل بصرہ ہیں یا اہل کوفہ؟ کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اہل کوفہ سے ابتدا کیا کرتے تھے اور کوفہ میں جتنے عرب اور ان کے گھر میں اتنے بصرے میں نہیں۔

مالک بن مغول کہتے ہیں کہ شعبی نے کہا میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے جن جن کی صحبت میں رہا اور ان سے علمی

استفادہ کیا ان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے زیادہ عالم و فقیہ اور دینی نفع پہنچانے والا کسی کو نہیں پایا۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شععی رضی اللہ عنہ نے کہا: میں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں استفادہ کرنے والوں میں سب سے زیادہ حلیم و بردبار عالم و فقیہ اور خوزیری سے بچنے والا اور کسی کو نہیں دیکھا سوائے اصحاب عبداللہ رضی اللہ عنہ کے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حبیب بن ابی ثابت سے پوچھا کہ علم میں زیادہ دستگاہ رکھنے والے وہ ہیں یا وہ لوگ؟ فرمایا: وہ لوگ (یعنی کوفہ والے)۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی۔ یہ آپ کا نسب نامہ ہے۔ اور آپ کی کنیت ابوالحسن ہے آپ کی والدہ ماجدہ کا نسب نامہ یہ ہے۔ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی۔ آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے پھر کوفہ میں اقامت گزین ہو گئے۔ ایک کشادہ زمین میں آباد ہو گئے جس کو 'رحیۃ علی' کہا جاتا تھا خاص طور پر آپ نے اسی کو اپنی اقامت گاہ بنا لیا اور آپ اس قصر حکومت میں اقامت پذیر نہیں ہوئے جو آپ سے پہلے حکمرانوں کی رہائش گاہ ہوتی تھی۔ آپ اللہ ان پر رحمت کرے ستائیسویں رمضان ۴۰ھ جمعہ کی صبح میں شہید کر دیئے گئے۔ جب کہ آپ کی عمر ۶۳ سال تھی۔ آپ کوفہ کی جامع مسجد قصر امارۃ میں دفن کیے گئے۔ جس نے آپ کو شہید کیا وہ عبدالرحمن بن ملجم خارجی تھا۔ اللہ اس پر اور اس کے والدین پر لعنت کرے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ہم نے ان کا ذکر ان لوگوں کے ذکر میں تفصیل سے کیا ہے جو بدر میں شریک ہوئے۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ:

سعد نام ابواسحاق کنیت والد کا نام مالک اور ابو وقاص کنیت۔ والدہ کا نام حمہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے۔ سعد بن مالک بن وہب بن عبدمناف بن قصی۔

آپ جنگ بدر میں شریک ہوئے۔ آپ نے قادیسیہ کو فتح کیا تھا اور کوفہ میں رہائش اختیار کی انہوں نے وہاں قبائل عرب کو آباد کیا اور ان کے لیے مکانات بنوائے (جس کی تفصیل ہم الفاروق کے حوالے سے ابتدا میں بیان کر آئے ہیں) ان کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا گورنر بنایا تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی گورنر رہے۔ پھر انہی کے عہد میں ان کو معزول کر دیا گیا اور ان کی جگہ ولید بن عقبہ بن ابی معیط گورنر ہوئے معزولی کے بعد یہ مدینہ میں لوٹ آئے۔

آپ نے اپنے قصر عقیق میں جو مدینہ سے دس میل کے فاصلے پر ہے وفات پائی۔ لیکن آپ کا جنازہ لوگوں کے کندھوں پر مدینہ میں لایا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ یہ ۵۷ھ تھا۔ آپ کی نماز مروان بن الحکم نے پڑھائی جو مدینہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا والی تھا۔ جب آپ نے وفات پائی تو آپ کی عمر تقریباً ستر سال تھی۔ آپ بصرہ میں بھی جایا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بارے میں محمد ابن عمر نے اسی طرح کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے۔ کہ وہ ۵۷ھ تھا۔ اور ہم نے ان کا ذکر بھی تفصیل سے اصحاب بدر میں کیا ہے۔

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ:

سعید نام ابوالاعور کنیت، والد کا نام زید اور والدہ کا نام فاطمہ بنت بھجہ تھا۔ سلسلہ نسب یہ ہے سعید بن زید بن عمرو بن نفیل بن عبد العزیز بن رباح بن قریظ بن زراح بن عدی بن کعب بن الوقرشی العدوی۔ ماں کی طرف سے سلسلہ نسب یہ ہے۔ فاطمہ بنت بھجہ ابن امیہ بن خویلد بن خالد بن المعمر بن حیان بن غنم بن کلث بن خزاعہ۔

یہ بدر میں شریک ہوئے تھے اور کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے پھر مدینہ کو لوٹ آئے۔ مقام عقیق میں وفات پائی آپ کا جنازہ مدینہ میں لایا گیا اور وہیں دفن کیے گئے۔ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آئے ان کی صحبت میں رہے اور یہ واقعہ ۶۷ھ کا ہے۔ جب کہ ان کی عمر ۷۱-۷۲ سال کی تھی۔ ان کی وفات کے بارے میں محمد بن عمر نے بھی ایسا ہی کہا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ (عقیق میں نہیں) بلکہ کوفہ میں فوت ہوئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں اور ان کے جنازے کی نماز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ وہ اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے کوفہ کے والی (گورنر) تھے۔ اور ہم نے ان کا ذکر بھی بدر بین کے سلسلے میں کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ:

آپ ہڈی ہیں اور بنی زہرہ بن کلاب کے حلیف ابو عبدالرحمن کنیت ہے۔ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، حمص میں ہجرت کر گئے تھے، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ بھیج دیا تھا اور کوفہ والوں کو لکھا تھا ”میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو معلم و وزیر بنا کر بھیج رہا ہوں“ میں نے ان کو اپنے نفس پر ترجیح دی ہے ان سے دین سیکھو، اس بنا پر آپ کوفہ میں مقیم ہو گئے اور وہیں مسجد کے پاس اپنا مکان بنا لیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں مدینہ میں آ گئے تھے۔ وہیں وفات پائی اور بیعت میں دفن ہوئے یہ ۳۲ھ کا واقعہ ہے جب کہ آپ کی عمر ۷۲ سال کی تھی، ہم نے ان کا ذکر بھی تفصیل کے ساتھ بدر بین کے باب میں کیا ہے۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ:

آپ یمن کے عنس میں سے تھے اور وہ بنی مخزوم کے حلیف تھے۔ عمار نام ابوالیقظان کنیت، والد کا نام یاسر اور والدہ کا نام سمیہ تھا۔ یہ بھی کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور ہمیشہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ان کے ساتھ تمام واقعات و حالات کا مشاہدہ کیا۔ صفین میں قتل کیے گئے۔ ۳۷ھ میں وہیں دفن کیے گئے۔ اس وقت ان کی عمر ۷۳ سال تھی۔ یہ بھی بدر میں شریک ہوئے تھے اور ہم نے بدر بین میں ان کا ذکر بالتفصیل کیا ہے۔

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ:

یہ ام انمار بنت سباع بن عبد العزیز خزاعیہ بنی زہرہ ابن کلاب کے حلفاء اور غلام تھے خباب نام اور ابو عبداللہ کنیت تھی۔ یہ بھی بدر میں شریک ہوئے۔

محمد بن سعد کہتے ہیں۔ میں نے ان کا یہ ذکر سنا ہے کہ وہ عرب تھے، بنی سعد بن زید منا بن تمیم میں سے یہ غلام ہو گئے تھے۔

ام عمار نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کوفہ میں مقیم ہو گئے تھے اور وہیں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ خوش منظر سوچ جنس میں۔ وہیں وفات پائی۔ یہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پھر گئے تھے ۳۷ھ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور کوفہ میں ہی دفن ہوئے اس وقت ان کی عمر ۷۳ سال تھی۔ اور ہم نے ان کا ذکر بعد ربیعین میں کیا ہے۔

حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ:

ابن واہب بن عکیم بنی حشیم بن عوف بن عمرو بن عوف یہ اوکس میں سے تھے۔ ابوعدی کنیت تھی بدر میں شریک ہوئے تھے جب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کو خیر باد کہا تو ان کو مدینہ کا والی بنا دیا تھا۔ پھر ان کو حکم دیا کہ وہ ان کے پاس آ جائیں سو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور جنگ صفین میں ان کے ساتھ شریک رہے اور ہمیشہ آپ ہی کا ساتھ دیا۔ پھر کوفہ میں لوٹ آئے۔ ہمیشہ وہیں رہے یہاں تک کہ یہیں وفات پائی جب کہ آپ کی عمر ۳۸ سال کی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی اور چھ بکیریں کہیں اور کہا کہ یہ اہل بدر میں سے تھے اور ان کا ذکر بھی ہم نے بدر ربیعین میں کیا ہے۔

حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ:

وہ حسیل بن جابر بن عیس حلفاء بنی عبدالاشہل میں سے ہیں۔ ابو عبد اللہ کنیت ہے۔ یہ جنگ احد میں اور دوسری جنگوں میں شریک ہوئے۔ ۳۷ھ میں مدائن میں فوت ہوئے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر لانے والوں میں تھے۔ کوفہ میں قیام پذیر ہو گئے تھے۔ مدائن میں اپنے پیچھے اپنے بیٹے پوتے چھوڑے۔ اور ہم نے ان کا ذکر جنگ احد کے شرکاء میں کیا ہے۔

حضرت ابو قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ:

یہ انصاری ہیں خزرج کے بنی سلمہ میں سے ایک ہیں۔ جنگ احد میں شریک ہوئے۔ ان کا نام محمد بن اسحاق نے الحارث بن ربیع بتلایا ہے۔ عبد اللہ بن محمد بن عمارہ انصاری و محمد بن عمر کہتے ہیں کہ ان کا نام نعمان بن ربیع تھا۔ دوسروں نے عمرو بن ربیع بھی بتلایا ہے۔ یہ بھی کوفہ میں آباد ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی مگر محمد بن عمر اس سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھ سے یحییٰ بن عبد اللہ بن ابو قتادہ نے بیان کیا ہے کہ ابو قتادہ نے مدینہ میں وفات پائی۔ ۵۵ھ میں اس وقت وہ ستر سال کے تھے۔

حضرت ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عقبہ بن عمرو ہے یہ بنی خوارہ بن عوف بن الحارث بن خزرج میں سے ہیں۔ لیلة العقبہ میں شریک ہوئے وہ اس وقت چھوٹے تھے اس لیے بدر میں شریک نہیں ہوئے۔

ہاں جنگ احد میں شریک ہوئے اور کوفہ میں آباد ہو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ صفین کے لیے روانہ ہوئے تو ان کو کوفہ پر اپنا قائم مقام بنا گئے تھے۔ پھر ان کو معزول کر دیا اور یہ مدینہ میں لوٹ آئے اور یہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں فوت ہوئے اور آپ نے اپنی کوئی اولاد نہیں چھوڑی۔

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ:

عبداللہ نام ابو موسیٰ کنیت والد کا نام قیس والدہ کا نام طیبة آپ قبیلہ اشعریہ میں سے تھے اس لیے اشعری کہلائے محمد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے متعلق یہ ذکر سنا ہے کہ آپ یمن سے مکہ میں آئے اور اسلام قبول کیا اور حبشہ میں ہجرت کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خیبر کے مال غنیمت میں سے حصہ مرحمت فرمایا جب کہ مجاہدین اسلام خیبر فتح کر کے واپس آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرے کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد معزول کر دیا۔ اس کے بعد آپ کوفے میں آ گئے اور وہیں اپنا مکان بنا لیا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو کوفے کا والی بنا دیا جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے اس وقت آپ کوفے کے حاکم تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو اپنا دار الخلافہ بنایا آپ ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے اور جب جنگ صفین میں جنگ و صلح کا معاملہ دو تالشوں کے سپرد کیا گیا تو ان میں سے ایک آپ تھے ۴۲ء میں کوفے میں ہی آپ نے وفات پائی۔ لیکن عبداللہ بن ابی جہم کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ہمیشہ کے مہاجرین میں نہیں تھے اور آپ نے ۲۷ھ میں وفات پائی۔

حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ:

آپ کا بخوسی نام ماہ تھا اسلام لانے کے بعد آپ کا نام سلمان رکھا گیا ابو عبداللہ کنیت تھی (آپ اصفہان کے ”جی“ نامی قریہ کے باشندے اور وہاں کے زمیندار تھے) یہ اس وقت اسلام لائے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے یہ مذہب عیسوی کے سچے پیرو تھے۔ کتاب پڑھا کرتے تھے اور کسی اور دین کی تلاش میں تھے۔ نبی قریظہ کے غلام ہو گئے تھے اور انہوں نے ان کو مکتب بنا دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مکتب کی رقم ادا کر کے ان کو آزاد کر دیا تھا اور وہ بنی ہاشم میں شامل ہو گئے تھے۔ خندق کے کھودنے کے کام میں شریک رہے۔ یہ بھی کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مدائن میں فوت ہوئے۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ:

یہ ابن الحارث الصاری ہیں بنی حارثہ بن الحارث اوس میں سے ابوعمارہ کنیت ہے۔ کوفہ میں آباد ہوئے اور وہیں مکان بنا لیا تھا۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ پھر مدینہ میں آ گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے حضرت مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وفات پائی۔ ان کی اولاد کوفے میں رہی یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبید بن عازب رضی اللہ عنہ:

یہ ابن دس الصاری میں سے ایک ہیں جن کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کوفے بھیجا تھا۔ ان کی اولاد بھی کوفہ میں رہی۔

قرظہ بن کعب رضی اللہ عنہ:

یہ بنی اوس و بنی عبدالاشہل کے حلیف بن الحارث بن الخزرج میں سے انصاری ہیں ابو عمرو کنیت ہے یہ بھی ان دن انصاریوں میں سے ہیں جن کو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے کوفے بھیجا تھا اور وہاں انصاریوں کے محلے میں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ وہیں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی اور انہی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ:

یہ بھی قبیلہ بن الحارث بن الخزرج میں سے ایک انصاری ہیں۔ محمد بن عمرو رضی اللہ عنہ نے ان کی کنیت ابو سعد بتلائی ہے ان کی کنیت ابوانیس بھی بتلائی گئی ہے یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مدینہ میں شریک ہوئے تھے اور کوفے میں آ کر قبیلہ کندہ کے محلے میں اپنا مکان بنا لیا تھا اور محقر کے زمانے میں یہیں ان کا انتقال ہوا جب کہ ان کی عمر ۷۸ سال کی تھی۔

الحارث بن زیاد رضی اللہ عنہ:

یہ بنی ساعدہ میں سے ایک انصاری ہیں اور کوفے میں آ کر انصاریوں میں اپنا مکان بنا لیا تھا۔

عبداللہ بن یزید رضی اللہ عنہ:

یہ ابن زید الحطمی انصاری ہیں۔ کوفے میں آباد ہو کر وہیں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ وہیں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔

نعمان بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے ابن مقرن بن عائد بن مجیر بن نصر بن حبشیہ بن کعب ابن عبد بن ثور بن ہذیمہ بن لاطم بن عثمان بن مزینہ ابو عمرو کنیت ہے واقعہ خندق میں شریک تھے اور کوفے میں آباد ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو "کسکر" کا گورنر بنا دیا تھا پھر معزول کر دیا تھا اور نہاد کی جنگ میں مجاہدین کی طرف بھیج دیا تھا۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کثیر بن عبداللہ مزنی نے اپنے والد سے روایت کی کہ یہ نہاد میں شریک ہوئے تھے اور یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت نعمان بن عمرو بن مقرن لوگوں کے امیر تھے جب ان کو ہزیمت ہوئی تو پہلے شہید نعمان بن مقرن ہی تھے محمد بن عمر کہتے ہیں واقعہ نہاد ۲۱ھ میں ہوا تھا ایسا بن معاویہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ کس قبیلے میں سے ہیں؟ کہا میں مزنیہ کا ایک آدمی ہوں۔ سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ دن یاد دلاتا ہوں جس دن حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ممبر پر نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی۔

معقل بن مقرن رضی اللہ عنہ:

وہ ابو عبداللہ بن معقل ہیں۔ ان کی اولاد اور بھائی کوفے میں رہے۔

سنان بن مقرن رضی اللہ عنہ:

وہ اور ان کے بھائی خندق کے کھودنے میں شریک ہوئے۔

سوید بن مقرن رضی اللہ عنہ:

آپ کی کنیت ابو عدی ہے۔ اور ان کے بھائی:

عبدالرحمن بن مقرن رضی اللہ عنہ:

ان کے بھائی ہیں۔

عقیل بن مقرن رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو حکیم ہے۔

عبدالرحمن بن عقیل رضی اللہ عنہ:

یہ مقرن کے بیٹے ہیں۔ مجاہد نے کہا ہے کہ بنو مقرن سات تھے۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ بھی خندق میں شریک ہوئے تھے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ:

مغیرہ نام ابو عبد اللہ کنیت۔ نسب نامہ یہ ہے مغیرہ بن شعبہ بن ابی عامر بن مسعود بن معتب بن مالک بن عمرو بن عوف بن قیس۔

صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرے کا گورنر بنا دیا تھا پھر بصرے کی گورنری سے معزول کر کے کوفے کا گورنر بنا دیا تھا پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ان کو کوفے کی گورنری سے معزول کر کے ان کی جگہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو گورنر بنا دیا تھا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو پھر کوفے کا گورنر بنا دیا تھا اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ (یہ غزوہ خندق کے سال ۵ھ میں مشرف باسلام ہوئے)۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے استحکام میں انہوں نے بڑے بڑے تدبیر کا ثبوت دیا۔ بڑے بڑے کارنامے انجام دیئے بڑے بڑے جباروں کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مطیع بنایا، ان کو بڑے بڑے خطروں سے بچایا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت استوار کرنے میں پورا زور صرف کیا۔ کوفے میں ہی انہوں نے وفات پائی۔

ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو عید کے دن اونٹ پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھا محمد بن ابی موسیٰ ثقفی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی وفات کوفے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ۵۵ھ میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر ستر سال کی تھی۔ آپ کا قد لمبا تھا۔ ایک آنکھ جنگ یرموک میں جاتی رہی تھی۔ زیاد بن علاقہ کہتے ہیں کہ میں نے جریر بن عبد اللہ سے سنا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت لوگوں سے کہا کہ اپنے امیر سے معافی مانگو۔ وہ تو صرف امن و عافیت چاہتے تھے۔

خالد بن عرفطہ رضی اللہ عنہ:

یہ قبیلہ قضاہ میں سے ابن امیرہ بن سنان العذری ہیں جو قبیلہ بنی زہرہ بن کلاب کا حلیف تھا انہوں نے نبی اکرم ﷺ کی

صحابت حاصل کی اور حضور سے روایت کی۔ جنگ قادسیہ کے موقع پر ان کو امیر قتال بنا دیا تھا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے تخیلہ کے دن خارجیوں کو قتل کیا تھا۔ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں اپنا گھر بنا لیا تھا اور آج تک ان کی اولاد وہاں باقی ہے۔
حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ:

عبداللہ نام باپ کا نام اوفیٰ نسب نامہ یہ ہے۔ علقمہ بن خالد بن الحارث بن ابی اسید بن رفاعہ ابن ثعلبہ بن ہوازن بن اسلم بن انصی بن خزاعہ۔ ابو عبداللہ کنیت ہے۔ شعبہ عمر سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ ان اصحاب رسول اللہ ﷺ میں سے ہیں جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ محمد بن عمر کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کی وفات تک ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے۔ پھر کوفے میں آ کر دوسرے مسلمانوں کی جگہ اپنا گھر بنا لیا تھا اسلم کے محلے میں کبھی کبھی بصرے بھی چلے جاتے تھے۔ ۸ھ میں کوفے میں وفات پائی۔ قنادہ حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ یہ کوفے میں رسول اللہ کے آخری صحابی ہیں جنہوں نے وہاں وفات پائی۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ:

یہ بنی نعل میں سے ایک ہیں ابو طریف کنیت ہے۔ کوفے میں آ کر اپنا مکان بنا لیا تھا محلہ طے میں ہمیشہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے جنگ جمل و صفین میں ان کے شریک رہے۔ یوم جمل میں ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ مختار کے زمانے میں کوفے میں وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر ۷۸ سال کی تھی۔
حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عمر ہے۔ جس سال رسول اکرم ﷺ نے وفات پائی اسی سال اسلام لائے تھے۔ حضور نے ان کو ذی الخلقہ کی طرف بھیجا تھا اس کو منہدم کرنے کے بعد کوفے میں آ کر آباد ہو گئے اور تخیلہ کے محلے میں اپنا گھر بنا لیا تھا سمراتہ میں وفات پائی جب کہ کوفے پر ضحاک بن قیس حکومت کر رہا تھا اور یہ زیاد بن ابی سفیان سے ڈھائی سال بعد کی بات ہے۔
اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ:

یہ معدی بن کرب کنڈی کے بیٹے ہیں یہ بنی الحارث بن معاویہ میں سے تھے ابو محمد کنیت تھی وفد کی صورت میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے پھر یمن کو لوٹ گئے۔ جب نبی ﷺ کی وفات ہو گئی تو یہ مرتد ہو گئے۔ ان کے مقام بخیر کا زیاد بن لبید البیاضی نے محاصرہ کر لیا۔ اور اس میں داخل ہو کر اور ان کو گرفتار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا وہ تائب ہوئے اور آپ نے ان پر احسان کیا اور اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دے دیا جب لوگ عراق میں آباد ہونے کے خیال سے نکلے تو یہ بھی ان کے ہمراہ کوفے میں آ کر آباد ہو گئے اور کندہ کے محلے میں اپنا مکان بنا لیا اور وہیں فوت ہوئے۔ اس وقت حضرت امام حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما کوفے میں تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر چکے تھے۔ انہوں نے ہی ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔

اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے پاس تھی۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب تم اس کو

عسل دو تو مجھے بلا لینا۔ لوگوں نے آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے حنوط سے ان کا وضو کرایا۔

سعید بن حریرث رضی اللہ عنہ:

نسب نامہ یہ ہے: ابن عمرو بن عثمان بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم۔ یہ بھائی ہیں عمرو بن حریرث کے اور یہ اپنے بھائی عمرو سے مقدم ہیں کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے۔ یہ اس وقت صرف ۱۵ سال کے تھے۔ پھر لوٹ آئے اور کوفہ میں اپنے بھائی عمرو بن حریرث کے ہمراہ آ گئے۔

عمرو بن حریرث رضی اللہ عنہ:

نسب نامہ یہ ہے: ابن عمرو بن عثمان بن عبد اللہ بن عمرو بن مخزوم ابو سعید کنیت ہے محمد بن عمر کہتے ہیں کہ جب رسول خدا ﷺ نے وفات پائی تو یہ اس وقت بارہ سال کے تھے۔

ابو نعیم کہتے ہیں کہ انہوں نے کوفہ میں آباد ہو کر اپنا مکان مسجد کی جانب بنا لیا تھا جو بڑا تھا اور مشہور تھا محمد بن سعد کہتے ہیں کہ جب زیاد بن ابی سفیان بصرے چلا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمرو بن حریرث رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں خلیفہ بنا دیا تھا۔ ۸۵ھ میں کوفہ میں ہی ان کی وفات ہوئی عبد الملک بن مروان کے زمانے میں اور ان کی اولاد وہیں رہی۔

سمرۃ بن جنانہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے: ابن جنذب بن جحیر بن رباب بن حبیب بن سواۃ بن عامر بن صعصہ ان کو آنحضرت ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی۔ یہ اور ان کا بیٹا روایت کرتے ہیں۔

جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ:

یہ سوائی ہیں اور وہ بنی زہرہ بن کلاب کے حلیف تھے جابر رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ یہ بھی کوفہ میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ بنی سواۃ کے محلے میں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں وہیں فوت ہوئے اس وقت کوفہ پر بشر بن مردان حاکم تھے۔

حدیفہ بن اسید رضی اللہ عنہ:

یہ غفاری ہیں ابو سمریحہ کنیت ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آنحضرت ﷺ کے ہمراہ تھے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔

ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن ابی معیط بن ابی عمرو بن امیہ بن عبد شمس۔ ان کی والدہ ارؤی بنت کریم بن حبیب بن عبد شمس اور وہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی ماں کے بھائی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفہ میں گورنر بنا دیا تھا اور انہوں نے وہاں مسجد کے پاس اپنا بڑا مکان بنا لیا تھا۔ پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر کے سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا تھا۔ ولید رضی اللہ عنہ مدینہ میں واپس آ گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت تک ہمیشہ وہیں رہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں امر

خلافت میں نزاع اور جنگ وجدل ہوا تو یہ دونوں سے الگ رہے۔ ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ یہاں تک کہ یہ معاملہ ختم ہوا انہوں نے مقام رقعہ میں وفات پائی وہیں ان کی اولاد رہی اور ان کے بعض بیٹے کوفے میں رہے۔ کوفے میں ان کا ایک بہت بڑا مکان دارالقصار بن کے نام سے مشہور ہے۔

عمر و بن حنظل بنی النضر:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن الکاہن بن حبیب بن عمرو بن القین بن رزاح بن عمرو بن سعد ابن کعب بن عمرو خزاعہ۔ ان کو رسول اللہ ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ کوفے میں حضرت علی بنی النضر کے ساتھ رہے۔ ہر حال میں ان کے ہمراہ رہے اور یہ ان لوگوں میں سے ایک تھے جو حضرت عثمان بنی النضر کے خلاف بغاوت کر کے آئے تھے اور ان کی شہادت میں اعانت کی تھی۔ ان کو عبدالرحمن ابن ام الحکم نے جزیرے میں قتل کر دیا تھا اور سب سے پہلے جس کا سر لایا گیا وہ یہی تھے۔

سلیمان بن صرد بنی النضر:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن الجون بن ابی جون اور وہ عبدالعزیز بن مقداد بن ربیعہ بن احرم بن حمیش بن حرام بن حصیہ بن سکون بن کعب بن خزاعہ ہیں۔ ابو مطرف کنیت ہے۔ ان کا نام یسار تھا جب یہ اسلام لائے تو آنحضرت ﷺ نے ان کا نام سلیمان رکھ دیا اور یہ بڑی عمر کے تھے کوفے میں آ کر بنی خزاعہ میں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ حضرت علی بنی النضر کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا حسین بنی النضر کو خط لکھا تھا کہ آپ کوفے میں آئیے۔ جب آپ کوفے میں آئے تو ان سے الگ ہو گئے ان کا ساتھ نہ دیا۔ جب حضرت حسین بنی النضر شہید ہو گئے تو یہ بہت ہی نادم ہوئے۔ جنہوں نے آپ کی توہین و تذلیل کی تھی ان میں سے بعض نادم ہوئے۔ اپنے فعل سے توبہ کی اور حضرت حسین بنی النضر کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اور ایک لشکر کی صورت میں مقام نخیلہ میں آئے۔ ان کو تو امین کہا جاتا ہے۔ ان کا بیچا سلیمان بن صرد بنی النضر نے کیا پھر وہ شام کی طرف نکل گئے۔ جب ارض جزیرہ میں مقام وردہ چشمے پر آئے تو ان کو اہل شام کی ایک جماعت ملی جن کا سردار حصین بن نمیر تھا۔ دونوں لشکروں میں جنگ ہوئی۔ بہت سے ان میں سے قتل ہوئے اور بہت تھوڑے سے بچے۔ سلیمان بن صرد بنی النضر بھی اسی دن مارا گیا۔ یہ ۵۷ھ کا واقعہ ہے۔ ماہ ربیع الآخر۔ جب یہ قتل ہوئے تو ان کی عمر ۷۳ سال تھی۔

ہانی بن اوس بنی النضر:

یہ اسلمی ہیں۔ کوفے میں آ کر محلہ اسلم میں مکان بنا لیا تھا۔ یہ خلافت معاویہ بن ابی سفیان بنی النضر میں فوت ہوئے حضرت مغیرہ بن شعبہ بنی النضر اس وقت کوفے کے گورنر تھے۔ یہ ان میں سے تھے جنہوں نے بیعت رضوان کی تھی۔ ان کے گھنے میں کوئی تکلیف تھی۔ جب سجدہ کرتے کہ اس کے نیچے تکیہ رکھ لیتے۔

حارثہ بن وہب و وائل بن حجر بنی النضر:

حارثہ بن وہب خزاعی بنی النضر ہیں اور حضرت وائل بن حجر حضرمی بنی النضر ہیں۔ عاصم بن کلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ وائل بن حجر سے کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا میرے سر پر بڑے بڑے بال تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا:

یہ شہد کی مکھی کا چھتہ ہے۔ میں آیا اور میں نے اپنے تمام بال کٹوا دیئے۔ پھر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضور نے دریافت فرمایا۔ تم نے اپنے بال کیوں کٹوا دیئے؟ عرض کیا کہ میں نے سنا کہ حضور نے فرمایا: ذباب! میں نے اس سے یہ سمجھا کہ یہ کوئی عیب و نقص کی بات ہے۔ آنحضرت ﷺ نے فرمایا میرا یہ مطلب تو نہ تھا۔ خیر اچھا ہوا جو کچھ تم نے کیا۔ کہا گیا ہے کہ ذباب ایک پستانی کلمہ ہے۔

صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ:

یہ مرادی ہیں۔ اور وہ بنی ربیع بن زاہر بن عامر بن عویش بن زاہر بن مراد ہیں۔ زر بن حبیش کہتے ہیں میں صفوان بن عسال المرادی سے ملا۔ میں نے اس سے کہا آپ کو رسول خدا ﷺ کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں نے تو بارہ غزوے حضور ﷺ کے ساتھ کیے ہیں۔ صمام زر سے بیان کیا کرتے تھے کہ میں وفد کی صورت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا۔ مجھے اس وفد میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور دوسرے اصحاب رسول اللہ ﷺ لے گئے تھے۔ میں اس وقت صفوان بن عسال المرادی سے ملا تھا۔

اسامہ بن شریک رضی اللہ عنہ:

ثعلبی، قیس عیلان میں سے ہیں اور ان کی ایک حدیث ہے کہ میں نبی اکرم ﷺ کے پاس چند اعراب کے ساتھ چند سوالات کرنے آیا تھا۔

مالک بن عوف رضی اللہ عنہ:

ابن نصلہ بن خدیج بن حمین حدید بن غنم بن کعب بن عصمہ بن جشم بن معاویہ بن بکر بن ہوازن قیس عیلان میں سے تھے۔ یہ ابوبالی الاحوص اصحاب عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں سے ہیں۔ شعبہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسحاق نے خبر دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابوالاحوص سے سنا کہ وہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے کہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرا چہرہ تکلیف و مصیبت سے مرجھایا ہوا اور متغیر تھا۔ حضور نے مجھ سے پوچھا تمہارے پاس مال ہے؟ میں نے کہا: ہاں ہے۔ پوچھا تمہارے پاس کیا مال ہے؟ عرض کیا: میرے پاس گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، غلام ہیں اور بکریاں ہیں۔ ارشاد فرمایا: جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس فارغ البالی کا اثر تمہارے چہرے اور لباس سے تو ظاہر ہونا چاہیے (یعنی اگر اللہ تعالیٰ جائز طور پر مال و دولت عطا فرمائے تو اچھی غذا اچھا لباس اور اچھی صورت کوئی بری چیز نہیں۔ مالدار کی کا اثر جسم و لباس سے بھی ظاہر ہونا چاہیے)۔

عامر بن شہر رضی اللہ عنہ:

یہ ہمدانی ہیں۔

یعنی کا بیان ہے کہ عامر بن شہر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمدانی حبش کے قلعہ جبل الجھل میں قلعہ بند ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعہ ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا یہاں تک کہ ہمدانیوں پر اہل فارس نے حملہ کر دیا اور وہ ایران والوں سے ہمیشہ جنگ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ جنگ بھڑک اٹھی اور طویل ہو گئی۔ پھر آنحضرت ﷺ نے ان پر چڑھائی کی اور عامر بن شہر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عامر! تم تو ایرانی بادشاہوں کے ندیم رہے ہو۔ کیا تم ہمارے مطیع بن سکتے ہو اگر تم ہم سے کسی چیز پر راضی ہو جاؤ تو ہم اس کو قبول

کر لیں گے اور اگر تم ہمارا آنا گوارا سمجھتے ہو تو ہم بھی اس کو ناگوار سمجھیں گے میں نے کہا: ہمیں آپ کی اطاعت منظور ہے۔ سو اس کے بعد میں مدینہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ آپ کے پاس بیٹھ گیا اور عرض کیا ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا: ”میں تمہیں تقوی اللہ اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور یہ کہ تم قریش کی بات سنو اور ان پر عمل کرو۔“

میں نے یہ سن کر عرض کیا کہ بس ہمارے لیے یہ نصیحت کافی ہے اور ہم آپ کی نصیحت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں۔ پھر میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں اپنی قوم میں واپس نہیں جاؤں گا۔ میں اپنے دوست نجاشی کے پاس آ گیا۔ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ آیا اور ایک تختی پر لکھا ہوا پڑھ کر سنانے لگا پس میں ہنس پڑا۔ نجاشی نے پوچھا تم کس بات پر ہنسے؟ کہا اس بچہ کی قرأت پر میں ہنسا جو اس نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس نے کہا کہ واللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی یہی بات نازل ہوئی تھی اور انجیل میں بھی یہی تھا کہ اس زمین پر لعنت برے گی جس پر بچے حکمران ہوں گے۔ یہ سن کر میں واپس لوٹ آیا کہ یہی کلمہ میں نے آنحضرت ﷺ سے بھی سنا تھا اور آپ نے یہی فرمایا تھا جو نجاشی سے سنا۔ میں بھی مسلمان ہو گیا اور میری قوم بھی اور بہل میں آباد ہو گئے اور رسول اللہ ﷺ نے مالک ذی مران کو بھی ایک مکتوب لکھا آپ نے مالک ابن مرارہ و ہادی کو یمن کی طرف بھیجا۔ عکہ ذو جنون والے بھی اسلام لے آئے اور کہا گیا کہ تم لوگ جا کر آنحضرت ﷺ سے امان لے آؤ۔ حضور ﷺ نے ان کو امان کی ضمانت دے دی اور یہ امان نامہ لکھا دیا ”بسم اللہ الرحمن الرحیم: محمد رسول اللہ ﷺ کی طرف سے عک ذی جنون کے لیے۔ اگر یہ اپنے مال اور غلاموں وغیرہ میں سچے ہیں تو اللہ و رسول کی طرف سے ان کی حفاظت ہے۔“ اور خالد بن سعید رضی اللہ عنہما کو بھی لکھوا دیا۔

عبیط بن شریط رضی اللہ عنہ:

یہ اشجی قیس غیلان میں سے ہیں۔ وہ ابو سلمہ بن عبیط ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ اور چچا کے ساتھ حج کیا۔ میرے باپ نے کہا: کیا تو اس سرخ اونٹنی والے صاحب کو دیکھ رہا ہے جو خطبہ دے رہا ہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ تھے۔ ابی مالک اشجی کہتے ہیں عبیط بن شریط رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں اپنے باپ کے پیچھے اونٹنی پر سوار تھا اور آنحضرت ﷺ حمرہ کے نزدیک خطبہ دے رہے تھے آپ نے فرمایا:

تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد (ﷺ) اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ کون سا دن زیادہ عزت و احترام والا ہے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: آج کا دن۔ فرمایا: کون سا مہینہ زیادہ محترم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یہ مہینہ پوچھا کون سا شہر زیادہ محترم ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یہ شہر آپ نے فرمایا کہ تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر اسی طرح حرام ہیں جیسا کہ آج کا دن یہ مہینہ اور یہ شہر (تمہیں ایک دوسرے کی جان و مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ نہ کسی کی جان لینا چاہیے نہ مال)۔

سلمہ بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا کہ کیا آپ اس خطبے کے گواہ اور سننے والے ہیں، کہا اے بیٹے اگر تو اس واقعہ اور توحید و رسالت کی گواہی کو چھپائے گا تو گنہگار ہوگا اور جو وبال ان پر آئے گا وہ تجھ پر بھی آئے گا۔ اے بیٹے! میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں (ان کفار و مشرکین میں) بیٹھوں اور دوزخ کی آگ میں داخل ہوں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے یوم الآخر میں آنحضرت ﷺ کو (مذکورہ بالا) سرخ اونٹنی پر خطبہ دیتے سنا تھا۔

سلمہ بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن مشجعہ بن جمع بن مالک بن کعب بن سعد بن عوف بن حریم بن بھمی بن سعد العشیرۃ بن مذحج۔ یہ ایک وفد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ انہوں نے نبی ﷺ سے روایت بھی کی ہے کہ آنحضرت ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے میں کھڑا ہوا اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ اگر آپ کے بعد ہم پر امراء ہوں۔ ہم سے اپنا حق مانگیں مگر ہمارا حق نہ دیں۔

عرفجہ بن شریح اور صخر بن عییلہ رضی اللہ عنہما:

عرفجہ اشجعی ہیں ان کو ابن صریح بھی کہا گیا ہے۔ صخر بن عییلہ ابن عبد اللہ بن ربیعہ بن عمرو بن عامر بن علی بن اسلم بن احمس یہ بخیلہ میں سے ہیں۔ ابو حازم ان کی کنیت ہے۔ عثمان بن ابی حازم صخر بن عییلہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی چچی کو پکڑ کر آنحضرت ﷺ کے پاس لے آیا۔ مغیرہ بھی ان کی تلاش میں آگئے اور حضور ﷺ سے اپنی چچی کے بارے میں پوچھا؟ آپ نے فرمایا وہ ہمارے پاس ہیں، حضور نے مجھے بلایا اور فرمایا: کہ اے صخر! جو لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو وہ اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیتے ہیں، پس ان کو ان کے حوالے کر دو کہتے ہیں کہ مجھے آنحضرت ﷺ نے بنی سلیم کے لیے پانی عطا فرمایا۔ بنی سلیم کے لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پانی مانگا پس حضور ﷺ نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے صخر! جو لوگ ایمان لے آتے ہیں تو وہ اپنی جانیں اور مال محفوظ کر لیتے ہیں۔ ان کو دے دے سو میں نے ان کو حوالہ کر دیا۔

عروہ بن مضرس رضی اللہ عنہ:

ابن اوس بن حارثہ بن ام الطائی۔ یہ اسلام لائے، نبی ﷺ کی صحبت ان کو میسر آئی، بعد میں یہ کوفے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ اسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہمراہ عیینہ بن حصن کی طرف بھیجا گیا تھا، جب وہ یوم بطاح میں قید ہوا۔ یہ گرفتار کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ کیونکہ یہ مرتد ہو گیا۔ بطاح بنی تمیم کے کنوئیں کا نام ہے۔ اوس بن حارثہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے عہد رسول اللہ ﷺ میں حج کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگ رات کو جمع ہوتے ہیں۔ یہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے مقام عرفات میں رات ہی کو پھر وہاں سے لوٹ آئے۔ پھر لوگوں کے ساتھ جمع ہوئے۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں رات ہی کو اپنے قافلہ میں لوٹ آیا۔ کیا میرا حج ہو گیا؟ آپ نے فرمایا: کہ جس نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، جماعت کے ساتھ اور ہمارے ساتھ مقام عرفات میں کھڑا ہوا۔ اور عرفات سے ہمارے ساتھ لوٹ آیا۔ اسی رات کو یادن کو تحقیق اس کا حج مکمل ہو گیا اور اس کا فریضہ ادا ہو گیا۔

مہلب بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن عدی بن قنہ بن عدی بن عبد شمس بن عدی بن اخزم الطائی۔ ان کا نام سلاقہ تھا ان کے سر پر بال نہ تھے۔ یہ آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا بال اُگ آئے اس لیے ان کو مہلب کہا جانے لگا۔ وہ ابو قبیصہ بن مہلب ہیں جو اس سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

زاہر و نافع بن عتبہ رضی اللہ عنہما:

ابو حمزہ بن زاہر سلمی۔ یہ ان میں سے ہیں جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی تھی اور کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ نافع کاتب نامہ یہ ہے۔ ابن ابی وقاص بن زہیب بن عبد مناف بن زہرہ۔ یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں۔

لبید بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

ابن مالک بن جعفر بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ۔ یہ مشہور شاعر ہیں ابو عقیل کنیت ہے۔ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اور اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ پھر کوفہ کی طرف ہجرت کی اور وہیں آباد ہو گئے اور ان کے ہمراہ ان کے بیٹے بھی تھے۔ جس رات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقام خیلہ پر آ کر ٹھہرے اور حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے مصالحت کی اسی رات کو ان کا انتقال ہوا۔ اور بنی جعفر بن کلاب کے صحراء میں دفن کیے گئے۔ ان کے بیٹے اپنے دیہات میں لوٹ آئے۔ لبید رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کبھی شعر نہیں کہا اور یہ فرمایا: اللہ نے میری شاعری کو قرآن سے بدل دیا ہے۔

حبہ و سواہ رضی اللہ عنہما خالد کے بیٹے:

اعمش سلام بن شریحیل سے حبہ بن خالد اور سواہ بن خالد رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم دونوں آنحضرت ﷺ کے پاس آئے۔ آپ کوئی عمارت تعمیر کر رہے تھے ہم نے بھی اس کام میں حضور کی مدد کی یہاں تک کہ ہم اس کام سے فارغ ہو گئے۔ پھر ہم نے آپ سے جو کچھ سیکھنا تھا سیکھ لیا یعنی ضروری دینی علم حاصل کر لیا۔

سلمہ بن قیس و ثعلبہ بن الحکم رضی اللہ عنہما:

یہ اشجعی ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں اور کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ثعلبہ بن الحکم نے اسلام قبول کیا۔ آنحضرت ﷺ کے ہمراہ جنگ حنین میں شریک ہوئے۔

عروہ بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

بارقی ازد میں سے ہیں۔ شعیب و قیس کہتے ہیں کہ عروہ بن ابی الجعد بارقی اور سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما شریح رضی اللہ عنہ سے پہلے کوفہ میں قاضی رہے ہیں برازا لودر میں ان کا گھوڑا بندھا رہتا تھا جس کو انہوں نے بیس ہزار درہم میں خریدا تھا۔ ان کو قیمتی گھوڑے رکھنے کا شوق تھا۔ ان کے اصطلیل میں عمدہ نسل کے گھوڑے بندھے رہتے تھے۔

شمیب بن غرقہ کہتے ہیں کہ میں نے عروہ البارقی کے پاس تقریباً ستر گھوڑے دیکھے ہیں ان سے یہ حدیث بھی مروی ہے

جہاد کے لیے بندھا ہوا گھوڑا قیامت کے دن بڑی نیکی ہوگی۔

حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے ابن ہلال بن جریح بن مرہ بن حزن بن عمرو بن جابر بن شہین ابن لائی بن عضم بن شمتح بن خزازہ۔ یہ انصار کے حلیف تھے۔ آنحضرت ﷺ کی صحبت و زیارت نصیب ہوئی تھی۔ جب یہ کوفے میں آئے تو زیاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے ان کو بصرے کا عامل بنا دیا تھا ابو یزید مدینی کہتے ہیں کہ جب حضرت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ اس مرض میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی تو ان کو اتنی شدید سردی محسوس ہوئی کہ ان کے لیے آگ جلائی گئی۔ ایک آگ کی انگیٹھی ان کے سامنے رکھی گئی اور ایک پیچھے۔ ایک داہنے اور ایک بائیں رکھی گئی کہتے ہیں اس سے بھی ان کی سردی نہ گئی اور وہ یہ کہتے رہے جو کچھ میرے پیٹ میں ہے۔ میں اس کا کیا کروں۔ یہ کہتے کہتے فوت ہو گئے۔

جندب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن سفیان بجلی۔ وہ علقی ہیں۔ علقہ بجیلہ کے بیچ کے حصہ کا نام ہے۔ بعض ان کو ان کے باپ کی طرف منسوب کرتے اور جندب بن عبد اللہ کہتے ہیں بعض اس کے دادا کی طرف منسوب کرتے اور جندب بن سفیان کہتے ہیں اور یہ ایک ہی بات ہے۔
حنظل بن سلیم رضی اللہ عنہ:

ابن الحارث بن عوف بن ثعلبہ بن عامر بن ذہل بن مازن بن ذبیان ابن ثعلبہ بن دول بن سعد مناۃ بن عامر بن الازد۔ کوفے میں بیت الازوان کا گھر ہے۔ یہ اسلام لائے۔ رسول اللہ ﷺ کی صحبت میں آئے اور کوفے میں آباد ہو گئے۔ وہیں ان کا بیٹا ابو حنیفہ لوط بن یحییٰ پیدا ہوا۔
حارث بن حسان رضی اللہ عنہ:

یہ بکری ہیں۔ حارث بن حسان کہتے ہیں ہم آنحضرت ﷺ کی زیارت کے ارادے سے نکلے مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ سیاہ جھنڈا لہرا رہا تھا۔ اچانک حضرت بلال رضی اللہ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے آئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ آج صورت حال کیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا آنحضرت ﷺ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو کہیں بھیج رہے ہیں۔

جابر بن ابی طارق رضی اللہ عنہ:

بجیلہ کے حمسی خاندان میں سے ہیں اور وہ ابو حکیم بن جابر ہیں۔ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو حازم رضی اللہ عنہ:

اور ان کا نام عوف بن الحارث بن عوف بن حشش بن ہلال بن الحارث بن رزاح بن کلب بن عمرو بن لوی بن رحم بن معاویہ بن اسلم ابن حمس بن بجیلہ ہے۔ اور وہ ابو قیس بن ابی حازم ہیں قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ابو حازم رضی اللہ عنہ کو سورج کی دھوپ میں خطبہ دیتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ سائے میں آ جائیں۔

قطبہ بن مالک اور معن بن یزید رضی اللہ عنہما:

قطبہ بن مالک بنی ثعلبہ میں ہیں اور وہ زیاد بن علاقہ کے چچا ہیں۔

معن بن یزید۔ ابن الاخصس بن حبیب بن جرد بن زعب بن مالک بن خفاف بن عصبہ بن خفاف بن امراء القیس بن بھشتہ بن سلیم بن منصور ہیں۔ ابوالجوریہ معن بن یزید سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میرے باپ اور دادا نے بھی کی۔ معن بن یزید رضی اللہ عنہما کو فے میں آباد ہو گئے تھے اور ضحاک بن قیس فہری کے ساتھ ایک معرکہ میں شہید ہوئے۔

طارق بن الاشیم ابومریم السلولی رضی اللہ عنہ:

طارق بن اشیم اشجعی ہیں اور وہ ابوابی مالک ہیں۔ ابی مالک بن سعد اور یہ طارق رضی اللہ عنہما حضرت ابوبکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

ابومریم السلولی کا نام مالک بن ربیعہ ہے اور وہ ابوبرید بن ابی مریم۔ یہ نبی ﷺ سے عطاء بن سائب کی حدیث روایت

کرتے ہیں۔

حبشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن نصر بن اسامہ بن الحارث بن معیط بن عمرو بن جندل بن مرہ بن حصصہ بن معاویہ بن بکر بن ہوازن۔ ماں کی طرف سلسلہ نسب یہ ہے ام جندل بن مرہ سلول ربنہ ذہل بن شیمان بن ثعلبہ۔ اسی نسبت سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ حبشی اسلام لائے اور حضور ﷺ کی صحابیت کا درجہ حاصل کیا اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں شہید ہوئے۔ ایک شخص نے ان سے پوچھا آخر آپ کو کیا خوف اور مجبوری ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دے رہے ہیں؟ کہا میرے نزدیک اس سے بڑا نیکی اور حق پرستی کا کوئی نیک عمل نہیں۔

دکین بن سعید اور برمہ بن معاویہ رضی اللہ عنہما:

دکین بن سعید جمععی ہیں۔ بعض ان کو ابن سعید بتلاتے ہیں۔ ان سے قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں برمہ بن معاویہ ابن سفیان بن منذر بن وہب بن عمیر بن نصر بن قعبین بن الحارث ابن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ وہ ابو قبیصہ بن برمہ ہے۔ جو اس سے حدیث روایت کرتا ہے۔

خریم بن الاحزم رضی اللہ عنہ:

ابن شداد بن عمرو بن الفاتک بن قلیب بن عمرو بن اسد بن خزیمہ ہیں۔ یونس بن ابی اسحاق شمر بن فاتک سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان سے فرمایا اے خریم! اگر تمہارے اندر دو خصلتیں نہ ہوتیں تو تم اچھے آدمی ہوتے۔ عرض کیا حضور ﷺ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ مجھے ایک کافی ہے فرمایا اپنے بال پورے کرو اور اپنی ازار سننے سے اونچی کرو سوانہوں نے اپنے بال ٹھیک کر لیے اور ازار سننے سے اونچی کر لی۔ اس کے سوا ان کی

کوئی حدیث نہیں۔ ان کا ایک بیٹا ایمن بن خرم شاعر تھا۔ وہ کہتا ہے:

وَكُنْتُ لِقَاتِلِ رَجُلًا يُصَلِّيَ عَلَي سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ
لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ اِثْمِي مَعَاذَ اللّٰهِ مِنْ جَهْلِ وَطَيْشٍ
اَقْتُلْ مُسْلِمًا فِي عَنَبٍ حَقِّ فَلَسْتُ بِنَافِعِي مَا عَشْتُ عَيْشِي

”اور میں اس شخص کو قتل کرنے والا نہیں جو قریش کے علاوہ کسی اور بادشاہ کا دعا گو اور خیر خواہ ہے اس کے لیے دلیل ہے اور مجھ پر گناہ ہے۔ میں ایسے جہل اور غصے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، کیا میں کسی مسلمان کو ناحق قتل کروں۔ جب تک میں جی رہا ہوں یہ کام مجھ سے نہ ہوگا۔“

شعبیؒ اس ایمن بن خرمؒ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میرے باپ اور میرے چچا دونوں بدر میں شریک ہوئے تھے اور ان دونوں نے عہد کیا تھا کہ کسی مسلمان کو قتل نہ کریں گے۔

دوسرے ارباب میر نے کہا ہے کہ وہ دونوں بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ ابو معشر اور محمد بن عمروؒ کہتے ہیں کہ وہ دونوں بدر میں شریک نہیں ہوئے۔ بدر میں تو صرف قریش و انصار ان کے حلیف اور ان کے غلام شریک ہوئے تھے۔
ضرار بن الازور رضی اللہ عنہ:

ازور کا نام مالک بن اوس بن جذیمہ بن ربیعہ بن مالک بن مالک ابن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ ہے۔ یہ بہترین سوار تھے۔ اسلام لائے۔ جی ﷺ سے حدیث لقوح روایت کرتے ہیں۔ یمامہ کی جنگ میں انہوں نے بڑی بہادری اور بے جگری سے سخت جنگ کی یہاں تک کہ آپ کی دونوں پنڈلیاں کاٹ دی گئیں، آپ گھٹنوں کے بل لڑتے رہے یہاں تک کہ آپ شہید ہو گئے۔

عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ حضرت ضرار بن ازور رضی اللہ عنہ یمامہ میں زخمی پڑے رہے۔ اس سے پہلے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچیں ان کا انتقال ہو گیا۔

فرات بن حبان اور یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہما:

فرات بن حبان ابن ثعلبہ بن عبدالعزیٰ بن حبیب بن حنظلہ بن ربیعہ بن سعد بن عجل۔ یہ بنی سہم کے حلیف تھے۔ کوفہ میں آ کر اپنا مکان بنا کر آباد ہو گئے تھے بنی عجل ہیں۔ ان کی اولاد کوفہ میں رہی۔ یعلیٰ بن مرہ ابن وہب بن جابر بن عناب بن مالک بن کعب بن عمرو بن سعد ابن عوف بن ثقیف۔ یہ وہ ہیں جن کو یعلیٰ بن سبأ نے بھی کہا جاتا ہے۔ سبأ ان کی والدہ یا دادی ہیں حفص الثقفی کہتے ہیں کہ میں نے سبأ یعلیٰ بن مرہ ثقفی نے کہا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ یعلیٰ بن مرہ بیعت رضوان میں خیبر میں فتح مکہ میں اور غزوہ طائف و حنین میں شریک ہوئے۔

عمارہ بن رویبہ رضی اللہ عنہ:

یہ ثقفی ہیں۔ انہوں نے نبی ﷺ سے نماز قبل غروب آفتاب کی حدیث روایت کی ہے۔

عبدالرحمن بن ابی عقیل رضی اللہ عنہ:

ثقفی ہیں ججاج بن یوسف کے گروہ میں سے ہیں۔ عبدالرحمن بن علقمہ ثقفی عبدالرحمن بن ابی عقیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک وفد میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس کے بعد اپنا قصہ بیان کیا۔
عقبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے ہر بوع بن حبیب بن مالک بن اسعد بن رفاعہ بن ربیعہ بن رفاعہ بن الحارث بھشہ بن سلیم بن منصور۔ ان کو رسول اللہ ﷺ کی صحابیت کا شرف حاصل ہوا۔ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے اور ان کو فراقہ کہا جاتا تھا۔
جابر عامر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ ”ہر وہ انگوٹھی جس میں عربی الفاظ نقش ہوں اسے توڑ دو“ اس حکم کے مطابق عقبہ بن فرقد کی انگوٹھی توڑ دی گئی کیونکہ اس میں نقش تھا۔

ابو عثمان ہندی سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عقبہ بن فرقد رضی اللہ عنہ کے جسم پر کسم کی ایک لمبی قمیص دیکھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک قینچی منگائی کہ اس کو چاروں طرف سے کاٹ دیں۔ عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے امیر المؤمنین! مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ آپ کاٹیں۔ لایے میں خود کاٹے دیتا ہوں۔
عبید بن خالد رضی اللہ عنہ:

یہ سلمی ہیں۔ یہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے دو شخصوں میں بھائی چارہ کرایا۔ ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔

طارق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

یہ بخاری ہیں۔ آنحضرت ﷺ سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں ”جب تم میں سے کوئی شخص تھو کے تو اپنے آگے اور دہنی طرف نہ تھو کے“۔

ابی صخرہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے طارق بن عبد اللہ کی قوم کے ایک شخص نے بیان کیا کہ طارق بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں ذی مجاز کے بازار میں تھا۔ کہ میرے سامنے سے ایک نوجوان شخص گزرا۔ جو سرخ چادر اوڑھے ہوئے تھا اور وہ کہہ رہا تھا:
﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَقْلِبُوا﴾
”اے لوگو! لا الہ الا اللہ کہو اور نجات و کامرانی حاصل کرو“۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص اس کے پیچھے یہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ شخص جھوٹا ہے اس کی بات مت مانو۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے بتلایا کہ یہ بنی ہاشم کا لڑکا ہے۔ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور اس کے پیچھے اس کا چچا عبدالعزیٰ ہے۔

کچھ عرصے بعد جب آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے اور لوگ آپ کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے لگے۔ یہ شہرہ بن کر ہم نے بھی مدینہ کے سفر کا ارادہ کر لیا اور مقام ربذہ سے روانہ ہو گئے ہمارے ساتھ ہودج میں ایک

پردہ دار عورت بھی تھی۔ جب ہم مدینہ کے قریب پہنچے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی اس نے پوچھا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا بڑھ سے۔ پوچھا آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم تو صرف مدینہ کے ارادے سے آئے ہیں۔ پوچھا یہاں آپ کے آنے کی کیا غرض ہے؟ کیا ہم اپنی اہل و عیال کے لیے رسد اور کھجوریں لینے آئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ بھی ہے۔ اس نے کہا کہ کیا آپ اپنا اونٹ بیچنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں (یہی تو ہماری غرض ہے) پوچھا۔ کیا قیمت لوگے؟ ہم نے کہا اتنی اتنی قیمت اور ایک صاع کھجور۔ اس نے کہا جو کچھ تم نے مانگا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے ان سے مانگا تھا اس میں اس نے کوئی کمی نہیں کی۔ پھر اس نے ہاتھ مارا اور اونٹ کی نیکیل پکڑ کر چل دیا۔ جب وہ چلا گیا۔ تو ہم نے کہا بخدا یہ ہم نے کیا کیا کہ ہم جس شخص کو جانتے پہچانتے نہیں اس کے ہاتھ سودا کر لیا۔ عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایسا شخص دیکھا ہے جس کا چہرہ چاند کی مانند چمک رہا ہے۔ وہ تم پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ نہ تمہارے ساتھ کوئی دھوکا یا فریب کرے گا میں تمہارے اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں۔ اتنے میں ایک شخص آیا کہ میں رسول اللہ ﷺ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں۔ یہ کھجوریں لو۔ خوب پیٹ بھر کر کھاؤ اور تول کر دیکھ لو۔ کہ یہ اتنی ہی کھجوریں جتنی تم نے مانگی تھیں۔ ہم نے ان کو تولا وہ پوری تھیں اور ان سے ہمارا پیٹ بھر گیا۔

پھر ہم مدینہ میں داخل ہوئے اور مسجد نبویؐ میں آئے تو ہم نے دیکھا اور سنا کہ یہ تو وہی شخص ہے جس سے ہم نے سودا کیا تھا۔ آپ خطبہ دے رہے تھے۔ فرمایا: صدقہ کیا کرو کہ صدقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور دانا ہاتھ بہتر ہے بائیں سے (یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہے) اور صدقات و خیرات اپنے اہل و عیال اور نزدیکوں سے شروع کرو۔ تیری ماں ہے تیرا باپ ہے۔ تیری بہن ہے اور تیرا بھائی ہے۔ پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ (ایسا نہ کرو کہ تم دوسروں پر اپنی دولت لٹاتے رہو اور تمہارے عزیز و قریب بھوکے سوتے رہیں۔ سخاوت کرنی ہو تو اپنے گھر اور پڑوس سے شروع کرو)۔

اتنے میں بنی یربوع کا ایک شخص داخل ہوا۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ یہ شخص بنی یربوع قبیلے کا ہے۔ ایام جاہلیت میں انہوں نے ہمارا ایک آدمی قتل کیا تھا ہمیں ان سے بدلہ لینے کا موقعہ دیجئے۔ آپ نے فرمایا۔ اب اسلام لانے کے بعد ایام جاہلیت کے خون معاف ہو گئے ہیں۔

ابن ابی شیخ الحارثی رضی اللہ عنہ:

ابن ابی شیخ کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا ﷺ کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا اے معشر محارب اللہ تمہاری مدد کرے۔ مجھے عورت کا دودھ نہ پلاؤ۔ قیس بن ربیع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب امراء القیس شیراز آیا تو کہا یہ ہے عورت کا دودھ پلانا۔
عبیدہ بن خالد رضی اللہ عنہ:

یہ محاربتی ہیں۔ اشعث بن سلیم کے چچا۔ اشعث ابن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چچی کو اس کے چچا سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم مدینہ میں جا رہے تھے۔ ایک انسان کہہ رہا تھا: اپنی ازار کو اونچا کر دے شک جو شخص اپنے کپڑے کو (گندگی سے) بچاتا ہے وہی

اپنے رب کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، میں نے اس شخص کی طرف توجہ کی تو رسول اللہ ﷺ کو پایا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! یہ تو میری چادر لٹک رہی ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا میری زندگی تیرے لیے نمونہ نہیں؟ میں نے نظر ڈالی تو آپ کی ازار نصف پنڈلی تک تھی۔

سالم بن عبید بنی اللہؓ:

یہ اشجعی ہیں۔ انہوں نے سحری کھانے کے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ بعد میں یہ کوفے میں آ کر

آباد ہو گئے تھے۔

نوفل الاشجعی رضی اللہ عنہ:

یہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جب تو سونے کا ارادہ کرے تو قل یا ایہا الکافرؤن پڑھ لیا کر۔ یہ شرک سے پاک کرنے والی سورت ہے اور وہ ابو نعیم ابن نوفل ہیں۔“

سلمہ بن نعیم رضی اللہ عنہ:

یہ بھی اشجعی ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں ان سے حدیث سنی۔ بعد میں یہ بھی کوفے میں آباد ہو گئے تھے اور نبی ﷺ سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملا کہ اس نے (کسی قسم کا) شرک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوا۔“

شکل بن حمید رضی اللہ عنہ:

یہ عجمی ہیں اور وہ ابو شتر بن شکل ہیں۔ ان کی حدیث یہ ہے۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا: ”اے اللہ میں اپنے کانوں اپنی آنکھوں اور ہر قسم کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

اسود بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ:

یہ یربوعی ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ میں حجۃ الوداع میں شریک تھا۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا: ”جس کو مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو تو آج لے لے۔“

رُشید بن مالک رضی اللہ عنہ:

یہ سعدی ہیں۔ ابو عمیرہ کنیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں یوم فداء کے دن رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص کھجوروں کا ایک طبق لے کر آیا۔ حضور نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس نے کہا: یہ صدقہ ہے آپ نے فرمایا: تو پھر لوگوں کو دے دو۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے اس میں سے ایک کھجور لے کر اپنے منہ میں ڈال لی۔ رسول اللہ ﷺ نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے منہ میں اپنی انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال کر پھینک دی اور فرمایا: ”آل محمد صدقہ نہیں کھایا کرتے۔“

فبیع بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن جندب بن بکتاء بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ العامری یہ کہتے ہیں میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پوچھا ہمارے لیے مردار کی کیا چیز حلال ہے؟ آپ نے اس کو تفصیل سے بتلایا۔

عتاب بن شمیر رضی اللہ عنہ:

عتاب بن شمیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! میرا بوڑھا باپ اور بھائی ہیں میں ان کی طرف جاتا ہوں شاید وہ مسلمان ہو جائیں تو میں ان کو آپ کے پاس لے آؤں۔ آپ نے فرمایا: اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے اور اگر وہ اپنی حالت پر قائم رہیں تو اسلام تو اب پھیل جانے والا ہے۔

ذوالجوشن بن ربیعہ:

ہشام بن محمد بن سائب کلبی کہتے ہیں کہ اس کا نام شرمیل بن عمرو بن معاویہ ہے اور وہ ضباب بن کلاب بن ربیعہ

بن عامر بن صعصعہ ہے۔

دوسرے ارباب سیر نے کہا ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیعہ کلابی ہے اور وہ باپ ہے اس شمر بن ذی الجوشن کا جس نے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کیا تھا۔ شمر اپنی کنیت ابو سابعہ بتلایا کرتا تھا۔ ابو اسحاق سہمی کہتے ہیں کہ جوشن بن ربیعہ کلابی نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک گھوڑا ہدیہ آپ کے حضور پیش کیا۔ اور وہ اس وقت تک مشرک تھا اس لیے حضور ﷺ نے اس کا ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر آپ چاہیں تو اس کو مجھ سے خرید لیں۔ آپ نے اس سے بھی انکار کر دیا۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ اے ذی الجوشن کیا تو چاہتا ہے کہ شروع میں ہی اسلام قبول کر لے؟ کہا نہیں۔ فرمایا: اسلام قبول کرنے سے تجھے کون سی چیز روکتی ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کو چھٹا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ آپ کو نکال دے یا قتل کر دے۔ سو آپ انتظار کریں اگر آپ ان پر غالب آگئے اور وہ ناکام ہوئے تو میں آپ پر ایمان لا کر آپ کی پیروی کروں گا اور اگر آپ غالب نہ آئے تو پھر میں آپ کی پیروی نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا: تو عنقریب ہی دیکھ لے گا کہ میں کس طرح ان پر غالب آتا ہوں (اور اسلام سارے ملک عرب میں پھیلتا ہے)۔

کہتے ہیں کہ واللہ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ مکہ کی طرف سے ہمارے پاس ایک سوار آیا۔ ہم نے پوچھا سناؤ مکہ کی کیا خبر ہے؟ اس نے کہا محمد ﷺ اہل مکہ پر غالب آگئے ہیں (مکہ فتح ہو گیا ہے اور مشرکین مکہ مغلوب و مفتوح ہو گئے ہیں) ذوالجوشن کو افسوس اور دکھ ہوا کہ اس نے کیوں نہ اس وقت اسلام قبول کر لیا جب کہ آنحضرت ﷺ نے اس کو اس کی دعوت دی تھی، عیسیٰ بن یونس اپنے باپ سے اور وہ ذی الجوشن ضبابی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا: کہ جب رسول مقبول ﷺ جنگ بدر سے فارغ ہو کر آئے تو میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ! میں آپ کے پاس چار دانت والا گھوڑا لایا ہوں اس کو لے لیجئے۔ آپ نے فرمایا اگر تو جنگ بدر سے پہلے آتا تو میں لے لیتا۔ آج ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔

اس سے اگلی روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔ یعنی اسی طرح وہ گھوڑا لے کر آیا اور آپ نے فرمایا: اے ذی الجوشن تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا۔ اس نے کہا نہیں۔

عالم بن ابجر رضی اللہ عنہ:

یہ مزی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک دن اس قدر فقر و فاقہ میں گزرا کہ ہمیں اپنے مال میں کھانے کی کوئی چیز میسر نہ آئی۔ سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک موٹا گدھا تھا اور رسول اللہ ﷺ نے گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا تھا۔ میں آپ کے پاس آیا اور اپنی حالت بیان کی کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں صرف ایک موٹا گدھا ہے اور آپ نے اس کو حرام کیا ہے۔ فرمایا: تم اس کا گوشت کھا سکتے ہو میں نے تو اس کو حرام کیا تھا جو بہت پھرتے رہتے اور گندگی کھاتے ہیں۔

عامر اور الاعز المزنی رضی اللہ عنہما:

یہ ابوہلال بن عامر المزنی ہیں۔

اور یوں بھی کہا جاتا ہے یہ جہنی ہیں۔ یہ بھی آنحضرت ﷺ کے صحابیوں میں سے ہیں یہ خطبہ میں یہ دعویٰ کیا کرتے تھے میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے "اے لوگو! اپنے رب کی طرف رجوع کرو گناہوں سے توبہ کرو۔ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔"

ہانی بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن مہیک بن درید بن سفیان بن قباب بن حارث بن کلاب میں سے ہیں۔ وہ بنی حارث کے وفد میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی کنیت ابوالحکم تھی۔ اس کو حکمت و دانائی کی وجہ سے ابوالحکم کہا جاتا تھا۔ نبی ﷺ نے دریافت فرمایا۔ تمہاری کنیت ابوالحکم کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ جب ہمارے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو لوگ میرے پاس آتے ہیں تو میں انصاف کے ساتھ ان کا فیصلہ کر دیتا ہوں۔ حضور نے دریافت فرمایا کیا تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ میں نے عرض کیا۔ ہاں پوچھا۔ ان میں بڑا کون ہے میں نے عرض کیا شریح۔ حضور نے فرمایا پھر تو تم ابو شریح ہوئے۔

ابوسبرہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام یزید بن مالک ہے۔ بن عبد اللہ بن ذویب بن سلمہ بن عمرو بن ذہل بن مراہ بن جھنی بن سعد العشرہ۔ من زنج اور یہ خشمہ بن عبد الرحمن بن ابی سبرہ ابواسحاق خشمہ سے روایت کرتے ہیں کہ میرا دادا مدینہ میں آیا تو میرے لڑکا پیدا ہوا۔ میں نے اس کا نام عزیز رکھا اور اس بات کا ذکر نبی ﷺ سے کیا آپ نے فرمایا: نہیں بلکہ وہ عبد الرحمن ہے۔

مسور بن یزید رضی اللہ عنہ:

یہ اسدی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے نماز کی امامت کرائی قرأت میں آپ سے کوئی آیت چھوٹ گئی۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ نے فلاں آیت نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا: تو پھر تم نے اسی وقت کیوں نہیں یاد دلایا۔ (یعنی نماز میں ہی لقمہ کیوں نہیں دیا)۔

بشیر بن خصاصہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام رحم بن معبد سدوسی ہے۔ میں نے ابی زیاد بن لقیظ سدوسی سے سنا اور انہوں نے یہ حدیث بیان کی، لیلیٰ بشیر کی عورت کہتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام بشیر رکھا تھا۔ اس سے پہلے اس کا نام رحم تھا۔

بشیر ابو مالک رضی اللہ عنہ:

یہ خزاعی ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اپنے ہاتھ دہانے گھٹنے پر رکھے ہوئے تھے اور نماز میں اپنی انگلی سے اشارہ کیا (تشہد میں)۔

ابو رمثہ تمیمی، ابو امیہ الفزازی اور خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہم:

ابو رمثہ تمیمی کا نام حبیب بن حیان ہے۔

ابو امیہ فزازی کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو پچھنے لگواتے ہوئے دیکھا۔ خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ۔ یہ ابن فاکہ خطمی انصار میں سے ہیں، کنیت ابو عمارہ ہے۔ وہ ذو شہادتین ہیں یہ کوفے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ آئے۔ ہمیشہ کوفے میں ہی رہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا یہاں تک کہ جنگ صفین میں قتل کیے گئے۔ کوفہ میں اور اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑی۔ مجمع بن جاریہ، ثابت بن ودیعہ اور سعد بن بحیر رضی اللہ عنہم:

ابن عامر بن مجمع بن عطف بن ضعیعہ بن زید۔ یہ بنی عمرو بن عوف میں سے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے ہیں جنہوں نے آنحضرت ﷺ کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا۔ سوائے ایک سورۃ یا دو سورتوں کے۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے۔ ان کی کوئی اولاد نہیں۔

ثابت بن ودیعہ ابن خذام بنی عمرو بن عوف میں سے ہیں اور یہ آنحضرت ﷺ سے کئی احادیث روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنی آخری عمر میں کوفے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔

سعد بن بحیر رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہیں جن کو سعد بن حبیب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بنی عمرو بن عوف کے حلیف بحیلہ میں سے ہیں۔ جنگ احد میں یہ بہت چھوٹے تھے۔ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ یہیں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور پانچ تکبیریں کہیں ان کے ایک بیٹے کا نام حمیس ابن سعد بن حبیب ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام ابو یوسف القاضی ان کا نام یعقوب بن ابراہیم بن حبیب بن سعد بن حبیب ہے۔

قیس بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن عبادہ بن دلیم۔ یہ بنی ساعدہ بن کعب بن خزرج میں سے ہیں ابو عبد الملک کنیت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا گورنر بنا دیا تھا۔ پھر اسے معزول کر دیا۔ اس کے بعد یہ مدینہ آ گئے۔ پھر دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آئے۔ ہمیشہ کوفے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہی رہے۔ ابو اسحاق یریم بن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ قیس بن سعد نہر دجلہ پر آئے وضو کیا، موزوں پر مسح

کیا۔ اس طرح کہ میں گویا ان کی انگلیوں کے نشان دیکھ رہا ہوں موزوں پر پھر آ کر لوگوں کی امامت کرائی۔

محمد بن عمرو کہتے ہیں کہ قیس بن سعد ہمیشہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آئے۔ آپ نے ان کو مقدمہ الجیش کے طور پر شام کی طرف بھیج دیا۔ پھر حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کر لی تو یہ مدینہ کی طرف لوٹ گئے۔ پھر ہمیشہ مدینہ میں ہی رہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری ایام میں فوت ہوئے۔

نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ:

یہ بنی حارث بن خزرج میں سے ہیں۔ ان کی ماں کا نام عمرہ بنت رواجہ ہے اور بھائی کا نام عبداللہ بن رواجہ رضی اللہ عنہ۔ نعمان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ جب رسول خدا ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں سب سے پہلی پیدائش نعمان ہی کی ہوئی۔ یہ ربیع الآخر کا مہینہ تھا ہجرت رسول اللہ کا چودھواں مہینہ تھا۔ یہ اہل مدینہ کی روایت ہے۔ اہل کوفہ ان سے بہت سی روایتیں کرتے ہیں۔ جن میں وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ سے ایسا سنا۔ یہ روایتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ بڑی عمر کے تھے۔ اہل مدینہ ان کی پیدائش کے بارے میں جو روایتیں کرتے ہیں ان کے خلاف یہ بڑی عمر کے ثابت ہوتے ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو معزول کر دیا تھا اور یہ شام کو چلے گئے۔ جب یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے نعمان کو بلالیا اور یہ حص کا گورنر ہو گئے۔ مرج ارہط کے معرکے میں جب ضحاک بن قیس کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ ۳۷ھ کا ہے، مروان بن الحکم کی خلافت کا زمانہ تھا تو نعمان بن بشیر حص سے نکل گئے، اہل حص انہیں اسے تلاش کر کے پکڑ لیا اور انہیں قتل کر کے ان کا سر لٹکا دیا سماک بن حرب کہتے ہیں کہ معاویہ نے ان کو کوفے کا گورنر بنا دیا تھا۔ خدا کی قسم یہ بڑا خطیب تھا۔

ابو ملیح، عمرو بن بلیل اور شیبان رضی اللہ عنہم:

ابو ملیح کا نام و نسب یہ ہے: بلال بن بلیل بن اجیہ بن جداح، یہ بنی عمرو بن عوف میں سے ہیں اور وہ ابو عبدالرحمن بن ابی ملیح۔ اس نے کوفے میں اپنا مکان بنا لیا تھا۔ عمرو بن بلیل ابن اجیہ بن الجلاح بنی عمرو بن عوف سے۔

شیبان بن سمیرہ کے دادا ہیں۔ یہ انصاری تھے۔ شیبان اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوا اور ازواج مطہرات کے حجروں سے کسی ایک حجرے کے پاس بیٹھ گیا۔ آنحضرت ﷺ نے میرے کھانسنے کی آواز سن لی۔ پوچھا کیا ابو یحییٰ ہیں؟ میں نے عرض کیا ہاں حضور میں ہوں۔ آپ نے فرمایا تو آؤ ہمارے ساتھ صبح کے ناشتے میں شریک ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا۔ میں روزے سے ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ میرا ارادہ بھی آج روزہ رکھنے کا تھا مگر ہمارے مؤذن نے طلوع فجر سے پہلے ہی اذان دے دی اور اس کی آنکھ میں بھی کچھ تکلیف تھی۔

قیس بن ابی غزرة الانصاری اور حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہم:

حنظلہ بن تمیم کے کاتب تھے پھر بنی اسید بن عمرو بن تمیم کے کاتب ہو گئے انہوں نے ایک مرتبہ آنحضرت ﷺ کے لیے ایک نامہ لکھا اس لیے ان کو کاتب کہا جانے لگا کیونکہ عرب بہت کم پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔

ریاح بن ریح، معقل بن سنان، عدی بن عمیرہ اور مرداس بن مالک رضی اللہ عنہم:

ریاح بن ریح رضی اللہ عنہ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

معقل بن سنان یہ اشجعی ہیں ذی الحجہ میں یوم الحرة میں قتل ہوئے۔ یہ ۳۷ھ کا واقعہ ہے۔ عدی بن عمیرہ کنزی ہیں۔ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں۔ وہ ابو عدی بن عدی بن عمیرہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے مصاحبین میں سے ہیں۔ مرداس بن مالک اسلمی ہیں۔ ان سے قیس بن ابی حازم روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن حسیۃ جہنی اور عبداللہ ابوالمغیرہ رضی اللہ عنہما:

یہ عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: میں ایک ایسے شخص کے پاس پہنچا جو لوگوں سے گفتگو کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ نبی کریم ﷺ کا کوئی وصف مجھ سے بیان کرو کہ میں نے حضور کو نہیں دیکھا۔ اس نے حضور ﷺ کے کچھ اوصاف بیان کیے۔ پھر میں روانہ ہوا عرفات کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ میرے سامنے سے سواروں کے لشکر گزرنے لگے۔ میرے سامنے سے سواروں کا ایک لشکر گزرا میں نے اس پر نظر ڈالی۔ اس میں میں نے نبی اکرم ﷺ کو پہچان لیا۔ آپ لشکر کے بیچ میں تھے جب آپ میرے نزدیک آئے سواروں میں سے ایک شخص نے کرخت آواز میں مجھ سے کہا کہ سواروں کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ رسول اکرم ﷺ نے یہ سن کر فرمایا اس شخص سے تعرض نہ کرو یہ بہت مشتاق اور گرویدہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضور میری طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے آپ کی اونٹنی کی تکمیل آگے بڑھ کر پکڑ لی اور عرض کیا۔ مجھے کوئی ایسا نیک عمل بتلائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ کی آگ سے بچالے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو اس پر عمل کرے گا؟ عرض کیا کیوں نہیں۔ ضرور کروں گا۔ فرمایا تو لے سن اور سمجھ لے اس عمل کو اچھی طرح (وہ عمل یہ ہے) تجھے صرف ایک خدائے واحد کی عبادت و بندگی کرنی چاہیے اور تجھے اس کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہ کرنا چاہیے۔ نماز کو قائم کر، زکوٰۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ، حج بیت اللہ کر، لوگوں سے وہ سلوک کر جو تو خود چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے سلوک کریں اور لوگوں کے لیے وہ بات نہ کر جو تو خود اپنے لیے ناپسند کرتا ہے (یعنی جو بات تو اپنے لیے چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے کر اور جو بات اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کر) پس میں نے اونٹنی کی تکمیل چھوڑ دی۔

ابوشہم رضی اللہ عنہ:

قیس بن ابی حازم ابوشہم سے روایت کرتے ہیں کہ قبل از اسلام ان کی حالت یہ تھی کہ مدینہ میں ایک لونڈی ان کے سامنے سے گزری۔ وہ اپنی خواہش نفس کو ضبط نہ کر سکے۔ آگے بڑھ کر اس کی کمر پکڑ لی (مگر پھر سنبھل گیا) کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن صبح کے وقت رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے آپ نے اس کا دامن پکڑ کر پوچھا کہ کیا تم وہی ہو جس نے کل یہ حرکت کی تھی (میں بہت ہی شرمندہ اور نادم ہوا) عرض کیا: یا رسول اللہ! میں پھر کبھی ایسی حرکت نہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا تو بس تم راہ راست پر آگے۔ پھر میں نے آپ سے بیعت کی (یہ ہے ایک مومن کی شان کہ اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً

شرمندہ و نادامد ہو اور توبہ کر لے۔

ابو الخطاب رضی اللہ عنہ:

مجھ سے ثور نے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے ایک شخص سے جس کو ابو الخطاب رضی اللہ عنہ کہا جاتا تھا سنا کہ اس سے ایک شخص نے وتر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں نصف رات میں وتر پڑھے جائیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نصف شب گزارنے کے بعد آسمان دنیا پر اپنی تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے ”ہے کوئی گنہگار ہے کوئی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا اور ہے کوئی دعا کرنے والا“ صبح صادق تک اس کی رحمت یہی پکارتی رہتی ہے (کہ ہے کوئی گنہگار کہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ ہے کوئی دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں)۔

حریر رضی اللہ عنہ:

یا ابو حریر: یہ کہتے ہیں کہ میں رسول خدا ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مقام منیٰ میں کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے۔ میں نے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا تو اس سے مشک کی خوشبو آنے لگی۔

رسیم رضی اللہ عنہ:

ابن الرسیم اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے کہا: ”ہم ایک وفد کی صورت میں رسول خدا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے برتنوں میں پینے کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، ہم دوبارہ آپ کے پاس آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ! ہماری زمین بڑی ناگوار ہے وہاں پانی کی قلت ہے فرمایا: جو جہاں پر چیز پاؤ بیو۔“

ابن سیلان رضی اللہ عنہ:

ابن سیلان کہتے ہیں کہ میں نبی کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ نے آسمان کی طرف سر مبارک اٹھایا اور فرمایا ”با برکت ہے تیری ذات۔ تو نے ان پر فتنے نازل کیے ہیں۔“

ابو طییبہ اور ابو سلمیٰ رضی اللہ عنہما:

ابو طییبہ رضی اللہ عنہ ان میں سے ہے جن کو رسول اللہ ﷺ عطیہ عطا فرمایا تھا۔

ابو سلمیٰ رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے چرواہے تھے۔ ابن جابر اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں ابو سلمیٰ رضی اللہ عنہ سے کوفے کی مسجد میں ملا تھا۔ انہوں نے روایت کی کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے سنا ”سبحان اللہ آفریں ہے۔ میزان میں کتنے بھاری ہیں یہ کلمات طیبات لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ“ اور کیسی اچھی ہے وہ مسلمان عورت کو وہ اپنے نیک بچے کی سوت پر صبر کرے۔“

بنی تغلب کا ایک شخص:

وہ حرب بن ہلال ثقفی کا ماں کی طرف سے دادا ہے۔ حرب بن ہلال ثقفی کہتے ہیں کہ بنی تغلب کا ایک شخص کہتا ہے میں رسول مقبول ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے مجھے احکام شریعت کی تعلیم دی۔ میں نے اس کو اچھی طرح یاد کر لیا۔ سوائے

عشور کے مسئلے کے۔ میں نے پوچھا کہ کیا وہ عشر (دسواں حصہ) نکالیں آپ نے فرمایا مسلمانوں پر عشر نہیں ہے یہ تو یہود و نصاریٰ پر ہے۔ کہتے ہیں عشور سے مراد جزیہ ہے (یعنی مسلمانوں پر جزیہ نہیں یہ تو یہود و نصاریٰ پر ہے)۔

طلحہ بن مطرف کے دادا نبی اللہ ﷺ:

الایامی: یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو مسح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے اس طرح مسح کیا: دونوں ہاتھوں کی تین انگلیوں کو ملا کر پیشانی کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے مسح شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو گدی تک کھینچا اور پھر واپس ہاتھوں کو دہرائے اور اپنی داڑھی تک۔ یزید کہتے ہیں ہم اسی پر عمل کرتے ہیں۔

ابو مرحب نبی اللہ ﷺ:

شعیب بن علیؓ کہتے ہیں کہ جنہوں نے آنحضرت ﷺ کو قبر مبارک میں اتارا تھا ان میں سے چوتھے عبدالرحمن ابن عوف نبی اللہ ﷺ ہیں۔ محمد بن عمرؓ ہیں کہ ہم اس حدیث کو صحیح نہیں جانتے اور نہ ابو مرحب کو جانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اس باب میں صحیح حدیث وہ ہے جو تمام بلاد اسلامیہ میں مشہور ہے اور جس کو معزز ہری سے وہ سعید بن المسیب نبی اللہ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ چار جلیل القدر صحابی جن کو رسول اللہ ﷺ نے اپنے غسل اور کفن و دفن پر مقرر فرمایا تھا وہ یہ ہیں۔ حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل اور حضرت شعران نبی اللہ ﷺ۔

قیس بن حارث نبی اللہ ﷺ:

یہ اسدی ہیں اور قیس بن ربیع کے دادا ہیں۔ قیس ابن الحارث کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کے پاس آٹھ عورتیں تھیں۔ آنحضرت ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ ان میں وہ صرف چار رکھیں اور باقی چھوڑ دیں۔

فلتان بن عاصم اور عمرو بن احوص نبی اللہ ﷺ:

فلتان جرمی ہیں اور وہ خالو ہیں عاصم بن کلاب جرمی کے۔

عمرو بن الاحوص وہ ابوسلیمان ہیں اور سلیمان کی والدہ ام جندب از دیہ وہ عورت ہے جس نے رسول اللہ ﷺ سے یہ روایت کی ہے ”جرمے کو نکلیاں مارنا پتھر مارنے کے مثل ہے“۔

نقادۃ الاسدی اور مستورد بن شداد نبی اللہ ﷺ:

نقادۃ الاسدی ابن عبداللہ بن خلف بن عمیرہ بن مری بن سعد بن مالک ابن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد ہے۔ یہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کو آپ نے ایک شخص کے پاس بھیجا جس نے ایک اونٹنی دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن اس شخص نے اس سے انکار کر دیا۔

مستورد بن شداد۔ یہ ابن عمرو بنی محارب بن فہر میں سے ہیں۔ قیس ابن حازم کہتے ہیں کہ مجھے مستورد بن شداد نبی اللہ ﷺ نے خبر دی ہے کہ میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے ”یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی دریا میں ڈالے پس چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ وہ کیا لے کر لوٹی ہے“ (مطلب یہ کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ حقیقت نہیں رکھتی۔ بالکل

حقیر اور ناپیز ہے۔)

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ مستورد بن شداد رسول اللہ ﷺ سے چند اور احادیث بھی روایت کرتے ہیں۔ محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس روز آنحضرت ﷺ نے رحلت فرمائی یہ مستورد رضی اللہ عنہ بچے تھے اور کوفے میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ ان سے کوئی روایت کرتے ہیں۔

محمد بن صفوان، محمد بن صفی اور وہب بن حنیس رضی اللہ عنہم:

محمد بن صفوان رضی اللہ عنہ، نبی ﷺ سے روایت کرتے ہیں، شععی رضی اللہ عنہ نے ان سے ایک حدیث خرگوش کے بارے میں روایت کی ہے۔ محمد بن صفی آنحضرت ﷺ سے ایک حدیث عاشورا کے بارے میں روایت کرتے ہیں وہب بن حنیس۔ یہ قبیلہ طے کے ہیں۔ مالک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

یہ فزاعی ہیں۔ ان کی حدیث ہے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی اتنی ہلکی اور مختصر نماز میں نے کبھی کسی امام کے پیچھے نہیں پڑھی (یعنی آپ کی نماز بہت ہی مختصر تھی۔ قرأت لمبی نہیں کی) بشر خزاعی خالد سے اور وہ مالک بن عبد اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ایک غزوے میں شریک ہوا۔ میں نے ایسی ہلکی اور مختصر نماز کی اور امام کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ابوکاہل الاحمسی، عمرو بن خارجہ اور ضاحج بن الاعسر رضی اللہ عنہم:

ابوکاہل بجیلہ میں سے ہیں اور ان کا نام قیس بن عائد ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم ﷺ ایک اونٹنی پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور ایک حبشی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوئے ہے۔

عمرو بن خارجہ رضی اللہ عنہ، یہ ابن المشفق اسدی ہیں۔ ضاحج بن الاعسر رضی اللہ عنہ احمسی بجیلہ میں سے ہیں۔

مالک بن عمیر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو صفوان ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ہجرت سے پہلے مکہ میں آنحضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے مجھ سے ایک پاجامہ خریدا۔

عمیر ذی مران اور ابو جحیفۃ السوائی رضی اللہ عنہما:

عمیر ذی مران رضی اللہ عنہ وہ مجالد بن سعید ہمدانی کے دادا ہیں۔ ان کی طرف رسول اللہ ﷺ نے ایک خط لکھا تھا اور یہ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ ابو جحیفۃ السوائی، ان کا نام وہب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بنی سواہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں۔ یہ آنحضرت ﷺ سے چند احادیث روایت کرتے ہیں۔

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آنحضرت ﷺ کی وفات کے وقت ابو جحیفۃ جوان نہیں ہوئے تھے (ابھی بچہ ہی تھے) البتہ انہوں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا بھی ہے اور ان سے سنا بھی ہے۔ یہ بشر بن مروان کی حکومت میں کوفے میں فوت ہوئے۔

طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ:

یہ حبشی ہیں۔ علقمہ بن وائل طارق بن زیاد حبشی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ!

ہمارے درخت خرما ہیں کیا ہم ان کا مقطر بنا سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا کہ کیا دوا کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں؟ فرمایا: وہ دوا ہے۔

ابو الطفیل رضی اللہ عنہ

عامر بن وانکہ کنانی۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کی حیات طیبہ کے آٹھ سال پائے ہیں اور میں جنگ احد کے سال پیدا ہوا تھا۔ محمد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو الطفیل رضی اللہ عنہ نے نبی ﷺ کو دیکھا تھا۔
حجرت یزید بن لغامہ اور ابوخلاد رضی اللہ عنہم:

زیاد نجدتہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے مجھ سے بیان کیا۔ میں نے آنحضرت ﷺ کو دیکھا آپ نماز کے لیے نکلے آپ کے سر مبارک پر مہندی اور خوشبو کا اثر تھا۔

یزید بن لغامہ ضعی ہیں۔ یزید لغامہ ضعی سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو پایا ہے اور آپ نے فرمایا ہے: ”جب میں کسی شخص کا دوسرے شخص سے بھائی چارہ کرادوں (یعنی دو مسلمانوں کو آپس میں دینی بھائی بنا دوں) تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہونے والے بھائی سے اس کا اور اس کے باپ کا نام پوچھ لے اور یہ کہ وہ کس قبیلے سے ہے اس سے محبت اور اخوت کا حق ادا ہوتا ہے۔“

ابوخلاد رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی صحبت کا شرف حاصل تھا۔ یہ ابوخلاد کہتے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا: ”جب تم کسی ایسے مرد مومن کو پاؤ کہ وہ دنیا سے علیحدگی اختیار کیے ہوئے ہو (یعنی دنیا پر فریفتہ نہ ہو بقدر ضرورت دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور آخرت کی فکر سے غافل نہ ہو) اور کم گو ہو تو اس کی صحبت و معیت اختیار کرو وہ تم کو حکمت دین سکھادے گا۔“



تابعین مجتہدین کا پہلا طبقہ

کوفے کے وہ تابعین جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان بن عفان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ:

ان کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن عبد شمس بن سلمۃ بن ہلال بن عوف بن حشم بن نقر بن عمرو بن لوی بن رہم بن معاویہ بن اسلم بن احمس بن القوث بن انمار بن بجیلہ۔ وہ والدہ ہیں اس کی اور وہ بیٹی ہے صعب بن سعد عسیرہ کی۔ شعبہ قیس بن مسلم سے روایت کرتے ہیں۔ میں نے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے اور خلافت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں غزوہ کیا ہے۔

طارق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خالد بن الولید، حضرت حذیفہ بن الیمان، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہم اور اپنے بھائی ابو عزرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں جو ان سے بڑے تھے۔ سلمان اس کا زیادہ ذکر کیا کرتے تھے۔

قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ:

نام عوف بن عبد الحارث، نسب نامہ یہ ہے۔ عوف بن حشیش بن ہلال بن الحارث بن رزاح بن کلب بن عمرو بن لوی بن احمس۔ قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ بھی حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب، حضرت خالد بن ولید، حضرت حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عقبہ بن عامر، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت عدی بن عمیرہ اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔

اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے قیس رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ قادسیہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ میں اس خطبہ میں شریک تھا۔ جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام حیرہ پر دیا تھا۔

محمد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے قیس رضی اللہ عنہ کی مراد یہ ہے کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عراق کی حکومت کے دوران حیرہ والوں سے صلح کی تھی تو وہ اس وقت موجود تھے اور یہ تمام واقعات جنگ قادسیہ سے ہی منسوب کئے جاتے ہیں۔

عمرو بن عاصم الکلابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو بن ابی زائدہ نے کہا کہ میں نے دیکھا قیس بن ابی حازم اپنی داڑھی رنگا کرتے تھے۔

محمد بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قیس بن ابی حازم رضی اللہ عنہ نے سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے آخری دنوں میں وفات پائی۔
رافع بن ابی رافع رضی اللہ عنہ:

یہ قبیلہ طے میں سے ہیں۔ وہ رافع بن عمرو ہیں۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے ابن عمیرہ بن جابر بن حارثہ بن عمرو بن مخصب بن حزم بن لبید بن سنہس بن معاویہ بن جزول بن ثعل۔ ان کو رافع الخیر بھی کہا جاتا تھا۔
 انہوں نے ذات السلاسل میں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے ہمراہ جہاد کیا جب کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو اس کی طرف بھیجا گیا تھا ان کے ساتھ رافع نے بھی جہاد کیا اور وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحبت میں بھی رہے اور ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ یہ اس جہاد کے بعد اپنی قوم اور اپنے شہر میں واپس آ گئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عراق سے شام کی طرف روانہ ہوئے تو یہ رافع بن ابی رافع رضی اللہ عنہ ان کو راستہ بتلا رہے تھے۔ یہ ان کو ایک جنگل میں لے پہنچے۔ اس واقعہ پر کہا۔

لِلّٰهِ دَرَّ رَافِعٌ اِنِّىْ اِهْتَدَيْتُ فَوْزًا مِنْ فَرَاقٍ اِلَى سُوَى

حِمْسًا اِذَا مَا سَادَهَا الْجَيْسُ بَكَى مَا سَادَهَا قَبْلَكَ مِنْ اِنْسٍ اُرَى

”کیسا عجیب آدمی ہے رافع جو میرا رہنما بنا۔ قراقر کے جنگل بیابان میں لے آیا جب جیس تک پہنچے تو وہ رو پڑا (کہ میں یہ کہاں آ گیا اور ان کو کہاں لے آیا؟) میں سمجھتا ہوں تجھ سے پہلے یہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔“
 پھر اپنی آخری عمر میں یہ اپنی قوم کے عریف ہو گئے تھے اس سے طارق بن شہاب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ:

ابن مویزہ بن عامر بن وداع بن معاویہ بن الحارث بن مالک بن عوف بن سعد بن عوف بن حریم بن جھنی بن سعد العشرہ۔
 قبیلہ مذحج سے۔

انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا۔ یہ ایک وفد میں حضور کے پاس آئے تھے اس کے بعد آپ رحلت فرما گئے۔ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کی صحبت و معیت حاصل کی۔ صفین کی جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے، عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔ ان کی کنیت ابوامیہ تھی۔ ابوالولید الطیالسی اور ہشام دونوں کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عامل زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاس جو حکم نامہ تھا اس کو پڑھا اس میں لکھا تھا جانوروں کے بچوں اور ماؤں میں تفریق نہ کی جائے نہ پھڑے ہوؤں کو ملایا جائے (جانوروں کی زکوٰۃ لیتے وقت اس کو مد نظر رکھا جائے) سو اس کے پاس ایک شخص اپنی موٹی تازی، گول منول اور بھر پور اونٹنی دینے کے لیے لے آیا اس کو عامل نے لینے سے انکار کر دیا۔ دوسری لایا اس سے بھی انکار کر دیا۔ اور کہا اگر میں تجھ سے تیرا بہترین جانور لے لوں گا تو مجھ پر کون سا آسمان سایہ کرے گا اور کون سی زمین اٹھائے گی۔ جب میں حضور کے پاس جاؤں گا۔

ابراہیم بن عبدالاعلیٰ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا:

اے ابوامیہ۔

نفاہ بن مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ سیاہ بالوں کا بنا ہوا کپڑا پہنے

ہوئے تھے۔

علی بن مدرک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت جب کہ گرمی و حرارت شدید ہوتی تھی اذان دے دیا کرتے تھے۔ حجاج مقام دیر میں تھا اس نے اذان سنی تو کہا اس مؤذن کو میرے پاس لاؤ سوید رضی اللہ عنہ کو اس کے سامنے لایا گیا۔ حجاج نے کہا کہ یہ تمہیں کیا ہوا کہ تم دوپہر کے وقت اذان دے دیتے ہو؟ اور نماز پڑھ لیتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے اسی طرح حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ حجاج نے کہا: کہ نہ تم اذان دیا کرو اور نہ امامت کرایا کرو۔

ابوبکر بن عیاش رضی اللہ عنہ اس حدیث کو یوں روایت کرتے ہیں کہ اس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام بھی ہے۔ اس روایت میں

ہے حجاج نے کہا اس کو اذان و امامت سے روک دو۔

ابوعوانہ بعض اصحاب سے روایت کرتے ہیں کہ حجاج کی گورنری کے زمانے میں سوید رضی اللہ عنہ روپوش رہے لوگ ظہر کی نماز

جماعت کے ساتھ پڑھتے تھے۔

حنش بن الحارث بن لقیط رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ مسجد میں ہمارے سامنے گزرتے تھے۔ وہاں ان کی ایک عورت بنی اسد میں سے رہتی تھی، ان وقت اس کی عمر ۱۲ سال کی تھی۔ وہ کبھی رکوع کرتے اور کبھی نہ کرتے۔ عبداللہ بن قشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کو ابرق بن مالک رضی اللہ عنہ نے دو کپڑوں میں دفن کیا۔

خیثمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ نے مجھے نصیحت و وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو خبر نہ دینا، نہ میری قبر پختہ بنوانا، نہ اس پر کوئی خوشبو سلگانا۔ نہ کسی عورت کو آنے دینا اور میرے کپڑوں میں ہی مجھے کفن دینا۔

محمد بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ نے کوفے میں عبدالملک بن مروان کی خلافت کے زمانے میں ۸۱-۸۲ھ

میں وفات پائی۔

دکین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سوید بن غفلہ رضی اللہ عنہ کی عمر ۱۲۸ سال تھی۔

اسود بن یزید رضی اللہ عنہ:

یہ قبیلہ مذحج میں سے ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے۔ ابن قیس بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلیمان بن کھل بن بکر بن عوف بن نضج۔ کنیت ابو عمرو ہے۔ یہ علقمہ بن قیس کے بھتیجے ہیں۔ یہ اسود بن یزید رضی اللہ عنہ علقمہ سے بڑے تھے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ام علقمہ کے مہر میں اس کے پاس چلے گئے تھے اس کے ہمراہ اس کی داوی کو بھی بھیج دیا تھا۔

یہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے اس وقت حدیث سنی جب کہ ہجرت سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت

معاذ بنی سعد کو یمن کی طرف بھیجا تھا۔ نیز یہ حضرت سلمان، حضرت ابو موسیٰ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی روایت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان بنی سعد سے کوئی روایت نہیں کی۔

شعبہ حکم سے روایت کرتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ منصور اپنے بعض اصحاب سے بھی روایت کرتے ہیں کہ یہ سخت گرمی کے موسم میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے جب کہ سرخ اونٹ بھی گرمی کی شدت سے بلبلا اٹھتے ہیں۔ حماد رضی اللہ عنہ بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سخت گرمی کی وجہ سے ان کی زبان خشک ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ سفر میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ سخت گرمی اور پیاس سے ان کے چہرے کارنگ متغیر ہو جاتا۔ علقمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اسود رضی اللہ عنہ سے کہا جاتا کہ آپ اپنے جسم کو کیوں اتنی تکلیف و اذیت دیتے ہیں؟ وہ کہتے مجھے اس سے راحت ملتی ہے۔ حنش بن الحارث رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اسود رضی اللہ عنہ کی آنکھ حد سے زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے جاتی رہی تھی۔

حارث النخعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسود رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ سے ایک سفر کیا۔ جب نماز کا وقت آتا تو وہ جس حال میں بھی ہوتے سواری سے اتر پڑتے اور نماز پڑھتے ان کی اونٹنی کی ٹکیل خواہ نشیب و فراز میں ہوتی یا وہاں کنکر پتھر ہوتے۔ بہر حال اور بہر صورت وقت پر نماز پڑھتے۔

ابو اسحاق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ نے حج و عمرے کے درمیان ۸۰ مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھ لیتے۔ اور علقمہ رضی اللہ عنہ اپنے کپڑوں میں ہی تمتع کرتے۔ اشعث بن ابو الشعثاء کہتے ہیں میں نے اسود رضی اللہ عنہ اور عمرو بن میمون رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کے والد کوفے سے ہی تکبیر کہتے ہوئے نکلتے۔ اسود رضی اللہ عنہ کبھی جمیرا سے ہی احرام باندھ لیتے۔ ابن السائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ اپنے گھر میں ہی چادر میں لپٹے ہوئے اور احرام کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری اس حالت پر گرفت نہ کرو میں بوڑھا آدمی ہوں۔ (اور مجھے یہی ادا پسند ہے)۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی جہانہ عرزم سے ہی احرام باندھ لیتے اور کبھی کبھی رات کو ہی مکہ میں داخل ہو جاتے۔ عبدالرحمن بن اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں سنا کہ اسود رضی اللہ عنہ حلال ہونے کے بعد ہی اس کو حج یا عمرے کا نام دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ میری نیت کو خوب جاننا ہے جب یہ تلبیہ کرتے تو کہتے: لَبَّيْكَ عَفَّارِ الذُّنُوبِ. اے گناہوں کے بخشنے والے میں حاضر ہوں۔ کبھی کہتے: لَبَّيْكَ حَنَّانِكَ. حاضر ہوں میں رحمت کرنے والے۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ اس شخص کے جنازے کی نماز نہ پڑھتے تھے جس نے حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج نہ کیا ہو اور مر گیا ہو۔

عمارہ کہتی ہیں کہ ایک شخص تھا مقلاص وہ حج کرنے کی توفیق رکھتا تھا لیکن اس نے حج نہیں کیا اسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر یہ مر گیا تو میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسود رضی اللہ عنہ نے حج کیا اور ان سے کہا کہ اے عبداللہ! اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملیں تو

میرا سلام کہہ دیں۔

ابومعشر کہتے ہیں کہ اسود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلقہ فی الدین کو لازم سمجھتے تھے اور علقمہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی فقہ کو لازم سمجھتے تھے۔ باوجود اس کے جب وہ آپس میں ملتے تو کسی قسم کا اختلاف نہ کرتے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ رمضان کی ہر دو راتوں میں قرآن ختم کیا کرتے۔ مغرب اور عشاء کے درمیان سو لیتے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ سات دنوں میں قرآن پڑھتے۔

عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ”میرے نزدیک عراق میں اسود سے زیادہ کوئی شخص معزز و محترم نہیں۔“

ابن السائب کہتے ہیں کہ میں ابو عبدالرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا کہ اتنے میں اسود بن یزید رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے ان سے کچھ پوچھا۔ جب معلوم ہوا کہ یہ اسود بن یزید رضی اللہ عنہ ہیں تو ان سے معانقہ کیا۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ کی ماں مقعدہ تھی۔

علقمہ رضی اللہ عنہ نے اسود رضی اللہ عنہ سے کہا اے ابو عمرو! اسود رضی اللہ عنہ نے کہا لیک۔ علقمہ رضی اللہ عنہ نے کہا اپنا ہاتھ بڑھائیے۔ حسن بن عید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اسود رضی اللہ عنہ کو مسجد میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے سیاہ بالوں کا بنا ہوا کپڑا پہن رکھا تھا اور سیاہ عمامہ تھا۔ آپ زیادہ تر عمامہ باندھا کرتے تھے اور پیچھے شملہ چھوڑ دیتے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ جو توں سمیت نماز پڑھ لیتے۔ آپ کا سر اور داڑھی زرد ہوتی۔ داڑھی کو رنگ دیتے تھے۔ آپ نماز کے لیے بھاگے ہوئے آتے۔

اسود رضی اللہ عنہ کا ایک صاف ستھرا تولیہ ہوتا آپ وضو کے بعد اس سے اپنا ہاتھ منہ پونچھ لیتے۔ ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود رضی اللہ عنہ کو اس مرض کی حالت میں پکڑے ہوئے تھے جس میں آپ نے وفات پائی۔ آپ قرأت سے فارغ ہوئے تو دعا کی۔ شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اہل کوفہ کے مال کا سر ہیں۔

ابراہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسود بن یزید رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے جان کنی کی حالت میں کہا اگر تیری استطاعت ہے تو میں جو آخری کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں تو بھی پڑھتا کہ تیرا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس نے ایسا ہی کیا اور کہا میری قبر پختہ نہ بنانا۔ نہ بلند آواز سے نوحہ و ماتم کرنا۔

ہکے میں کوفے میں اسود بن یزید رضی اللہ عنہ نے وفات پائی۔ وہ ثقہ راوی تھے اور ان سے بہت سی صحیح احادیث مروی ہے۔

مسروق بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

مسروق نام ابو عائشہ کنیت ان کے والد کا خاندانی نام اجدع اور اسلامی نام عبدالرحمن تھا وہ یمن کے مشہور خاندان ہمدان کے سردار اور عرب کے نامور شہسوار معدی کرب کے عزیز تھے۔ نسب نامہ یہ ہے۔ مسروق بن اجدع (عبدالرحمن) بن مالک بن امیہ بن عبداللہ بن سلیمان بن معمر بن حارث بن سعد بن عبداللہ بن وائد بن عمرو بن عامر بن ناخح اسدی۔

ہشام بن کلثبی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ یمن کے وفد میں مسروق رضی اللہ عنہ حضرت

عمر بنی اللہ کے پاس آئے۔ حضرت عمر بنی اللہ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ عرض کیا مسروق بن اجدع رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر بنی اللہ نے فرمایا: اجدع تو شیطان کا نام ہے تم مسروق بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ہو اس وقت سے ان کے والد کا نام بدل گیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ خود اجدع ہی حضرت عمر بنی اللہ کے پاس آئے تھے اور آپ نے ان کا یہ نام سن کر عبد الرحمن سے بدل دیا تھا (بہر حال اجدع کا نام عبد الرحمن حضرت عمر بنی اللہ کا رکھا ہوا ہے)۔ اس کے بعد مسروق رضی اللہ عنہ لکھا کرتے تھے۔ مسروق بن عبد الرحمن کی طرف سے۔

ابوالضحیٰ کی روایت ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی آپ نے داہنے بائیں سلام پھیرا۔ اور فوراً کھڑے ہو گئے گویا وہ کسی گرم پتھر پر تھے۔

یہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت خباب بن الارت، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبد اللہ بن عمر، حضرت عائشہ اور حضرت عبید بن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کچھ روایت نہیں کرتے۔

مسروق رضی اللہ عنہ کی انگوٹھی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نقش تھا۔ یہ چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھ لیتے تھے اور اپنے ہاتھ باہر نہ نکالتے تھے۔

یہ یمن کے مشہور شہسواروں میں سے تھے۔ قادیسیہ کے مشہور معرکے میں شریک ہوئے۔ تینوں بھائی شہید ہوئے۔ لڑتے لڑتے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ اور سر میں گہرا زخم آیا۔ اس کا نشان باقی رہا۔ اس نشان کو وہ بہت محبوب رکھتے تھے۔ اس کے مٹ جانے کو ناپسند کرتے تھے۔ ان کے تین بھائی تھے۔ عبد اللہ، ابو بکر اور منتشر۔ یہ تینوں معرکہ قادیسیہ میں شہید ہوئے۔

باہمی جنگوں سے کنارہ کشی:

شمسی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ کسی جنگ میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہ تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ کیوں نہیں دیا۔ تو کہتے تم لوگوں کو خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ فرض کرو کہ جب ہم لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آراء ہوں اور فریقین اسلحہ نکال کر ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہوں، اس وقت تمہاری آنکھوں کے سامنے آسمان میں کوئی دروازہ کھل جائے اور اس سے فرشتے اتر کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر کہیں:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾

”اے وہ لوگو! جو ایمان لائے ہو۔ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کے طریقے سے حاصل ہو اور اپنے نفسوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ حال پر رحیم ہے۔“

تو اب تم یہ بتاؤ کہ ان فرشتوں کا یہ کہنا فریقین کے لیے مانع جنگ ہو گا یا نہیں (تم یہ آیت سن کر جنگ سے رُک جاؤ گے یا نہیں؟) وہ کہتے کہ ہاں ضرور رُک جائیں گے۔ اس پر وہ کہتے خدا کی قسم تم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کا دروازہ کھول چکا ہے اور اس کے راستے سے ایک فرشتہ اتر کر تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تمہیں یہ حکم سنا چکا ہے جو صحائف میں موجود ہے اور اس کو کسی چیز نے منسوخ تو نہیں کر دیا ہے۔

اس سے اگلی روایت عامر سے ہے مسروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ جب موتین کی دو صفیں آپس میں لڑنے کے لیے صف بستہ ہوں اور اس وقت کوئی فرشتہ آسمان سے نمودار ہو کر ندادے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ الخ

تو تمہارا کیا خیال ہے۔ لوگ جنگ سے رُک جائیں گے یا جنگ بدستور کرتے رہیں گے؟ میں نے کہا ہاں وہ ضرور رُک جائیں گے۔ وہ بے حس اور جامد پتھر تو نہیں ہیں (کہ خدا کی آواز اور اسلام کی پکار ہی نہ سنیں) یہ جواب سن کر انہوں نے کہا کہ خدا کا ایک ساوی صغی اس حکم کے ساتھ ایک ارضی صغی (برگزیدہ نبی) پر نازل ہو چکا ہے۔ لیکن اس کے باوجود لوگ نہ رُکے۔ حالانکہ ایمان بالقیب یعنی مشاہدے کے ایمان سے بہت بہتر ہے۔

صفین میں جنگ سے روکنے کی کوشش:

عامر سے روایت ہے کہ مسروق بن اجدع رضی اللہ عنہ عام مسلمانوں کو روکنے کے لیے صفین کے میدان میں گئے اور دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو کر وعظ کیا:

لوگو! میری بات غور و توجہ سے سناؤ! ذرا غور کرو کہ اگر ایک منادی آسمان سے تمہیں یہ ندادے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس باہمی جنگ و قتال سے روکتا ہے۔ کیا تم آسمان کی یہ آواز سن کر اس کی اطاعت کرو گے؟

لوگوں نے کہا: ہاں ضرور اطاعت کریں گے۔ فرمایا: تو لو سنو خدا کی قسم کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ حکم لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو چکے۔ اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ اس کے بعد آپ نے وہی آیت تلاوت فرمائی جو اوپر گزر چکی۔

فضل و کمال:

مرہ کہتے ہیں کہ ہدانیوں میں مسروق رضی اللہ عنہ جیسا صاحب فضل و کمال شخص کوئی پیدا نہیں ہوا۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے حج کیا۔ جب تک مکہ میں رہتے سجدے ہی سوتے تھے۔ ایک مرتبہ مسروق رضی اللہ عنہ چند آدمیوں کے ہمراہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حکم دیا کہ میرے لڑکے کے لیے شہد گھولو۔ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ شہد سے ان کی تواضع کیا کرتی تھیں پھر آپ نے فرمایا کہ اس شہد کو چکھ لو اگر میں روزہ دار نہ ہوتی تو خود چکھ لیتی۔ ہم نے کہا: اسے ام المومنین! ہم بھی روزہ دار ہیں! آپ نے پوچھا یہ تم نے کیا روزہ رکھا ہے؟ کہا ہم نے اس خیال سے احتیاطاً روزہ رکھا ہے کہ اگر آج رمضان کا چاند ہو گیا ہوگا تو یہ رمضان کا روزہ ہو جائے گا اور اگر رمضان نہ ہو تو نفل روزہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا (یہ تم نے تمہارا روزہ کیوں رکھا) اگر تمام لوگ روزہ رکھیں تو تم بھی روزہ رکھو اور تمام لوگ نہ رکھیں تو تم بھی نہ رکھو لیکن میں نے تو یہ رمضان کا روزہ رکھا ہے (مطلب یہ کہ شک کے دن احتیاط کے طور پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے)۔

آپ کی بے نیازی اور توکل و قناعت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن مسروق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں صبح کی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا: کہ عائشہ کے باپ آج آپ کے بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں۔ یہ سن کر مسروق رضی اللہ عنہ مسکرائے اور کہا خدا کی قسم وہ ضرور ان کے لیے رزق کا سامان کر دے گا۔ ایک مرتبہ خالد بن اسید نے ان کو تیس ہزار کی گراں قدر رقم بھیجی انہوں نے اس رقم کو

قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے اعزہ نے بہت سمجھایا کہ لے لیجئے۔ اس رقم سے صدقہ کیجئے۔ عزیزوں کے ساتھ سلوک کیجئے اور اس قسم کے دوسرے نیک کاموں پر خرچ کیجئے گا۔ مگر انہوں نے پھر بھی قبول نہ کیا۔

بے نیازی اور فیاضی:

وہ دولت دنیا سے ہمیشہ بے نیاز رہے جس کا ثبوت مذکورہ بالا واقعہ ہے۔ جب آپ کشتی پر سوار ہوتے تو طہارت کے خیال سے ایک اینٹ لے لیتے جس پر سجدہ کرتے۔ جب انہیں کوئی رقم ہاتھ آتی تو اس کو خدا کی راہ میں صرف کر دیتے دس ہزار کی ایک رقم فی سبیل اللہ خرچ کر دی۔

علی بن الاقرم کہتے ہیں کہ مسروق رضی اللہ عنہ رمضان میں ہماری امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک رکعت میں سورہ عکبوت پڑھتے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے کسی شعر کے بیت کے بارے میں کچھ دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا میں شعر کو ناپسند کرتا ہوں۔ مسروق رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی دونوں اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ان میں سے ایک فرات پر جائے پانی کی ایک پکھال اونٹ پر بھر کر لائے اور اس کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دے۔

دنیا کی کسی شے میں ان کے لیے کوئی کشش نہ تھی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ان کے ہم مشرب و ہم مذاق تھے ان میں اور مسروق رضی اللہ عنہ میں راز و نیاز کی باتیں ہوا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ مسروق رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ملے اور کہا سعید رضی اللہ عنہ اب کوئی شے ایسی نہیں جس کی جانب میلان خاطر باقی رہا ہو جو اس کے کہ اپنے چہروں کو اس مٹی میں آلودہ کریں۔

عبادت اور اطاعت گزاری:

مسروق رضی اللہ عنہ علم و عمل کا پیکر تھے اخلاق کا سرچشمہ خشیت الہی ہے۔ یہ خوف خدا سے ہر وقت لرزتے رہتے تھے۔ آپ علم کی اصل ہی خوف خدا سمجھتے تھے اور اس کے مقابلے میں غرور و عمل کو جہل تصور کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا کرتے تھے انسان کے لیے یہ علم کافی ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا رہے اور جہل یہ ہے کہ اپنے علم و عمل پر غرور کرے آپ اپنے نفس کا محاسبہ اور گناہوں کو یاد کر کے ان کے لیے استغفار کرنے کو ضروری سمجھتے تھے چنانچہ فرماتے تھے کہ انسان کے لیے ایسی مجالس ہونی چاہئیں جن میں بیٹھ کر وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا سے استغفار کرے۔

ابن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو معلوم ہوا کہ مسروق رضی اللہ عنہ طاعون سے بھاگتے تھے مگر محمد کو اس بات کا یقین نہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بیوی سے چل کر پوچھنا چاہیے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے اس بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی طاعون سے نہیں بھاگتے تھے البتہ جس زمانے میں طاعون کی وبا پھیلی تو وہ کہتے کہ یہ ذکر و شغل کے ایام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں تنہائی میں عبادت کروں۔ چنانچہ وہ عبادت کرنے کے لیے گوشہ خلوت اختیار کر لیتے تھے اور اپنے نفس پر ایسی سختیاں کرتے تھے کہ بسا اوقات میں ان کی حالت دیکھ کر ان کے پیچھے بیٹھ کر رویا کرتی تھی۔ اس لیے کہ ان کے قدموں پر درم آجایا کرتا تھا۔ میں نے سنا ہے وہ کہا کرتے تھے کہ جو طاعون سے یا پیٹ کے درد میں یا دم گھٹ کر یا غرق ہونے سے مرے وہ شہید ہے۔

شععی کہتے ہیں کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کو سوال کرتے ہوئے سنا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی دلارہا ہے اور آخرت کی طرف راغب کر رہا ہے، مسروق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو ناگوار سمجھا کہ اس کو کچھ دیا جائے اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں میں ان میں سے نہ ہوں۔ اس سے کہا کہ نیکی کی توفیق مانگ۔

ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شاگردی کا اعتراف:

علمی اعتبار سے علمائے تابعین میں حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کا بہت اونچا مقام ہے انہیں آغاز عمر سے ہی طلب علم کا ذوق و شوق تھا۔ شععی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ان سے زیادہ علم کا طلب کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اس پر مزید خوش قسمتی اور فضل الہی یہ کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جیسی عالمہ و فاضلہ کی شفقت و محبت میسر آ گئی تھی۔ نور علی نور والا معاملہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک جوہر قابل کو اور بھی زیادہ چمکا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ان سے والہانہ اور مادرانہ محبت تھی وہ انہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی تھیں۔ چنانچہ ابواسحاق کا کہنا ہے کہ خود مسروق کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف رجوع کرتا۔

ابوالضحیٰ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ کسی معاملے میں مسروق نے ایک شخص کی سفارش کی اس نے اس کے شکرے میں ایک لونڈی لاکر پیش کر دی۔ اس سے آپ بہت برہم ہوئے اور کہا کہ اگر مجھے پہلے سے تمہارے اس خیال کا علم ہوتا تو میں کبھی تمہاری سفارش نہ کرتا۔ اب تو جتنی سفارش کر چکا وہ کر چکا۔ اب جتنی ضرورت اور باقی رہ گئی ہے اس کے بارے میں کچھ نہ کہوں گا۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ جو شخص کسی کا حق دلانے یا ظلم کا انسداد کرنے کے لیے کسی کی سفارش کرے اور اس کے معاوضے میں اسے کوئی ہدیہ دیا جائے اور سفارش کرنے والا اسے قبول کرے تو وہ ہدیہ اس پر حرام ہے (گویا حضرت مسروق رضی اللہ عنہ کے تقویٰ اور تفقہ فی الدین پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے مہر تصدیق ثبت کر دی) اہل علم کہتے ہیں کہ ہم حکما رشوت یا حرام چیز لینے کو کفر سمجھتے ہیں۔

دنیا سے بے رغبتی:

ابواسحاق کا بیان ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے اپنی لڑکی کی شادی سائب بن اقرع کے ساتھ کی اور ان سے مہر کے علاوہ دس ہزار اپنے لیے وصول کیے اور یہ کل رقم مجاہدین فی سبیل اللہ مساکین اور مکاتب غلاموں کی آزادی پر خرچ کر دی۔ عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ مسروق بن اجدع رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑ کر ایک مزیلہ (کوڑے کے ڈھیر) پر لے گئے اور فرمایا: میں تم کو دنیا دکھاتا ہوں، لو دیکھو یہ دنیا ہے کہ اس کو کھا کر دفنایا، پہن کر پرانا اور بوسیدہ کر دیا، سوار ہو کر لاغر کر دیا، اس کے لیے خون بہایا، محارم اللہ کو حلال اور رحم کو قطع کیا۔

منصب قضاء:

شععی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ منصب قضاء پر بھی فائز رہے۔ قائم کہتے ہیں کہ مسروق رضی اللہ عنہ اس کا کوئی معاوضہ یا ماہانہ نہ لیتے تھے۔ انہیں قضاہات کا اس قدر شوق و ذوق تھا کہ کہا کرتے تھے کہ مجھے کسی مقدمے میں صحیح اور حق کے موافق فیصلہ کرنا

ایک سال کے جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسند ہے۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے ان اصحاب میں سے تھے جن کا شغل ہی درس و افتاء تھا۔ شععی کہتے ہیں کہ یہ قاضی شریعت سے زیادہ فتوے کا علم رکھتے تھے اور قاضی شریعت قضاء کا زیادہ علم رکھتے تھے۔ قاضی شریعت اپنے فیصلوں میں مسروق رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا کرتے تھے اور مسروق رضی اللہ عنہ افتاء میں شریعت سے زیادہ فائق تھے۔ وہ تو ان سے مشورہ لیا کرتے تھے مگر مسروق رضی اللہ عنہ ان کے مشورے سے بے نیاز تھے۔

یہ حدیث کے ساتھ ساتھ سنت کی بھی تعلیم دیتے اور خود بھی سنت کی پابندی کرتے۔ اتباع سنت کے خیال سے دو دور کعتیں پڑھا کرتے تھے۔ شفیق کہتے ہیں کہ میں نے مسروق رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے حتی الامکان جان بوجھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کیا جو مجھے دوزخ میں لے جانے والا ہو نہ میں نے دینار و درہم جمع کیے نہ کسی مسلمان پر کوئی ظلم کیا اور نہ میں نے تا حد امکان سنت رسول اللہ سنت صدیق اور سنت فاروق پر عمل کرنا چھوڑا۔

آخری کلمات اور وفات:

ابو وائل کی روایت ہے کہ دم آخر بارگاہ الہی میں عرض کیا ”خدا یا! میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی سنت کے خلاف طریقے پر نہیں مر رہا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے اپنی تلوار کے علاوہ کسی انسان کے پاس کوئی سونا چاندی نہیں چھوڑا ہے۔ اسی کے ذریعہ مجھے کفن دینا (یعنی یہی تلوار بیچ کر میرے کفن کا انتظام کرنا)۔

شععی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے مرتے وقت کفن تک کی قیمت نہ چھوڑی اور اس کے لیے قرض کی وصیت کی۔ مگر یہ ہدایت کر دی کہ زراعت پیشہ اور چرواہے سے نہ لیا جائے بلکہ مویشی رکھنے والے یا تجارت پیشہ سے لیا جائے۔

مسروق رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے بارش کی دُعا:

ان وصایا اور ہدایات کے بعد آپ نے سلسلہ وسط میں وفات پائی اور یہیں سپرد خاک کیے گئے زندگی میں تو ان کی ذات سے دینی نبوض و برکات مل ہی رہے تھے وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ خشک سالی اور قحط کے مواقع پر لوگ ان کے مزار پر انوار پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے بارش اور خوشحالی کی دعا کرتے اور اللہ ان پر پائی برسات دیتا اور لوگ شاداں و فرجاں واپس آتے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ ہم حلقہ کے علاوہ کسی کو علمی فضیلت و برتری میں مسروق رضی اللہ عنہ کی برابر نہیں سمجھتے۔ انہی کا بیان ہے کہ مسروق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے میں وفات پائی۔ حدیث و سنت میں مسروق رضی اللہ عنہ کا علم بہت وسیع تھا۔ اس فن میں انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم وغیرہ وغیرہ فقیہہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی فیض پایا۔ یہ بڑے ثقہ راوی تھے اور ان کی روایات کردہ حدیثیں صحیح ہیں۔

سعید بن نمران رضی اللہ عنہ:

ابن نمران الناعلی ہمدانیوں میں سے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...﴾ الخ

”بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس پر قائم رہے۔“

اس کی شرط یہ ہے: لَمْ يَشْرِكُوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو کسی حیثیت سے بھی شریک نہیں کیا۔ سعید بن نمران حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن عباس کو یمن کا حاکم بنایا تو ان کا شریک کار سعید بن نمران کو بھی بنا دیا تھا ان کا بیٹا مسافر بن سعید مختار کے اصحاب میں سے تھا۔

نزال بن سمرہ رضی اللہ عنہ:

یہ کہتے ہیں کہ ہم سے رسول خدا ﷺ نے فرمایا: ہم اور تم بنی عبد مناف میں سے ہیں، تم بھی عبد اللہ کے بیٹوں میں سے ہو اور ہم بھی عبد اللہ کے بیٹوں میں سے ہیں۔ اگلی روایت ہے: ہم بنی عبد مناف ابن ہلال بن عامر بن صعصعہ ہیں اور نبی ﷺ بنی عبد مناف بن قصی قریش میں سے ہیں۔

نزال بن سمرہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت ابوسعود انصاری اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

ضحاک کا بیان ہے کہ مجھ سے نزال نے کہا جب تم مجھے قبر میں رکھو تو یوں دعا کرنا: ”اے اللہ! اس قبر میں اور قبر میں اتارنے والوں پر برکت نازل فرما“۔ یہ ثقہ راوی تھے۔ اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

زہرہ بن حمیضہ رضی اللہ عنہ:

یہ زہرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے سوار ہوا۔ راستے میں جو بھی ملتا تھا آپ اس کو سلام کرتے تھے۔ یہ زہرہ بہت کم احادیث بیان کرتے تھے۔

معدی کرب رضی اللہ عنہ:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے شعر سننے کی فرمائش کی اور فرمایا: تم اسلام میں شعر کہنے والے پہلے شخص ہو۔ وہ تابعین رضی اللہ عنہم جو حضرت عمر بن الخطاب، حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ

نام و نسب اور پیدائش:

علقمہ رضی اللہ عنہ نام ابو شلی کنیت، مشہور محدث ابراہیم نخعی کے ماموں ہیں اور اسود بن یزید رضی اللہ عنہ کے چچا۔ نسب نامہ یہ ہے: علقمہ بن قیس بن عبد اللہ بن مالک بن علقمہ بن سلیمان بن کھل بن بکر بن عوف بن نخع نخعی۔ یہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ، حضرت سلمان اور حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

یہ آنحضرت ﷺ کے عہد میں پیدا ہوئے۔ عادات و خصائل اور اخلاق میں آپ ذات نبوی کا نمونہ تھے۔ ابراہیم کا بیان

ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما طور و طریق اور عادات و خصائل میں نبی ﷺ سے مشابہ تھے۔ اور علقمہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مشابہ تھے۔

ابو عمر کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن شریک کے پاس آئے۔ انہوں نے کہا: "ایک ایسے شخص کے پاس چلیں جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کا ہو، ہونمو نہ ہے۔ وہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ان کی تصویر علم و عمل نظر آتی ہے یہ کہہ کر وہ ہمیں علقمہ کے پاس لے آئے۔"

شغف بالقرآن:

قرآن کے ساتھ ان کو غیر معمولی شغف و انہماک تھا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ علقمہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے سامنے قرآن پڑھا۔ انہوں نے کہا: "تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں تو نے قرآن کو صحیح طور پر اور بنا سنوار کر پڑھا۔ انہی کا بیان ہے کہ علقمہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ اے ابوشہلی! کیا آپ مومن ہیں؟ فرمایا ہاں امید تو یہی رکھتا ہوں یہی ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ رضی اللہ عنہما پانچ دن میں قرآن ختم کر لیتے تھے۔ کبھی کبھی ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ ابراہیم کہتے ہیں ایک مرتبہ علقمہ رضی اللہ عنہما نیکے گئے شب کے وقت انہوں نے طواف شروع کیا پہلے سات پھیروں میں طویل سورتیں ختم کیں، دوسرے سات پھیروں میں مین سورتیں ختم کیں، تیسرے سات پھیروں میں مثنیٰ اور چوتھے پھیروں میں بقیہ سورتیں ختم کر ڈالیں۔

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے حجرے میں ان کے سامنے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آپ کی آواز بہت اچھی تھی اور خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔

اسود رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، علقمہ رضی اللہ عنہما کو تشہد اسی طرح سکھا رہے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں ان کو سکھایا کرتے تھے، مطلب یہ کہ علقمہ رضی اللہ عنہما اپنی قرأت کی صحت کے لیے کبھی کبھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کو قرآن پڑھ کر سنایا کرتے تھے، یہ چونکہ نہایت خوش گلو اور شریں آواز تھے اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہما انہیں ترحیل کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہدایت کرتے تھے یہ خود فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے خوش آوازی عطا فرمائی تھی اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہما مجھ سے قرآن پڑھا کر سنتے اور فرماتے: میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں، خوش آوازی کے ساتھ پڑھا کر ڈالیں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے کہ حسن صوت قرآن کی زینت ہے۔

جنگ صفین میں شرکت:

منصور کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم سے پوچھا کیا علقمہ رضی اللہ عنہما جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں، انہوں نے یہاں تک قتال کیا کہ ان کی تلوار خون سے رنگین ہو گئی اور ان کا بھائی ابی بن قیس بھی اسی لڑائی میں مارا گیا۔

شمائل و خصائل:

عبدالسلام بن حرب کا بیان ہے کہ میں نے ایک بوڑھے شخص سے سنا کہ ہم جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علقمہ رضی اللہ عنہما آئے۔ امام جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا۔ ان سے کہا گیا کہ اے ابوشہلی! داخل نہ ہو۔ کہا یہ مجلس ہے اس سے مجھے کون روک

سکتا ہے۔ یہ کہا اور مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ علقمہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن سفر کی حالت میں نہ غسل کیا کرتے تھے اور نہ چاشت کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ عموماً آپ ہر کام آیت قرآنی کے اشارے سے شروع کرتے۔ کھانے کے وقت قرآن کی اس آیت:

﴿فَإِنْ طَبِينٌ لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِينًا مَرِيئًا﴾

”ہاں اگر وہ پیمیاں خوشدلی سے تمہارے لیے چھوڑ دیں، مہر میں سے کچھ حصہ تو اس کو کھاؤ مزہ دار اور خوش گوار سمجھ کر“۔

اس آیت کی طرف اشارہ کر کے بیوی سے کھانا مانگتے کہ مجھے ان لذیذ اور خوشگوار کھانوں میں سے کھلاؤ، ابراہیم کہتے ہیں کہ میں آپ کے ہمراہ ہوتا جب رکاب پر پاؤں رکھتے تو کہتے: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ جب زین پر اچھی طرح بیٹھ جاتے تو کہتے:

سُبْحَانَ الَّذِیْ سَخَّرْنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِیْنَ وَاِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ۔

”پاک ذات ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا، ہم اس کے نزدیک ہونے والے نہ تھے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں“۔

کہتے ہیں کہ میں علقمہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک سفر کے لیے نکلا۔ جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو کہا اے اللہ! میں حج کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اگر تو آسمان کر دے تو حج ہوگا ورنہ عمرہ ہوگا۔ میں نے ان کو جمعہ کے دن غسل کرتے نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک چادر لی اور اسی میں لپٹ کر بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ حالت احرام میں تھے۔ اپنے منہ اور ناک کو بھی چادر سے ڈھانپ لیا، ابراہیم ہی کا بیان ہے کہ علقمہ رضی اللہ عنہ نے نجف میں نماز قصر کی اور اسود رضی اللہ عنہ نے قادیہ میں۔ جب وہ دونوں مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے۔

ریاء کاری سے اجتناب:

عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے علقمہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کی آپ مسجد میں نماز پڑھ کر وہاں بیٹھ جایا کریں تاکہ ہم لوگ آپ کے مسائل پوچھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا: میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ لوگ اشارہ کریں کہ یہ علقمہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ امراء کے تعلق سے پرہیز:

آپ امراء سے میل جول اور ان کے یہاں آمد و رفت کو ناپسند کرتے تھے۔ اس میں اپنا اخلاقی نقصان تصور کرتے تھے ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ آپ امراء کے یہاں جایا کریں تاکہ وہ آپ کا مرتبہ پہچانیں، آپ نے فرمایا: میں ان سے جتنی باتیں دور کروں گا اور جتنی چیزیں کم کروں گا اس سے زیادہ چیزیں وہ مجھ سے گھٹادیں گے (یعنی میں ان سے جتنی برائیاں دور کروں گا اتنی ہی وہ میری جھلایاں دور کر دیں گے)۔

ابوعمون کہتے ہیں کہ میں نے شعیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا علقمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا اسود رضی اللہ عنہ؟ فرمایا علقمہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں۔

ابووائل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب کوفہ اور بصرہ دونوں کی ولایت ابن زیاد سے متعلق ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ میں نے جا کر علقمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں (یعنی امراء) سے تم کو جو کچھ حاصل ہوگا اس سے

زیادہ بہتر چیز وہ تم سے لے لیں گے (یعنی تم ان سے کوئی دنیوی نفع حاصل کر لو گے مگر وہ تمہارے اخلاق کو نقصان پہنچائیں گے جو دنیوی تمام چیزوں سے بہتر ہے)۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد لوگوں نے ان سے درخواست کی کہ اب آپ ہمیں درس حدیث و سنت دیں۔ آپ نے جواب دیا کہ کیا آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلیں۔

آپ سے کہا گیا کہ اگر آپ امیر کے پاس جاتے اسے نیکی اور انصاف کی نصیحت کرتے تو کتنا اچھا ہوتا فرمایا: میں ان کا دنیا میں سے کچھ حاصل کرنا نہیں چاہتا مگر یہ کہ وہ میرے دین سے جو دنیا سے افضل ہے کچھ حاصل کریں۔

آپ کی علمی حیثیت:

علقہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا کہ سورہ بقرہ میں میری کوئی گرفت کرو یہ سورہ سنا کہ پوچھ کر اس میں نے کچھ چھوڑا تو نہیں؟ میں نے کہا ایک حرف چھوٹ گیا ہے انہوں نے خود ہی کہا کہ فلاں حرف۔ میں نے کہا ہاں۔ ایک مرتبہ ایک وفد میں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانے والا تھا ان کا نام لکھ دیا گیا انہیں معلوم ہوا تو ابو بردہ کو لکھا کہ میرا نام کاٹ دو۔

یہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! آپس میں دینی علم کی باتوں کا ذکر اور چرچا کیا کرو کہ یہ ذکر ہی علم کی زندگی ہے لوگوں۔

علقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں یعنی جو مسجد میں داخل ہوتو کیا کہے؟ فرمایا: وہ کہے: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ اَیُّهَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَکَاتُہُ۔ سلامتی ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں آپ پر اللہ اور اس فرشتے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔

غنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علقہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے ہاتھ اپنا اونٹ یا کوئی جانور بیچا اسے یہ بات ناپسند ہوئی اور چاہا کہ جانور بھی لوٹا دے اور اس کی قیمت بھی۔ علقہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جانور تو ہمارا ہے مگر اس کے درہم لینے کا کوئی حق نہیں۔ سو جانور تو لیا اور درہم واپس کر دیئے۔

ابوقیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ابراہیم علقہ رضی اللہ عنہ کے جانور کی رکاب تھامے ہوئے ہیں اور وہ غلام یک چشم تھے، کہتے ہیں کہ علقہ رضی اللہ عنہ بائین میں سے تھے۔

علقہ رضی اللہ عنہ اور اسود کہتے ہیں کہ مصافحہ کرنے سے سلام و دعا پوری ہو جاتی ہے اور حج میں عرفہ میں امام کے دو نمازیں پڑنے سے حج تمام ہو جاتا ہے۔

عمرو بن میمون کہتے ہیں کہ میں دس سال تک علقہ رضی اللہ عنہ کا نانبائی رہا ہوں۔ حضر کی حالت میں۔

وصیت اور وفات:

اسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ علقہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مرض الموت میں وصیت کی تھی کہ دم آخر مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے تا میری زبان سے آخری کلمہ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیکَ لَہُ۔ نکلے اور کسی کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ میرے دفن میں جلد

کی جائے اور کسی کو جاہلیت کی طرح نوحہ کرنے دیا جائے۔ بین کرنے والی عورتیں ساتھ نہ ہوں۔
ان کی وفات ۲۷ھ کو نے میں ہوئی۔ آپ ثقہ راوی تھے۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔
عبیدہ بن قیس رضی اللہ عنہ:

سلمانی قبیلہ مراد سے ہیں۔

محمد عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے دو سال قبل مسلمان ہوئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔

محمد بن عمر کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہجرت کی اور یہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی قوم کے عریف تھے۔ یہی کہتے ہیں کہ عبیدہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے سردار تھے جو عطیات ملنے ان کو ان کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ تقسیم کے بعد ایک درہم بچ رہا۔ فرمایا اس پر قرعہ اندازی کرو۔ ایک شخص ان کے قریب آیا اور کہا کہ یہ قرعہ اندازی درست نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنی جنگوں میں ایسا نہیں کیا کرتے تھے؟ اس نے کہا جب تم ایسا کرتے تھے تو تم کے درمیان تقسیم کر دیتے تھے، پھر قرعہ اندازی کرتے تھے مگر اس طرح کہ کوئی بھی ایسا باقی نہ رہتا تھا کہ اس میں سے کسی کو حصہ نہ ملے (صرف ایک شخص کو ہی نہیں مل جاتا تھا) اب اگر آپ ایسا کریں گے تو یہ ایک ہی شخص لے جائے گا دوسرے محروم رہ جائیں گے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے پھر آپ نے حکم دیا کہ اس سے کوئی چیز خرید لی جائے اور سب میں تقسیم کر دی جائے۔ محمد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے اہل کوفہ! کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ تم سلمان و ہمدانی کی مانند ہو جاؤ۔ یعنی حارث بن از مع اور بس امور کی مانند۔ وہ دونوں نصف آدمی ہیں۔ حماد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عبیدہ یک چشم تھے۔

محمد کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں پانچ اصحاب ارباب فضل و کمان تھے۔ بعض ان میں عبیدہ رضی اللہ عنہ کو مقدم بتلاتے ہیں، بعض علقمہ رضی اللہ عنہ کو مقدم سمجھتے ہیں اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں کہ ان کے آخر شرح رضی اللہ عنہ ہیں، کہا گیا ہے کہ حماد رضی اللہ عنہ کو بھی انہی میں شمار کیا جاتا ہے متفق علیہم وہ پانچ یہ ہیں عبیدہ رضی اللہ عنہ، علقمہ رضی اللہ عنہ، مسروق رضی اللہ عنہ، ہمدانی رضی اللہ عنہ اور شرح رضی اللہ عنہ۔

حماد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ ہمدانی رضی اللہ عنہ سے شروع کیا یا شرح رضی اللہ عنہ سے۔

نعمان بن قیس کی روایت ہے کہ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی موت کے وقت اپنی تحریروں کو منگایا اور ان کو منادیا اس خیال سے کہ ان کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ اور یہ تحریف کا نشانہ نہ بنیں۔

انہی کا بیان ہے کہ قبیلے کی بوڑھی عورتیں جب اقامت کی آواز سنتیں تو نماز کے لیے جلدی اٹھتیں کہ یہ عبیدہ رضی اللہ عنہ کی نماز

ہے۔

محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اپنا ایک جھگڑا (مقدمہ) لے کر عبیدہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ اور صلح صفائی کر دیں۔ آپ نے فرمایا: میں اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کروں گا جب تک تم امیر کے حکم کی طرح میرے حکم کی تعمیل نہ کرو۔ پھر قاضی یا کسی غیر کو کوئی حق نہ رہے گا۔

محمد کا بیان ہے کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے ایک آیت کے بارے میں پوچھا: انہوں نے فرمایا کہ تم زیادہ باریکیوں اور گہرائیوں میں نہ جاؤ۔ تقوی اللہ کو لازم پکڑو اپنے آپ کو زیادہ غور و تعمق سے روکے رکھو۔ وہ لوگ چلے گئے جو قرآن کے صحیح فہم و عمل کا حق ادا کیا کرتے تھے۔

عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پینے کی چیزوں میں لوگوں میں اختلاف ہوا۔ میرا اس اختلاف سے کوئی سروکار نہ تھا تیس سال سے میں نے سوائے شہد دودھ اور پانی کے کوئی چیز نہیں پی۔

محمد کہتے ہیں کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے نمیز کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا لوگوں نے پینے کی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں۔ مجھے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں تو بیس سال سے سوائے شہد دودھ اور پانی کے اور کچھ نہیں پیتا۔

محمد ہی کا بیان ہے کہ میں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمارے پاس حضرت انس رضی اللہ عنہ کے دیئے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال ہیں آپ کا کیا خیال و عقیدہ ہے؟ جواب دیا اگر میرے پاس ان میں سے ایک بال بھی ہو تو میں اسے دنیا بھر کے سونے چاندی سے زیادہ قیمتی اور پیارا سمجھوں گا۔

نعمان بن قیس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ آپ مرنے کے بعد قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ آپ اپنے ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہوں گے اور وہ فتوحات حاصل کریں گے جو آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کسی کو حاصل نہیں ہوئیں۔ آپ نے فرمایا: اگر اللہ تعالیٰ مجھے دوبار موت دے گا اور دوبار زندہ کرے گا تو اس میں میرے لیے کوئی خیر و بہتری نہیں۔ حصین سے روایت ہے کہ عبیدہ رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز اسود بن یزید پڑھائیں۔

ان کی وفات کے بعد اسود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غسل و کفن اور دفن میں جلدی کرو۔ اس سے پہلے کہ کذاب یعنی مختار آئے ۲۷ھ میں ان کی وفات ہوئی اور اسود رضی اللہ عنہ نے غروب آفتاب سے پہلے ان کے جنازے کی نماز پڑھا دی۔

ابو وائل رضی اللہ عنہ:

ان کا نام شفیق بن سلمہ اسدی ہے۔ یہ بنی مالک بن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ میں سے ہیں، عمرو بن مروان کہتے ہیں کہ میں نے ابو وائل رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا؟ فرمایا ہاں میں اس وقت چھوٹا بچہ تھا میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔

عمش رضی اللہ عنہ شفیق سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس قادیسیہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک کتاب آئی۔ اس کو عبد اللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ نے لکھا تھا۔ شفیق کا بیان ہے کہ انہوں نے مجھ سے کہا اے سلیمان؟ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر سے بڑا سخت

کے دن کا بھاگا ہوا ہوں۔ میں اونٹ سے گر پڑا قریب تھا کہ میری گردن ٹوٹ جائے۔ اگر میں اس دن مرجاتا تو دوزخ کی آگ میں جاتا۔

ابو اہل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ﷺ کا مقرر کردہ صدقہ وصول کرنے والا عامل آیا۔ وہ ہر ایک سے پچاس اونٹوں میں سے ایک اونٹ بطور زکوٰۃ لیتا۔ میرے پاس ایک مینڈھا تھا میں وہی لے آیا اور اس سے کہا کہ یہ صدقہ لے لیجئے۔ اس نے کہا نہیں اس میں کوئی صدقہ نہیں۔

اعمش رضی اللہ عنہ نے ابو اہل رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا آپ جنگ صفین میں شریک ہوئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ ابو زیاد کہتے ہیں کہ میں نے ابو اہل رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا مسروق رضی اللہ عنہما؟ کہا میں مسروق رضی اللہ عنہما سے بڑا ہوں ان سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا ربیع بن شمیم؟ آپ نے کہا میں ان سے عمر میں بڑا ہوں اور وہ عقل میں مجھ سے بڑے ہیں۔ شفیق ابن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے مجھے چار تھے عطا فرمائے اور کہا کہ ایک تکبیر اولیٰ دنیا ما فیہا سے بہتر ہے۔

مسلم امور ابو اہل رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کے ساتھ ایک غزوہ کیا انہوں نے اس موقع پر فرمایا: میں نے رسول خدا ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”حریر اور دربیاج کے کپڑے نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی نہ پیو۔ یہ چیزیں کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور ہمارے لیے یہ آخرت میں ہوگی۔“

ابو الحسن کہتے ہیں کہ میں ابو بردہ اور شفیق کے پاس گیا۔ وہ دونوں بیت المال پر زکوٰۃ وصول کرنے پر مقرر تھے۔ میں ایک دوسرے موقع پر گیا تو صرف ابو اہل رضی اللہ عنہما ہی وہاں موجود تھے۔ مجھ سے کہا زکوٰۃ کو اس کے مستحقین پر لوٹا دو۔ میں نے کہا ہم مولفہ قلوب کے حصے کے بارے میں کیا کریں گے؟ کیا ہم دوسرے مستحقین کو دے دیں گے۔

دولت دنیا سے بے رغبتی:

(یہ صحیح معنوں میں اللہ کے بندوں اور علمائے حق کی اخلاقی زندگی کا طرہ امتیاز ہے) ابو اہل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے اور ابن زیاد کے تعلقات و مراسم تھے۔ صرف اس حد تک کہ بس جان پہچان تھی۔ جب وہ کوفہ کے علاوہ بصرے کا حاکم بھی ہو گیا تو مجھ سے کہا آپ میری صحبت و معیت اختیار کریں تاکہ آپ مجھ سے کوئی فائدہ حاصل کریں۔ سو میں علقمہ رضی اللہ عنہما کے پاس گیا اور اس بارے میں ان کا مشورہ لیا۔ انہوں نے کہا آپ ان سے جو کچھ دنیوی فائدہ حاصل کریں گے اس سے زیادہ وہ تم سے دینی فائدہ حاصل کر لیں گے۔ اس سے تمہارے دین و اخلاق کو نقصان پہنچے گا۔ اس کے کچھ عرصے بعد ابن زیاد نے ابو اہل رضی اللہ عنہما کو بیت المال کا افسر بنا دیا۔ پھر اسے معزول بھی کر دیا۔

ابو اہل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا۔ تو ان کی وفات کے بعد میں نے کہا کہ کاش معاویہ رضی اللہ عنہ لوٹ کر آئیں اور ملک و قوم کی حالت دیکھیں کہ یزید نے کیا بگاڑ پیدا کر دیا ہے۔

حجاج کے ساتھ مکالمہ:

جب حجاج کوفہ میں آیا تو ابو اہل رضی اللہ عنہما کو بلا بھیجا۔ آپ اس کے پاس آئے اور حسب ذیل گفتگو ہوئی:

حجاج: آپ کا کیا نام ہے؟

ابو وائل رضی اللہ عنہ: آپ میرا نام جانتے ہیں جیسی تو آپ نے مجھے بلایا ہے۔ پھر نام پوچھنے کی کیا ضرورت؟

حجاج: آپ اس شہر میں کب آئے؟

ابو وائل رضی اللہ عنہ: چند دن ہی ہوئے ہیں کہ میں اپنے اہل و عیال کو یہاں لایا ہوں۔

حجاج: آپ قرآن کا کتنا فہم و عمل رکھتے ہیں؟

ابو وائل رضی اللہ عنہ: میں قرآن جتنا پڑھتا ہوں اور سمجھتا ہوں بس قرآن کا اتنا ہی حصہ کافی ہے اگر میں اس پر عمل کروں۔

حجاج: میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ اپنے کسی عامل (حاکم) سے آپ کو متعلق کر دوں اور آپ اس کے کام میں معاون ہوں۔

ابو وائل رضی اللہ عنہ: آپ مجھے کون سے عامل سے متعلق کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔

حجاج: میں آپ کو سلسلہ کے امیر سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔

ابو وائل رضی اللہ عنہ: سلسلہ کے حالات اور انتظام درست نہیں ہو سکتا۔ مگر ایسے اعموان و رجال کے ذریعہ جو تجربہ کار قابل اور منظم ہوں۔

اگر آپ مجھ سے مدد لینا چاہتے ہیں تو کسی ایسے بوڑھے سے مدد لیجئے جو بارعب ہو اور برے لوگوں پر اس کی ہیبت ہو۔ اگر آپ مجھے

اس خدمت سے معاف ہی کر دیں تو مجھے یہ بات پسند ہے۔ اور اگر بہر حال کسی عامل سے متعلق کرنا ہی چاہتے ہیں تو کر دیجئے۔ خدا کی

قسم اے امیر! میں آپ کو وہ رات یاد دلاتا ہوں جس نے میری نیند مجھ پر حرام کر دی تھی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں پر آپ کی اتنی ہیبت

طاری ہے اور وہ آپ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ کبھی کسی امیر سے اتنا نہیں ڈرے (آپ اپنے ظلم و استبداد میں کمی کریں)۔

حجاج: آپ نے تو یہ بات کہہ دی۔ اگر کوئی اور کہتا تو میں اس کو قتل کر دیتا۔ مجھے اہم امور درپیش ہیں انہی کی وجہ سے لوگوں پر ہیبت

طاری ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی، اگر میں نے آپ کی ضرورت نہ سمجھی تو میں آپ کو معاف کر دوں گا ورنہ

ضرور آپ سے مدد لوں گا۔ جائے اللہ آپ پر رحم کرے۔

جب میں ان کے دربار سے نکلا تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ اس پر نظر پڑے۔

سفیان ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ ابو وائل رضی اللہ عنہ نے کہا: ”اے اللہ! حجاج کو خاوردار جھاڑ کا کھانا کھلا، جو نہ اسے فریہ

کرے اور نہ اس کی بھوک رفع کرے“ (یہ سورہ الغاشیہ کی آیت کا ٹکڑا ہے) اگر وہ تجھے محبوب ہے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو اس

بارے میں شک ہے (کہ وہ دوزخ میں جائے گا اور اس کو یہ کھانا ملے گا) فرمایا نہیں اس میں شک تو نہیں مگر مجھے اس پر افسوس ہے۔

ابن عمون کہتے ہیں کہ میرے ہمراہ ایک شخص ابو وائل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اس نے آپ سے کہا اے ابو وائل آپ حجاج کے

بارے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کہا کیا تو مجھے یہ حکم دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حکمت پر کوئی حکم لگاؤں۔

ابو ہاشم کہتے ہیں کہ میں نے حجاج کے زمانے میں ابو وائل کو دیکھا وہ اشاروں میں باتیں کرتے تھے۔ اعمش کا بیان ہے کہ

ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ شفیق کی صحبت و معیت لازم پکڑو۔ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب کو پایا ہے۔ وہ ان

سے علمی استفادہ کرتے اور ان کو اکابر میں شمار کرتے تھے۔

اوصاف و کمالات:

عاصم کہتے ہیں کہ ابووائل نماز میں اور راستے میں ادھر ادھر التفات نہ کرتے تھے (پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے) بھدلہ کا بیان ہے کہ میں نے ابووائل کو سجدے میں یہ دعا مانگتے ہوئے سنا "اے اللہ! مجھے معاف کر دے اور بخش دے۔ اگر تو مجھے معافی دے گا تو فصل کرے گا اور اگر عذاب دے گا تو یہ ظلم نہ ہوگا"۔ اعمش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ابووائل سے قرآن میں سے کچھ پوچھا جاتا تو فرماتے میں جس چیز کو سمجھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے صحیح فہم عطا فرمادیتا ہے۔ عطاء بن سائب کا کہنا ہے کہ ابووائل اس امر کو کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کو حرف یا اسم کہا جائے۔ عاصم کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابووائل کو دیکھتے تو کہتے یہ تابع ہے۔ جب آپ کو پکارا جاتا تو بجائے لَیْسَ لَکَ کہنے کے آپ لَیْسَ اللّٰهُ اللّٰهُ تھے عقل و سمجھ دے کہتے۔

احمد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ شفیق کی بصارت جاتی رہی تھی۔ معرف بن واصل کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم تمیمی کو ابووائل کے پاس دیکھا۔ ان کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا جب ابراہیم کچھ نصیحت کرتے تو ابووائل رو پڑتے جب عذاب الہی سے ڈراتے تب بھی رو پڑتے۔

عاصم کا بیان ہے کہ ابووائل کی ایک جھونپڑی تھی اسی میں وہ بھی رہتے اور ان کا گھوڑا بھی۔ جب جہاد کے لیے جاتے تو اسے توڑ دیتے اور جب واپس آتے تو بنا لیتے۔ ابووائل رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ تجارت کے ذریعہ حاصل کیا ہوا ایک درہم مجھے ان دس درہم سے زیادہ پیارا ہے جو خیرات و بخشش سے حاصل ہوں۔

اعمش کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا ابووائل کا پا جامہ نصف پنڈلی تک تھا اور آپ کا کرتہ اس کے اوپر تھا اس کے اوپر چادر تھی۔ انہی کا کہنا ہے کہ شفیق اپنی داڑھی رنگتے تھے۔

اسود بن ہلال ابووائل کی زیارت کے لیے آئے۔ ابووائل نے کہا: اچھا ہوتا آپ مجھے نہ ملتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ ابووائل یہ آپ نے کیا فرمایا: کہا میں تمہاری زندگی کو ناپسند کرتا ہوں۔ میں تم پر فتنوں سے ڈرتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طرح جان لے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اس نے کہا اے ابووائل آپ ایسا خیال نہ کریں۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں۔ میں دن میں پچاس نمازیں پڑھتا ہوں جب میں مرجاؤں گا اور میرے عمل کا وزن کیا جائے گا تو کسی کی نماز میری نماز سے زیادہ نہ ہوگی کسی کی نیکی میری نیکی سے زیادہ نہ ہوگی اور کسی کے روزے میرے روزوں سے زیادہ نہ ہوں گے۔

ابووائل رضی اللہ عنہ کی وفات:

عاصم ابن بھدلہ کہتے ہیں کہ جب ابووائل کا انتقال ہو گیا تو ابووردہ نے ان کی پیشانی چوم لی انہوں نے جماجم کے بعد حجاج کے زمانے میں وفات پائی۔ یہ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت حدیفہ، حضرت ابوموسیٰ اشعری اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ شام میں آ کر حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث سنی نیز ابن زبیر، سلیمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ابن معین السعدی سے اور ابن معین حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ مسروق، کردوس، عمرہ ابن شریبل، یسار بن نمیر، سلمہ بن سمرہ اور عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہم سے بھی

روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

زید بن وہب رضی اللہ عنہ:

یہ چھنی ہیں۔ نسب نامہ یہ ہے۔ حسیل بن نصر بن مالک بن عدی بن الطول بن عوف بن غطفان بن قیس بن جہیدہ تضاء سے ابو سلیمان کنیت ہے۔ یہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تمام حالات و واقعات میں شریک رہے۔

حکم زید بن وہب سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں آذربائیجان کا جہاد کیا اس وقت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بھی ہم میں موجود تھے۔ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حکم آیا کہ تم ایک ایسے ملک میں ہو جن کا کھانا پینا اور لباس حرام کا ہے سو تم کو اپنا کھانا پینا اور لباس حلال و پاکیزہ رکھنا چاہیے۔

زید بن وہب کے غلام کہتے ہیں کہ آپ ہماری امامت کراتے تھے۔ جنازے پر چار نکیریں کہتے تھے اور جب کسی کو سلام کہتے تو یوں کہتے:

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَكَطِيبُ صَلَوَاتِهِ.

”سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں اس کی مغفرتیں اور اچھائیاں ہوں تم پر“۔

آپ داڑھی رنگتے تھے۔ حجاج کے زمانے میں جہاجم کے بعد انہوں نے وفات پائی یہ بھی ثقہ راوی تھے اور کثیر الروایت۔
عبداللہ بن سخرہ رضی اللہ عنہ:

یہ ازدی ہیں، کنیت ابو معمر، حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت خباب رضی اللہ عنہم اور علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث اسرائیل ابو معمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”جو شخص اپنے آپ کو ایسے نسب سے منسوب کرتا ہے جس کا اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ یہ کفر باللہ کے برابر ہے“۔

ابی معمر کہتے ہیں کہ جب عمر رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنے پر رکھتے۔ جب کوئی حدیث بیان کرتے تو بالکل اسی انداز میں بیان کرتے جس انداز سے وہ حدیث سنی ہوتی۔ انہوں نے عبید اللہ بن زیاد کی ولایت میں کوفے میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھے۔ اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

زید بن شریک رضی اللہ عنہ:

وہ ابو ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت حذیفہ اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ اپنی قوم کے سردار تھے۔ ثقہ راوی تھے اور بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ابو عمرو الشیبانی رضی اللہ عنہ:

ابو عمرو الشیبانی کا نام سعد بن ایاس ہے۔ قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہم انصاری سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بڑی عمر پائی۔ ثقہ راوی ہیں اور ان سے

بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

انہوں نے ۱۲۰ سال کی عمر پائی۔ قادیسیہ کی جنگ میں یہ چالیس سال کے بھر پور جوان تھے۔

زر بن حبیش رضی اللہ عنہ:

زر نام ابو مریم کنیت۔ نسباً اسدی تھے۔ نسب نامہ یہ ہے۔ زر بن حبیش بن حباشہ ابن اوس بن ہلال اسدی۔ یہ حضرت عمرؓ حضرت علیؓ حضرت عبداللہؓ حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ حضرت ابی بن کعبؓ حضرت حذیفہ اور حضرت ابو اہل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ لیلۃ القدر ۲۷ رمضان ہے۔

یہ ۱۲۰ سال کے بوڑھے تھے بڑھاپے کی وجہ سے سر اور داڑھی ملتی تھی۔ ۱۲۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔ اعضاء میں رعشہ پیدا ہو گیا تھا۔ باختلاف روایت ۸۲ھ یا ۸۳ھ میں وفات پائی۔ مذہبی علوم کے علاوہ عربی زبان کے بڑے فاضل تھے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بزرگ صحابہ رضی اللہ عنہم ان سے استفادہ کرتے تھے۔ زر علوی ہیں اور دوسرے تابعی ابو اہل عثمانی باوجود اس فرق کے دونوں ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اور باہم اس اختلاف مسلک کا ذکر نہ کرتے تھے۔ دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے (باوجود اختلاف مسلک کے دونوں محبت و اخلاق کے ساتھ رہتے تھے)۔

ابی الجود کہتے ہیں کہ زر بن حبیش ایک ہی کپڑے میں آتے اور لوگوں کے ساتھ ایک ہی صف میں بیٹھ جاتے ایک مرتبہ اذان دے رہے تھے۔ ایک انصاری کا ادھر سے گزر ہوا اس نے کہا: ”ابو مریم! میں تم کو اس سے بالاتر سمجھتا تھا انہوں نے کہا کہ جب تک میں زندہ رہا تم سے نہ بولوں گا۔ کثیر الحدیث ثقہ راوی تھے۔

عمر و بن شریک رضی اللہ عنہ:

عمر نام ابو میسرہ کنیت قبیلہ ہمدان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمرؓ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بنی وادعہ کی مسجد کے امام تھے آیات قرآنی کی تفسیر و تاویل پر پوری نظر رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: ”الْجَوَارِ لُكُنْسُ“ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا: میری رائے میں اس سے مراد نیل گاؤں ہے۔ آپ نے کہا کہ میری بھی یہی رائے ہے۔

بڑے مخیر اور فیاض تھے۔ اپنی آمدنی کا کچھ نہ کچھ ضرور خیرات کرتے تھے۔ بعض اوقات اپنے گھر آتے تو خالی ہاتھ آتے۔ ایک مرتبہ اپنے بھتیجے سے کہا کہ تم بھی ایسا کیوں نہیں کرتے اس نے کہا اگر میں یہ سمجھتا کہ اس سے میری ضرورتوں میں کمی نہ ہو گی تو میں بھی ایسا ہی کرتا۔ آپ نے فرمایا: میں تو اپنے رب سے یہ شرط نہیں لگاتا (کہ اگر میری ضرورتوں میں کمی نہ ہو تو پھر میں ضرور خیرات کروں گا)۔

ان کے قبیلے میں کوئی ان کے ہمسرہ تھا۔ ابو اہل رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ ہمدانیوں میں کوئی شخص ابو میسرہ کا مثل نہ تھا کسی نے کہا مسروق رضی اللہ عنہ بھی ان کی مثل نہیں؟ جواب دیا مسروق رضی اللہ عنہ بھی نہیں۔ آپ اور آپ کے ساتھی سادہ لباس پہنتے۔ پاکیزہ جگہ پر اللہ کا

ذکر کرتے۔ غذا بھی سادہ اور کم تھی۔

انہوں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ اگر لڑکا پیدا ہو تو اس کا نام رہین رکھنا اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اس کا نام ام الرہین رکھنا۔ لڑکی پیدا ہوئی تو اس نے اس کا یہی نام رکھ دیا۔

آپ نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ ایام جاہلیت کی طرح کسی کو میرے جنازے کی خبر نہ دی جائے، جنازہ لے جانے میں جلدی کرنا۔ میری قبر پر ہری شاخ رکھنا کہ مہاجرین اس کو مستحب سمجھتے تھے۔ قبر کو اونچی نہ کرنا کہ اس کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ لحد بنانا اسے سرکنڈوں سے پاشنا۔

مرض الموت میں لوگوں سے فرمایا: میں مرنے کے لیے بالکل آمادہ ہوں۔ پیش آنے والے مرحلے کے علاوہ اور کسی چیز کا خوف میرے دل میں نہیں ہے۔ نہ میرے پاس مال و دولت ہے نہ مجھ پر کسی کا قرض ہے نہ بچے ہیں پھر مجھے مرنا آسان کیوں نہ ہو۔ وصیت کی کہ ان کے جنازے کی نماز قاضی شریح پڑھائیں۔

مرنے وقت مجھے کلمہ طیبہ کی تلقین کرنا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب ان کے جنازے کے پیچھے چل رہے تھے کہ وہ بھی اسی بات کو پسند کرتے تھے۔ ابواسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا قاضی شریح گھوڑے پر سوار جنازے میں شریک ہیں۔ نیز ابو جحیفہ کو دیکھا کہ جنازے کا پایہ پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ! ابو میسرہ کو بخش دے۔ میں ان سے کبھی علیحدہ نہیں ہوا۔ آج موت نے علیحدہ کر دیا۔ آپ نے کوفہ میں عبید اللہ بن زیاد کی حکومت میں وفات پائی۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن نام ابو علی کنیت والد کا نام یسار اور کنیت ابی لیلیٰ تھی اس نے نام کی جگہ لے لی۔ نسب نامہ یہ ہے عبدالرحمن بن یسار بن ہلال بن ہلیل بن اجمہ بن الحلاج بن الجریش ابن نجبا بن کلفہ بن عوف بن عمرو بن عوف اوسی انصاری۔ اکا بر صحابہ رضی اللہ عنہم سے استفادہ:

یہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی ابن کعب، حضرت سہل بن حنیف، حضرت خوات بن جہیر، حضرت عبداللہ بن زید، حضرت کعب بن سحر، حضرت براء بن عازب، حضرت ابو ذر، حضرت ابوالدرداء، حضرت ابوسعید خدری، حضرت قیس بن سعد اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے ۱۲۰ انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم رسول اللہ کو پایا۔ ان سے علمی استفادہ کیا۔ ان کے فیوض و برکات نے ان کو دولت علم سے مالا مال کر دیا۔ اسی لیے ان کو قرآن و حدیث اور فقہ جملہ علوم و فنون میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ آپ فتاویٰ کے جوابات دینے میں بڑے محتاط تھے کہا کرتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو بیس انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے کہ جب ان میں سے کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ اپنا پہلو بچا کر چاہتا تھا کہ دوسرا شخص جواب دے دے اور اب یہ حال ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔

ایک دوسری روایت ہے کہ آپ نے فرمایا: ”میں نے اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سو بیس انصاری صحابہ رضی اللہ عنہم کا زمانہ پایا اور ان سے استفادہ کیا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی حدیث بیان کرتا تھا بلکہ یہی چاہتا کہ کوئی دوسرا ہی یہ فرض سرانجام دے۔“

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سوار آپ کے پاس آیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے عید کا چاند دیکھا ہے۔ اے لوگو! روزہ کھول لو پھر ایک پانی سے بھرے ہوئے برتن کے پاس گیا۔ اس سے وضو کیا اور اپنے دونوں موزوں پر مسح کیا۔ پھر مغرب کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد اس سوار نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ اس مسئلے کے متعلق دریافت کروں کہ میں نے یہ جو کچھ کیا ہے (یعنی موزوں پر مسح) یہ ناجائز تو نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ میرے اور امت کے نزدیک بہتر اور جائز ہے۔ جیسا تو نے کیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔

قرآن مجید سے تعلق:

قرآن وحدیث اور فقہ جملہ علوم میں آپ کو درک تھا۔ خاص طور پر قرآن سے تو خاص شغف تھا۔ آپ کے یہاں ہر وقت قراء کا مجمع لگا رہتا تھا۔ مجاہد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کا ایک خاص مکان تھا جس میں بہت سے مصاحف رکھے رہتے تھے۔ یہاں ہر وقت قراء کا مجمع رہتا تھا۔ صرف کھانے کے وقت یہ لوگ یہاں سے اٹھتے تھے۔ ثابت بنانی کہتے ہیں کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز پڑھ کر قرآن کھول کر بیٹھ جاتے اور طلوع شمس تک پڑھتے رہتے۔ ثابت اور حماد بن سلمہ بھی یہی روایت کرتے ہیں۔

ابوفردہ کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے وضو کیا۔ آپ کے پاس رومال لایا گیا تو آپ نے اسے پھینک دیا۔ مسلم جہنی کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کی نماز میں امام خطبہ دے رہا تھا۔ اس موقع پر محمد بن سعد آئے تو عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے انگلی سے ان کو اشارہ کیا کہ خاموش رہو (مطلب یہ کہ جب خطبہ ہو رہا ہو تو بولنا نہیں چاہیے)۔ ابوفردہ کی روایت ہے کہ عبدالرحمن رضی اللہ عنہ مجھے حکم دیتے کہ میں صفیں سیدھی کراؤں۔ آپ کے بالوں کی دو چوٹیاں بندھی رہتیں جب نماز پڑھتے تو کھول لیتے۔ طبیعت میں سادگی:

طبعاً سادگی پسند تھے۔ تکلفات کو ناپسند کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک ریشمی چادر آپ کے لیے بنا دی گئی مگر آپ نے اس کو ناپسند کیا۔ باوجود اس سادگی کے آپ کی عظمت و ہیبت کا یہ عالم تھا کہ لوگ بادشاہوں جیسی آپ کی عزت کرتے۔ محدثین میں علمی مقام:

آپ حدیث کے ممتاز حفاظ میں سے تھے۔ اس بارے میں ذہبی رضی اللہ عنہ ان کو امام کہتے ہیں۔ حدیث میں ان کا علم اتنا وسیع اور مسلم تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم تک ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتے اور ان کی احادیث سنتے۔ حفظ حدیث کے لیے وہ مذاکرہ ضروری سمجھتے تھے۔ دوسروں کو ہدایت کرتے تھے کہ حدیث کی زندگی ان کے مذاکرے میں ہے۔

فقہی کمالات:

ان کا فقہی کمال بھی مسلم تھا۔ جب حجاج نے کوفہ کے عہدہ قضاء کا انتظام کرنا چاہا تو اس کی نظر انہی پر پڑی اور چاہا کہ اس عہدے پر انہیں مقرر کر دے۔ اس کے ایک پولیس افسر جو شب نے اس کی مخالفت بھی کی اور کہا کہ اگر آپ علی بن ابی طالب

نبی ﷺ کو قاضی بنانا چاہتے ہیں تو انہیں بنا دیجئے۔ مگر حجاج نے انہی کو قاضی بنایا۔

انہیں اپنے دور قضا میں سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا اس لیے کہ ان کا پورا گھرانہ حضرت علی نبی ﷺ کے فدائیوں میں سے تھا۔ ان کے والد ابی لیلیٰ حضرت علی نبی ﷺ کی حمایت میں جنگ صفین میں مارے گئے تھے، پھر خود یہ بھی جنگ جمل میں حضرت علی نبی ﷺ کے پر جوش حامیوں میں سے تھے۔

حجاج نے ان پر دباؤ ڈالا کہ حضرت علی نبی ﷺ پر تمہارا کہیں۔ مگر یہ تو یہ کرتے تھے صاف طور پر اور علی الاعلان حضرت علی نبی ﷺ کو برا نہ کہتے تھے۔ اس طرح کب تک کام چلتا اس لیے کہا گیا کہ جھوٹوں پر لعنت کرو اور وہ حضرت علی نبی ﷺ کے فدائیوں میں سے تھے۔ اس لیے کہ جھوٹوں پر لعنت تو کی مگر ان بزرگوں کا تعین نہ کیا۔ اس بنا پر حجاج نے انہیں معزول کیا اور مارا۔

اختلاف مسلک اور وسعت ظرفی:

عبدالرحمن غلوی تھے۔ یعنی حضرت عثمان نبی ﷺ کے مقابلے میں حضرت علی نبی ﷺ کی فضیلت کے قائل تھے۔ ان کے معاصر ایک شخص عبداللہ بن حکم عثمانی تھے لیکن اختلاف عقیدے کے باوجود دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے تھے۔ ابن مرہ کا بیان ہے کہ جب عبدالرحمن بن حکم سنتے کہ لوگ حضرت علی نبی ﷺ کا ذکر اور ان کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو کہتے: کہ ہم بھی حضرت علی نبی ﷺ کے پاس بیٹھے اور ان کی صحبتوں میں رہے ہیں، مگر ہم نے تو کبھی وہ باتیں نہیں سنیں جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ میرے لیے تو صرف یہ بات کافی ہے کہ حضرت علی نبی ﷺ آنحضرت ﷺ کے بچا کے بیٹے ہیں آپ کے داماد ہیں سیدنا حسن اور سیدنا حسین نبی ﷺ کے باپ ہیں اور جنگ بدر اور صلح حدیبیہ میں شریک تھے، کیا آپ کی فضیلت و عظمت کے لیے صرف اتنی باتیں کافی نہیں ہیں۔ لوگ کیوں بخشیں، مناظرے اور جھگڑے کرتے ہیں۔

وفات:

لوگ حق و صداقت، حق پرستی اور اخلاق کی بات کہاں سنتے اور سمجھتے ہیں۔ حجاج کب تک ان کو گوارا کرتا۔ یہ بھی حجاج کے مظالم سے تنگ آ گئے تھے۔ اس کی مخالفت میں ابن اشعث کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ جنگ میں کام آئے۔

عبداللہ بن حکم رضی اللہ عنہما:

یہ جہنی ہیں۔ ابو معبد کنیت ہے۔ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بہت بوڑھے تھے۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ پایا تھا۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما ان سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں آنحضرت ﷺ نے لکھا کہ ”مردار کے بالوں، کھالوں اور بڈیوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کرو“ میں اس وقت جوان تھا اور اپنی ہستی میں تھا۔

بلال الوزان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن حکم رضی اللہ عنہما سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اطاعت و فرمان برداری کی بیعت کی تھی۔

عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما دونوں روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب مؤذن کی اذان میں سنتے: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ تُو كَبْتُمْ۔ جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا وہ کافر ہیں۔

مسلم جہنی کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فدائی تھے اور عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے شیدائی تھے اور یہ کوفے کی مسجد جہنیہ کے امام تھے جب عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہما کی والدہ کا انتقال ہوا تو عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما ان کے کفن دفن میں شریک ہوئے یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کی مثل تھے۔ دونوں دوست اور بھائیوں کی طرح رہتے۔ عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما کی بیٹی کہتی ہیں کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ دونوں میں کسی اختلاف کا کبھی ذکر آیا ہو۔

حکم کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما نے کبھی کچھ جمع کر کے نہیں رکھا۔ میں نے ان کو یہ کہتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جَمَعَ فَأَوْعَى۔ جمع کیا (مال و دولت کو) اور سینت سینت کر رکھا (میں اس لیے کچھ جمع نہیں کرتا)۔ بلال ابن حمید کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا ہے، میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد کبھی کسی خلیفہ کے قاتلوں کی مدد نہ کروں گا۔ ان سے کہا گیا۔ تو کیا آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے قاتلوں کی مدد کی تھی؟ آپ نے کہا کہ میرا ذکر بھی انہیں لوگوں میں کیا جاتا ہے۔

یہ کوفے میں حجاج بن یوسف کی گورنری کے زمانے میں فوت ہوئے۔

عبداللہ بن ابی ہذیل رضی اللہ عنہما:

یہ ربیعہ کے قبیلہ عنزی میں سے ہیں ابو مغیرہ کنیت ہے۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما اور زرعد ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

ابی ہذیل کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایک بوڑھے کو لایا گیا جو شراب کے نشہ سے بدست تھا۔ آپ نے فرمایا: تجھ پر افسوس ہے۔ ہمارے بچے تک روزہ دار ہیں (اور تو رمضان کے مہینے میں شراب پیتا ہے) آپ نے اسے اسی کوڑوں کی سزا دی۔

انہی سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”بوائے بیت اللہ کے اور کسی جگہ زیارت کی نیت سے اور اہتمام کے ساتھ سفر نہ کرو“۔

عبداللہ بن ابی ہذیل رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اہل کوفہ مجھ سے ایسے مسائل پوچھا کرتے تھے جو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کرتا اور کتاب میں جمع کر لیا کرتا تھا۔ وہ سب میری کتاب میں لکھے ہوئے تھے۔ ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔

حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہما:

حارثہ بن مضرب عبدی ہیں۔ یہ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

یونس بن اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا۔ حارثہ بن مضرب رضی اللہ عنہما زعفران اور ورس کا خضاب کیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہما

عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہما قبیلہ مراد کے جمیلی ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابن مرہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ عنہما بوڑھے ہو گئے تھے۔ ہم سے حدیثیں بیان کرتے۔ ہم صحیح حدیثوں کو مان لیتے تھے اور بعض کا انکار کر دیتے تھے۔

مرہ بن شراحیل رضی اللہ عنہما

یہ ہمدانی ہیں۔ وہ مرثیہ اور مرثیہ الطیب ہیں۔ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ثقہ راوی ہیں۔

عبد بن فضیلہ رضی اللہ عنہما

خرامی ہیں۔ ابو معاویہ کنیت ہے۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور علم فریضہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ یحییٰ بن وثاب نے عبد بن فضیلہ رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے اور عبید بن فضیلہ نے علقمہ رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے اور علقمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے۔ تو اس سے زیادہ صحیح قرأت اور کس کی ہو سکتی ہے؟

بشر بن مروان کی ولایت کے زمانے میں عبید بن فضیلہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں وفات پائی۔

تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں کرتا۔

عمر و بن میمون رضی اللہ عنہما

اودی ہیں اودی بن صعب بن سعد العشیرہ مذحج سے۔ یہ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے ہی یمن میں حدیث سنی ہے۔ نیز ابو مسعود انصاری، حضرت عبداللہ بن عمر، سلمان بن ربیعہ اور ربیعہ بن خثیم رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کرتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔ ان کی وفات ۴۷ھ یا ۴۸ھ میں مروان بن عبد الملک کی خلافت میں ہوئی۔ یہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو خوف الہی سے لرزتے ہوئے۔

معمر و بن سوید رضی اللہ عنہما

معمر و بن سوید اسدی ہیں۔ بنی سعد بن الحارث بن ثعلبہ بن دودان بن اسد میں سے ہیں۔ یہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ واصل کہتے ہیں ابن سوید ہم سے کہا کرتے تھے۔ میرے بھتیجیو! مجھ سے علم حاصل کرو۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

ہام بن الحارث رضی اللہ عنہما

ہام بن الحارث رضی اللہ عنہما نخعی ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی مسعود انصاری، حضرت ابی الدرداء،

حضرت عدی بن حاتم، حضرت جریر بن عبداللہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کوفے میں حجاج کی ولایت میں فوت ہوئے۔ یہ یوں دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ مجھے نیند سے نئی قوت و توانائی عطا فرما۔ میرا دن اور میرا جاگنا تیری اطاعت میں بسر ہو۔ نماز کی حالت میں کھڑے کھڑے سو جاتے۔ مسجد میں اعتکاف کرتے۔

حارث بن ازیمع رضی اللہ عنہ:

حارث بن ازیمع رضی اللہ عنہ کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن ابی بشیر بن عبداللہ بن مر بن مالک بن حرب بن الحارث بن سعد بن عبداللہ بن وداعہ ہمدان میں سے ہیں۔ حارث بن ازیمع رضی اللہ عنہ اور اس کے بھائی شہاد بن ازیمع رضی اللہ عنہ کوفے کے شرفاء میں سے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے۔ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت میں جب کہ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کوفے کے گورنر تھے، ان کا انتقال ہوا۔

اسود بن ہلال رضی اللہ عنہ:

اسود بن ہلال بخاری ہیں۔ محارب بن صفہ بن قیس بن غیلان بن مضر۔ یہ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

اور سلیم بن حظلہ رضی اللہ عنہ:

سلیم رضی اللہ عنہ اسود بن ہلال رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہجرت کی۔ میں اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ میں آیا۔ جب مسجد میں داخل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا: ”لوگو! حج کرو اور قربانی دو کہ اللہ تعالیٰ قربانی کو دوست رکھتا ہے۔“

انہوں نے کوفے میں حجاج کے زمانے میں واقعہ یرجمہ کے بعد وفات پائی۔ سلیم بن حظلہ بکری ہیں۔ حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

نعمان بن حمید رضی اللہ عنہ:

نعمان بن حمید رضی اللہ عنہ بکری ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ سلمان سے روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے خالو کے ہمراہ مدائن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مصافحہ کیا۔ اور ان کا جھنڈا نکل کا تھا۔ ان کی کنیت ابو قدامہ ہے۔ یہ بہت کم حدیث بیان کیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ ابن مسعود الہمدانی بنی زہرہ بن کلاب کے حلیف ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن سیرین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تھا۔ آپ کوفے والوں کے قاضی تھے۔ ابی حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ریشمی لباس پہنے ہوئے دیکھا۔ یہ حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کے قاضی تھے اور ثقہ راوی ہیں۔

ابوعطیہ رضی اللہ عنہ الوداعی:

ابوعطیہ الوداعی رضی اللہ عنہ ہمدانی ہیں۔ ان کا نام مالک بن عامر ہے اور وہ ابو حمیرہ ہمدانی ہیں حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کی ولایت کے زمانے میں کوفے میں وفات پائی۔ ثقہ ہیں۔ بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔

عامر بن مطر رضی اللہ عنہ:

عامر بن مطر شیبانی ہیں، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ طائی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ:

یہ عبداللہ بن خلیفہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”نماز عصر کا وقت رہتا ہے کہ سوار آسانی سے دو میل سفر طے کر لے اور پیدل چلنے والا ایک میل۔“

عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ:

عبدالرحمن بن یزید رضی اللہ عنہ ابن قیس بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلمان بن کہل بن بکر بن عوف بن النخع مدح سے۔ وہ اسود بن قیس کے بھائی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ”ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے آئے۔ آپ اٹھ کر گئے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔ ہم نے کہا ہم تو آپ کے پاس موزوں پر مسح کرنے کا مسئلہ پوچھنے آئے تھے۔ آپ نے فرمایا: یہ مسئلہ میں نے تمہیں خود عمل کر کے دکھا دیا اور بتلا دیا ہے۔“

یہ اپنی داڑھی رنگا کرتے تھے۔ حسن بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن یزید کو سیاہ بالوں کا شامی لباس پہنے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو بہت سچ دار عمامہ اوڑھے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اپنی دستار کے شملے پر نماز پڑھ لیتے تھے۔ سیاہ عمامہ بھی باندھ لیتے ان کی کنیت ابا بکر تھی۔ واقعہ ہماجم سے پہلے حجاج کی ولایت میں ان کا انتقال ہوا۔ ثقہ ہیں اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے۔

عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

عابس بن ربیعہ رضی اللہ عنہ مدح کے قبیلہ نخعی میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت بن ابی طالب رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی ہیں۔ چند احادیث مروی ہے۔

کلیب بن شہاب رضی اللہ عنہ:

کلیب بن شہاب بنی قضاعہ کے جرمی ہیں۔ وہ ابو عاصم بن کلیب ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے

ہیں۔ ثقہ ہیں۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ (علماء) ان کی حدیث کو حسن اور اس سے حجت لاتے ہیں۔

زید بن صوحان رضی اللہ عنہ:

زید بن صوحان رضی اللہ عنہ ابن حجر بن الحارث بن الجہرس بن صبرہ بن حدرجان بن عساس بن لیث بن حداد بن ظالم بن ذہیل بن عمرو بن وویحہ ابن افسی بن عبد القیس بن افسی بن دغی بن جدیلہ بن اسد بن ربیعہ ابن نزار۔ معصہ اس کی ماں اور باپ کا بھائی تھا۔ عبید بن لائق کا بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا: جناب اور جناب کیا ہے؟ زید نے خیر کو اس سے قطع کر دیا ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! ہم نے سنا ہے کہ آپ نے رات یہ فرمایا ہے کہ جناب سے خیر کی کوئی امید نہیں، آپ نے فرمایا: دو شخص اس امت میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک مارے گا۔ حق و باطل میں تمیز کرے گا اور دوسرا اللہ کی راہ میں اس کے ہاتھ سے مارا جائے گا، پھر دوسرا اس کی پیروی کرے گا۔

اجلع کہتے ہیں کہ جناب کو ولید بن عقبہ کے سامنے ایک ساحر نے قتل کیا اور زید کا ہاتھ کاٹا گیا اور جنگ میں مارا گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ زید بن صوحان رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر رہے تھے۔ ایک اعرابی نے کہا: مجھے تیرا حدیث بیان کرنا بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے تیرا ہاتھ مجھے خاک آلود نظر آتا ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تو بائیں ہاتھ نہیں دیکھتا۔ اس نے کہا خدا کی قسم مجھے یہ معلوم نہیں کہ تیرا داہنا ہاتھ کسے گا یا بائیں۔ زید نے کہا: اللہ نے سچ فرمایا ہے:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ (سورۃ التوبہ پارہ ۱۱)

”دیہاتی کفر و نفاق میں بڑے سخت ہیں اور وہ اسی کے زیادہ لائق ہیں کہ اس کی حدود کو نہ جانیں، جو اللہ نے اپنے رسول پر اتارا۔“

اعمش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید کا ہاتھ جنگ نہاوند میں کاٹا گیا۔

ابوالہذیل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اہل کوفہ کا ایک وفد آیا، ان میں زید بن صوحان رضی اللہ عنہ بھی تھا۔ اس کو شام کا ایک شخص اپنی مدد کے لیے لایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا: اے اہل کوفہ تم مسلمانوں کا خزانہ ہو۔ اگر تم اہل بصرہ کے لیے مدد مانگتے ہو میں ان کی مدد کروں گا اور اہل شام کے لیے مدد مانگتے ہو تو ان کی بھی مدد کروں گا زید کے لیے کہا کہ اس کے لیے ایسا سلوک کرو اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زید بن صوحان رضی اللہ عنہ کو اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جو وہ اپنے معزز ساتھیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اور پھر لوگوں سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ یہی سلوک کرو۔

ابن قدامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ایک لشکر میں تھے جس کی سپہ سالاری حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے زید بن صوحان رضی اللہ عنہ لشکر کی امامت کرتے تھے۔ آپ جمعہ کے دن زید بن صوحان رضی اللہ عنہ سے کہتے کہ کھڑے ہو کر لوگوں کو وعظ و نصیحت کرو۔

حمید بن ہلال سے روایت ہے کہ زید بن صوحان رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہا: ”اے امیر المؤمنین! آپ امت کی طرف مائل ہوں۔ امت آپ کی طرف مائل ہوگی۔ آپ امت کے ساتھ عدل و انصاف کریں۔ امت آپ کے ساتھ انصاف کرے گی“ یہ تین مرتبہ کہا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا تم میرا حکم سنو گے اور اطاعت کرو گے؟ کہا ہاں فرمایا: تو شام میں چلے جاؤ۔ وہ اسی وقت اہل شام کی طرف آئے۔ وہ اور اس کے ساتھی امیر کی اطاعت کو اس کا حق سمجھتے تھے۔ غیلان بن جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ زید بن صوحان رضی اللہ عنہ کو جنگ جمل کے دن میدان جنگ سے زخمی حالت میں لایا گیا۔ اس کے ساتھی اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو ابوسلمان نے جنت کی بشارت دی تھی؟ کہا: تم کہتے ہو اس بات پر قدرت رکھتے ہو اور دوزخ کی آگ میں جانے کی بھی ہمت رکھتے ہو۔ تم کچھ نہیں جانتے کہ مرنے کے بعد تم جنت میں جاؤ گے یا دوزخ میں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم نے لوگوں سے ان کی آبادیوں میں جہاد کیا اور ہم نے ان کے امیر کو قتل کیا۔ افسوس ہے ہم پر ظلم کیا گیا اور ہم نے صبر کیا۔

پھر نصیحت کی کہ میرے ازار کو باندھ دینا۔ میرے جسم کو خون سے نہ دھونا۔ غسل نہ دینا میرے جسم سے کپڑے نہ اتارنا۔ ہاں موزے اتار دینا۔ اور مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا میں قیامت کے دن اپنے رب سے فریاد کروں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ یہ بھی وصیت کی میرے ساتھ میرا قرآن بھی دفن کر دینا۔ ثقہ ہیں۔ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ:

ابن الہداد اللیثی۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حمزہ کی بیٹی کے بھائی ہیں۔ ام عبداللہ بن شداد بن الہداد سلمی بنت عمیش، الشعمیہ رخت اسماء بنت عمیس حمزہ بن عبدالمطلب کے پاس تھیں۔ اس سے بنت عمارہ پیدا ہوئی۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو یہ شداد بن الہداد رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس سے عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی ہے۔ میں جماعت کی آخری صف میں تھا۔ آپ سورہ یوسف کی قرأت کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ آیت **إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ** تک پہنچے۔ یہ یوم دجیل میں قتل کیے گئے۔ شیعہ تھے۔ ثقہ فقہیہ ہیں۔ ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ اور عبایہ بن ربعی رضی اللہ عنہ:

ابن جحش بن عمر بن عبداللہ بن بجاہ بن عبد بن مالک بن غالب ابن قطیبہ بن عیس بن نعیم بن ریث بن غطفان بن سعد بن قیس بن عیلان بن مضر۔

محمد بن السائب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کرنے کا دعوت نامہ حراش بن جحش کو بھیجا اس نے آپ کے مکتوب گرامی کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ یہی کہتے ہیں کہ یہ ربعی بن حراش رضی اللہ عنہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

حجاج کا بیان ہے کہ میں نے شعبہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا 'کیا ربیع نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا ہے؟ کہا ہاں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں مگر یہ نہیں کہتے کہ 'میں نے ان سے ایسا سنا ہے'۔

انہوں نے حجاج کی ولایت میں واقعہ جہلم کے بعد وفات پائی۔ کوئی اولاد نہیں چھوڑی البتہ ان کا ایک بھائی مسعود ابن حراش ان کے بعد باقی رہا۔ وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ ابو نعیم کی روایت یہ ہے کہ ربیع نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وفات پائی۔ یہ اہل ثقہ تھا۔ ثقہ ہیں۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ عبایہ بن ربیع، اسدی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور بہت کم احادیث بیان کرتے ہیں۔
وہب بن الاعدع رضی اللہ عنہ:

وہب بن الاعدع ہمدانی ہیں اور پھر خازنی۔ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنی ہے کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا 'جب کوئی آدمی حج کرنے آئے تو اس کو چاہیے کہ بیت اللہ کا سات مرتبہ طواف کرے' یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔ بہت کم احادیث بیان کیا کرتے تھے۔
نعیم بن دجاجہ رضی اللہ عنہ:

نعیم رضی اللہ عنہ اسدی ہیں، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابی مسعود انصاری رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں، بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

شرح بن ہانی رضی اللہ عنہ:

شرح بن ہانی، ابن یزید بن نہیک بن درید بن سفیان بن الضبات بن بنی الحارث ابن کعب، یہ حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں۔

قاسم بن فخرہ کہتے ہیں کہ مجھ سے شرح بن ہانی الحارثی نے کہا: 'میں نے کسی حارثی کو اس سے افضل نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرح حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے تھے۔ ان کے ہمراہ ہو کر جنگیں لڑیں اور ان کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے بڑی عمر پائی۔ بستان میں عبید اللہ بن بکر کے ہمراہ قتل کیے گئے۔ ثقہ ہیں۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ابو خالد رضی اللہ عنہ الوالسی رضی اللہ عنہ:

ابو خالد بنی اسد بن خزیمہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ابو خالد الوالسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک وفد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا۔ میرے ساتھ میری بیوی بھی تھی، میں وہاں ٹھہرا اور بلند آواز سے قرآن پڑھا۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیر مقدم کرنے نکلے تاکہ ان کو عزت و احتشام کے ساتھ لائیں۔ آپ نے ہمیں دیکھ کر فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں تمہیں مخوم دیکھ رہا ہوں۔

ابو الاسود بن قیس العبدی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح حیرہ میں شامل ہوئے۔ جمعہ کے بارے میں حضرت

عمر بنی ہمدان سے روایت کرتے ہیں اور حضرت علی بنی ہمدان سے بھی روایت کرتے ہیں۔

مستظل بن حصین رضی اللہ عنہما:

مستظل بن حصین ازد کے بارتی قبیلہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی بنی ہمدان سے روایت کرتے ہیں۔

شمیب بن غزقدہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مستظل بن حصین رضی اللہ عنہما بارتی ازدی نے بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے 'رب کعبہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ عرب کب ہلاک ہوں گے (یعنی کمزور اور ذلیل و خوار ہوں گے) جب ان کی سیاست و حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ آ جائے گی جو رسول اللہ کے صحابی نہ ہوں گے اور جاہلیت کی روک تھام نہیں کریں گے۔

یہی مستظل کہتے ہیں کہ ہم میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے حضرت علی بنی ہمدان کو اس کی خبر دی اور ان کا انتظار کیا۔ مگر آپ نہ آئے۔ آخر ہم نے اس کی نماز پڑھی اور اسے دفن دیا۔ اس کے بعد حضرت علی بنی ہمدان بھی آگئے اور اس کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی۔ یہ ثقہ ہیں اور بہت کم حدیث روایت کرتے ہیں۔

قیس بن خاری رضی اللہ عنہما:

قیس بن خاری ہمدانی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت علی بنی ہمدان سے روایت کرتے ہیں۔ ابواسحاق قیس سے ہی روایت کرتے ہیں کہ وہ خازمین کے سردار تھے۔ کہتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور میں نے عرض کیا میرے اہل و عیال ہجرت کرنا چاہتے ہیں سو آپ نے ابن ابی ربیعہ کو لکھ دیا کہ ان کے لیے سامان سفر فراہم کرے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔

کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بنی ہمدان کو منبر پر یہ کہتے سنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا: ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی۔ تیسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ پھر ہمارا زمانہ آیا تو فتنے اٹھ کھڑے ہوئے۔ پس جو اللہ کو منظور ہے وہی ہوگا۔ زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہما:

اسدی ہیں۔ بنی مالک میں سے ایک ہیں۔ ابن مالک بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابراہیم بن مہاجر کہتے ہیں کہ میں نے زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہما کو یہ کہتے سنا ہے کہ 'اسلام میں سب سے پہلا شخص ہوں جس نے عشر (پیداوار کا دسواں حصہ) نکالا۔

کہتے ہیں کہ زیاد بن حدیر رضی اللہ عنہما نے اپنے پیچھے کوفے میں اپنا ایک لڑکا ابو حوالہ چھوڑا جو قاری تھا اور کوفے کی جامع مسجد کا امام۔ تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے مگر حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت نہیں کرتا۔

سلمان بن ربیعہ رضی اللہ عنہما:

ابن یزید بن عمرو بن سہم بن ثعلبہ بن غنم بن قتیبہ بن معن ابن مالک بن اعصر۔ اور وہ منبہ بن سعد بن قیس بن عیلام بن مضر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کو آپ نے کوفے کا قاضی بنایا تھا۔

شعسیؓ کا بیان ہے کہ سلمان بن ربیعہؓ کو کوفے کی قضا کے لیے بھیجا گیا۔ کہتے ہیں کہ میں صرف چالیس دن عہدہ قضا پر متمکن رہا۔

کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفانؓ کی خلافت میں سلمان بن ربیعہؓ نے لُحْر کا جہاد بھی کیا تھا۔ سعید بن العاصؓ کی ولایت میں اور اسی میں شہید ہوئے۔ ثقہ ہیں۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

قاضی شریحؓ:

نام و نسب: شریح نام ابو امیہ کنیت، نسب نامہ یہ ہے۔ شریح بن حارث بن قیس بن الجہم ابن معاویہ بن عامر بن رائس بن حارث بن معاویہ بن ثور بن مرثد بن کنذہ کنذی یہ نسل عرب نہ تھے بلکہ عجم کے ان خانوادوں میں سے تھے جو کندہ کے حلیف بن کر یمن میں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے سوائے شریحؓ کے کوفے میں اور کوئی نہیں آیا۔ ابراہیم کا بیان ہے کہ شریحؓ شاعر بھی تھے۔ میں نے یزید بن ہارونؓ کو کہتے سنا ہے کہ شریحؓ بڑے باکمال شاعر اور قاضی تھے۔ دیکھیںؓ کہتے ہیں میں نے سفیانؓ کو کہتے سنا ہے کہ شریحؓ سے پوچھا گیا آپ کن میں سے ہیں؟ کہا میں اہل یمن کندہ میں سے ہوں۔

بزبان خود اپنا تعارف:

یہ حدیث و فقہ کے ماہر اور بصرہ کے ممتاز حفاظ حدیث میں سے تھے علاوہ ازیں قیافہ شناس اور باکمال شاعر بھی تھے۔ یہ تاریخ اسلام کے نہایت ممتاز و مشہور قاضی ہیں۔ عطاء بن السائبؓ کہتے ہیں کہ قاضی شریحؓ کے پاس ایک دیہاتی عرب آیا اور پوچھا آپ کن میں سے ہیں۔ فرمایا میں ان میں سے ہوں جن پر اللہ نے اسلام کی توفیق دے کر احسان عظیم فرمایا: وہ اعرابی یہ کہتا ہوا چلا گیا خدا کی قسم میں نے آپ جیسا قاضی نہیں دیکھا۔

شعسیؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص آیا۔ اور کہا مجھے کون قاضی شریحؓ تک پہنچاتا ہے؟ ہم نے کہا کہ دیکھ یہ قاضی شریحؓ ہیں ان سے ملو۔ ان کے پاس جا کر اس نے پوچھا۔ اے ابو عبد اللہ آپ کس قبیلے اور خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ فرمایا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دے کر احسان عظیم فرمایا ہے۔ ویسے میں قبیلہ کندہ میں سے ہوں۔ وہ لوٹ کر ہمارے پاس آیا اور کہا اللہ آپ لوگوں پر رحم کرے۔ آپ نے مجھے ایک عجیب شخص کے پاس بھیجا۔ ہم نے کہا اس نے تم سے کیا کہا؟ اس نے جواب دیا۔ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے ہوں جن کو اللہ نے اسلام قبول کرنے کی توفیق دی۔ اور ویسے میں قبیلہ کندہ میں سے ہوں۔ ہم نے کہا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی ہے ان پر ایمان و تقویٰ کا بھاری بوجھ ڈال دیا ہے۔ اس شخص کی یہی مراد تھی۔

علمی مقام:

عہدہ قضا پر تقرر سے پہلے ان کے تعلقہ فی الدین، علم و ذکاوت، عدل گستری اور جرأت و بیباکی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ ان کی قابلیت و صلاحیت مسلم ہو چکی تھی کہ یہ تنازعہ فیہ معاملات میں فیصلہ کرنے میں حیرت انگیز کمال رکھتے ہیں۔ اور حضرت عمرؓ بھی ان کی اس استعداد و صلاحیت سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے ان کو کوفے کا قاضی بنایا۔

عہدہ قضا پر تقرر کا واقعہ:

اس تقرر کا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے بشرط پسندیدگی ایک گھوڑا خریدا اور اس کا امتحان کرنے کے لیے ایک سوار کو دے دیا۔ گھوڑا سواری میں چوٹ کھا کر زخمی ہو گیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ یہ واپس ہو جائے تو اچھائے گھوڑے والے سے کہا کہ اپنا یہ گھوڑا واپس لے لے۔ مالک نے لینے سے انکار کر دیا، اور نزاعی صورت پیدا ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آؤ ہم تم دونوں کسی کو اپنا حکم بنا کر فیصلہ کرائیں اور شرح رسول اللہ ﷺ کو ثالث بنا لیا گیا۔ شرح رسول اللہ ﷺ نے فیصلہ کیا کہ اسے امیر المؤمنین! یا تو آپ گھوڑے کو اسی حالت میں مالک کو واپس دیں جس صورت میں آپ نے اس سے لیا تھا۔ اگر مالک سے اجازت لے کر سواری کرائی گئی تھی تو گھوڑا واپس کیا جاسکتا ہے ورنہ نہیں۔ اس فیصلہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کوفے کا قاضی بنا دیا۔ اور فرمایا کہ یہ پہلا دن ہے کہ میں نے شرح رسول اللہ ﷺ کو پہچانا۔

جھوٹی گواہی کا سدباب:

قاضی صاحب کا سب سے مقدم فرض یہ ہے کہ وہ سچائی پر خود بھی قائم رہے اور دوسروں کو بھی قائم رکھے، فیصلہ کرنے میں کسی خارجی یا داخلی دباؤ میں نہ آئے۔ باپ بیٹے اور بیوی تک کی پروا نہ کرے اور کسی حال میں بھی حق و انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ قدرت فیاضہ نے یہی وصف و کمال قاضی شرح رسول اللہ ﷺ کو عطا فرمایا تھا۔

تنازعات و مقدمات کو جو چیز خراب کرتی ہے وہ جھوٹی شہادتیں ہیں اور دوسری چیز قاضی کا کسی کے دباؤ یا اثر میں آجانا۔ شرح رسول اللہ ﷺ نے حتی الامکان دونوں کا انسداد کر کے دنیا والوں کے سامنے حق و انصاف کا ایک اعلیٰ نمونہ رکھ دیا۔ چنانچہ ابن سیرین رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ شرح رسول اللہ ﷺ کو جب ثبوت کے گواہ مشکوک نظر آتے۔ مگر ان کی ظاہری صداقت پر کوئی گرفت بھی نہ ہو سکتی تو وہ پہلے گواہوں سے کہتے کہ دیکھو میں نے تم کو طلب نہیں کیا ہے۔ اگر تم واپس جانا چاہو تو جاسکتے ہو۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا۔ تمہاری شہادت پر اس مقدمے کا فیصلہ ہوگا تمہاری شہادت سے میں بری الذمہ ہو جاتا ہوں۔ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو بس تم کو خدا کے سامنے اس کی جوابدہی کرنی ہوگی۔ اگر اس طرح سمجھانے پر بھی کوئی گواہ اپنی شہادت پر قائم رہتا تو اس شہادت کی بنا پر مقدمے کا فیصلہ کر دیتے۔

بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے کہ بخدا میں تیرا فیصلہ کر دوں گا، باوجود اس کے کہ میری رائے میں تو ظالم نظر آتا ہے۔ لیکن پھر بھی میں اپنے ظن و گمان پر فیصلہ نہ کروں گا۔ میں تو گواہوں کی شہادت پر فیصلہ کروں گا۔ میرے فیصلے سے تیرے لیے کوئی ایسی چیز حلال نہیں ہو سکتی جس کو اللہ نے حرام کر دیا ہو۔

خفیہ تحقیقات کا اہتمام:

سخری کہتے ہیں کہ وہ شرح رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور کہا کہ اس مقدمے میں آپ نے کب فیصلہ کیا ہے، آپ نے فرمایا: لوگوں نے جیسی گواہی دی اسی کے مطابق میں نے فیصلہ کر دیا۔ مطلب یہ کہ ”شرح“ سے پہلے اسلامی عدالت میں خفیہ تحقیقات کا طریقہ رائج نہ تھا۔ سب سے پہلے قاضی شرح رسول اللہ ﷺ نے اسے جاری کیا۔ چونکہ یہ ایک نئی بات تھی اس لیے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا کہ آپ نے تحقیقات کا یہ طریقہ کیوں جاری کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب لوگوں نے نئی نئی باتیں جاری کر دیں تو میں نے بھی نیا

طریقہ جاری کر دیا۔ لوگوں نے حق پوشی اور جرائم کی نئی نئی صورتیں پیدا کر لیں تو میں نے بھی تحقیقات کی نئی صورت اختیار کر لی۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ شرح رحمہ اللہ ثبوت کو قسم سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ اور تنہا حلف کو زیادہ اہمیت نہ دیتے تھے۔ بلکہ ثبوت کے ساتھ قسم لیتے تھے۔

مقدمے کا فیصلہ کر دینے کے بعد بھی اگر فریقین کچھ کہنا چاہتے تو انہیں اس کا موقعہ دیتے اخف کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں شرح رحمہ اللہ کی عدالت میں گیا۔ انہوں نے ایک شخص کے خلاف فیصلہ کر دیا، اس نے کہا ابھی جلدی نہ کیجئے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ شرح نے اسے اس کا موقعہ دیا۔ جب وہ کہہ چکا تو کہا کیا میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم نے بہت فضول باتیں کیں۔ تم نے جو کچھ کہا ہے اس پر ثبوت پیش کرو۔

فیصلہ کرنے میں احتیاط اور سہجیت:

آج دنیا میں انصاف حاصل کرنے میں جتنی بھی دقتیں رکاوٹیں اور تکلیفیں پیش آرہی ہیں، سب جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو قاضی شرح رحمہ اللہ پر فخر ہے کہ انہوں نے حتی الامکان اپنے دور قضا میں ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر سے فریقین پر جو کچھ گزرتی ہے اس سے کون واقف نہیں۔ مگر ذرا اسلام کے قاضی کو دیکھئے۔ ذکوان کہتے ہیں کہ جس روز آندھی اور بارش ہوتی تو وہ مقدمات کا فیصلہ اپنے گھر پر ہی کیا کرتے تھے (یعنی فیصلے میں تاخیر کو روانہ رکھتے تھے)۔

ایک مرتبہ ان کے دو لڑکوں نے ایک مقدمہ کے سلسلے میں کچھ پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں تم کو تمہارے فریق پر بھڑکاؤں (یہ ہے غیر جانبداری اور انصاف پسندی کہ اپنے لڑکوں کا بھی خیال نہ کیا)۔

بیٹے کے خلاف فیصلہ:

قاضی شرح رحمہ اللہ نے عدل گستری کے وہ اعلیٰ نمونے دنیا والوں کے لیے چھوڑے ہیں جو اپنی نظیر آپ ہیں۔ عامر کا بیان ہے کہ ان کے ایک لڑکے اور بعض دوسرے اشخاص کے درمیان کسی حق کے بارے میں تنازعہ تھا۔ لڑکے نے تمام حالات و واقعات بتا کر پوچھا کہ اگر میرا حق نکلتا ہو اور مقدمے میں کامیابی کی امید ہو تو میں دعویٰ کر دوں ورنہ خاموش رہوں۔ شرح رحمہ اللہ نے مقدمے کی نوعیت پر غور کر کے دعویٰ کر دیے کا مشورہ دیا۔ لیکن جب مقدمہ ان کے سامنے پیش ہوا تو لڑکے کے خلاف فیصلہ کر دیا۔ جب فیصلہ دے کر وہ گھر آئے تو لڑکے نے کہا ابا جان آپ نے یہ کیا کیا؟ اگر میں نے آپ سے پہلے مشورہ نہ کر لیا ہوتا اور آپ میرے خلاف فیصلہ کر دیتے تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی۔ لیکن مشورہ دینے کے بعد آپ نے مجھے ذلیل کیا۔ شرح رحمہ اللہ نے کہا: جان پدر! تو مجھے ان جیسے روئے زمین کے تمام انسانوں سے زیادہ عزیز ہے لیکن خدا مجھے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ جب تو نے مجھ سے مشورہ کیا تو مجھے حقیقت کا علم نہ تھا۔ مگر مقدمہ دیکھنے کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ حق ان لوگوں کا ہے۔ اگر میں تجھ سے اس وقت ظاہر کر دیتا تو ان سے صلح کر لیتا اور ان لوگوں کا حق ضائع ہو جاتا۔ (اللہ اکبر! یہ ہے تقویٰ اور اسلامی سیرت و کردار۔ باپ ہو تو ایسا حق پرست اور بیٹا ہو تو ایسا فرمان بردار کہ باپ کی بات سن کر سر تسلیم خم کر دیا)۔

جابر بن عامر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ایک لڑکے نے ایک ملزم کی ضمانت دی۔ وہ ملزم بھاگ گیا۔ شرح رحمہ اللہ نے اس

کے بدلے میں اپنے لڑکے کو قید کر دیا۔ قید خانے میں اس کو کھانا بھیجا کرتے تھے۔
 واصل مولیٰ ابن عیینہ کہتے ہیں کہ شریح رضی اللہ عنہ کی مہر پر نقش تھا ”مہر ظن سے بہتر ہے“۔

غیر جانبدارانہ فیصلہ کی ایک مثال:

ابراہیم کا بیان ہے کہ شریح رضی اللہ عنہ جب گھر سے عدالت کو جانے لگتے تو یہ کلمات کہتے ”عنقریب ظالم اس جھے کو جان لے گا جو اس نے کم کیا ہے اور ظالم کو سزا کا اور مظلوم کو مدد کا انتظار کرنا چاہیے“۔ بھوک اور غصے کی حالت میں مقدمہ کی سماعت نہ کرتے بلکہ عدالت سے اٹھ جاتے تھے۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ایک ہم خاندان نے ایک شخص پر کوئی ظلم کیا، شریح رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک ستون سے بندھوا دیا۔ جب وہ فیصلہ کر کے اٹھے تو اس شخص نے کچھ کہنا چاہے آپ نے فرمایا کہ کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے کہ میں نے تم کو قید نہیں کیا ہے بلکہ حق نے تم کو قید کیا ہے۔

ابو جھین کہتے ہیں کہ شریح رضی اللہ عنہ کی عدالت میں دو شخصوں کا مقدمہ آیا۔ آپ نے ان میں سے ایک کے خلاف مقدمہ فیصلہ کر دیا۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا ہے (یہ درپردہ رشوت کا الزام تھا) قاضی شریح رضی اللہ عنہ نے اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ رشوت دینے اور لینے والے اور جھوٹے پر اللہ لعنت کرتا ہے (آپ ہمیشہ رشوت سے محفوظ رہے) محمد کا بیان ہے کہ ایک مقدمے میں ایک مدعی نے اپنے فریق سے قسم لی اور قسم لینے کے بعد اس کے خلاف ثبوت پیش کیا۔ آپ نے کہا عادل ثبوت جھوٹی قسم سے زیادہ بہتر ہے۔

آپ گواہوں کی گواہی دینے سے قبل ہر طرح اس کی ذمہ داری کو سمجھا دیتے تھے اور اس کو حق و انصاف کی گواہی پر ابھارتے تھے۔ وہ خود اپنے فیصلے کے خلاف اپیل سننے کے لیے تیار رہتے تھے چنانچہ کہا کرتے تھے ”جو شخص میرے فیصلے کے خلاف دعویٰ کرے تو میرا فیصلہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک مدعی اپنے دعوے کو ثابت کر دے۔ حق بہر حال میرے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ حق ہے۔“

قریبی عزیز کی گواہی ناقابل اعتبار:

ابن ابی شیبہ کا بیان ہے کہ قاضی شریح نے عزیز کے مقابلے میں عزیز کی شہادت کو ناقابل اعتبار قرار دیا تھا۔ یہ قانون بنا دیا تھا کہ لڑکے کی شہادت باپ کے متعلق باپ کی شہادت لڑکے کے متعلق بیوی کی شہادت شوہر کے متعلق شوہر کی شہادت بیوی کے متعلق، آقا کی شہادت غلام کے متعلق اور غلام کی شہادت آقا کے متعلق اور اجیر کی شہادت اس شخص کے متعلق جس نے اس اجرت پر کسی کام کے لیے رکھا ہو قبول نہیں کی جاسکتی مخالف کی شریک کی اور متردّد شخص کی گواہی بھی جائز نہیں (الغرض شہادت کے قانون کو انہوں نے اتنا بے لاگ اور حق نواز بنا دیا تھا کہ امکانی حد تک جھوٹی گواہی کا پورا پورا انسداد کر دیا)۔

ایک مرتبہ ان کی عدالت میں ایک گواہ کو جس کا نام ربیعہ تھا پکارا گیا اس نے کوئی جواب نہ دیا، پکارنے والے نے دوبارہ جھلا کر اس کو کافر کہہ کر پکارا۔ اس خطاب پر وہ بول اٹھا شریح رضی اللہ عنہ نے اسے کہا تم نے خود کفر کا اقرار کر لیا ہے اس لیے تمہاری شہادت

قابل قبول نہیں۔

شرعی فیصلہ کے مقابلہ میں خاندانی رواج کی حیثیت:

مجھ سے اگر کوئی اہل علم یہ پوچھے کہ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت و عظمت اور کمال کیا تھا تو میں عرض کروں کہ قاضی صاحب نے مسلمانوں کو یہ سبق دیا اور خود بھی عمل کر کے بتلایا اور دکھایا ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت و فرمانبرداری کا نام ہے مسلمانوں کو اپنی خواہشات و جذبات خاندانی رسم و رواج اور انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین کے مقابلے میں صرف اللہ کے بھیجے ہوئے قانون شریعت کی پیروی کرنی چاہیے اور صرف اسلامی قانون کے ذریعہ ہی دنیا میں حقیقی امن و عدل قائم ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کر وہ قیامت تک بھی اپنے باطل نظریوں، باطل نظاموں اور باطل قوانین کے ذریعہ امن و عدل قائم نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قاضی صاحب کی فضیلت و عظمت۔ مترجم

یہی وجہ ہے کہ آپ مقدمات میں خاندانی رواج کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ محمد کہتے ہیں کہ چند غزالوں نے ایک مقدمہ دائر کیا۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ اس معاملے میں ہمارا خاندانی رواج یہ رہا ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے خاندانی رواج تمہارے گھر تک ہیں۔

قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ ثبوت کے ساتھ قسم لیتے تھے۔ ایک مقدمے میں ایک مدعی نے اپنے فریق سے قسم لی، قسم لینے کے بعد اس کے خلاف ثبوت پیش کیا۔ شریح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ عادل ثبوت جھوٹی قسم سے زیادہ بہتر ہے۔ عجیب مقدمہ کا دلچسپ فیصلہ:

یہ تو آپ معلوم کر ہی چکے ہیں کہ قاضی شریح کو شاعری میں بھی کمال حاصل تھا۔ ایک ایسا انوکھا مقدمہ جس میں مدعی نے نظم میں بات کی اور اس کو قاضی کی طرف سے نظم میں ہی جواب ملا۔ ملاحظہ فرمائیے۔

ایک عورت کا ایک لڑکا تھا۔ اس نے شوہر کی وفات کے بعد دوسری شادی کر لی۔ اس عورت کا دعویٰ یہ تھا کہ لڑکے کی ولایت و سرپرستی میرے ذمہ ہے اس کی ساس نے قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ کی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر دیا کہ لڑکے کی ولی میں ہوں کیونکہ میں اس کے باپ کی ماں ہوں۔ ساس نے اپنا یہ مقدمہ نظم میں پیش کیا۔

(۱) اَبَا اُمِّيَّةَ اَتَيْنَاكَ وَ اَنْتَ الْمَرْءُ نَاتِيَةٌ

(۲) اَتَاكَ اِبْنِي وَاُمَاهُ وَ كَلْتَانَا نَفْدِيَّتَهُ

نَزَوَجْتِ فَهَاتِيَةٌ وَلَا يَذْهَبُ بِكَ التَّبِيَةُ

(۳) قَلَوْ كُنْتَ تَأَيَّمْتِ لَمَا نَارَ عَيْنِي فِيهِ

(۴) اَلَا يَا اَيْهَا الْقَاصِي هَدِي قِصَّتِي قِنَهُ

” (۲۰۱) اے ابوامیہ ہم آپ کے پاس انصاف حاصل کرنے آئے ہیں، میرا پوتا اور اس کی ماں تیرے پاس آئے ہیں۔

ہم دونوں اس پر فدا ہیں (۳) (بہو سے خطاب کر کے) جب تم نے دوسری شادی کر لی تو لڑکا مجھے دے دو، بردستی نہ

کرو۔ بیوہ ہو جانے کے بعد تم اس کے بارے میں مجھ سے کیوں جھگڑا کرتی ہو۔ (۴) قاضی سے خطاب کرتے ہوئے۔ قاضی صاحب ہم دونوں کا لڑکے کے بارے میں یہ قصہ اور مقدمہ ہے۔“

عرب کی زبان وانی اور شاعری کی داد دیجئے کہ بہونے بھی ساس کے دعویٰ کا جواب نظم میں ہی دیا۔

أَلَا يَا أَيُّهَا الْقَاضِيُ
وَقَوْلًا فَاسْتَمِعْ مِنِّي
أَعَزَّى النَّفْسَ عَنْ أَبِي
فَلَمَّا كَانَ فِي حُجْرِي
تَزَوَّجْتُ رَحَاءَ الْخِيَةِ
وَمَنْ يُظْهِرْ لِي وَدَّةً
فَدَقَّالَتْ لَكَ الْحَدَّةُ
وَلَا تَبْطِرْ لِي رَدَّةً
وَكَبِدِي حَمَلْتُ كِيدَهُ
بَيْنَمَا ضَانِعًا وَحَدَّهُ
مَنْ يَكْفِينِي فَقَدَهُ
وَمَنْ يَكْفُلْ لِي رِفْدَهُ

”قاضی صاحب! آپ نے دادی کا بیان سن لیا۔ جو کچھ اس نے کہا اب میری بات بھی سن لیجئے اور اس کو رد نہ کیجئے۔ میں اپنے دل کو اپنے لڑکے سے تقویت اور تسلی دیتی ہوں۔ میں نے ہمیشہ اس کو کبچہ سے لگا کر رکھا ہے۔ مجھ بیوہ کی گود میں تنہائی کی وجہ سے اس یتیم کے ضائع ہو جانے کا خطرہ تھا سو میں نے اس کی بھلائی اور نگہداشت کی خاطر ایسے شخص سے شادی کر لی جو اس کو ضائع نہ ہونے دے اور اس کی کفالت کر سکے۔“

چونکہ ساس بہو دونوں نے نظم میں اپنا مقدمہ پیش کیا تھا۔ اس لیے قاضی صاحب نے بھی نظم میں ہی اس کا فیصلہ سنایا۔

فَدَقَّهِمُ الْقَامَا فَدَقْتُمَا
بِقَضَاءِ بَيْنِ بَيْنِكُمَا
قَالَ لِلْحَدَّةِ بِنْتِي يَا الصَّبِيَّ
وَحَذِي ابْنِكَ مِنْ ذَابِ الْعِلَلِ
وَقَضَى بَيْنَكُمَا ثُمَّ فَصَلَ
وَعَلَى الْقَاضِي جَهْدًا إِنْ عَقَلَ

”تم دونوں نے جو کہا قاضی نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا اور تم دونوں کے درمیان ایک فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ بھی ظاہر اگر قاضی سمجھ دار ہے تو اس پر کوشش کر کے حقیقت کا پتہ چلانا فرض ہے (سو میں نے حقیقت پالی ہے) پھر دادی سے کہا لڑکے اس حیلہ ساز سے لے کر الگ ہو جاؤ اگر وہ صبر کرتی اور نکاح نہ کرتی تو بچہ اس کے پاس رہتا۔“

(دیکھا آپ نے ایک قاضی میں جن اوصاف اور صلاحیتوں کی ضرورت ہے اسے جس ذہانت و فطانت کا مالک ہونا چاہیے اور جو فضل و کمال اس میں پایا جانا چاہیے وہ تمام اوصاف و خصوصیات کس طرح حضرت قاضی شریح و التبیان کی ذات میں قدرت نے جمع کر دیے تھے۔ مترجم)

شمسی و التبیان، شریح و التبیان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا: ”یہ دو باتیں مجھ میں جمع نہیں ہو سکتیں کہ میں قاضی بھی ہوں اور گواہ بھی۔“ ابراہیم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے اردلی نے ایک شخص کو کوڑوں سے مارا انہوں نے اس مضروب سے اسے کوڑے لگوائے۔

ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ حضرت علیؑ نے قاضی شریحؒ کو پانچ سو روپیہ انعام دیا۔ عمیر بن سعید کہتے ہیں کہ حضرت علیؑ نے شریحؒ کو حکم دیا کہ وہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھایا کریں۔ جابر بن زید کا بیان ہے کہ شریحؒ ہمارے یہاں بصرہ میں قریب قریب ایک سال تک قاضی رہے اس قلیل مدت میں انہوں نے ایسی بے مثل قضاآت کی کہ اس کے قبل اور مابعد کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔

مکحولؒ خود بھی بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے ان کا بیان ہے کہ میں چھ مہینے تک شریحؒ کی عدالت میں معلومات حاصل کرنے کے لیے جاتا رہا۔ میں ان سے کچھ پوچھتا تھا۔ ان کے فیصلے میری معلومات کے لیے کافی ہوتے تھے۔

قاسم کہتے ہیں کہ قاضی شریحؒ کی مہر پر دو شیر نقش تھے۔ ان کے درمیان ایک درخت تھا اسماعیل کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ قاضی شریحؒ اپنی عدالت میں فیصلے کرتے تھے اور وہ ریشی یا سیاہ رنگ کے بالوں کی چادر اوڑھے ہوتے تھے۔ یہ بھی روایت ہے کہ آپ پگڑی باندھتے تھے۔ عمامہ کا شملہ پیچھے چھوڑ دیتے تھے۔ نماز کی حالت میں آپ اپنی چادر سے ہاتھ باہر نہ نکالتے تھے۔ اپنی چادر پر سجدہ کر لیتے۔

فتن کے زمانے میں آپ کا معمول:

جابر بن عامر کہتے ہیں کہ شریحؒ اہل مقدمہ کے دالوں کے سخت مخالف تھے انہیں اپنی عدالت سے نکلوا دیتے اور لوگوں کو ان سے بچنے کی ہدایت کرتے تھے۔ وہ فتنہ و فساد کو سخت ناپسند کرتے تھے ان کی زندگی میں بڑے بڑے سیاسی انقلابات آئے۔ ہنگامے ہوئے۔ لیکن شریحؒ نے ان سب سے اپنا دامن بچائے رکھا۔ فتنوں سے بچنے میں وہ بڑے محتاط تھے۔ نہ کسی سے حالات پوچھتے تھے اور نہ خود کوئی رائے ظاہر کرتے تھے۔ بس اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ میمون کہتے ہیں کہ عبدالملک اور ابن زبیرؒ کا ہنگامہ برسوں جاری رہا اور اسی فتنے کے زمانے میں شریحؒ نو سال تک کوفے کے قاضی رہے اس دوران میں نہ آپ نے کسی سے کوئی خبر دریافت کی اور نہ خود کچھ کہا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ فتنوں سے بچے رہے۔ فرمایا: یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و عنایت سے ہوا۔

عبادت و ریاضت:

قضاء کی اہم ذمہ داریوں اور مشغولیتوں کے باوجود وہ عبادت و ریاضت میں کافی وقت صرف کرتے۔ ان کے غلام ابو طلحہ کا بیان ہے کہ جب وہ صبح کی نماز پڑھ کر گھر واپس آتے تھے تو گھر کے دروازے بند کر کے قریب قریب آدھے دن تک عبادت و نوافل میں مشغول رہتے۔ جب احرام باندھ لیتے تو بالکل خاموش اور حد سے زیادہ محتاط رہتے۔ خیمہ کہتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جاتا آپ نے کیسے صبح کی؟ آپ فرماتے اللہ کی نعمت کے ساتھ۔

حسن اخلاق کے پیکر:

قاسم اور ابواسحاق کا بیان ہے کہ آپ نہایت ہی خوش اخلاق اور منکسر مزاج تھے۔ سلام کرنے میں ہمیشہ خود سبقت کرتے۔ دوسرے کو پہلے سلام کرنے کا موقع ہی نہ دیتے۔ کوئی شخص سلام میں شریحؒ پر سبقت نہیں کر سکتا تھا۔ عیسیٰ بن حارث کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سبقت کرنے کی کوشش کرتا، مگر کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ جب کوئی آ کر آپ کو السلام علیکم کہتا تو آپ اس کے جواب میں

السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے اور اگر کوئی رحمۃ اللہ بھی کہتا تو آپ اس کے جواب میں و برکات بڑھا دیتے۔ عیسیٰ بن حارث کہتے ہیں کہ اکثر راستے میں آنا سا منا ہو جاتا۔ میں اس انتظار میں رہتا کہ اب سلام کروں۔ اب سلام کروں کہ اتنے میں وہ قریب پہنچ کر پہلے ہی السلام علیکم کہہ دیتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی دو شخص آپس میں ملتے ہیں تو بخدا ان میں بہتر وہ شخص ہوتا ہے جو سلام میں پہل کرے۔ تمیم بن سلمہ کہتے ہیں کہ راستے میں آپ کی نظر ایک درہم پر پڑی آپ نے اس کو نہیں اٹھایا۔ یونہی پڑا رہنے دیا۔

سفیان بن ابراہیم کا بیان ہے کہ شریحؓ نے اسودؓ کو ایک اونٹنی تحفہ بھیجی انہوں نے اس کے متعلق علقمہؓ سے پوچھا انہوں نے کہا یہ تمہارے بھائی نے بھیجی ہے اسے قبول کر لو۔

محمد بن سیرینؓ کہتے ہیں کہ آپ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھتے تھے۔ شعبہؓ کہتے ہیں میں نے شریحؓ کو سیاہ چونے میں نماز پڑھتے ہوئے اور جنازے کے آگے چلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک شخص کو ابن زیاد سے کچھ ضرورت تھی اس نے اس بارے میں شریح سے گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کون شخص ہے جو ابن زیاد پر قدرت رکھتا ہو۔ ایک پرندہ بھی مجھ سے زیادہ ابن زیاد پر قدرت و اثر رکھتا ہے (مطلب یہ کہ میں اس سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا)۔

آپ کے پیدائشی طور پر داڑھی مونچھ نہ تھی۔ تنخواہ صرف پانچ سو درہم ماہوار پاتے تھے مجاہد کہتے ہیں آپ ہدیہ قبول کر لیتے تھے۔ مگر اسے اسی جیسا کوئی تحفہ لوٹا دیتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔ بخیل و کنجوس بدی میں حد سے بڑھنے والا ہے اس سے بچو۔ عامر کہتے ہیں کہ شریحؓ اپنے گھر والوں کو رات کے وقت دفن کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اپنے بیٹے عبداللہ کو رات کو دفن کیا وہ اسی کو بہتر سمجھتے تھے۔

وفات:

آپ نے ایک سو سال سے زیادہ عمر پائی۔ ضعف پیری کی وجہ سے استعفاء دے دیا تھا۔ دم آخرو صیت کی کہ مجھے رات کو دفن کیا جائے، بقلی قبر کھودی جائے۔ کسی کو جنازے کی اطلاع نہ دی جائے۔ جنازے کے ساتھ نوحہ نہ کیا جائے جنازے کو آہستہ آہستہ لے جایا جائے۔ اور قبر پر چادر نہ ڈالی جائے۔

سنہ وفات میں اختلاف ہے۔ ۳۷ھ سے ۳۹ھ تک کسی سنہ میں انتقال فرمایا۔

صہبی بن معبدؓ:

صہبی بن معبد چینی ہیں یہ حضرت عمرؓ سے روایت کرتے ہیں۔

قبیصہ بن جابرؓ:

قبیصہ بن جابر کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن وہب بن مالک بن عمیرہ بن حذار بن مرہ بن الحارث بن سعد ابن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ یہ حضرت عمرؓ اور حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جمہم سے پہلے وفات پائی۔ ثقہ ہیں ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

اور یسار بن نمیر رضی اللہ عنہما:

یسار بن نمیر رضی اللہ عنہما یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے خزانچی تھے۔ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے کوفین روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں۔ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

عفیف بن معدی کرب، حصین بن حدیر اور قیس بن مروان رضی اللہ عنہم:

عفیف بن معدی کرب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے میں آئے ہمارے سامنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے ان کے ہاتھ میں درہ تھا اس کے بعد طویل قصہ ہے۔ حصین بن حدیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

قیس بن مروان رضی اللہ عنہما جعفی ہیں جن سے شیمہ بن عبد الرحمن روایت کرتے ہیں اور قیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ اور کہا: اے امیر المؤمنین! میں نے ایک ایسے شخص کو چھوڑ دیا جو مجھے قرآن سے غافل کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ قیس ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جزیرے میں خروج کیا تھا۔ وہ بڑا شریف اور کریم تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا حامی تھا۔

یسیر بن عمرو رضی اللہ عنہما:

سکونی بنی ہند میں سے۔ حضرت عمر اور سعد رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ یسیر بن عمرو حجاج کے زمانے میں عریف تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت میں دس سال کا تھا۔ انہوں نے حجاج کی ولایت میں جمام سے قبل وفات پائی ثقہ ہیں اور کئی احادیث کے راوی ہیں۔

عبایہ بن رواد رضی اللہ عنہما:

عبایہ بن رواد رضی اللہ عنہما ان سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور کوئی آیت اس کے ساتھ“ ایک شخص نے اس سے کہا: اگر تو امام کے پیچھے ہو (تو پھر کیا کرے؟) کہا تو ایسی صورت میں تو اپنے نفس میں پڑھ لے۔

خرشہ بن الحر رضی اللہ عنہما:

خرشہ بن الحر۔ ابن قیس بن حصین بن حذیفہ بن بدر الفزازی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں نیز حضرت حذیفہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہما سے بھی۔

حظلمہ الشیبانی رضی اللہ عنہما:

ابو علی بن حظلمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

بشر بن قیس رضی اللہ عنہما:

بشر بن قیس رضی اللہ عنہما۔ رمضان سے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حصین بن سمرہ رضی اللہ عنہما:

حصین بن سمرہ رضی اللہ عنہما۔ یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورہ یوسف پڑھی۔

سیار بن معروف رضی اللہ عنہما:

سیار بن معروف کو ابن معروف بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”یہ مسجد وہ ہے جس کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی۔

حسان بن الحارث رضی اللہ عنہما:

حسان بن الحارث رضی اللہ عنہما حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابوقرة الکندی رضی اللہ عنہما:

ابوقرة الکندی رضی اللہ عنہما کوفی کے قاضی تھے۔ ان کا نام فلان بن سلمہ ہے۔ یہ حضرت عمر حضرت سلمان اور حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ مشہور و معروف تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عمرو بن ابی قرہ رضی اللہ عنہما:

عمرو بن ابی قرہ کنڈی ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا مکتوب آیا کہ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ لوگ بیت المال سے مال تولے لیتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ پھر اس کے خلاف کرتے ہیں۔ جہاد نہیں کرتے۔

معقل بن ابی بکر رضی اللہ عنہما:

معقل بن ابی بکر ہلالی رضی اللہ عنہما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

کثیر بن شہاب رضی اللہ عنہما:

کثیر بن شہاب ابن الحصین ذی القصبہ اس نام سے ان کو اس لیے موسوم کیا گیا کہ ان میں غصہ تھا۔ ان کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن زید ابن شداد بن قنان بن سلمہ بن وہب بن عبداللہ بن ربیعہ بن الحارث ابن کعب مذحج سے۔ ان کے باپ شہاب بن الحصین تھے۔ انہوں نے اپنے باپ حصین کے قاتل کو ایک جنگ میں قتل کیا تھا۔ کثیر بن شہاب کوفی میں مذحج کے سردار تھے۔ بڑے بخیل تھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے رے کا حاکم بنا دیا تھا۔ ان کے بیٹے محمد بن زہرہ ہیں جو ماسہدان میں آباد ہو گئے تھے۔ اور اسی کے والی بھی ہوئے۔

مسعود ابن حراش اور ان کے بھائی ربیع ابن حراش رضی اللہ عنہما:

مسعود بن حراش بھائی ہیں ربیع بن حراش کے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کم روایت کرتے تھے۔ ربیع بن حراش رضی اللہ عنہما۔ یہ بھائی ہے مسعود بن حراش رضی اللہ عنہما کا۔ یہ وہ ہے جس نے موت کے بعد کلام کیا۔ اور ربیع بن حراش رضی اللہ عنہما سے پہلے مر گیا۔

عبدالملک بن عمیر کہتے ہیں کہ ربیع بن حراش سے کہا گیا تیرا بھائی مر گیا ہے۔ یہ فوراً پہنچا۔ اپنے بھائی کے سر ہانے بیٹھ گیا اس کے لیے دعا کی۔ مغفرت مانگی پھر اس کا چہرہ کھولا اور کہا: السلام علیکم میں بھی تیرے بعد اپنے رب سے ملنے والا ہوں۔ تو شاداں و فرحاں اپنے رب سے ملے گا۔ جو تجھ پر غضبناک نہ ہوگا۔ میں بھی اپنے رب سے شاداں و فرحاں ملوں گا۔ میرا رب مجھ پر غضبناک نہ ہوگا۔ اور مجھے ریشمی لباس پہنائے گا۔ میں نے موت کو بہت آسان پایا ہے۔ بخلاف تم لوگوں کے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنے رب سے سرخرو ہو کر ملوں گا۔

عبدالملک بن عمیر ربیع بن حراش سے روایت کرتے ہیں کہ ان کا بھائی ربیع شدید مرض میں مبتلا ہوا اس سے وہ بہت بے چین ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں کسی ضرورت کے لیے اس کے پاس سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آیا تو پوچھا کیا حال ہے میرے بھائی کا؟ لوگوں نے بتلایا کہ تیرا بھائی تو مر گیا۔ میں نے کہا: اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا الْيَوْمَ رَاجِعُونَ (بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں)۔

حارث بن لقیط رضی اللہ عنہ:

حارث بن لقیط نخعی ہیں اور وہ ابوحنس ہیں جس سے ابو نعیم روایت کرتے ہیں۔ حارث بن لقیط جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حنس بن الحارث کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کو اور بعض ان لوگوں کو جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے دیکھا ہے وہ اپنی داڑھیاں رنگتے تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ وہ طیاسی لباس پہنتے تھے نیز یہ کہ میں نے اپنے باپ کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی دیکھی ہے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

سلیک بن مسحل رضی اللہ عنہ:

سلیک بن مسحل عیسیٰ ہیں۔ نبیز کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں۔ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

زیاد بن عیاض رضی اللہ عنہ:

زیاد بن عیاض اشعری ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ عامر زیاد بن عیاض سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں مقام جابیہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ میں آپ کی قرأت نہ سن سکا۔ اس سے آگے طویل حدیث ہے۔

انگی روایت ہے کہ زیاد بن عیاض نے کہا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی اس میں ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا۔ میں نے کہا اے امیر المؤمنین! آپ نے قرأت نہیں کی۔

عیاض الاشعری رضی اللہ عنہ:

عیاض الاشعری، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ تیبیوں، یواؤں اور غلاموں کو کھانا ہم پہنچایا کرتے تھے۔ یہ

بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

شمیل بن عوف رضی اللہ عنہ:

شمیل بن عوف بچیلہ کے اجسی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں صدقہ کا حکم دیا۔ ہم نے عرض کیا کہ ہم اپنے گھوڑوں اور غلاموں پر دس دس خرچ کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو کیا میں تمہاری اس انفرادی خیرات کو اجتماعی رنگ نہ دوں۔ پھر حکم دیا کہ ہمارے غلاموں کے لیے دو دو جریں ہیں۔

ابن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے شمیل بن عوف کو یہ کہتے سنا ہے ”میں نے حصول دنیا کے لیے اپنی جوتی کبھی نہیں گھسائی۔ میں کبھی ایسی مجلس میں نہیں بیٹھا جس کی مجھے کوئی حاجت نہ ہو۔ میں جنازے کے انتظار میں رہا اور میں نے کبھی کسی شخص کو برا نہیں کہا۔“

محمد سعد کہتے ہیں حدیث میں شبل آیا ہے اور شمیل شبل کی تفسیر ہے۔ ثقہ ہیں۔ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

سعید بن ذی العوۃ رضی اللہ عنہ:

سعید بن ذی العوۃ۔ اصغر۔ وہ ابوکرب بن زید بن سعید بن الخضیب بن ذی العوۃ الاکبر ہیں۔ اور وہ عامر بن مالک بن معاویہ بن دودان بن بکیل بن جشم ابن خیران بن ترف بن ہمدان ہیں۔ سعید بن ذی العوۃ۔ اور ان کے بھائی داؤد بن سعید دونوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عامر کہتے ہیں میں سعید بن ذی العوۃ کے متعلق گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے لیے جمع شدہ پانی میں طائف کی خشک کھجوریں بھگو دیتے تھے پھر اس سے دو مشکیں بھر لیتے، جب صبح ہوتی تو اسے پیتے۔ حدیث میں طویل قصہ ہے۔

ریاح بن الحارث رضی اللہ عنہ:

ریاح بن الحارث نخعی ہیں۔ حضرت عمر حضرت عمار بن یاسر حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ نخعی کا بیان ہے کہ ریاچ بن الحارث کو میں نے یہ کہتے سنا کہ ”حضرت عمر رضی اللہ عنہ فیصلہ کیا کرتے تھے ان لوگوں کے درمیان جو اسلام اور بعثت نبوی سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو گالی دیا کرتے تھے۔ نیز یہ کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے اہل بیت سے کسی کو کسی عرب کے قبیلے میں غلام دیکھے تو اسے ایک غلام کے بدلے میں دو غلام اور ایک لونڈی کے بدلے میں دو لونڈیاں فدیہ دے کر چھڑالے۔“

عبداللہ بن شہاب رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن شہاب خولانی ہیں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ خیمہ بن عبدالرحمن عبداللہ بن شہاب خولانی سے روایت کرتے ہیں کہ اس نے کہا: ”میں اس بات پر گواہ ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص اور اس کی بیوی آئے اس کی بیوی خلع (شوہر سے علیحدگی) چاہتی تھی آپ نے اسے اس کی اجازت دی اور کہا کہ میں تجھے تیرے مالک سے آزاد کرتا ہوں۔“

حسان بن فائد رضی اللہ عنہ:

حسان بن فائد عسسی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”مردوں میں بزدلی اور بہادری دو فطری جذبے ہیں“ یہ بہت کم روایت کرتے تھے۔ ان سے ابواسحاق سہمی روایت کرتے ہیں۔

بکیر بن فائد، حمیل ابو جروہ اور نباتہ رضی اللہ عنہم:

یہ حسان بن فائد کے بھائی ہیں۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے صلام بن صالح نباتہ رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حمیل ابو جروہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو جریہ الجبلی، سلامۃ اور ہانی بن حزام رضی اللہ عنہم:

ابو جریہ الجبلی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک اعرابی ملا اس کے ساتھ ایک ہرن تھا میں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کو ذبح کر لیا۔ میں نے اس کا ذکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ آپ نے فرمایا دو گواہ لاؤ تا کہ میں تمہارا فیصلہ کروں۔ میں حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن مالک رضی اللہ عنہم کو لے آیا۔ فیصلہ ہوا کہ میں ایک بکرا دوں۔

سلامۃ نے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے ایک صاحب حوض کو مارا اور کہا: کہ ایک حوض مردوں کے لیے بنا اور ایک عورتوں کے لیے۔

ہانی بن حزام حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے اپنی عورت کے ساتھ ایک غیر مرد کو پایا۔ میں نے ان دونوں کو قتل کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عامل کو صاف طور پر لکھا کہ اس سے قصاص لیا جائے۔ اور وہ پردہ لکھا کہ وہ دیت لے لے۔

عبداللہ بن مالک رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن مالک ازدی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مغرب کی تین رکعتیں اور عشاء کی دو رکعتیں پڑھیں۔

مسلم بن قحیف رضی اللہ عنہ:

مسلم بن قحیف بکر بن وائل سے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا انہوں نے چند لوگوں کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ فرمایا جب تم چاشت کی نماز پڑھا کرو تو ذرا زیادہ دین چڑھے پڑھا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے بندو! چاشت کی نماز پڑھا کرو۔

بشر بن قحیف رضی اللہ عنہ:

بشر بن قحیف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا۔ آپ کھانا کھا رہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں بڑی تھی۔ میں نے عرض کیا: اے امیر المؤمنین! میں آپ سے بیعت کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے میرے کسی

امیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں کی ہے۔ فرمایا: جب تو نے میرے امیر کے ہاتھ پر بیعت کی تو گویا میرے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان کی دوسری روایت ہے کہ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور کہا میں اپنی خوشی یا ناگواری دونوں حالتوں میں آپ کی اطاعت کی بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: بلکہ یوں کہو کہ میں اپنی استطاعت کے مطابق آپ کی اطاعت کروں گا۔

نہیک بن عبد اللہ مدرک بن عوف اور اسیم بن حصین رضی اللہ عنہما:

نہیک بن عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرفات سے واپس ہوئے وہ بھی تھے اور اسود بن یزید رضی اللہ عنہ بھی۔ آپ نے ایک پھیرے سے زیادہ نہیں کیا یہاں تک کہ منیٰ میں آگئے۔ مدرک بن عوف بجیلہ احمسی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”عقلند وہ ہیں جو رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لیتے ہیں (کہ شاید رات کے آخری حصے میں آنکھ نہ کھلے) اور عبادت میں مضبوط وہ لوگ ہیں جو تر رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں اور یہی افضل ہے“۔ اسیم بن حصین عسسی ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج کیا۔

ابو اسلمیح رضی اللہ عنہ:

ابو اسلمیح حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”اس شخص کا اسلام نہیں جو نماز نہیں پڑھتا“ پوچھا گیا کہ کیا یہ آپ نے منبر پر کہا: کہا ہاں منبر پر کہا۔

دجیہ بن عمرو رضی اللہ عنہ:

دجیہ بن عمرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں نے کہا: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ آپ نے جواب دیا: وَعَلَيْكَ اَلسَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَاتِهِ يَا اَبِيْهِ فَرَمَا يَا: وَمَغْفِرَاتِهِ

ہلال بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ہلال بن عبد اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صفاء مروہ کے درمیان طواف کرتے دیکھا ہے۔ جب آپ بطن میل پر آئے تو جلدی کی۔

حملہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

حملہ بن عبد الرحمن بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

اسق رضی اللہ عنہ:

یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کے غلام ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا مملوک تھا اور نصرانی تھا آپ مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے اور کہتے کہ اگر تو اسلام قبول کر لے تو میں اپنی امانت میں تیری مدد کروں میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں

مسلمانوں کی امانت میں اس کی مدد کروں جو ان کے دین پر نہیں۔ میں انکار کر دیتا۔ آپ فرماتے۔ اچھا تیری مرضی ”دین میں کوئی جبر و سختی نہیں“ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور میں نصرانی ہی رہا۔ فرمایا: جہاں تیری خوشی ہو جا۔ میری طرف سے تو آزاد ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے شریک سے پوچھا کہ ہلال نے اسق سے سنا ہے؟ کہا ہاں۔ دعویٰ تو وہ یہی کرتا ہے۔

ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ:

ابن انس بن دیمان اور وہ یزید بن قطن بن زیاد بن الحارث بن مالک بن ربیعہ بن کعب بن الحارث بن کعب قبیلہ مذحج سے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کوئی ایسا شخص بتلاؤ کہ جو امیر قوم ہو مگر وہ اس طرح رہتا ہو کہ گویا وہ امیر نہیں اور جب وہ ان میں ہو اور وہ امیر نہ ہو تو ایسا معلوم ہو کہ گویا وہ امیر ہے۔ لوگوں نے کہا ایسا شخص تو ہمارے علم میں ربیع بن زیاد بن انس رضی اللہ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں وہ بہت ہی متواضع اور بہت ہی نیک تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ خراسان کے گورنر ہو گئے تھے۔ ان کا ایک بھائی تھا جس کو مہاجر بن زیاد کہا جاتا تھا۔ وہ بھی صالح تھا۔ تستر کے معرکے میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی زیر کمان قتل کیا گیا۔ اس کی شان میں ایک شاعر کہتا ہے۔

وَيَوْمَ قَامَ أَبُو مُوسَى بِحُطَيْبِهِ رَاحَ الْمُهَاجِرُ فِي حَلِّ بَاجِمَالِي
فَالْبَيْتُ بَيْتُ بَنِي الدِّيَّانِ نَعْرِفُهُ فِي آلِ مَذْحِجٍ مِثْلُ الْجَوَاهِرِ الْعَالِي

”اور اس دن جب کہ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ مہاجر خوش بخت و کامران ہوا اجمال کے کھولنے سے یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہو کر آل مذحج میں اگر کسی جو ہر قابل اور نیک لوگوں کا گھر ہے تو وہ بنی دیمان کا گھر ہے یعنی ربیع بن زیاد اور مہاجر بن زیاد کا۔“

تستر کے معرکے میں مہاجر رضی اللہ عنہ نے یہ عزم کر لیا تھا کہ میں نے اپنا نفس اللہ کی راہ میں بیچ دیا ہے۔ اس روز سے وہ روزے سے تھے۔ اس کا بھائی ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس کے اس عزم اور روزہ دار ہونے کی خبر دی۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں حکم دیتا ہوں کہ جو روزہ دار ہو وہ روزہ افطار کر لے سو مہاجر رضی اللہ عنہ نے روزہ افطار کر لیا۔ پھر میدان جہاد کو روانہ ہو گیا اور شہید ہوا۔ ابن بریدہ کی روایت ہے۔ وہ ربیع بن زیاد رضی اللہ عنہ کا وصف یوں بیان کرتے ہیں۔ وہ بڑے ہلکے پھلکے یعنی دبلے پتلے آدمی تھے۔

سويد بن مشعبہ رضی اللہ عنہ:

سويد بن مشعبہ یرومی ہیں۔ بنی تمیم میں سے اور یہ کوفہ کے کاتبوں میں سے ایک کاتب تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایام میں انہوں نے بڑی عمر پائی مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی روایت نہیں کرتے، عابد اور مجتہد تھے۔ ابو جہان تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں سويد بن مشعبہ کے پاس گیا۔ وہ کپڑا اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی عورت کو کہتے سنا۔ میں آپ پر فدا ہوں یہ آپ کا کیا حال ہے کہ نہ آپ کھاتے پیتے ہیں نہ کوئی بچھونا پچھاتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ گردن جھکائے بیٹھے ہیں، جب مجھے دیکھا تو کہا: بھتیجے! میں اسی حالت میں ہوں۔ میری پیٹھ زمین سے نہیں لگی۔ میں اس بات کو

بھی پسند نہیں کرتا کہ اپنے ناخن کٹواؤں۔

معتمد بن یزید رضی اللہ عنہ:

معتمد بن یزید۔ عجمی کنیت ابو زیاد ہے۔ یہ بھی بڑے عابد و زاہد تھے۔ بڑی بڑی محنتیں و مشقتیں برداشت کرتے لذات دنیوی سے کنارہ کش رہتے تھے۔ یہ اور دوسرے اصحاب عبداللہ پہاڑوں اور صحراؤں میں نکل جاتے اور عبادتیں و ریاضتیں کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور ان کو اس طرح عبادت و ریاضت سے روکا۔ انہوں نے خلافت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ میں آذربائیجان میں جہاد کیا اور اسی میں شہید ہوئے۔

ابراہیم کہتے ہیں کہ معتمد کہا کرتے تھے۔ یعنی نماز میں یوں دعا مانگا کرتے تھے مجھے نیند سے شفا دے تاکہ میں تھوڑا سویا کروں اور جاگا زیادہ کروں۔ اس کے بعد انہوں نے سوتے ہوئے کوئی خواب نہیں دیکھا یہ سجدے میں ہی سو جاتے تھے پھر اٹھ بیٹھے تھوڑی دیر ٹہلتے اور کہتے اے اللہ! مجھے نیند سے نجات دے۔ یہ ثقہ راوی تھے۔ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

قیس بن یزید رضی اللہ عنہ:

قیس بن یزید ان کے بھائی ہیں۔ یہ اطراف شہر میں تجارتی کاروبار کرتے تھے۔ معتمد کہتے تھے قیس مجھ سے بہتر ہے۔ وہ تجارتی کاروبار بھی کرتا ہے اور مجھ پر بھی خرچ کرتا ہے۔

اولیس قرنی رضی اللہ عنہ

ابتدائی تعارف:

حضرت اولیس قرنی تابعین میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ہم ان کو سید التابعین اور خیر التابعین کہہ سکتے ہیں۔ عشق رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کا طرہ امتیاز ہے۔ اور ان کی پوری زندگی درد و سوز اور صدق و اخلاص کا دل آویز پیکر تھی۔ اللہ ان کی قبر کو پر نور کرے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔

حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ یعنی تھے اور قبیلہ مراد سے تعلق رکھتے تھے اور ان کو بارگاہ رسالت سے غائبانہ ”خیر التابعین“ کا لقب عطا ہوا تھا۔ یہ سند بہت بڑی اور لائق صد ستائش ہے۔ نسب نامہ یہ ہے: اولیس بن عامر بن خبر بن مالک ابن عمرو بن سعد بن عصفوان بن قرن بن دودان بن ناجیہ بن مراد بن مالک مذحجی۔

پہلی شناخت کا واقعہ:

اس اللہ کے بندے اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہستی کو اس طرح اللہ کی راہ میں فنا کر دیا تھا کہ اصطلاح صوفیہ کے مطابق وہ صحیح معنوں میں فنا فی اللہ کا نمونہ اور اشد حبا اللہ کی زندہ تصویر بن گئے تھے۔ اگرچہ اپنی ذات کی نفی اسلامی نظریہ حیات کے خلاف ہے، لیکن عشق و محبت اور جذب و شوق کے پیکروں کو عقل و منطق کی ترازو میں نہیں تو لا جا سکتا۔ اسلام کا نظریہ اپنی جگہ برحق اور عاشقان رسول کا معاملہ اپنی جگہ اہم۔ اب ارباب عقل و خرد اس کا توازن ڈھونڈتے پھریں، حضرت اولیس قرنی رضی اللہ عنہ نے تو فنا فی اللہ کا وہ نمونہ دکھایا ہے

جس کو دیکھ کر نفس و شیطان پر موت طاری ہو جاتی اور عقل انسانی جھوم جھوم جاتی ہے۔ ان کا نام آتے ہی میرے جذبات عقیدت بے قابو ہوئے جا رہے ہیں۔

اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ کوفے میں ایک محدث تھا، ہم اس سے درس حدیث لیا کرتے تھے جب درس و وعظ ختم ہو جاتا تو ہم متفرق ہو جاتے مگر ایک مختصر سا گروہ وہیں رہ جاتا، ان میں ایک ایسا شخص تھا کہ وہ ایسے ایسے اسرار و رموز اور حکمت و دانش کی باتیں کرتا جن کو ہم سمجھ نہیں سکتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا تم اس شخص کو جانتے ہو؟ جو ہمارے ساتھ درس میں شریک ہوتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کرتا ہے ان میں سے ایک شخص نے کہا ہاں۔ میں اس کو جانتا پہچانتا ہوں۔ وہ اولیں قرنیؓ ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس سے مجھے ان کی قدر و منزلت کا احساس اور ان کی زیارت کا شوق ہوا اور میں اس کو ہمراہ لے کر ان کے حجرے پر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ باہر تشریف لائے میں نے ان سے کہا: بھائی! آپ ہم سے کیوں چھپتے اور کنارہ کش رہتے ہیں؟ فرمایا میں ننگا ہوں اس لیے آپ لوگوں سے چھپتا ہوں۔

کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب ان کا مذاق اڑاتے اور ایذا میں دیتے تھے۔ میں نے کہا یہ لیجئے چادر اس کو اوڑھ لیجئے۔ انہوں نے واپس کر دی۔ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کی چادر لے کر اوڑھ لوں اور میرے ہم قوم مجھے دیکھ لیں تو کہیں گے اس ریا کار کو دیکھو ایک آدمی کے ساتھ لگ گیا۔ اور دھوکہ دے کر اس کی چادر لے لی۔ لیکن میں نے اصرار کر کے ان کو چادر دے ہی دی۔ اور کہا ہمارے ساتھ چلو۔ دیکھیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ چادر اوڑھ کر ہمارے ساتھ ہو لیے جیسے ہی ایک مجمع کے سامنے سے گزرے تو لوگوں نے کہا ذرا اس ریا کار کو دیکھو کہ اس شخص کو چنار ہا اور اس کی چادر لے لی۔

یہ الفاظ سن کر میں نے ان لوگوں سے کہا تم لوگوں کو شرم نہیں آتی تم اسے ہر حالت میں تمسخر و استہزاء کا نشانہ بناتے ہو۔ آخر تم اس اللہ کے بندے سے چاہتے کیا ہو؟ اس کو کیوں ایذا دیتے ہو؟ جب وہ ننگے ہوتے ہیں تب بھی مذاق اڑاتے ہو اور جب چادر اوڑھ لیتے ہیں تب بھی ریا کاری کا الزام لگاتے ہو۔ میں نے ان کو اسی طرح بہت ڈانٹا اور ان کو برا بھلا کہا کہ انہوں نے چادر لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے خود باصرار ان کو چادر دی ہے تو تم ان کو ریا کار ٹھہرا رہے ہو۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے غائبانہ تعارف:

آنحضرت ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت اولیں قرنیؓ کی ایک ایک علامت بتلا دی تھی۔ کہ خیر التا بعینؓ قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے اس کا نام اولیں ہے۔ وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برص کے داغ ہیں۔ سب مٹ چکے ہیں صرف ایک درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پوری کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آپ سے دُعا کروانا:

اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ برابر اس کی تلاش میں رہے۔ جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اولیںؓ کے پاس پہنچے۔ پوچھا آپ ہی اولیں بن عامر ہیں۔ انہوں نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں جب سب حالات ان سے

پوچھ لیے اور ایک ایک علامت ان میں دیکھ لی تو فرمایا: کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور قرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا اس لیے آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے دعا کی۔

پھر آپ نے ان سے پوچھا اب آپ کا کہاں کا قصد ہے؟ عرض کیا کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کو لکھے دیتا ہوں۔ حضرت اویس رضی اللہ عنہ نے کہا: مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے عوام کے زمرے میں دہنا ہی زیادہ پسند ہے۔

اس واقعہ کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا، اس نے کہا وہ نہایت تنگ دستی اور خستہ حال میں ایک جموں پڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے اویس رضی اللہ عنہ کے متعلق آنحضرت ﷺ کا ارشاد بیان کیا چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر اویس رضی اللہ عنہ سے ملا اور دعائے مغفرت کا طالب ہوا، آپ نے فرمایا: تم ابھی ابھی تازہ اور ایک مقدس سفر سے واپس آرہے ہو۔ تم ابھی اپنے گھر بھی نہیں گئے اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تھے؟ اس نے کہا ہاں، اس کے بعد آپ نے اس کے لیے دعا کی۔

اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ میں ایک بار ان سے ملنے گیا اور عرض کیا کہ آپ کا عجیب حال ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ آپ ہم سے روپوش رہتے ہیں۔ فرمایا: آپ لوگوں کا بھی میرے ساتھ عجیب معاملہ ہے۔ آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں چلتے ہیں۔ میں ایک ضعیف انسان ہوں میری بہت سی ضروریات ہیں آپ کی وجہ سے میں ان کو پورا نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے بس اپنا عمل ہی کافی ہے۔

جنگ صفین میں شہادت:

جب سے آپ کی حقیقت لوگوں پر ظاہر ہوئی تھی اور آپ کی عظمت و شان کا پتہ چلا تھا اس وقت سے آپ ایسے روپوش ہوئے کہ بس جنگ صفین میں ہی لوگوں نے ان کو دیکھا۔ عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کا بیان ہے کہ اہل شام میں سے ایک شخص نے پکارا۔ کہا تم میں کوئی شخص اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں ہے۔ اس شخص نے کہا کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”اویس قرنی خیر التابیین میں سے ہے“ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور لشکر میں داخل ہو گیا۔

سلام بن مسکین کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا ہے: ”میرا دوست اس امت میں اویس قرنی رضی اللہ عنہ ہے“۔

اسیر بن جابر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اویس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں، کہا میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کر سکتا ہوں۔ آپ تو رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں (مجھے تو صحابیت کا درجہ حاصل نہیں ہوا) انہوں نے کہا: کہ میں نے آنحضرت ﷺ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”خیر التابیین ایک شخص ہے۔ اس کو اویس رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔“

محمد کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اگر کوئی شخص ان سے ملے تو ان سے میری مغفرت کی دعا کے لیے کہے۔ اسیر بن جابر سے ایک یہ بھی روایت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قصے میں گزر چکی۔

زہد و تقویٰ:

آپ کے زہد کا یہ عالم تھا کہ گھریا لباس اور کھانے پینے وغیرہ جملہ علائق دنیوی سے ہمیشہ آزاد رہے۔ ایک نہایت بوسیدہ اور شکستہ مکان میں رہتے تھے۔ لباس میں ایک اون کی چادر اور ایک اون کا ازار ہوتا تھا۔ کبھی وہ بھی میسر نہ آتا تھا۔ لوگ ننگے بدن دیکھ کر چادر اور لباس دے دیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے: ”خدا یا! میں تجھ سے بھوکے جگر اور ننگے بدن کی معذرت چاہتا ہوں۔ لباس جو میرے جسم پر اور غذا جو میرے پیٹ میں ہے اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔“

قبیلہ مراد کا ایک شخص آیا اور اس نے کہا: اَلسَّلَامُ عَلَیْکُمْ فرمایا: وَعَلَیْکُمْ پوچھا۔ اے اویس رضی اللہ عنہ! آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا: الحمد للہ میں بخیر ہوں۔ پوچھا: زمانہ آپ پر کیسا گزر رہا ہے؟ فرمایا: تم ایسے شخص کا اور زمانے کا کیا حال پوچھتے ہو جس کا یہ حال ہو کہ اگر شام ہو تو اسے صبح تک کی امید نہ ہو اور اگر صبح کرے تو شام تک کی امید نہ ہو۔ (جو یوں زندگی گزار رہا ہو اس کا کیا حال پوچھتے ہو) میرے بھائی! موت کسی بندہ مومن کو خوش نہیں رہنے دیتی۔ خدا کے عرفان نے مومن کے لیے چاندی سونے کی کوئی قیمت باقی نہیں رکھی۔ مرادی بھائی! خدا کے کاموں میں مومن کے فرض کی ادائیگی نے ان کا کوئی دوست باقی نہیں چھوڑا ہے۔ خدا کی قسم چونکہ ہم لوگ لوگوں کو اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں اس لیے انہوں نے ہم کو اپنا دشمن سمجھ لیا ہے۔ اور اس میں ان کو فاسق مددگار مل گئے ہیں جو ہم پر ہتھیں رکھتے ہیں لیکن خدا کی قسم ان کا یہ رویہ مجھ کو حق بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا (دنیا والوں کا اہل حق کے ساتھ یہ رویہ ہمیشہ رہا ہے اور آج بھی یہی حال ہے۔ دنیا پرستوں نے اہل حق کا جینا مشکل بنا رکھا ہے)۔

ہرم بن حبان رضی اللہ عنہ کی حضرت اویس رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

ابن حبان کہتے ہیں کہ میں اویس قرنی کی زیارت کے شوق میں کوفہ گیا اور ان کو تلاش کرتے کرتے فرات کے کنارے پہنچا۔ دیکھا ایک شخص تنہا بیٹھا نصف النہار کے وقت کنارے پر وضو کر رہا ہے اور کپڑے دھو رہا ہے۔ میں اویس رضی اللہ عنہ کے اوصاف اور علامتیں سن چکا تھا۔ پہچان گیا کہ بس یہ وہی ہیں۔ وہ فرہ اندام تھے۔ رنگ گندم گون تھا۔ بدن پر بال زیادہ تھے۔ سر منڈا ہوا تھا اور اڑھی گھٹی تھی۔ بدن پر ایک صوف کا ازار اور صوف کی ایک چادر تھی چہرہ بہت بڑا اور مہیب تھا۔ قریب پہنچ کر میں نے سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور میری طرف دیکھ کر کہا خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ انہوں نے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر کہا: خداتم کو زندہ رکھے۔ میں نے کہا اویس! اللہ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے اور آپ کی مغفرت کرے۔ یہ آپ کا کیا حال ہے؟ ان کی ظاہری خستہ حالت دیکھ کر میرے آنسو نکل پڑے۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بھی رونے لگے اور مجھ سے فرمایا: ہرم بن حبان! خداتم پر رحم کرے۔ میرے بھائی تم کیسے ہو؟ تم کو میرا پتہ کس نے بتایا؟ میں نے کہا خدا نے اس جواب پر انہوں نے فرمایا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ رَبَّنَا إِنْ كَانُوا وَعَدُ رَبُّنَا لَمَفْعُولًا۔ ایک اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پاک ذات ہے ہمارا رب۔ ہمارے رب کا وعدہ سچا اور پورا ہونے والا ہے۔

میں نے درخواست کی کہ رسول خدا ﷺ کی کوئی حدیث سنائیے۔ فرمایا میں نے نہ آنحضرت ﷺ کو پایا اور نہ میں آپ کی صحبت سے بہرہ ور ہوا۔ البتہ آپ کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ تم لوگوں کی طرح مجھے بھی کچھ حدیثیں پہنچی ہیں۔ لیکن میں اپنے

لیے یہ دروازہ کھولنا نہیں چاہتا کہ محدث یا قاضی یا مفتی کہلاؤں۔ مجھے خود اپنے نفس کے بہت کام ہیں۔ میں نے کہا تو کچھ قرآن میں سے ہی سنائے؟ یہ سن کر آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور رونے لگے اور

﴿ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. حَمْدُ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾

تلاوت کی جب ہو السميع العليم تک پہنچے تو حج مار کر رونے لگے اور غشی طاری ہو گئی۔ افاقہ ہوا تو فرمایا: مجھے تمہارا رہنا ہی پسند ہے۔ آپ سے کوئی حدیث مروی نہیں۔

عبدۃ بن ہلال رضی اللہ عنہ:

عبدۃ بن ہلال ثقفی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ان کا روزہ توڑ دیا تھا۔ آپ خود کہتے ہیں مجھ پر کوئی رات نیند کے ساتھ نہیں گزری اور کوئی دن روزے کے بغیر نہیں گزرا۔ یعنی ہمیشہ رات کو قیام کرتے اور دن کو روزہ رکھتے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔

ابوغذیرۃ الضعی رضی اللہ عنہ:

ابوغذیرۃ الضعی۔ ان کا نام عبدالرحمن بن خصفہ ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بنی ضبہ کے ایک وفد میں آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی ضرورتیں پوری کیں۔

سعد بن مالک رضی اللہ عنہ:

سعد بن مالک عسبی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حلام بن صالح عسبی روایت کرتے ہیں۔

حبیب بن صہبان رضی اللہ عنہ:

حبیب بن صہبان۔ اسدی ہیں ان کی کنیت ابو مالک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت روایت کرتے ہیں۔ مشہور ثقہ راوی ہیں۔ قلیل الروایت ہیں۔

تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے۔

حارث بن سوبید رضی اللہ عنہ:

یہ تمیمی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی کنیت ابو عاکشہ ہے۔ عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے آخری ایام میں انہوں نے کوفہ میں وفات پائی۔ ثقہ ہیں ان سے بہت سی روایتیں ہیں۔

حارث بن قیس رضی اللہ عنہ:

مذحج کے حنفی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ خیمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ

اشعری رضی اللہ عنہ نے ان پر نماز پڑھی۔ حالانکہ پہلے ان کی نماز پڑھائی جا چکی تھی۔
حارث الاغور رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن کعب بن اسد بن خالد بن حوث۔ نام عبد اللہ ابن سبع بن صعب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن جشم بن حاشد بن خیران بن نوف بن ہمدان اور حوث وہ سبع کا بھائی ہے یہ ابواسحاق کا گروہ سہمی ہے۔ حارث حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان کا ایک قول بہت برا اور غمگین کرنے والا ہے۔ اور یہ ضعیف الروایۃ ہیں۔
عباء بن احمر سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا: ”ایک درہم میں علم کون خریدتا ہے؟“ سو حارث اغور نے ایک درہم میں ایک کاپی خرید لی، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے بہت سی باتیں علم و حکمت کی لے کر بطور یادداشت اس میں محفوظ کر لیں۔ اس کے بعد ایک خطبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اے اہل کوفہ تم پر نصف آدمی غالب آ گیا۔

عامر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہت سی حدیثیں اور باتیں پوچھتے ہوئے حارث اغور سے دیکھا ہے (یعنی یہ دونوں بہت سی حدیثیں حارث اغور سے پوچھا کرتے تھے)۔ شععی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حارث اغور بہت جھوٹا تھا۔ ابواسحاق کا بیان ہے کہ کہا جاتا تھا کہ کوفے میں عبیدہ اور حارث اغور سے زیادہ علم فرائض کا جاننے والا اور کوئی نہیں۔

ابواسحاق سے روایت ہے کہ حارث اغور ان کی قوم کا امام تھا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور جنازے کی نماز بھی اس کے پیچھے پڑھ لیا کرتے تھے۔ جب وہ کسی جنازے کی نماز پڑھاتا تو وہ صرف وہی طرف کا سلام پھیرتا۔ ابواسحاق کا ہی بیان ہے کہ حارث اغور نے وصیت کی کہ اس کے جنازے کی نماز عبد اللہ بن یزید انصاری پڑھائیں، سوانہوں نے اس کے جنازے کی نماز پڑھائی اور چار نکبیریں کہیں پھر ہم قبر تک اس کے ہمراہ گئے۔ اس کو قبر میں رکھا گیا۔ میں نے دیکھا اس کے اوپر سے چادر اتار لی گئی صرف کفن رہ گیا۔ پھر اس کی قبر پر ایک ہری بھری شاخ گاڑ دی گئی۔

ابواسحاق کا بیان ہے کہ حارث اغور نے وصیت کی تھی کہ اس کے جنازے کی نماز عبد اللہ بن یزید پڑھائیں۔ سو اس کو بیروں کی طرف سے قبر میں اتارا گیا کیونکہ یہ سنت ہے اس کے کفن کے اوپر جو چادر اڑھائی گئی تھی وہ کھینچ لی گئی۔ عبد اللہ بن یزید کا بیان ہے کہ صرف وہ کفن کافی ہے جو مرد کو دیا جاتا ہے پھر حکم دیا کہ سبز شاخ قبر پر گاڑ دی جائے جب اس کو قبر میں داخل کرو یا گیا تو دعا مانگنے اور قبر پر کپڑا ڈالنے سے آپ نے منع کر دیا۔ فرمایا سنت یہی ہے۔

عبد اللہ بن یزید اس وقت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی طرف سے کوفے کے عامل تھے۔

عمیر بن سعید رضی اللہ عنہ:

عمیر بن سعید نخعی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور حضرت عمار اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوفے میں خالد بن عبد اللہ کی ولایت کے زمانے میں وفات پائی۔

۱۱۵ھ میں۔ انہوں نے محمد بن جابر الحنفی کو پایا ہے اور ان سے روایت بھی کرتے ہیں۔ ثقہ راوی ہیں۔ ان سے بہت سی

حدیثیں مروی ہیں۔

سعید بن وہب رضی اللہ عنہ:

سعید بن وہب ہمدانی ہیں بنی محمد بن مویب بن صادق بن نیاع بن دوامان اور یہ سب نیاعی ہیں ہمدان سے۔ یہ حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت خباب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یمن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث سنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے زمانے میں ہجرت سے قبل یہ ہر حال میں ہمیشہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے۔ اسی لزوم صحبت کی وجہ سے ان کو قراد یعنی چچری کہا جاتا تھا۔ یہ سلمان ابن عمر ابن الزبیر اور شرح رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کرتے ہیں۔

یہ اپنی دائرہی رنگا کرتے تھے۔ کوفہ میں عبدالملک بن مروان کی خلافت میں ۸۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ ثقہ ہیں۔ بہت

سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ہمیرہ بن یریم رضی اللہ عنہ:

ہمیرہ بن یریم رضی اللہ عنہ یہ ہمدان کے شامی ہیں۔ شام وہ عبداللہ بن اسعد بن جشم بن حاشید ہیں۔ شام ان کا ایک پہاڑ تھا۔ اسی نام سے وہ موسوم ہوئے۔ اس کا باپ یریم ابو العلاء بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔ یہ ہمیرہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا: کہ ”روزہ دوزخ کی آگ کی ڈھال ہے“۔

عمر بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

عمر بن سلمہ۔ ابن عمیرہ بن مقاتل بن الحارث بن کعب بن علوی بن علیان ابن ارحب بن دعام ہمدان سے۔ یہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن کو حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما نے محمد بن الاشعث بن قیس کے ہمراہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب اس کا چہرہ بشری رعب و داب اور فصاحت و بلاغت کو دیکھا سنا تو بڑا تعجب کیا پوچھا کہ کیا تم مضری ہو؟ کہا نہیں پھر فرمایا:

إِنِّي لَمَنْ قَوْمِ بَنِي اللَّهِ مَسْجِدَ هُمْ
أَبَوْتُنَا أَبَاءُ صِدْقٍ نَمَى بِهِمْ
وَأَمَانُنَا أَكْرَمُ بِهِنَّ عَجَائِزُ
حَبًا هُنَّ كَافُورٌ وَمَسْكٌ وَعَنْبَرٌ
عَلَى كُلِّ بَادٍ فِي الْأَنَامِ وَحَاصِرُ
إِلَى الْمَسْجِدِ أَبَاءُ كِرَامِ الْعَنَاصِرِ
وَرِثِشِ الْعَلَاءِ عَنْ كَابِرٍ لَعْدَ كَابِرِ
وَلَيْسَ ابْنُ هِنْدٍ مِنْ جِنَاةِ الْمَغَافِرِ

ابو الزعراء رضی اللہ عنہ:

ابو الزعراء کا نام عبداللہ بن ہانی ہے۔ حضری ہیں اور ان کا شمار کندہ میں ہوتا ہے۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے اور قلیل الروایت۔

نام عبد اللہ بن حبیب۔ حضرت علیؓ حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں۔ شعبہ شیعہؓ کہتے ہیں ابو عبد الرحمن سلمیؓ نے حضرت عثمانؓ سے کچھ نہیں سنا۔ ہاں حضرت علیؓ سے سنا ہے سعد بن عبیدہ ابو عبد الرحمن سلمیؓ سے اور وہ حضرت عثمانؓ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: ”تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرنا اور دیتا ہے۔“ اس لیے میں ہر اس مجلس میں بیٹھتا ہوں جس میں قرآن کی تعلیم و تدریس ہو۔ میں نے قرآن کی قرأت حضرت علیؓ سے حاصل کی ہے۔ یہ امام مسجد تھے۔

ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ان صحابہؓ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے، جن کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صرف دس آیتوں کا مفہوم سمجھتے اور جب تک ان پر عمل نہ کرتے آگے نہ بڑھتے قرآن کے فہم کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرتے جاتے (یہ قرآنی فہم و عمل ہی تو تھا جس نے انہیں آسمان ہدایت کے روشن ستارے بنایا) ہمارے بعد قرآن کے وارث ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ پانی کی طرح قرآن پی جائیں گے (نہ کچھ سمجھیں گے اور نہ عمل کریں گے) قرآن کے الفاظ ہی رستے چلے جائیں گے، فہم و عمل سے ان کا کوئی تعلق نہ ہوگا اور اسی کا نام تلاوت قرآن رکھ دیں گے۔ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہ اترے گا۔ ابو خالد کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمیؓ صرف بیس آیتیں صبح کو تلاوت کرتے اور دس شام کو۔

بے لوث قرآنی خدمت:

عمرو بن حریث نے آپ کے پاس کوئی رقم بھیجی۔ لانے والے نے کہا کہ آپ نے ان کے لڑکے کو قرآن پڑھایا ہے یہ اس کا معاوضہ ہے۔ آپ نے وہ رقم یہ کہہ کر لوٹا دی کہ ہم اللہ کی کتاب پر اجرت نہیں لیتے۔ ابن بحدلہ کہتے ہیں کہ ہم ابو عبد الرحمن سلمیؓ کے پاس آیا کرتے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ابی الاحوص کے علاوہ کسی قصہ گو و اعظ کے پاس نہ بیٹھو، شفیق کی مجلس میں نہ جایا کرو اور نہ ابو اوائل اور سعد بن عبیدہ کی مجلس میں۔ ابو عبد الرحمن سلمیؓ کہتے ہیں کہ میں ابو الاحوصؓ کی خدمت و محبت میں رہا آپ فقیر تھے انہوں نے فرمایا: ”ایک قفیز (بارہ صاع کا ایک پیمانہ) جو کے بدلے ایک قفیز گے ہوں نہ لو کہ یہ مکروہ ہے۔“

عبد اللہ بن وہب کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے قرآن پڑھایا ہے۔ میرے باپ رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے تھے۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے صدقہ فطر دینا کبھی ترک کیا ہو۔ ہمیشہ ہمارے تمام گھر والوں کی طرف سے خواہ چھوٹے ہوں یا بڑے اور آزاد ہوں یا مملوک سب کی طرف سے ایک صاع صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ کاش نماز پڑھنے والا نمازی یہ جانے کے قبل کی طرف منہ کرنے کی حقیقت کیا ہے اور اس میں کون سی حکمت پنہاں ہے (وہ یہ کہ ایک مسلمان اپنی پوری زندگی کا رخ اللہ کی طرف کر دے اور کلی طور پر اللہ کا بندہ بن جائے)۔

عطاء بن سائب ابو عبد الرحمن سلمیؓ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک شخص سے پوچھا کہ تو مومن ہے یا مسلمان؟ اس نے کہا ہاں اگر اللہ چاہے (تو میں مومن اور مسلمان ہوں) آپ نے فرمایا کہ ان شاء اللہ نہ کہہ (یوں کہہ کہ ہاں میں مومن اور

مسلمان ہوں) وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسعر سے پوچھا کہ اے ابوسلمہ! میں کہتا ہوں کہ حقیقت میں مومن ہوں (کیا میرا یہ کہنا صحیح ہے؟) کہا ہاں تو مومن باطل ہوگا؟ کیا کسی شخص کا یہ کہنا صحیح اور اچھا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو اس کا یہ نام رکھو (مطلب یہ کہ اپنے فہم و شعور اور عزم و ارادے سے یہ سمجھنا اور کہنا چاہیے کہ میں مومن اور مسلمان ہوں ان شاء اللہ کہنے کی ضرورت نہیں)۔

سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ نے صرف ایک قمیض میں نماز پڑھی۔ ندان پر کوئی چادر تھی اور نہ ازار۔ عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔ میں یہ کہنے کو مکروہ سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ میں نے اس چیز کو ساقط کر دیا بلکہ بجائے اس کے یوں کہے کہ میں اس سے غافل ہو گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ جب تجھ سے یہ پوچھا جائے کہ تو کیسا ہے؟ تو کہنا چاہیے الحمد للہ میں بخیر ہوں۔

عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ اپنے ایک غلام کو (کسی بیماری کی وجہ سے) داغ دے رہے تھے۔ میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ (علاج کیوں نہیں کرتے؟) میں نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ کوئی مرض ایسا نہیں جس کی اللہ نے شفا نازل نہ کی ہو۔

یہی کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عبد الرحمن بن حبیب کے پاس آیا۔ وہ مسجد میں ہی اپنے تمام امور سرانجام دے رہے تھے۔ میں نے کہا آپ پر اللہ رحم کرے آپ اپنے بستر پر ہوتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے: ”جب تک ایک نمازی اپنے مصلیٰ پر نماز میں مشغول رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس کی مغفرت کر اور اس پر اپنا رحم کر“۔ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ مجھے موت بھی مسجد ہی میں آئے۔ (اس لیے میں ہمیشہ مسجد ہی میں رہتا ہوں۔ خواہ نماز کا وقت ہو یا نہ ہو)۔

عطاء بن سائب رضی اللہ عنہ ہی کا بیان ہے کہ ہم موت کے وقت ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے آپ نے فرمایا: میں اللہ کی رحمت و مغفرت کا امیدوار ہوں میں نے ۸۰ رمضان پورے روزوں کے ساتھ گزارے ہیں۔ ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ عنہ کی وفات عبد الملک بن مروان کی خلافت اور بشر بن مروان کی ولایت میں کوفہ میں ہوئی۔ ثقہ راوی تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ:

عبد اللہ بن معقل ابن مقرن مزنی ہیں۔ ابو ولید کنیت ہے۔ حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں عبد اللہ بن معقل رضی اللہ عنہ کے جنازے میں شریک ہوا۔ ایک شخص نے کہا کہ اس قبر والے نے وصیت کی تھی کہ اس کی قبر پر سبز شاخ گاڑی جائے۔ ثقہ راوی تھے اور کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن معقل رضی اللہ عنہ:

عبد الرحمن بن معقل ان کا بھائی ہے۔ یہ بھی حضرت علی اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس کی روایتوں میں جو اس کے باپ سے ہیں (محدثین نے) کلام کیا ہے (کہ وہ کس درجے کی ہیں) وہ چھوٹے تھے۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔

سعد بن عیاض رضی اللہ عنہ:

سعد بن عیاض شمالی ازد میں سے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، یہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

ابوفاختہ سعید بن علاقہ رضی اللہ عنہ:

ابوفاختہ کا نام سعید بن علاقہ ہے۔ یہ جعدہ بن ہبیرہ مخزومی کے آقا ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

ربیع بن عمیلہ رضی اللہ عنہ:

ربیع بن عمیلہ فزاری ہیں اور وہ البورکین بن ربیع ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں اور کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

قیس بن سکن رضی اللہ عنہ:

قیس بن سکن اسدی ہیں۔ بنی سواہ بن الحارث بن سعد بن ثعلبہ بن دودان بن اسد حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے حضرت مصعب بن الزبیر بن عوام کے زمانے میں کوفے میں وفات پائی۔ ثقہ ہیں کئی احادیث کے راوی ہیں۔

ہزریل بن شرحبیل رضی اللہ عنہ:

ہزریل بن شرحبیل مدح کے ادوی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور ثقہ راوی تھے۔

ارقم بن شرحبیل رضی اللہ عنہ:

ارقم بن شرحبیل رضی اللہ عنہ ان کے بھائی ہیں۔ انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی کوئی روایت کی ہے یا نہیں۔ اس کا بھائی ہزریل بھی اس سے روایت کرتا ہے۔ یہ ثقہ راوی تھے اور بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابوالکنود الازدی رضی اللہ عنہ:

ابوالکنود الازدی کا نام عبداللہ بن عوف ہے۔ بعض عبداللہ بن عوفیر بتلاتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

حکم کا بیان ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے بیان کیا کہ ابوالکنود نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ نے دو سلام کہے: **السلام علیکم السلام علیکم** یہ ثقہ راوی تھے۔

چند احادیث کے راوی ہیں۔

شداد بن معقل رضی اللہ عنہ:

شداد بن معقل اسدی ہیں۔ اسد بنی خزیمہ۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور قلیل الحدیث ہیں۔

حبیب بن جویں رضی اللہ عنہ:

حبیب بن جویں۔ بحیلہ کے عربی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، عبدالملک بن مروان کی خلافت کے اذلیں ایام میں کھے میں وفات پائی۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں، مگر ضعیف ہیں۔

عمیر بن مالک ہمدانی رضی اللہ عنہ:

عمیر بن مالک ہمدانی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے صرف دو حدیثیں روایت کرتے ہیں۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔

عمر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

عمر بن عبداللہ اصم الوداعی ہمدان سے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت علی اور مسروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان سے بہت کم روایتیں ہیں۔

عبداللہ بن سنان رضی اللہ عنہ:

عبداللہ بن سنان اسدی ہیں۔ اسد بنی خزیمہ، ابوسنان کنیت ہے۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ مجاہم سے قبل حجاج کے دور میں وفات پائی۔ ثقہ راوی ہیں۔ کئی حدیثیں ان سے مروی ہیں۔

زاذان ابو عمر رضی اللہ عنہ:

زاذان ابو عمر۔ یہ کندہ کے مولیٰ ہیں۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت سلمان، حضرت براء بن عازب اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

عترہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ زاذان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، آپ کی مجلس میں لوگوں کا جھگھکا تھا۔ آپ نے ان کو اپنے نزدیک بلا یا اور اپنے پاس بٹھایا۔

زاذان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ مسائل پوچھے جو لوگوں نے مجھ سے پوچھے تھے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بہت سے لوگوں کے رزق کا انتظام کیا کرتے تھے۔ میرا مولیٰ بھی ان سے رزق حاصل کرتا تھا اور ہم اسی سے کھاتے پیتے تھے۔ حجاج کے زمانے میں مجاہم کے بعد ان کا انتقال ہوا ثقہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عباد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

عباد بن عبداللہ اسدی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں، ہیں۔ چند حدیثوں کے راوی ہیں۔

کمیل بن زیاد رضی اللہ عنہ:

کمیل بن زیاد۔ ابن نہیک بن ہشیم بن سعد بن مالک بن الحارث بن صہبان بن سعد بن مالک بن مخزوم نذرج سے۔ یہ حضرت عثمان، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ صفین میں شریک ہوئے۔ اپنی قوم میں شریف و ممتاز اور مطاع تھے کوفے میں حجاج بن یوسف نے اس کو بلا کر قتل کر دیا۔

قیس بن عبد رضی اللہ عنہ:

قیس بن عبد رضی اللہ عنہ۔ ہمدانی ہیں، یہ عامر بن شراحیل بن اشعی کے چچا ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

حصین بن قبیصہ:

حصین بن قبیصہ رضی اللہ عنہ اسدی ہیں۔ اسد بن خزیمہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔

ابو القعقاع الجرمی رضی اللہ عنہ:

ابو القعقاع جرمی۔ قضاہ سے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوا اور میں یافع کا غلام تھا۔

ابوزرین رضی اللہ عنہ:

ابوزرین۔ ان کا نام مسعود ہے اور ابو دائل کے آقا ہیں۔

شقیق بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

شقیق بن سلمہ اسدی ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں۔ عاصم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے ابو دائل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا آپ کو اس بات سے تعجب نہیں ہوتا کہ ابوزرین رضی اللہ عنہ بوڑھا ہو گیا اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ لڑکا تھا اور میں جوان تھا۔ ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔

عرفجہ رضی اللہ عنہ:

عرفجہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے دو رکعتوں میں رکوع سے پہلے دو عاقبت پڑھی۔

معدی کرب رضی اللہ عنہ:

معدی کرب، یہ ہمدان کے مشرقی ہیں۔ مشرق یمن کا ایک موضع ہے جس کی طرف وہ منسوب ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔

عبدالرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

عبدالرحمن بن عبداللہ۔ ابن مسعود ہزلی اور حلیف بنی زہرہ۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔ وہ روایتیں جو یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں ان میں محدثین کو کلام ہے۔ کیونکہ یہ چھوٹے تھے۔

شیر بن شکل رضی اللہ عنہما:

شیر بن شکل، ابن حمید عسی۔ حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما اور اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے مصعب بن الزبیر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کوفے میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کم روایت کرتے تھے۔ تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔

ابوالاحوص رضی اللہ عنہما:

ان کا نام عوف بن مالک بن نضلاء الجشمی ہے۔ قبیلہ ہوازن سے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور اپنے والد سے بھی روایت کرتے ہیں ان کو صحبت میسر تھی، زید بن صوحان سے۔

علی ابن الاقر کا کہنا ہے کہ میں نے ابوالاحوص کو یہ کہتے سنا کہ ”ہم تین بھائی تھے۔ ایک حرور یہ میں مارا گیا۔ اور دوسرا فلاں فلاں دن قتل ہوا اور تیسرا میں ہوں۔ میں نہیں جانتا کہ اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔“

شعبہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ابواسحاق سے پوچھا ابوالاحوص کیسا تھا؟ کہا وہ مسجد میں ہم پر پانی ڈالتا تھا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیثیں سناتا۔

عاصم کہتے ہیں کہ ہم ابو عبدالرحمن سلمیٰ کی مجلس میں آیا کرتے تھے اور ابھی بچے ہی تھے وہ ہم سے کہا کرتے تھے کہ قصہ گو واعظوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کرو سوائے ابوالاحوص کے اور شقیق اور سعد بن عبیدہ کی مجلس سے بھی اجتناب برتو۔

عاصم کہتے ہیں کہ میں نے ابوالاحوص رضی اللہ عنہما کے جسم پر ایک خاص قسم کے ریشم کی چادر دیکھی ہے۔ یہ ثقہ تھے۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ربیع بن جشم رضی اللہ عنہما:

یہ تابعین کے ان بلند پایہ ارباب فضل و کمال میں سے ہیں جن کا علم و تقویٰ آج تک امت مسلمہ سے خراج تحسین وصول کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ محترم۔

نام و نسب:

نام ربیع بن جشم بن عائذ بن عبداللہ بن معقذ بن ثور ثوری (ربیع ان تابعین میں ہیں جنہوں نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مقدس پایا لیکن شرف صحابیت سے محروم رہے مگر اس دور کی برکات سے مالا مال ہوئے۔ اور علم و عمل اور زہد و تقویٰ اور

صدق و صفا کا پیکر کہلائے، صحابہ رضی اللہ عنہم میں سب سے زیادہ فیض حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابویوب الصاری رضی اللہ عنہما سے پایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے خصوصیت کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا ہے۔ ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ ان کی بارگاہ میں ربیع کو اتنا تقرب اور سعادت حاصل تھی کہ جب وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تو جب تک دونوں کی تجانی کی صحبت ختم نہ ہو جاتی کسی کو اندر داخل ہونے کی اجازت نہ ملتی۔ جب دونوں اپنی علمی ضرورتیں پوری کر لیتے تو پھر کسی کو اجازت ملتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر ان کے شعور و اخلاص اور فضائل و کمالات کا اتنا اثر تھا کہ وہ ان سے فرمایا کرتے کہ ابو یزید! اگر تم کو رسول اللہ ﷺ دیکھتے تو تم سے محبت فرماتے۔ جب میں تم کو دیکھتا ہوں تو مجھے متواضعین یاد آتے ہیں۔

عاصم کہتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو کہتے: وَبَشِيرِ الْمُحْتَبِينَ (اور متواضعین کو خوشخبری دیتے)۔

عبادت میں ذوق و انہماک:

ابی عبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربیع سے زیادہ لطیف العبادۃ یعنی عبادت کو پورے شعور و خلوص ظاہری و باطنی آداب کو ملحوظ رکھنے والا اور ذوق و انہماک سے بجالانے والا اور کسی کو نہیں دیکھا۔

شعی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ربیع رضی اللہ عنہ کی جس مجلس میں بھی میں بیٹھا وہ کہا کرتے تھے کہ میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی بات کو دیکھوں اور اس پر مجھ سے گواہی طلب کی جائے اور میں اس کی گواہی نہ دوں، میں کسی حاجت مند کو دیکھوں اور اس کی مدد نہ کروں اور کسی مظلوم کو دیکھوں اور اس کی مدد نہ کروں۔

آپ تنہائی پسند تھے نہ کہیں جاتے آتے تھے نہ کسی مجمع میں بیٹھتے تھے۔ امام شعی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے آپ سن شعور کو پہنچے نہ کسی مجلس میں بیٹھے نہ کسی شاہراہ پر گئے۔ اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی مقام پر جاؤں اور وہاں کوئی ایسی بات دیکھوں جس میں شہادت کے لئے بلایا جاؤں اور شہادت نہ دے سکوں۔ یا کسی گرانہارا آدمی کو دیکھوں اور اس کی مدد نہ کر سکوں یا مظلوم کو دیکھ کر اس کی اعانت نہ کر سکوں۔

ابو جہان اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ کو کبھی دنیا کا ذکر کرتے نہیں سنا، صرف ایک مرتبہ اتنا پوچھا کہ تمہارے محلے میں کتنی مسجدیں ہیں؟

وعظ و نصیحت:

آپ کو قرآنی تفسیر و تاویل اور فکر و استدلال کا خاص ملکہ حاصل تھا جو ان کے مواعظ سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کا وعظ عموماً یہ ہوتا تھا:

”اے خدا کے بندے ہمیشہ بھلائی کی بات کہا کر، بھلائی پر عمل کیا کر، ہمیشہ اچھی اور عمدہ خصلتوں کا مظاہرہ کیا کر، اپنی مدت (حیات) کو زیادہ نہ سمجھ، اپنے قلب کو سخت نہ بنا (دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت سے پیدا ہوتی ہے) اور تو ان لوگوں کی مانند نہ بن جو کہتے ہیں ہم نے سنا، حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ (یہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے):

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ (سورہ انفال)
 ”ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں ہم نے سنا۔ حالانکہ وہ نہیں سنتے۔“

اے اللہ کے بندے! اگر تو اچھے کام کرتا ہے تو برابر کئے چلا جا۔ کیوں کہ عنقریب تجھے وہ دن پیش آنے والا ہے جب تو یہ حسرت و افسوس کرے گا کہ کاش زیادہ سے زیادہ نیک کام کئے ہوتے۔ اگر تجھ سے کچھ گناہ سرزد ہو چکے ہیں (تو ان کو چھوڑنے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عہد کر) اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَانُوا﴾ (سورہ ہود: ۱۰)

”نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں اور یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے (بہترین اور جامع) نصیحت ہے۔“

اے اللہ کے بندے! اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعہ جو علم عطا فرمایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر اور جو علم اس نے تجھے عطا نہیں کیا، بلکہ اپنے لیے مخصوص رکھا ہے، اس کو اس کے جاننے والے کے سپرد کر کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ . إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ . وَلِتَعْلَمُونَ تُبَاءُ بِعَدْحِينَ﴾ (سورہ ص: ۵)

”اے پیغمبر! کہہ دے کہ میں اس پر تجھ سے کوئی اجر نہیں چاہتا اور میں تکلیف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ قرآن دونوں عالموں کے لیے نصیحت ہے۔ اور ایک وقت آئے گا جب تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔“
 موت کو زیادہ یاد کیا کر۔ اس دن کو یاد کیا کر و جب تمام مخفی باتیں ظاہر ہو جائیں گی اور تمام اعمال سامنے آکھڑے ہوں گے۔“

بنی ثور کی خصوصیات:

(ہر خاندان کی کچھ نہ کچھ خصوصیات اور روایات ہوا کرتی ہیں۔ جو کم و بیش اس کے ہر فرد میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کچھ تو ماحول سے بنتی ہیں، کچھ ماں باپ سے وراثتاً ملتی ہیں اور کچھ تعلیم و تربیت سے پیدا کی جاتی ہیں۔ حضرت ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ جس خاندان سے تعلق رکھتے تھے وہ بنی ثور تھا۔ اور بنی ثور عبادت دریا ضمت میں ممتاز و نمایاں تھے۔ اس لیے ربیع رضی اللہ عنہ میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ مترجم)

ابراہیم کہتے ہیں کہ ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ سے ملا کرتے تھے۔ ان کا قبیلہ مسجد میں بہت زیادہ بیٹھنے والا تھا۔ ایک مرتبہ مسجد میں کچھ عورتیں داخل ہوئیں، تو آپ مسجد میں نہیں گئے۔ کہا گیا آپ مسجد میں کیوں داخل نہیں ہوتے! فرمایا: اس وقت علقمہ رضی اللہ عنہ کا دروازہ بند ہے۔ میں ان کی مشغولیت میں خل نہیں ہونا چاہتا۔

شقیق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے چند اصحاب کے ساتھ ربیع کی ملاقات کو گئے۔ ایک شخص نے راستے میں پوچھا آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہم نے کہا ربیع رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے۔ اس نے کہا آپ لوگ ایک ایسے شخص کے پاس جا رہے ہیں کہ جب وہ کوئی بات کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہتا۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس امانت

رکھو تو خیانت نہیں کرتا۔

گفتگو میں احتیاط:

(وہ گھر میں بھی عموماً خاموش رہتے تھے۔ بہت کم باتیں کرتے تھے، کوئی فضول کلمہ تو ان کی زبان سے کبھی نکلتا ہی نہ تھا) ایک شخص آپ کی خدمت میں بیس سال رہا۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے بیس سال کی طویل مدت میں ان کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں سنا جس پر کلمہ چینی کی جاسکے۔ اسی شخص کا بیان ہے کہ میں نے بیس سال کے عرصہ میں ربیع و شعبان کو کلمہ خیر کے علاوہ دوسرا کلمہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا۔

ابو قیس کہتے ہیں کہ میں ربیع و شعبان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا ”نیکی اور خیر کی بات کہا کرو، نیک عمل کیا کرو (قول و فعل دونوں کو پابند شرع بناؤ) اور نیک اجر پاؤ۔“

سفیان و شعبان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب ربیع و شعبان سے پوچھا جاتا آپ نے صبح کیسے کی؟ آپ کا کیا حال ہے؟ تو آپ فرماتے ہم نے صبح کمزور اور گھبراہٹ سے کی، اپنا رزق کھاتے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کرتے ہیں۔

آپ کے پاس کوئی شخص آتا تو آپ کی عزت نشینی اور خاموشی ٹوٹ جاتی اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرتے۔ ہر شخص سے فرماتے اچھی باتیں کہا کرو، خود بھی اچھی باتوں پر عمل کیا کرو، ہمیشہ بھلائی پر رہا کرو، جہاں تک ہو سکے نیک کاموں میں زیادتی کرو اور برے کاموں میں کمی۔ ہر شخص کو فضول گوئی سے منع کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ باتیں کم کیا کرو اور اگر ہو سکے تو فضول باتوں کی بجائے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرو۔ برے کاموں سے روکا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، دین و اخلاق کی باتیں پوچھا کرو اور نفس و شیطان کی پیروی سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: خدا کی قسم مجھے خود اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے کہ دوسروں کو برا کہوں، لوگوں کا عجیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں پر تو ڈرتے ہیں لیکن خود اپنے گناہوں کی طرف سے بے خوف رہتے ہیں۔

علم کے بقدر عمل کی ترغیب:

جب بھی کوئی شخص آپ کے پاس آتا تو اس سے فرماتے: اللہ کے بندے! تو احکام الہی کا جتنا بھی علم رکھتا ہے اس کے مطابق اللہ کے احکام کی اطاعت کر۔ تم محض اپنی نیکی سے نیک نہیں بن سکتے بلکہ دوسروں کو بھی نیک بنانے اور گناہوں سے بچانے کی کوشش کرو۔ تم نیکی کا حق ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ نیکی کا حق ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہر نیک کام محض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی و خوشنودی کے لیے کرو (اس میں ریا کاری کا شائبہ نہ ہو) تم برائی سے نہیں بچ سکتے جیسا کہ برائی سے بچنے کا حق ہے۔ آنحضرت ﷺ پر جتنی شریعت نازل ہوئی ہے اس پوری شریعت پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے (حتی الامکان احکام شریعت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے رہو) جو گناہ تم لوگوں سے چھپ کر کرتے ہو وہ اللہ پر ظاہر ہیں۔ تم اللہ سے اپنی کوئی بات مخفی نہیں رکھ سکتے اپنے ظاہری اور مخفی گناہوں کا علاج کرو اور ان کا علاج سچی توبہ ہے اور پھر وہ گناہ نہ کرے۔

عاجزی طبع پر سیدنا ابن مسعود کی گواہی:

آپ فرماتے ہیں ہر وہ نیک عمل جس کا مقصد رضاءِ الہی کا حصول نہ ہو وہ بے کار ہے۔ ان سے کہا گیا۔ آپ کبھی کسی کو برا نہیں کہتے۔ فرمایا: خدا کی قسم مجھے تو خود اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے۔ دوسروں کو کیا برا کہوں۔ لوگوں کا عجیب حال ہے کہ وہ دوسروں کے گناہوں پر تو ڈرتے ہیں، لیکن خود اپنے گناہوں سے بے خوف ہیں۔

ان کے عجز و نیاز اور خاکساری کو دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ تم کو دیکھ کہ مجھے متواضعین کی یاد آ جاتی ہے۔ مسلم ابی عبداللہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں نمازیوں کا بڑا ہجوم تھا۔ جب جماعت کھڑی ہونے لگی اور لوگ آگے بڑھے تو ایک شخص نے جو ربیع بنہیثم کے پیچھے تھا اس نے کہا آگے بڑھے لیکن ہجوم کی وجہ سے آگے بڑھنے کا راستہ نہ تھا اس لیے آپ آگے نہ بڑھ سکے۔ اس نے غصے میں پیچھے سے ان کی گردن میں کوچا دیا آپ اس کو جانتے بھی نہ تھے آپ نے اس سے صرف اتنا کہا کہ خدا تم پر رحم کرے۔ خدا تم پر رحم کرے اس شخص نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو وہ ربیع بنہیثم تھے انہیں دیکھ کر وہ فرطِ ندامت سے رونے لگا۔ ایک شخص نے ابووائل رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ عمر میں آپ بڑے ہیں یا ربیع؟ انہوں نے جواب دیا کہ سن میں میں ان سے بڑا ہوں لیکن عقل میں وہ مجھ سے بڑے ہیں۔

خوفِ خدا اور فکرِ آخرت:

وہ صرف اپنے ہی قبیلے میں نہیں بلکہ پوری جماعت تابعین میں عابدترین افراد میں سے تھے زہد و ورع کے اعتبار سے ممتاز ترین تھے۔ زہد و ورع، عبادت و ریاضت اور اعمالِ حسنا کا سرچشمہ خشیتِ الہی ہے۔ ساری ساری رات عبادت کرتے تھے۔ جن آیات میں موعظت یا خوفِ الہی کا مضمون ہے ان کو پڑھتے پڑھتے صبح کر دیتے۔ آپ کے غلام نسیر ابواطعمہ کا بیان ہے کہ ربیع بنہیثم رات کی تاریکی میں تہجد پڑھتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے:

﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (سورہ جاثیہ: ۲)

”کیا جنہوں نے برائیاں کی ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے۔ جن کی زندگی اور موت برابر ہے۔ وہ لوگ کیا برا فیصلہ کرتے ہیں؟“

تو اس قسم کی آیتوں کو دہراتے دہراتے صبح کر دیتے۔ آپ نوافل بھی کثرت سے مسجد میں ہی پڑھتے تھے آپ عذابِ دوزخ کا معمولی نمونہ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ لوہار کی بھٹی کی طرف سے گزرے تو بھٹی دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔

نماز باجماعت کا اہتمام:

نماز باجماعت کبھی ناغہ نہ ہونے دیتے تھے۔ آخر عمر میں فالج کے اثر سے چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے تھے لیکن اس حالت میں بھی نماز باجماعت نہ چھوڑتے تھے۔ ابوحنیان اپنے والد کی زبانی بیان کرتے ہیں کہ ربیع بنہیثم فالج سے بالکل معذور ہو گئے

تھے لیکن نماز کے لیے پیروں سے گھسنے ہوئے یا دوسروں کا سہارا لے کر مسجد میں آتے تھے۔ لوگ کہتے ابو یزید! اس حالت میں تو آپ کو گھر میں ہی نماز پڑھ لینے کی اجازت ہے پھر اس تکلیف کی کیا ضرورت ہے؟ جواب دیتے کہ حَىَّ عَلَيَّ الصَّلَاةُ اور حَىَّ عَلَيَّ الْفَلَاحِ سننے کے بعد جہاں تک ہو سکے اس کا جواب (عملاً) دینا چاہیے خواہ گھسنے کے بل چلنا پڑے۔

انفاق فی سبیل اللہ کا دلچسپ واقعہ:

منذر ثوری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ربیع رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر والوں سے خمیص (ایک قسم کا کھانا) پکانے کو کہا۔ چونکہ وہ اپنے لیے کبھی کسی چیز کی فرمائش نہ کرتے تھے اس لیے ان کی بیوی نے بڑے اہتمام سے خمیص تیار کیا۔ ان کے پڑوس میں ایک دیوانہ رہتا تھا ربیع رضی اللہ عنہ وہ خمیص لے کر اس کے پاس پہنچے اور اس کو کھلانے لگے۔ اس کے منہ سے لعاب بہتا جاتا تھا۔ جب اسے کھلا کر واپس گھر آئے تو ان کی بیوی نے کہا میں نے اتنے اہتمام سے زحمت اٹھا کر تو خمیص تیار کیا تو تم نے ایک ایسے شخص کو کھلا دیا جو یہ بھی نہیں جانتا کہ اس نے کیا کھایا۔ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں جانتا تو خدا تو جانتا ہے۔

(یعنی اللہ کے بندوں کی امداد و دست گیری کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، تنگوں کو کپڑا پہنانا، اور عام فلاں و بہبود کے کاموں میں اپنا مال اپنا علم اور اپنی محنت خرچ کرنا۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یہ بندہ مومن کی سب سے بڑی صفت ہے اپنی ذاتی ضرورتوں پر تو سب ہی مال خرچ کرتے ہیں۔ خوبی اور نیکی کی بات یہ ہے کہ دوسروں کی ضرورتوں پر بھی مال خرچ کیا جائے اور اپنی ضرورتوں کو نظر انداز کر کے دوسروں کی ضرورت پوری کر دینا تو یہ بہت بڑی نیکی کی بات اور خدا پرستی کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ مترجم)

یہ صفت ربیع رضی اللہ عنہ میں بدرجہ اتم موجود تھی۔ آپ کو شیرینی مرغوب تھی مگر جب کوئی سائل آتا تو آپ شکر سے دے دیتے۔ لوگ آپ سے کہتے بھلا وہ یہ شکر لے کر کیا کرے گا۔ اس سے بہتر تو اس کے لیے روٹی تھی۔ فرماتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَبِطَعْمُونَ الطَّعَامَ عَلَيَّ حَبِيبًا﴾ اور وہ اللہ کی محبت میں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
تقویٰ اور احتیاط:

جو شخص آپ سے وصیت کی درخواست کرتا تو آپ اسے قرآنی آیات و احکام لکھوا دیتے۔ چنانچہ ایک شخص نے آپ سے درخواست کی تو آپ نے اسے قرآن پاک کی یہ آیت ﴿قُلْ تَعَالَوْا اُنلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيَّ﴾ (کہہ دیجئے آؤ! میں تمہیں بتلاؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کن کن چیزوں کو حرام کیا ہے) ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (تا کہ تم متقی بن جاؤ) تک لکھوا دی (اس آیت کریمہ میں اسلامی معاشرے کے بنیادی امور اور خدا و خال بیان ہوئے) اس نے کہا میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں گے۔ آپ نے فرمایا: بس اسی پر عمل کرو۔ اس سے بڑھ کر اور نصیحت کیا ہو سکتی ہے۔

مگر بن ماعز کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ربیع رضی اللہ عنہ کی بیٹی نے کہا: ابا! میں کھیلنے جاتی ہوں؟ فرمایا جاؤ اچھی باتیں کہو۔ بھلا چھوٹی سچ بیٹی اس کو کیا سمجھتی کہ اچھی باتیں کون سی ہیں اور بری باتیں کون سی؟ وہ بھند گئی کہ میں تو کھیلنے جاتی ہوں۔ لوگوں نے کہا جب یہ کھیلنے جانا چاہتی ہے تو آپ اسے جانے کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا: میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے نامہ اعمال میں یہ لکھا جائے کہ میں نے کھیل کا حکم دیا۔

زرد شیر کا کھیل اہو و لعب ہے۔ شریعت کی رو سے ناجائز ہے۔ ربیع الثانی شہادت احتیاط میں کہا کرتے تھے کہ میں زرد شیر کے پانسوں کو اپنے ہاتھوں سے الٹا خنزیر کے گوشت کو اٹھالینے سے زیادہ ناپسند کرتا ہوں۔

منذر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک سائل آیا۔ آپ نے فرمایا اس کو شکر دو، ان کی بیوی نے کہا یہ شکر لے کر کیا کرے گا؟ آپ نے کہا کہ میں تو اپنا جذبہ خیر پورا کر لوں گا۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا: کہ فضول کلام سے بچا کرو۔ تم کہو کہ اللہ نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے اور تم عملاً اس کی تکذیب کرو۔ تمہارا کلام ہمیشہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ہونا چاہیے، نیکی کا حکم دینے اور بدی سے روکنے کے لیے زبان کھولنی چاہیے۔ ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے اگر سوال کرو تو نیکی کے متعلق اور برے کاموں سے اللہ کی پناہ مانگا کرو۔

تکلیف پر صبر و شکر:

داؤد قطان کہتے ہیں کہ جب ربیع الثانی پر فالح کا حملہ ہوا اور آپ معذور ہو گئے تو بکر بن ماعز آپ کی خدمت کیا کرتے تھے ان کا سر دھوتے، بال سنوارتے نہلاتے دھلاتے۔ ایک دن آپ ان کا سر دھلا رہے تھے کہ ان کا لعاب بہہ پڑا، یہ دیکھ کر وہ رو پڑے۔ آپ نے پوچھا: کیوں روتے ہو؟ میں ہر حال میں راضی برضائے الہی ہوں اور ہر حال میں خوش ہوں۔

شبرمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کوفے میں بنی ثور سے زیادہ فقیہ اور عبادت گزار شیوخ اور کسی قبیلے میں نہیں دیکھے۔ ابی بکر زبیدی کا بیان ہے کہ میں نے ثوریوں اور عمرنیوں سے زیادہ مسجد میں بیٹھنے والا کوئی خاندان نہیں دیکھا۔

شعیب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ہم ربیع بن خثیم رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان کی عیادت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا ہمارے لیے دعا فرمائیے انہوں نے یوں دعا فرمائی:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ كُلُّهُ، وَالْيَكُ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، وَأَنْتَ إِلَهُ الْخَلْقِ كُلُّهُ، نَسْنَلُكَ الْخَيْرَ كُلُّهُ وَنَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلُّهُ.

”اے اللہ! صرف تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں۔ تمام بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں، تمام امور کا رجوع تیرے ہی طرف ہے۔ تو ہی تمام مخلوق کا واحد الہ ہے، ہم تجھ سے تمام بھلائیاں مانگتے ہیں اور ہر قسم کے شر سے تیری ہی پناہ مانگتے ہیں۔“

فرماتے ہیں کہ میں بندے کی اس روش کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنی دُعاؤں اور شعروں میں یہی کہتا رہے کہ اے رب مجھ پر رحمت فرما (اس کی بندگی اور ربوبیت کے حقوق بھی تو ادا کرے، نہ کہ صرف رحمت ہی مانگتا رہے)۔ میں نے کسی کو یہ کہتے نہیں سنا کہ اے میرے پروردگار! تو نے مجھ پر یہ فرض عائد کیا ہے۔ میرے متعلق وہی فیصلہ فرما جو مجھ پر فرض ہے۔

جہاد فی سبیل اللہ:

(آپ صرف عالم و فاضل، فقیہ و عابد اور متقی و پرہیزگار ہی نہ تھے بلکہ مجاہد بھی تھے، حقیقت یہ ہے کہ سچا مومن جہاں عابد و زاہد ہوتا ہے وہاں لازمی طور پر مجاہد بھی ہوتا ہے، اگر وہ میدان جنگ میں دشمنان دین سے قتال نہیں کرتا تو ہر وقت جہاد با انفس میں

مصروف رہتا ہے۔ مترجم)

عبدخیر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جنگ میں ربيع بن خثیمؓ کا رفیق جہاد تھا اس میں انہیں غنیمت میں بہت سے غلام اور مویشی ملے۔ چند دنوں کے بعد مجھے ان کے پاس جانے کا اتفاق ہوا تو ان میں سے کوئی چیز بھی نظر نہ آئی۔ میں نے پوچھا وہ غلام اور مویشی کیا ہوئے؟ جواب میں فرمایا:

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

”تم ہرگز ہرگز نیکی کے کمال کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو (لہذا میں نے ان سب کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا)۔“

توکل علی اللہ:

(توکل اور اعتماد علی اللہ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہر کام کے لیے اس کے مطلوبہ اسباب و وسائل فراہم کیے جائیں اور محنت و کوشش کی جائے اور اس کا نتیجہ کامیابی ہوتی ہے یا ناکامی یہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے۔ یہ توکل کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اس سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ سرے سے دنیوی اسباب و وسائل ہی نہ اختیار کیے جائیں کہ جو کچھ ہونا ہے ہو رہے گا۔ میں ہر حال میں راضی برضائے الہی رہوں گا۔ حضرت ربيع بن خثیمؓ تقویٰ و توکل کے اسی مقام پر فائز تھے۔ مترجم)۔

آپ فالح جیسے موذی اور زندہ درگور کر دینے والے مرض میں مبتلا ہوئے۔ مگر علاج نہ کیا نہ کبھی لب پر کوئی حرف شکایت و الم آیا۔ لوگ آپ سے کہتے کہ آپ علاج کیوں نہیں کرتے؟ آپ جواب دیتے کہ عاد و ثمود اور اصحاب رس سب گزر گئے ان کے درمیان بہت سے مرض تھے اور ان میں علاج کرنے والے بھی موجود تھے لیکن نہ تو علاج کرنے والے ہی رہے اور نہ علاج کرانے والے سب مٹ گئے۔

آخری کلمات:

بالآخر فالح نے مرض الموت کی شکل اختیار کر لی۔ آپ نے لوگوں میں یہ اقرار و اعتراف کیا کہ میں اپنے نفس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں، وہ اپنے نیک بندوں کی شہادت انہیں بدلہ دینے اور ثواب دینے کے لیے کافی ہے میں خدا کی ربوبیت دین اسلام محمد ﷺ کی نبوت و رسالت اور قرآن کی امامت سے راضی ہوں اور اپنی ذات اور اس شخص سے جو میری اطاعت کرے اس بات پر راضی ہوں کہ ہم سب عابدین کے زمرے میں عبادت کریں، حمد کرنے والوں میں اس کی حمد کریں اور مسلمانوں کی خیر خواہی کریں۔

وفات:

مسروقؓ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے اپنی موت کے وقت وہ وصیت کی جو اوپر گزر چکی۔ منذر ثوری کا بھی یہی بیان ہے (یہ وصیت بڑی جامع و مانع ہے جو ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہدایت ہے) آپ کا انتقال کوفہ میں عبد اللہ بن زیاد کی ولایت میں ہوا۔

ابوالعبیدین رضی اللہ عنہما:

ان کا نام معاویہ بن بسرہ بن سواءہ بن عامر بن صعصعہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے مقرب اصحاب میں سے تھے اور ان سے روایت کرتے ہیں۔ یہ بنی نضیر میں سے تھے اور ناپائیدار تھے۔ قلیل الروایت تھے۔

حریر بن ظہیر رضی اللہ عنہما:

حریر بن ظہیر، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

مسلم ابوسعید رضی اللہ عنہما:

مسلم ابوسعید ابی ایقور مسلم ابوسعید سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے ہمراہ زید بن خلیدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے فرمایا: ایک زمانہ ایسا ضرورت پر آئے گا کہ ہر شخص تمنا کرے گا کاش اس کے پاس اونٹ بکریاں اور کوئی جائیداد ہوتی۔

قبیصہ بن برمہ رضی اللہ عنہما:

قبیصہ بن برمہ ان کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابن معاویہ بن سفیان بن محقذ بن وہب بن نضیر بن نصر بن قطعی بن الحارث بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔ قبیصہ اپنی قوم کا سردار تھا اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتا ہے۔ سلام اسدی کہتے ہیں کہ عطاء قبیصہ کو عطیات دے کر بھیجا کرتے تھے اور وہ تقسیم کیا کرتے تھے یہ اپنی داڑھی رنگا کرتے تھے۔

صلہ بن زفر رضی اللہ عنہما:

صلہ بن زفر رضی اللہ عنہما، عسی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حدیفہ اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے کوفہ میں حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں وفات پائی، ثقہ تھے اور ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔

ابوالعشاء الحاربی رضی اللہ عنہما:

ابوالعشاء الحاربی۔ ان کا نام سلیم بن اسود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں کوفہ میں وفات پائی۔

مستورد بن اخف رضی اللہ عنہما:

مستورد بن الاخف، فہری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی ہیں اور ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

عامر بن عبدہ رضی اللہ عنہما:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کنیت ابویاس ہے، بجیلہ میں سے ہیں اور قادیسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔

ابن معیز السعدی رضی اللہ عنہما:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر میں گیا اور مجھ بنی حنیفہ سے گزرا۔

شداد بن الازمع رضی اللہ عنہ:

ابن ابی بشینہ بن عبداللہ بن مرہ بن مالک بن حرب بن الحارث بن سعد بن عبداللہ بن وداعہ ہمدان میں سے۔ یہ اوران کا بھائی حارث بن الازمع رضی اللہ عنہ دونوں کوفے کے شرفاء میں سے تھے۔ شداد نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی ہے۔ انہوں نے کوفے میں بشر بن مروان کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ راوی ہیں۔ مگر بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

سلمی ہیں، عمرو بن عتبہ بن فرقہ سلمی کے خالو ہیں۔ یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں۔ کم روایت کرتے ہیں۔

عمر لیس بن عرقوب رضی اللہ عنہ:

شیبانی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عمرو بن الحارث رضی اللہ عنہ:

ابن المصطلق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ثابت بن قطیبہ رضی اللہ عنہ:

مزنی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ ہیں اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

ابوعقرب الاسدی رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے پاس آیا۔ میں نے آپ کو گھر کے اوپر پایا مگر وہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ یہاں تک کہ سورج نکلے۔ کہتے ہیں کہ ہم صبح کو آپ کے پاس آئے اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کرتے ہوئے سنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری سات راتوں میں سے ایک رات ہے۔

عبداللہ بن زیاد رضی اللہ عنہ:

اسدی ہیں۔ ان کی کنیت ابو مریم ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو رکوع کی حالت میں یہ کہتے ہوئے سنا: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ.

ابو عامر اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو مریم بنی اسد کے آدمی ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنا ظہر میں قرأت کرتے تھے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

خارجہ بن الصلت رضی اللہ عنہ:

قبیلہ بنی تمیم کے برجی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم روایت کیا کرتے تھے۔

حکیم بن زوفل رضی اللہ عنہ

اشجعی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ان کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے تھے۔ اور بہت کم روایت کرتے تھے۔

عبداللہ بن مرداس رضی اللہ عنہ

حارثی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور بہت کم روایت کیا کرتے تھے۔

ہشام بن شہاب رضی اللہ عنہ

سلمی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ ”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ نمازی نماز میں ایک پیر کھڑا کر کے اور ایک پیر بچھا کر التحیات پڑھے نہ کہ دونوں پیر بچھا کر“ یہ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

مروان ابو عثمان رضی اللہ عنہ

عجلی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ ان سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ”دولت مند کا حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنا اس کا ظلم ہے۔ اگرچہ کسی کا قہور ہو پھر بھی اس کا حق ادا نہ کرنا برا ہے“۔

ابو حیان رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ”جب کسی نے سجدہ سے سر اٹھالیا۔ امام کے سر اٹھانے سے پہلے اور امام دوسرے سجدے میں چلا گیا تو پھر اسے سر اٹھانے تک ٹھہرے رہنا چاہیے“۔ (مطلب یہ کہ رکوع یا سجدے میں امام کے سر اٹھانے سے پہلے سر نہیں اٹھانا چاہیے)۔

ابو یزید رضی اللہ عنہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو امام کے پیچھے قرأت کرتے ہوئے دیکھا۔ میرا گمان ہے کہ یہ واقعہ نماز ظہر کا ہے یا نماز عصر کا۔

عبیدہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ

عبدی۔ حضرت عثمان، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ ”وہ جنت جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کان سے سنا وہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے ہیں (یعنی جو راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے اور ذرا الہی میں مصروف رہتے ہیں)۔“

الاحضنؓ

ابو کبیر بن الاحضنؓ ان کو کبیر النضم بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور پوچھا کہ ایک شخص ایک عورت سے زنا کرتا ہے اور پھر اسی کو اپنے نکاح میں لے آتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے یہ آیت پڑھی:

﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾

”اور وہ جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔“

ابو ماجد الحنفیؓ

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو الجعدؓ

وہ ابوسالم بن ابی الجعدؓ اشجعی ہیں اور ان کے مولیٰ۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ ایک شخص کسی عورت سے زنا کرتا ہے اور پھر اسی سے نکاح کر لیتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ دونوں زنا کار ہیں۔ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ نیچے کے راوی نے سالم سے کہا۔ یہ آپ کے والد کا کون سا شخص تھا؟ کہا کہ کتاب اللہ کا قاری تھا اور بہت کم روایت کرتا تھا۔

سعد بن الاحرمؓ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔

ضرار الاسدیؓ

یہ بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی حرص و ہوس کو دس حصوں میں تقسیم کیا۔ اور

اس کا ایک حصہ شام کو بتلایا۔

ابو کنفؓ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عم مہاجر بن شماسؓ

حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما دونوں سے روایت کرتے ہیں۔

ابو یعلیٰ الکندیؓ

یہ حضرت عثمان غنیؓ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت

عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب کہ وہ محصور تھے اور باغیوں نے ان پر هجوم کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا: مجھے قتل نہ کرو۔ یہ

ایک طویل حدیث ہے۔

حشف بن مالک رضی اللہ عنہ:

یہ طائی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور قلیل الروایت ہیں۔

منہال رضی اللہ عنہ:

یہ ابن عمرو نہیں ہیں۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ”اگر کوئی شخص مجھ سے زیادہ قرآن کا علم رکھے والا ہو تو اس کو میں اپنا فہم و عمل پہنچا دیتا“۔

نضج رضی اللہ عنہ:

یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے مولیٰ ہیں اور انہی سے روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں میں سب سے زیادہ خوشبو کو پسند کرتے اور صاف سحر لباس پہنتے تھے۔

عدسۃ الطائی رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں ایک پرندہ کو شکار کر کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس لایا جس کو شراف سے پکڑا تھا آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ اس پرندہ کو پکڑوں۔

سلیمان بن شہاب رضی اللہ عنہ:

عسی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے حمین اور حلام بن صالح روایت کرتے ہیں۔

حلام ابن صالح، سلیمان بن شہاب عسی سے اور وہ عبداللہ بن معتم عسی سے دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث روایت کرتے ہیں۔

محمد کہتے ہیں کہ مجھ سے اس کے بعد گھر والوں نے بیان کیا کہ ابن معتم وہ ہے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور وہ روایت کرتے ہیں کہ ان کو صحبت حاصل تھی۔

مؤثر بن غفاوہ رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ شب اسرای کی روایت (یعنی معراج کا واقعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں)۔

والان رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے غلام کے ذبیحہ کا مسئلہ پوچھا۔

عمیرۃ بن زیاد رضی اللہ عنہ:

کندی ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ”جب توحج کا ارادہ کرے تو اس کو پورا کر“۔

ابو البرضاء رضی اللہ عنہ:یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں ایک روایت کرتے ہیں۔ابوزید رضی اللہ عنہ:انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں ”لیلۃ الجن“ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔وائل بن مہانہ رضی اللہ عنہ:حضرمی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قلیل الروایت تھے۔بلاز بن عصمہ رضی اللہ عنہ:حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔وائل بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہر زمین و آسمان کا فاصلہ پانچ سو سال کا ہے۔ زر وائل بنربیعہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا: کہ مجھ پر سات تکبیریں کہنا۔ جیسا کہ تم نے اپنے بھائی پر سات تکبیر کہیں۔ ابو حصین کہتے

ہیں کہ میں نے وائل بن ربیعہ کو ایک خاص قسم کا ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ سبت بن رافع وائل بن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں۔

ولید بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:بجلی پھر قسری بنی خزیمہ میں سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔عبداللہ بن حلام رضی اللہ عنہ:عسی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور قلیل الروایت تھے۔فلغلہ الجعفی رضی اللہ عنہ:حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قلیل الروایت ہیں۔یزید بن معاویہ رضی اللہ عنہ:عامری ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ بنمسعود رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا کہ ”تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تمہارے پاس چوڑے سر اور ناک والے آئیں گے“۔ارقم بن یعقوب رضی اللہ عنہ:حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب تم پر

ترک خروج کریں گے۔

حظلمہ بن خویلد رضی اللہ عنہ:شیبانی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ”اللہ کا بزرگ بندہ وہ ہے جو بارگاہ

الہی میں یہ دعا مانگا کرے اے اللہ میں تجھ سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر مانگتا ہوں۔“
عبدالرحمن بن بشر رضی اللہ عنہما:

ارزق انصاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ قلیل الحدیث تھے۔

براء بن ناجیہ رضی اللہ عنہ:

کاہلی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں ”اسلام کی سچکی پھرتی ہے۔“

تمیم بن حذلم رضی اللہ عنہ:

ضی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ابویحیٰ ان کہتے ہیں کہ تمیم بن حذلم رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔ اور بہت کم حدیث بیان کیا کرتے تھے۔

حوط العبیدی رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور قاضی شریح رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ:

ابن فرقد سلمیٰ اور ان کے خالو عبداللہ بن ربیعہ سلمیٰ ہیں۔ عتبہ بن فرقد ان کے باپ کی صحبت میں رہے تھے۔ عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ بڑے عبادت گزاروں میں سے تھے۔ عتبہ بن فرقد کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور سورہ مؤمن کا پہلا رکوع شروع کیا۔ جب اس آیت تک پہنچے:

﴿وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَذْقَانِ إِذَا الْقُلُوبُ لَدَى الْعُنَابِ كَأَنَّهُمْ كَاظِمِينَ﴾

”اور آپ ان کو ایک قریب آنے والے مصیبت کے دن سے (یعنی روز قیامت) سے ڈرائیے جس وقت کھجے منہ کو آجائیں گے اور (غم سے) گھٹ گھٹ جائیں گے۔“

تو آپ رونے لگے۔ قرأت ختم کر دی بیٹھ گئے۔ پھر کھڑے ہوئے اور یہی آیت پڑھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور آیت ختم کر دی۔ اسی طرح اس آیت کو پڑھتے پڑھتے اور روتے روتے صبح کر دی۔ پھر فرمایا: قرآن کی تلاوت کا حق یا حسن عمل یہ ہے بیٹے! یوں عمل کر۔

عمرو بن عتبہ اور معتمد بن یزید الجلی دونوں نے کوفہ کے عین بیچ میں مسجد بنائی۔ سوان کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اس بے ضرورت مسجد کو گرا دوں۔ عمرو بن عتبہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور علقمہ رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز پڑھائی۔ فقہ راوی ہیں ان سے چند احادیث مروی ہیں۔

قیس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

یہ ہمدانی ہیں۔ عامر بن شراحیل اشعسی کے چچا ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

قیس بن حبرؓ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔ حبذا المکروہان

عنبس بن عقبہؓ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔

یزید بن حیان کا بیان ہے کہ یہ مسجد میں نماز پڑھتے۔ سجدہ کرتے تو چڑیاں آپ کی پشت پر آ بیٹھتیں (سجدے میں اتنی دیر اور محویت ہوتی) اور اڑ جاتیں۔ یہ کم روایت کرتے تھے۔

لقیط بن قبیصہؓ

فزاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔

حصین بن عقبہؓ

فزاری۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت سلمان فارسیؓ سے روایت کرتے ہیں۔

شبرمہ بن الطفیلؓ

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”ایک شخص اپنے دین کو لے کر ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے۔ جب اس کے پاس سے واپس ہوتا ہے تو اس کا دین اس کے ساتھ نہیں ہوتا۔ ایک شخص نے پوچھا اے ابو عبدالرحمن! یہ کیسے؟ فرمایا اس طرح کہ وہ اس کو کسی ایسی بات پر آمادہ یا راضی کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔“

عبدالرحمن بن حمیسؓ

اسدی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے متعلق روایت کرتے ہیں کہ آپ کو میں نے بڑا خوش لباس اور خوشبو سے

معطر دیکھا ہے۔ آپ کی طبیعت میں بڑی نفاست و پاکیزگی تھی۔

عمیرؓ

ابو عمران بن عمیر مولیٰ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا آزاد کردہ آپ سے روایت کرتے ہیں یہ اپنے والد سے روایت کرتے

ہیں کہ وہ مکہ کے ایک سفر میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہمراہ نکلے۔ قطرة الحیرة مقام پر پہنچ کر آپ نے دو رکعت نماز پڑھی۔

ان کی والدہ کہتی ہیں کہ ان کے باپ نے حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ہمراہ جمعہ کی نماز پڑھی نیز یہ بھی کہ انہوں نے نہر حیرہ پر اتر کر دو رکعت نماز پڑھی عصر کی (یعنی قصر کر کے)۔

کردوس بن عباسؓ

غطفان کی شاخ ثعلبی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور بہت کم روایت کرتے ہیں۔

سلمہ بن صہیبہ رضی اللہ عنہما:

ان سے ابواسحاق سمیعی روایت کرتے ہیں۔ سلمہ کا کہنا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔

عبدہ النہدی رضی اللہ عنہ:

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابوعبیدہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن مسعود البہذلی۔ یہ اپنے والد سے بہت سی روایتیں کرتے ہیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے انہوں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کچھ نہیں سنا۔ ہاں ابی موسیٰ اور سعید بن زید الانصاری رضی اللہ عنہما سے سنا ہے۔ یہ ثقہ راوی تھے اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

ابن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوعبیدہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے کوئی روایت یاد ہے؟ فرمایا: نہیں۔ اسماعیل بن ابی خالد سے روایت ہے کہ میں نے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہ بڑے خوبصورت تھے۔ ایک اونٹنی پر سوار تھے اور ان کا چہرہ دینار کی طرح دمکتا تھا یہ ایک خاص قسم کا ریشمی لباس پہنتے تھے۔ اور سیاہ عمامہ باندھتے تھے۔ سعید القطان کہتے ہیں کہ علماء ابوعبیدہ بن عبداللہ کو بڑی فضیلت دیتے تھے۔

عبید بن نصیبہ رضی اللہ عنہما:

خزاعی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا قرأت ان سے حاصل کی۔ سو اس سے زیادہ کس کی قرأت بھروسے کے قابل ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کوفے میں بشر بن مروان کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھے اور بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔ تابعین رضی اللہ عنہم کا وہ طبقہ جو حضرت عثمان، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حدیفہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت خالد بن ولید، حضرت ابی مسعود انصاری، حضرت عمرو بن العاص، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے کچھ روایت نہیں کرتا۔

موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن عبداللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ۔ ان کی والدہ خولہ بنت القحطاع بن معبد بن زرارہ قبیلہ تیم میں سے تھیں۔ یہ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں ۳۵ھ میں وفات پائی۔ ان کے جنازے کی نماز صفر ابن عبداللہ مزی نے پڑھائی۔ یہ عمرو بن بہیرہ کی طرف سے کوفے کے عامل تھے۔ انہوں نے سونے کے دانت لگوا لیے تھے۔ خاص قسم کا ریشمی لباس پہنتے تھے داڑھی کو دسمہ لگاتے تھے ان کے گھر والے ان کی کنیت ابو عیسیٰ کرتے تھے۔

یہ حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت ابوذر رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں ان کی کنیت ابو محمد بھی بتلائی جاتی ہے۔

سلمة بن سرہ رضی اللہ عنہ:

یہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ہمیں خطبہ دیا۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ابووائل رضی اللہ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔

عزرة بن قیس رضی اللہ عنہ:

یہ احمد بن حنبلہ سے ہیں۔ بجلی ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ شام کی جنگوں میں ان کے ہمراہ رہے ہیں۔ ان سے ابووائل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

اوس بن معصم رضی اللہ عنہ:

حضرمی ہیں۔ حضرت سلمان اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے بڑی عمر پائی، مشہور ثقہ راوی تھے۔ مگر کم روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا۔

الاشتر رضی اللہ عنہ:

ان کا نام مالک بن الحارث بن عبد یغوث بن مسلمہ بن ربیعہ بن الحارث ابن جدیمہ بن سعد بن مالک بن النخع ہے۔ مدینہ میں سے ہیں۔ یہ اشتر وہی ہیں جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مشہور اصحاب میں سے ہیں، جنگ جمل اور صفین میں ان کے ساتھ ہر حال میں شریک رہے اور تمام حالات و واقعات کا مشاہدہ کیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو مصر کا والی بنا دیا تھا۔ جب یہ مصر کو روانہ ہوئے، مقام عریش پر پہنچے، شہد کا شربت پیا اور ان کا

انتقال ہو گیا۔

یحییٰ بن رافع رضی اللہ عنہ:

ثقفی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مشہور راوی تھے۔ مگر کم روایتیں کرتے ہیں۔

بلال العبسی رضی اللہ عنہ:

روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے جمعہ کی نماز حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے ساتھ پڑھی۔

ابوداؤد رضی اللہ عنہ:

مدائن میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ایک خطبہ میں شریک تھے۔

یشم بن الاسود رضی اللہ عنہ:

نسب نامہ یہ ہے۔ ابن اقیس بن معاویہ بن سفیان بن ہلال بن عمرو بن یشم بن عوف ابن النخع مدینہ میں سے تھے۔

خطیب اور شاعر تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد اسود بن اقیس

قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے اور اسی جنگ میں شہید ہوئے۔

ان کے بیٹے عریان بن الہشتم قبیلہ مذحج کے شرفاء میں سے تھے۔ خالد بن عبداللہ قسری حاکم کوفہ نے ان کو شرط کا والی بنا دیا تھا۔

ابو عبداللہ الفاسیؓ:

ہمدان سے ہیں۔ حضرت حذیفہ اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی تھے۔ قلیل

الروایت ہیں۔

عبید بن کربؓ:

عمسی ہیں۔ کنیت ابو یحییٰ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ وہ ابی المقدم کے ساتھی ہیں۔

ابو عمار الفاسیؓ:

ہمدان میں سے ہیں۔ حضرت حذیفہ اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی تھے۔ بہت

کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

ابو راشدؓ:

یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور اس کو طویل کیا جائز حد تک۔ پھر فرمایا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم خطبہ زیادہ طویل کریں۔

فائد بن بکیرؓ:

عمسی ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

خالد بن ربیعؓ:

عمسی ہیں اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

سعد بن حذیفہؓ:

ابن الیمان۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن ابی بصیرؓ:

عبدی ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

سلیم بن عبیدؓ:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو الحجاج الازدیؓ:

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے ابو اسحاق سمعی روایت کرتے ہیں۔

جمع ابوالرداع الازجی رضی اللہ عنہما:

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

شہب بن ربعی رضی اللہ عنہما:

ان کی کنیت ابو عبدالقدوس بن حصین بن عیشم بن ربیعہ بن زید بن رباح بن یربوع بن حنظلہ ہے۔ قبیلہ بنی تمیم میں سے۔
خصف بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے اعمش رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ میں شہب کے جنازے میں شریک تھا، ان کی قبر پر اس
کے تمام غلام، لونڈیاں، گھوڑے اور اونٹنیاں آکھڑی ہوئیں اور ان کے غلام و لونڈیاں ان کو یاد کر کے روتے اور مختلف طرح سے ان کو
یاد کرتے تھے۔

مسیب بن نجہ رضی اللہ عنہما:

ابن ربیعہ بن رباح بن عوف بن ہلال بن شمع بن فرارہ۔

یہ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تمام حالات میں ساتھ دیا۔ یوم العررہ میں ان کو توبہ کرنے والوں
میں تھے، جنہوں نے حضرت سیدنا حسین پر خروج کیا تھا اسی دن قتل ہوئے، حصین ابن نمیر نے مسیب بن نجہ کا سرازم بن محرز الباہلی
کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کا سر مروان بن الحکم کے پاس بھیج دیا اور اس نے دمشق میں اس
کو لٹکا دیا۔

مطر بن عکامس السلمی رضی اللہ عنہما اور ملحان بن ثروان رضی اللہ عنہما:

دونوں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

فضیل بن یزدان رضی اللہ عنہما:

سفیان رضی اللہ عنہما اعمش رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ فضیل بن یزدان رضی اللہ عنہما سے کہا گیا آپ کو فلاں شخص گالی دیتا ہے اس نے
کہا میں اس پر نہیں بلکہ شیطان پر لعنت بھیجتا ہوں جس نے اسے اس بد اخلاقی پر آمادہ کیا۔ اللہ مجھے بھی معاف کرے اور اس کو بھی۔
وہ طبقہ جو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتا ہے۔

حجر بن عدی رضی اللہ عنہما:

ابن جبلہ بن عدی بن ربیعہ بن معاویہ اکبر بن الحارث بن معاویہ بن الحارث بن معاویہ بن ثور بن مرتع بن کندی۔ اس کا
باپ عدی ادبر ہے۔ حجر نے جاہلیت کا زمانہ بھی پایا اور اسلام کا بھی۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ اپنے باپ ہانی بن عدی کے ہمراہ
ایک وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا۔ حجر قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوا اور اس نے مروج عذری کو فتح کیا تھا۔ اور انعام ملا تھا۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھا جنگ جمل و صفین میں ان کے ہمراہ رہا۔

جب زیاد بن ابی سفیان کوفے کا گورنر ہوا تو اس نے حجر بن عدی کو بلایا۔ اور کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں، ہمارا حضرت
علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو نزاع و معاملہ ہے تو اچھی طرح جانتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت رکھتا ہے۔ تو نے ان کے ساتھ

شریک ہو کر سب کچھ کیا ہے۔ اگرچہ تو گردن زدنی ہے مگر میں تجھے معاف کرتا ہوں اپنی زبان روک اور اپنی حیثیت کو پہچان۔ میں اس وقت برسر اقتدار ہوں۔ تیرے ساتھ جو معاملہ چاہوں کر سکتا ہوں۔ لہذا تو ان سے الگ ہو کر ہمارا ساتھ دے۔ تیری قدر و منزلت ہوگی اور ہر حاجت پوری ہوگی! پس اسے ابو عبد الرحمن! اب تو اچھی طرح سوچ سمجھ لے اور جو راستہ چاہے اختیار کر۔ اپنے آپ کو بے وقوف شیعوں سے بچا۔ ان کا ساتھ نہ دے۔ وہ تجھے بہکا رہے ہیں۔ اگر تو حب علی رضی اللہ عنہ سے باز نہ آیا تو میں تجھے سزا دوں گا۔

حجر نے یہ سب کچھ سن کر کہا: میں کسب کچھ سمجھتا ہوں۔ پھر اس کے پاس سے نکل کر اپنے گھر آیا اس کے ساتھ شیعہ بھی آگئے۔ انہوں نے پوچھا: امیر نے کیا کہا اور تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے سب کچھ کہہ دیا کہ امیر نے یہ یہ کہا ہے۔ انہوں نے کہا تو نے اس سے کیا نصیحت حاصل کی؟ اس نے بعض باتوں پر اعتراض کیا۔ اور کچھ باتوں کے مان لینے پر آمادگی ظاہر کی۔ شیعوں میں بھی اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس کی اطاعت سے انکار کر دیں اور اپنے مسلک و روش پر ڈٹے رہیں۔ اس پر یہ مجلس ختم ہو گئی۔

جب وہ مسجد میں آیا اس کے ہمراہ وہ بھی آئے تو اس کے پاس ابن زیاد کے خلیفہ عمرو بن حریث نے ایک قاصد بھیجا زیاد اس وقت بصرہ میں تھا قاصد نے کہا کہ یہ شیعوں کی جماعت ابھی تک تمہارے ساتھ ہے حالانکہ تم نے تو امیر کی اطاعت اختیار کر لی ہے؟ اس نے قاصد سے کہا تم غلط روش پر ہو نہیں تمہاری روش اختیار کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ جاؤ تمہیں اختیار ہے جو چاہو کرو۔ قاصد نے یہ بات عمرو بن حریث کو لکھ دی۔ عمرو بن حریث نے ابن زیاد کو لکھ دیا کہ اگر کوئی کو پہچانا ہے تو جلدی کو فہ پہنچو چنانچہ وہ فوراً کوئی آیا اور حجر بن عدی کے پاس جریر بن عبد اللہ الجعفی، خالد بن عرفہ عذری، حلیف بن زہرہ اور دیگر شرفاء کو بھیجا کہ وہ عدی اور اس کی جماعت کو عذر و بغاوت سے روکیں اور سمجھائیں۔ اور وہ اپنی زبانوں کو روکیں۔ یہ لوگ حجر کے پاس آئے۔ مگر اس نے اور اس کی جماعت نے ان کی کوئی بات نہ سنی۔ نہ کسی نے ان کے ساتھ کلام کیا اور مصالحت کی یہ کوشش ناکام رہی۔

حالات یہاں تک خراب ہوئے کہ آخر کار حجر اور اس کے ساتھیوں کو زیاد کے سامنے پیش کیا گیا زیاد نے اس سے اور اس کے ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ تم نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ افسوس ہے تجھ پر اور تیرے ساتھیوں پر حجر نے کہا بات اصل میں یہ ہے کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت اور فرمانبرداری نہیں کروں گا۔

حجر کی اس نمرود سرکشی پر زیاد نے کوفہ کے ستر شریف و معتبر لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حجر اور اس کے ساتھیوں کی اس سرکشی اور بغاوت پر اپنی گواہی لکھو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اس طرح یہ گواہیاں مکمل ہو گئیں تو اس وفد کے ساتھ حجر اور اس کے ساتھیوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے عبد الرحمن بن الحارث ابن ہشام المخزومی کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ وہ ان کو رہا کر دیں۔ لیکن ان کو اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ان کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ زیاد کا خط پیش کرو۔ سو آپ کے سامنے وہ خط پڑھا گیا۔ وہ سب گواہ بھی آئے اور شہادتیں دیں۔ آپ نے ان کو قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا حجر اور اس کے ساتھیوں کو مقام "عذراء" میں لے

جایا گیا۔ حجر نے پوچھا یہ کون سا قریہ ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ عذراء ہے۔ اس نے کہا الحمد للہ۔ میں پہلا مسلمان ہوں جس پر اللہ کی راہ میں کتے بھونکے ہیں۔

ہر شخص کو ایک ایک شامی کے حوالہ کیا گیا کہ وہ اس کو قتل کر دے۔ حجر کو حمیر کے ایک شخص کے حوالہ کیا گیا۔ جب وہ آپ کے قتل پر آمادہ ہوا تو انہوں نے کہا: مجھے صرف دو رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ اس نے اجازت دے دی۔ آپ نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ وہ ذرا طویل ہوئی۔ طنزاً کہا گیا کہ کیا اب آپ موت کے ڈر سے ان رکعتوں کو طول دے رہے ہیں۔ آپ نے سلام پھیر کر ان سے کہا کہ میں نے کوئی ایسا وضو نہیں کیا جس کے بعد نماز نہ پڑھی ہو اور اس سے زیادہ ہلکی نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی۔ اگر میں موت سے ڈرتا اور گھبراتا تو تم مجھے کفن بردوش، تلوار بکف اور اپنی قبر کھدی ہوئی دیکھتے (یعنی میں اس طرح صبر و شکر کے ساتھ تمہارے ہمراہ نہ ہوتا اور مقتل میں نہ آتا بلکہ تم سے جنگ کرتا اور لڑتا ہوا مارا جاتا) ان کے عزیز و اقرباء ان کے لیے کفن بھی لے کر آئے تھے اور قبر بھی کھود رکھی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ ہی نے ان کے لیے کفن بھی بھیجا اور قبر بھی کھدوائی تھی۔ حجر رضی اللہ عنہ نے مرنے سے پہلے یوں دعا مانگی:

”اے اللہ! ہم موت کو لیک کہتے اور مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اہل عراق نے ہمارے خلاف گواہیاں دی ہیں اور اہل شام ہمیں قتل کر رہے ہیں۔“

یہ کہہ کر آپ نے قتل کے لیے گردن جھکا دی۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے قتل پر بنی سلمان بن سعد کے ایک شخص ہد بہ بن فیاض کو مامور کیا تھا اسی نے ان کو قتل کیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ وہ تیرہ آدمی تھے۔ ان میں سے جب سات قتل کر دیئے گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے باقی چھ کو معاف کر دیا۔ وہ قتل سے بچ گئے۔

یہ مشہور و معروف ثقہ راوی تھے مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سوا کسی اور سے کوئی روایت نہیں کی۔

صعصہ بن صوحان رضی اللہ عنہ:

ابن حجر بن الحارث بن الجرس بن صبرہ بن حدجان بن عساس بن لیث بن حداد بن ظالم بن ذہل بن عجل بن عمرو بن ودیعہ بن افضی بن عبد القیس بن ربیعہ۔

صعصہ زید بن صوحان کا بھائی تھا اس کی ماں اور باپ کا۔ ان کی کنیت ابو طلحہ تھی۔ کوفہ کے کاتبوں میں سے تھا اور خطیب بھی تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھا وہ اور ان کے دو بھائی زید و سحان صوحان کے بیٹے جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حمایت میں شریک ہوئے۔ سحان صعصہ سے پہلے خطیب تھے۔ جنگ جمل میں صعصہ علمبردار تھا۔ جب وہ مارا گیا تو جھنڈا زید نے لے لیا۔ وہ بھی مارا گیا۔

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتا ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن باتوں سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔

یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کرتا ہے۔ اس نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی گورنری کے زمانے میں کوفے میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھا بہت کم روایت کرتا تھا۔

عبدخیر بن یزید رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے حیوانی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ ان کی کنیت ابوعمارہ ہے۔

محمد بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص بن اہیب بن عبدمناف بن زہرہ۔ کوفے میں آباد ہو گئے تھے، دیرالجمہور میں عبدالرحمن بن محمد بن الاضحیٰ کے ہمراہ خروج کیا تھا۔ ان کو حجاج کے پاس لایا گیا۔ اس نے انہیں قتل کر دیا۔ ان کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ثقہ راوی تھے، کئی احادیث کے راوی ہیں۔

مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی وقاص، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کوفے میں آباد ہو گئے تھے۔ وہیں ۱۰۳ھ میں وفات پائی۔ ان سے اسحاق بن ابی خالد وغیرہ روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی تھے ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

عاصم بن ضمرہ رضی اللہ عنہ:

قیس عیلان کے سلولی ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بشر بن مروان کی ولایت کے زمانہ میں کوفے میں فوت ہوئے۔ ثقہ تھے۔ کئی

احادیث کے راوی ہیں۔

زید بن شیح رضی اللہ عنہ:

حضرت علی اور حضرت حذیفہ الیمان رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ کم حدیثیں بیان کرتے تھے۔

شریح بن العثمان رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے صائری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ہانی بن ہانی رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ شیعہ تھے۔ مکر۔

ابوالہبیاج الاسدی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عبید بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے خارجی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے ابواسحاق السہمی روایت کرتے ہیں۔ مشہور

راوی تھے۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔

میسرہ ابوصالح رضی اللہ عنہ:

مولیٰ کنذہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عطاء بن سائب ان سے روایت کرتے ہیں میسرہ سے کئی احادیث

مردی ہیں۔

میسرہ بن عزیز رضی اللہ عنہ:

کنذی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ جب ان کے آقائے وفات پائی اور ایک لڑکی چھوڑی تو ہم

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ترک کا نصف حصہ مجھے دیا اور نصف لڑکی کو۔

میسرہ ابو جمیلہ رضی اللہ عنہ:

بنی تیم کے ظہوی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

میسرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ:

ہندی ہیں۔ ان کا گزرا ایسے لوگوں پر ہوا جو شطرنج کھیل رہے تھے۔ ان کو کہا: مَا هَذِهِ التَّمَانِيْلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَلِكُمْونَ. یہ

کیا بات ہیں جن کو تم پوج رہے ہو۔ یعنی اس برے کام سے باز آؤ۔

ابوظبیاں رضی اللہ عنہ:

ان کا نام حسین بن جندب بن عمرو بن الحارث بن مالک بن وحشی ابن ربیعہ بن منبہ بن یزید بن حرب بن علی بن ابی طالب بن مالک

بن اودبہ۔ مدح میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے یزید بن حرب کے چھ بیٹے تھے ان میں سے ایک منبہ ابن یزید ہے۔ ابوظبیاں حضرت علی

حضرت ابوموسیٰ اشعری حضرت اسامہ بن زید اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ ۹۰ھ میں کوفے میں وفات

پائی۔ ثقہ ہیں۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

جعیہ بن عدی رضی اللہ عنہ:

کنذی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ہند بن عمرو رضی اللہ عنہ:

قبیلہ مراد کے جملی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حنش بن المعتمر رضی اللہ عنہ:

کنانی ہیں۔ کنیت ابو معتمر ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

اسماء بن الحکم رضی اللہ عنہ:

فزاری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

اصح بن نباتہ رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث بن عمرو بن فاتک بن عامر بن مجاشع بن دارم۔ بنی تمیم میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ان کے اصحاب میں سے تھے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کووال بھی تھے۔ داڑھی رنگتے تھے شیعہ تھے۔ ان کی روایت ضعیف ہے۔ قابوس بن الحارث رضی اللہ عنہما:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ربیعہ بن ناجد رضی اللہ عنہما:

ازدی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہما:

ازدی ہیں۔ بنی والہہ میں سے ایک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت زید بن ارقم اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی کنیت ابوالمغیرہ تھی۔

فطر کہتے ہیں کہ میں نے علی بن ربیعہ رضی اللہ عنہما کو دیکھا ہے۔ ان کی داڑھی سفید تھی۔ ہم اس وقت بچے تھے۔ ہمیں انہوں نے سلام کیا۔ مشہور ثقہ راوی تھے۔

ابوصالح السمان رضی اللہ عنہما:

ان کا نام ذکوان ہے۔ اور وہ ابوسہیل بن ابی صالح، قیس کی عورت جویریہ کے مولیٰ ہیں وہ اہل مدینہ تھے کوفہ میں بنی مائل کے محلے میں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ان کے امام تھے یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور ابوصالح سے اہل کوفہ حکم بن عتیہ، عاصم بن ابی الجعد اور اعش روایت کرتے ہیں اور اہل مدینہ سے عبداللہ بن دینار، قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم روایت کرتے ہیں۔

مغیرہ اپنے والد سے اور وہ ابوصالح سمان سے روایت کرتے ہیں کہ ”میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا یا کسی شخص نے پوچھا کہ میرے پاس کچھ دراہم ہوتے ہیں میں ان کو اپنی حاجت و ضرورت پر خرچ نہیں کرتا ان سے اور دراہم خرید لیتا ہوں پھر ان کو اپنی ضرورت پر خرچ کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں ایسا نہ کرو بلکہ اپنے دراہم سے سونا خرید لو پھر سونے سے دراہم خرید لو اور ان کو اپنی حاجت پر صرف کرو۔“

ابوصالح ثقہ تھا۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

ابوصالح الزیات رضی اللہ عنہما:

ان کا نام سمج ہے۔ بہت کم حدیثیں بیان کرتے ہیں۔

ابوصالح الحنفی رضی اللہ عنہما:

ان کا نام عبدالرحمن بن قیس ہے۔ یہ بھائی ہیں طلح بن قیس حنفی کے۔ یہ ثقہ راوی تھے۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔

عمارہ بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

جرمی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عمارہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

سلولی۔ حضرت علی اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

ابوصالح الحنفی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام ماہان ہے۔

ابوعبداللہ الجذلی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام و نسب یہ ہے۔ عبدة بن عبد بن عبد اللہ بن ابی بکر بن حبیب بن عائدہ بن مالک بن وائلہ بن عمرو بن ناج بن یسکر بن عدوان۔ اور اس کا نام الحارث ہے۔ ابن عمرو بن قیس بن عیلان بن مضر۔ الحارث کو عدوان اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے بھائی قیس بن عمرو سے دشمنی کی اور اس کو قتل کر دیا۔ عدوان کی ماں اور قیس بن عبد یلہ بنت مزار بن طایحہ تمیم بن مزر کی بہن سے منسوب تھی۔ ان کو حدیث میں ضعیف بتلایا جاتا ہے اور یہ شدید قسم کا شیعہ تھا۔ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ مختار کا کو تو ال تھا۔ یہ عبد اللہ ابن الزبیر رضی اللہ عنہ کے پاس ۱۰۵ھ میں کوفے میں آیا تھا۔ تاکہ ان کا ساتھ دے اور محمد بن حنفیہ کو اس ارادے سے روکے جو ابن زبیر کے خلاف ان کا تھا۔

مسلم بن نذیر رضی اللہ عنہ:

یہ بنی سعد بن زید مناہ بن تمیم میں سے سعدی ہیں اور یہ عقی بن ضمیرہ سعدی کے چچا کے لڑکے ہیں۔ یہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور مسلم بن نذیر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم حدیثیں روایت کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ رجعت پر ایمان رکھتے تھے۔

ابو خالد الوالی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام ہرمز ہے۔ بنی اسد کے موالی میں سے ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔

ناجیہ بن کعب رضی اللہ عنہ:

حضرت علی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

عمیرہ بن سعد رضی اللہ عنہ:

یہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ فرات کے کنارے پر تھے۔ ایک کشتی گزری جس کا بادبان کھلا ہوا تھا۔

عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ:

ابن خارف الفاکشی۔ ہمدان میں سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ قلیل الحدیث تھے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ

ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نکلے آپ کا ارادہ مسکن کا تھا۔ آپ نے جسر اور قنطرہ کے درمیان دو رکعتیں پڑھیں (یعنی نماز قصر کی)۔

عبدالرحمن بن زید رضی اللہ عنہ ہمدانی کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ مال تقسیم کر رہے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ آپ اس تقسیم میں سے مجھے کوئی حصہ کیوں نہیں دیتے؟ اس وقت میرے جسم پر عمدہ لباس تھا آپ نے میری طرف دیکھا اور اچھے لباس میں پایا آپ نے فرمایا تو اس سے غنی ہے، تجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے عرض کیا ہاں بات تو یہی ہے۔ آپ نے فرمایا تو پھر تیرے لیے اس مال میں بہتری نہیں۔ یہ بڑے خوبصورت و جہرہ اور گھنے بالوں والے تھے اور عمدہ و نفیس لباس پہنتے تھے۔
ظلیان بن عمارہ رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روایت کرتے ہیں کہ قبیلہ عکک کے کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت کو لے کر آئے ان دونوں کو انہوں نے ایک لحاف اور بستر میں پایا تھا اور ان کے پاس شراب و خوشبو رکھی ہوئی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ دونوں خبیث ہیں۔ آپ نے فرمایا: حد کے علاوہ ان دونوں کو کوڑے لگاؤ۔

عبدالرحمن بن عوسجہ رضی اللہ عنہ:

ہمدانی بھی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور بہت کم روایت کرتے ہیں۔

ریان بن صبرہ رضی اللہ عنہ:

حنفی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ نہروان میں شریک ہوئے۔ کہتے ہیں کہ میں ان میں تھا جو نکالے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے خوش ہو گئے، اس سے پہلے کہ وہ ان کے پاس پہنچیں، جب ہم آپ کے پاس پہنچے تو آپ سجدہ میں تھے۔
عبداللہ بن حلیل رضی اللہ عنہ:

حضرمی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت کم حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

یزید بن حلیل رضی اللہ عنہ:

نحشی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور قلیل الروایت ہیں۔

سوید بن جہیل رضی اللہ عنہ:

انجعی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں اور مشہور و معروف نہیں۔

حجار بن ابجر رضی اللہ عنہ:

ابن جابر بن بحیر بن عائد بن شریط بن عمرو بن مالک بن ربیعہ۔ عجل میں سے یہ ایک شریف آدمی تھے، حضرت

علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عدی بن القرس رضی اللہ عنہ:

بنی عبید بن رواحہ میں سے۔ ان کا نام الحارث بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن حصصہ ہے انہوں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس

میں تین طلاقوں کا اختیار دے دیا تھا کہ وہ اپنے نفس پر تین طلاقیں واقع کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو طلاق بائن قرار دیا اور طلاق واقع ہو گئی۔

قبیصہ بن ضبیعہ رضی اللہ عنہما:

عسی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور بہت کم روایت کیا کرتے تھے۔

مغیرہ بن حذاف رضی اللہ عنہما:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہمدان سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا:

اے امیر المومنین! میں نے قربانی کے لیے ایک حاملہ گائے خریدی ہے اور اس نے بچہ دے دیا ہے آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اور اس کے بچہ کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا: تجھے اس کا دودھ نہیں دوہنا چاہیے۔ ہاں اس کے بچہ کے دودھ پینے کے بعد جو دودھ بچ جائے وہ تو نکال سکتا اور اپنے استعمال میں لاسکتا ہے۔ سو اس نے عید الاضحیٰ کے دن اس گائے اور اس کے بچے دونوں کو اپنے گھر والے سات افراد کی طرف سے بطور قربانی ذبح کر دیا۔

ریاش بن ربیعہ رضی اللہ عنہما:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس شخص کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی عورت سے کہا تو طلاق تہ ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو تین طلاقیں قرار دیا۔

کعب بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عبد اللہ العبدی کا بیان ہے کہ میں نے کعب بن عبد اللہ کو یہ کہتے سنا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے۔ پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں و جوتوں پر مسح کیا اور پھر نماز ظہر ادا کی۔

خالد بن عرعہ رضی اللہ عنہما:

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں۔

حبیب بن حماز رضی اللہ عنہما:

اسدی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابن النباح رضی اللہ عنہما:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مؤذن ہیں۔ اور مکاتب غلام تھے۔ مکاتب کے بارے میں ایک حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے مکاتب کر دیا گیا (مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس کا آقا سے اس شرط پر آزاد کر دے کہ اگر تو

مجھے اتنی رقم ادا کر دے تو تو آزاد ہے) تو میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے مکاتب غلام بنا دیا گیا ہے۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ رقم ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا: اپنے بھائیوں کو جمع کروان سے مدد لو۔ سو بھائیوں نے مل کر رقم جمع کی۔ شرط کی رقم کے علاوہ کچھ بچ بھی رہی۔ وہ میرے کام آئی۔ میں پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور سب کچھ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا: یہ رقم اپنے مالک کو دے کر آزاد ہو جاؤ۔

حریث ابن مخش رضی اللہ عنہ:

قیسی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ خوارج کی طرف روانہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ حدیث خوارج

روایت کرتے ہیں۔

یحییٰ الحضرمی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حدیث کم بیان کیا کرتے تھے اور ان کے بیٹے بھی۔

عبداللہ بن یحییٰ رضی اللہ عنہ:

حضرمی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن سبيع رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یزید بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

اودی۔ وہ ابوداؤد درلیس کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

عمنترہ رضی اللہ عنہ:

یہ ابوہارون بن عنترہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ ان کی کنیت عنترہ ابودکعب تھی۔

ولید بن عقبہ رضی اللہ عنہ:

لیثی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اٹھائیسویں رمضان کو روزہ رکھ لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہمیں حکم دیا

کہ اس دن کا قضا روزہ رکھیں۔

یزید بن مذکورہ رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یزید بن قیس رضی اللہ عنہ

خاری ہیں۔ ان کو ارجبی ہمدان میں سے بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے تھے۔
ابوماویہ الشیبانی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
عبدالاعلیٰ رضی اللہ عنہ:

ابراہیم بن عبدالاعلیٰ کے باپ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
حیان بن مرشد رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں "جس نے دروازہ بند کیا یا دروازے پر پردہ ڈالا اس پر میرا واجب ہے"۔ یہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

ابن عدید بن الابرص رضی اللہ عنہ:

اسدی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
ابو بشیر رضی اللہ عنہ:

یہ نماز استسقاء (بارش کی دعا) کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
تمیم بن مشج رضی اللہ عنہ:

یہ گری پڑی چیز کے بارے میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
شریک بن حنبل رضی اللہ عنہ:

عسسی ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ مشہور و معروف ہیں، قلیل الحدیث ہیں۔
کثیر بن نمر رضی اللہ عنہ:

حضری۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔
ابوحیۃ الوداعی رضی اللہ عنہ:

ہمدان سے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا آپ نے کشادہ زمین پر پیشاب کیا اور پھر آپ نے وضو کیا یہ دوسری حدیث یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ "جب تو وضو کرے تو اپنی ناک میں بھی پانی ڈال"۔
ثعلبہ بن یزید رضی اللہ عنہ:

بنی تمیم کے حمائی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم روایت کرتے ہیں۔
عاصم بن شریب رضی اللہ عنہ:

زبیدی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

ریاش بن عدی رضی اللہ عنہ:

کندی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

قنبر رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور غلام۔

مسلم رضی اللہ عنہ:

یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پینے کے لیے پانی مانگا۔ میں پانی کا ایک پیالہ لے آیا۔ اور اس میں نے پھونک ماری۔ آپ نے اس پانی کے پینے سے انکار کر دیا اور فرمایا تو ہی اس کو پی لے۔

ابورجاء رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی ایک تلوار لے کر بازار کو چلے اور فرمایا کہ اگر میرے پاس آزار خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں یہ تلوار نہ بیچتا۔ ان کا نام بزید بن محجن ضعی ہے۔

خرشہ بن حبیب رضی اللہ عنہ:

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایسے شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو اپنی عورت سے جماع کرتا ہے مگر انزال نہیں کرتا۔

زیاد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ابن نباح نے نماز عصر کی اذان دی۔ الصلوٰۃ الصلوٰۃ۔ آپ کھڑے ہوئے اور عصر کی نماز پڑھی ہمارے ہمراہ۔

ابونصر رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حج کے ارادہ سے نکلا مجھے ذی الحلیفہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ملے۔ وہ حج و عمرہ دونوں کی تکبیر رہے تھے اس کے بعد طویل حدیث ہے۔

معقل الجعفی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک وسیع میدان میں پیشاب کیا پھر وضو کیا اور اپنی نعلین پر مسح کیا۔

ابوراشد السلمانی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان پر آیا اور آواز دی کہ اے امیر المومنین! اے امیر المومنین آپ نے جواب دیا لیک لیک۔ میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا۔ میں اپنے اونٹ چراہا تھا ایک

اونٹ کے چوٹ لگی میں نے اس کو ذبح کر لیا۔ مگر میرے گھر والے اس کے گوشت کو نہیں کھاتے۔ آپ نے فرمایا: اس کا گوشت مسکینوں کو کھلا دے (یعنی ایک ہے تقویٰ اور ایک ہے فتویٰ۔ تقویٰ یہ ہے کہ ایک شخص یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے اس سے اجتناب کرے اور دوسرے یہ کہ ایک چیز شک و یقین دونوں کے درمیان ہے۔ شبہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز، اس حالت میں اس سے پرہیز کرنا احتیاط ہے۔ یہ احتیاط کا حکم تھا اس حالت میں اگر خود اس کا استعمال نہ کرے تو دوسرے عاجزوں اور مسکینوں کو دے دے)۔

ابورملہ رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک وسیع میدان میں آفتاب نکلنے کے بعد آئے۔ وہاں کسی کو نہ پایا پوچھا لوگ کہاں گئے۔ بتلایا گیا کہ لوگ مسجد میں ہیں۔ ایک شخص کو بھیج کر کسی کو بلایا اور ان سے پوچھا یہ لوگ وہاں کیا کر رہے تھے؟ اس نے کہا کچھ لوگ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ جب وہ سب آگئے تو آپ نے فرمایا: لوگو شیطان کی نماز سے بچو (یعنی جب سورج آدھا اندر اور آدھا باہر ہو تو نماز نہ پڑھا کرو۔ یہ شیطان کی نماز ہوگی پورا سورج نکل لینے دیا کرو) جب آفتاب دو نیزوں تک بلند ہو جائے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ دو رکعتیں نماز پڑھ لے۔ یہ صلوة اشراق ہے۔

ابوسعید الشوری رضی اللہ عنہ:

یہ بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ ”تاجر فاجر (خدا کا نافرمان) ہے سوائے اس تاجر کے جو اپنا (جائز) حق لیتا ہے اور دوسرے کا حق بھی ادا کرتا ہے“۔

ابوالغریف رضی اللہ عنہ:

اس کا نام عبید اللہ بن خلیفہ ہمدانی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک وسیع میدان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا آپ نے پیشاب کیا پھر آپ نے پانی منگایا اور اس سے اپنی دونوں ہاتھ دھوئے پھر قرآن کے پہلے حصے سے قرآن کی تلاوت فرمائی یہ بہت کم حدیث روایت کرتے تھے۔

اصح العامری رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے بھائی! بنی عامر مجھ سے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے متعلق پوچھا کرو اس لیے کہ ہم اہل بیت ہیں۔ سب سے زیادہ کتاب و سنت کو جانتے ہیں۔

عبدالرحمن بن سوید رضی اللہ عنہ:

کاہلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس مسجد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعائے قنوت پڑھی وہ یہ تھی:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعْبُدُكَ وَنُحِبُّكَ وَنَسُجُدُكَ، وَإِلَيْكَ نَسْطَعُ، وَنَحْفَدُ نَرْجُوا رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ، إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَ لَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ.

”اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی دعا کرتے ہیں، تجھ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہماری بھاگ دوڑ تیرے ہی لیے ہے، ہم تیری ہی رحمت و مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا عذاب کفار کو ملنے والا ہے۔ اے اللہ! ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تجھ ہی سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تیری نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری نہیں کرتے اور جو تیرے باغی اور نافرمان ہیں ان سے علیحدگی اور کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔“

حصین بن جندب رضی اللہ عنہ:

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک کشادہ زمین میں پیشاب کرتے ہوئے دیکھا پھر آپ نے اپنی نعلین پر مسح کیا اور نماز پڑھی۔

مالک بن الجون رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ بیٹھے پیشاب کیا، پھر پانی منگا کر وضو کیا اور موزوں و نعلین پر مسح کیا۔

حارث بن ثوب رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا: ”اے اللہ کے بندو! نماز تمام کرو“ (نماز کی پوری پوری پابندی کرو اور اس کے ظاہری و باطنی آداب کو ملحوظ رکھو)۔

ابو یحییٰ رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا: حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس یزید بن مکلف داخل ہوا اور کوئی اعتراض کیا۔

سائب رضی اللہ عنہ:

ابو عطاء بن السائب۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا: سائب آئیے ہم آپ کو ایک ایسا شربت پلاتے ہیں کہ اس کے پینے کے بعد تم تمام دن پیاسے نہ ہو گے؟ میں نے عرض کیا: ہاں ضرور پلائیے امیر المؤمنین! آپ نے وہ شربت منگایا اور میں نے پی لیا۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شربت کیا ہے؟ میں نے عرض کیا: میں نہیں جانتا۔ آپ نے فرمایا: یہ تین حصہ دودھ ہے۔ تین حصہ شہد اور تین حصہ مکھن۔

عبداللہ بن ابی الجبل رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہل کے ایک پتھر کے پاس سے گزرے آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔

نہیک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

سلولی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک گرجا میں ایک راہب کے پاس شیطان آیا۔ جس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی تھی۔

الاغر بن سلیم رضی اللہ عنہ:

ایک دوسری روایت میں یہ الاغر بن حظلہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے دادا سلیم بن حظلہ کی طرف منسوب ہیں۔

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”تین شخص ہیں جن پر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے ایک بوڑھا زانی، دوسرا بہت زیادہ ظلم کرنے والا مال دار اور تیسرا فقیر مکر و منکر۔“

الاغر کی کنیت ابو مسلم ہے۔

عمرو ذی مر رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالا اور اسے ملا۔

عبداللہ بن ابی الجلیل رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تین حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

عمرو بن بجم رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ مدائن میں ایک دیہاتی نے سواری کے لیے ایک فخر پیش کیا آپ نے جب زین کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھا تو پھسل گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دیباچ کی کاٹھی ہے یہ سن کر آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔

حمید بن عریب رضی اللہ عنہ:

حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی کوئی کٹی تھیں۔

سعید بن ذی حدان رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی زبان مبارک سے جنگ کو دھوکا و فریب فرمایا ہے۔“ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن ابی الجبل رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بابل کے ایک پتھر کے پاس سے گزرے آپ نے اس پر نماز نہیں پڑھی۔

نہیک بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

سولہ۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک گرجا میں ایک راہب کے پاس شیطان آیا۔ جس نے ستر سال اللہ کی عبادت کی تھی۔

الاغر بن سلیم رضی اللہ عنہ:

ایک دوسری روایت میں یہ الاغر بن حنظلہ ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ شاید وہ اپنے دادا سلیم بن حنظلہ کی طرف منسوب ہیں۔

یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”تین شخص ہیں جن پر اللہ اپنا غضب نازل کرتا ہے ایک بوڑھا زانی، دوسرا بہت زیادہ ظلم کرنے والا مال دار اور تیسرا فقیر مکر و متکبر۔“

الاغر کی کنیت ابو مسلم ہے۔

عمر و ذی مر رضی اللہ عنہما:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا پھر ایک چلو پانی لے کر اپنے سر پر ڈالا اور اسے ملا۔

عبداللہ بن ابی الجلیل رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تین حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

عمر و بن معمر رضی اللہ عنہما:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ مدائن میں ایک دیہاتی نے سواری کے لیے ایک خچر پیش کیا آپ نے جب زین کے اگلے حصے پر ہاتھ رکھا تو پھسل گیا۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا یہ دیہاتی کی کاٹھی ہے یہ سن کر آپ نے اس پر سوار ہونے سے انکار کر دیا۔

حمید بن عریب رضی اللہ عنہ:

حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جس نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اونٹ کی کونچیں کاٹی تھیں۔

سعید بن ذبی حدان رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی زبان مبارک سے جنگ کو دھوکا دفریب فرمایا ہے۔“ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت کرتے ہیں۔

راع بن سلمہ رضی اللہ عنہما:

بجلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حدیث سنی اور انہیں سے روایت کرتے ہیں۔

اکتل بن شہان رضی اللہ عنہما:

عکلی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن یحییٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”جو شخص ایک حسین و جمیل اور فصیح شخص کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ اکتل بن شہان کو دیکھے۔“

اوس بن معلق رضی اللہ عنہما:

اسدی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

طریف رضی اللہ عنہما:

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیت المال پر مامور تھا۔ آپ نے سبز رنگ کے ایک گھڑے سے بیڑ پی۔



تابعین کا دوسرا طبقہ

وہ حضرات جو حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت نعمان بن بشیر اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عامر بن شراحیل (امام شععی) رضی اللہ عنہ:

عامر نام ابو عمر کنیت ہے۔ شععی قبیلے کی نسبت سے شععی کہلاتے ہیں۔ یمن کے مشہور خاندان حمیری سے ہیں۔ حمیری خاندان میں ایک مشہور شخص حبان بن عمرو گزرا ہے۔ یہ شخص یمن کی ایک پہاڑی ذوالشعبین میں پیدا ہوا اور مرنے کے بعد یہیں دفن ہوا۔

وجہ تسمیہ:

یمن میں ایک مرتبہ سخت بارش ہوئی۔ اس میں ان کا علاقہ بہہ گیا۔ یہ ایک پہاڑی میں آباد ہو گئے اس میں ایک پتھر کا دروازہ تھا۔ اس کو توڑ کر یہ شخص اندر داخل ہوا۔ دیکھا کہ اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے سونے کا اور اس پر ایک شخص مرا ہوا بیٹھا ہے ہم نے اسے ناپا تو وہ بارہ گز کا نکلا اس کے جسم پر زرد جواہر کا قیمتی لباس تھا۔ اس کے سر پر یاقوت کا تاج تھا اس کے پہلو میں ایک سونے کی تختی رکھی تھی۔ ایک طرف ایک شخص جس کا سر اور داڑھی سفید تھی اس کے بالوں کی دو ٹیٹیں اس کے دونوں طرف پڑی تھیں اور ایک تختی پر خط حمیری میں لکھا ہوا تھا ”اے رب حمیر تیرے نام سے۔ میں حسان بن عمرو القلیل ہوں۔ میں امید کے ساتھ زندہ رہا اور اپنی موت مر گیا۔ خزہید کے دنوں میں۔ اور خزہید کون ہے؟ اس میں بارہ ہزار انسان ہلاک ہوئے میں ان میں سے آخری قیل تھا۔ میں ذی الشعبین کی پہاڑی میں آ گیا۔ اس کے پہلو میں تلوار لگی ہوئی تھی۔ خط حمیری میں لکھا تھا کہ میں ان سے خون کا بدلہ لوں گا۔ محمد بن مرہ شعبانی کہتے ہیں۔ وہ حسان بن عمرو بن قیس بن معاویہ بن ہشم بن عبد شمس بن ذوالشعبین کہتے ہیں۔ یہ یمن کا ایک پہاڑ ہے۔ یہ اس پہاڑ میں اقامت گزین ہو گیا تھا اور اس کا لڑکا بھی یہیں اس نے اور اس کے بیٹے نے وفات پائی اور یہیں دفن ہوئے۔ دونوں اسی لیے اس کی طرف منسوب ہیں۔

ان میں سے جو کوفہ میں آباد ہو گئے تھے ان کو شعبیون کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے عامر شععی ہیں اور جو لوگ شام میں آباد ہو گئے تھے ان کو شعبانیوں کہا جاتا ہے۔ اور جو یمن میں ہی رہے ان کو آل ذی شعبین کہا جاتا ہے نیز جو لوگ اور مغرب میں آباد ہوئے ان کو اشغوب کہا جاتا ہے۔ وہ سب بنو حسان بن عمرو ذی شعبین ہیں۔ علی بن حسان بن عمرو کے بیٹے عامر بن شراحیل کا گروہ ہیں۔ یہ یمن ہمدان کے امور میں آباد تھے اور امور مختلف آبادیاں تھیں ساندوں کی۔ جن میں آل ذی باریق و سمیع آل ذی حدان آل ذی رضوان آل ذی لعود آل ذی مروان اور اعراب ہمدان تھے۔ عدرو یام، نم، شاکر اور ارحب وغیرہ۔ ہمدانیوں میں حمیر قبائل کی کثرت تھی۔ خاص کر آل ذی حوال وغیرہ۔

عامر شععی بڑے دبلے پتلے تھے وہ اور ان کے بھائی دونوں تو ام پیدا ہوئے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اے ابو عمرو؟ آپ اتنے دبلے پتلے کیوں ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم رحم مادر میں دو بھائی رہے ہیں۔ وہ جنگ جلولاء کے سال پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا۔

۵۰۰ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زیارت:

حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بہت بڑی جماعت موجود تھی۔ پھر ان کی بود و باش بھی ایک ایسے مقام پر تھی جو مرکزی حیثیت رکھتا تھا جہاں بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اقامت پذیر تھے اس لیے انہیں پانچ سو صحابہ رضی اللہ عنہم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اڑتالیس صحابہ رضی اللہ عنہم سے فیض حاصل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آٹھ دن مہینے قیام کر کے علوم نبوت سے فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ یہ وجہ ہے کہ وہ امام العصر کہلائے اور علم حدیث میں ممتاز و نمایاں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں:

حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس، حضرت عدی بن حاتم، حضرت سمرہ بن جندب، عمرو بن حریث، حضرت عبداللہ بن یزید انصاری، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت براء بن عازب، حضرت زید بن ارقم، حضرت ابن ابی اونی، حضرت جابر بن سمرہ، حضرت ابی جحیفہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عمران بن حصین، حضرت بریدہ اسلمی، حضرت جریر بن عبداللہ، حضرت اشعث بن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت حسن بن علی، حضرت عبداللہ بن عمرو العاص، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت وہب بن حنیس طائی، حضرت حبشی بن جنادۃ السلونی، حضرت عامر بن شہر، حضرت محمد بن صفی، حضرت عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب، حضرت عروۃ البارقی، حضرت فاطمہ بنت قیس، حضرت عبدالرحمن بن ابی ہریرہ، حضرت علقمہ بن قیس، حضرت فروہ بن نوفل اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ، حضرت حارث الاعور، حضرت زہیر بن الغین، حضرت عوف بن عامر، حضرت اسود بن یزید، حضرت سعید بن ذی لحوہ، حضرت ابی سلمہ بن عبدالرحمن اور حضرت ابی ثابت الیمین جو یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ (اتنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے انہوں نے فیض پایا۔ علاوہ ازیں بڑے بڑے تابعین سے بھی استفادہ کیا۔ یوں امام العصر کہلائے۔)

شعبہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ میں نے ابی اسحاق سے پوچھا کہ آپ بڑے بڑے تابعین سے بھی استفادہ کیا؟ جواب دیا وہ مجھ سے دو سال بڑے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے شرف تلمذ:

آپ آٹھ دن مہینے مدینہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس مقیم رہے اس کی وجہ یہ ہوئی کہ مختار کے ڈر سے بھاگے اور یہاں ان کو پناہ ملی۔ امام شععی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حساب و ریاضی حارث اعور سے سیکھا۔

ابن ابی عزہ کہتے ہیں کہ میں خراسان میں امام عامر شععی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دس مہینے رہا وہ دور کعبتوں سے زیادہ نہ کرتے تھے۔ شیعیت سے توبہ اور شیعہ مذہب کی پرزور مذمت:

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ یہ ابتداء میں شیعہ تھے لیکن جب شیعوں کے اعمال دیکھے ان کے خیالات و عقائد سننے اور ان کی

باتیں نہیں تو ان کے مذہب سے تائب ہو گئے اور ان کی مذمت کرنے لگے۔

مالک بن مغول شعیبی سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اگر شیعہ پرند ہوتے تو گدھ ہوتے اور اگر چارپائے ہوتے

تو گدھے ہوتے۔

اگرچہ شیعوں کے بارے میں آپ کی رائے بڑی سخت تھی مگر آپ نے جادہ اعتدال سے باہر قدم نہیں نکالا چنانچہ فرماتے ہیں ”صالح مومنین اور صالح بنی ہاشم کو دوست رکھو، لیکن شیعہ نہ بنو، جو چیز تمہارے علم میں نہیں ہے اس میں بھلائی کی امید رکھو، لیکن مرنے نہ بنو (مرجیہ ایک فرقہ ہے) اس بات پر ایمان و یقین رکھو کہ بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برائیاں تمہارے اپنے نفس سے صادر ہوتی ہیں۔ لیکن اس عقیدے میں بھی قدری نہ بنو (قدریہ بھی مسلمانوں کا ایک پرانا فرقہ ہے۔ جس کا عقیدہ تھا کہ انسان اپنے اعمال میں بالکل آزاد و خود مختار ہے) جس شخص کو تم اچھے اعمال کرتے دیکھو، خواہ وہ تک چپٹا سندھی کیوں نہ ہو اسے دوست رکھو۔“

حجاج اور حضرت امام شعیبیؒ:

محمد بن سعد کی روایت ہے کہ دیر جماع کے معرکہ کے بعد امام شعیبیؒ عرصہ تک روپوش رہے اور یزید بن مسلم کو لکھا کہ تم حجاج سے میری صلح صفائی کرادو۔ انہوں نے جواب میں لکھ بھیجا کہ بخدا مجھ میں اتنی ہمت و جرات نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس کے پاس خود چلے جائیں جب وہ دربار عام کرے تو اس وقت دفعۃً اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر لیں۔ اس بات کا میں وعدہ کرتا ہوں آپ مجھے جس بات کا گواہ بنائیں گے میں اس کے بارے میں آ کر آپ کی گواہی اور صفائی بیان کر دوں گا۔

امام شعیبیؒ نے اس مشورہ پر عمل کیا۔ ایک دن دفعۃً حجاج کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ اس نے دیکھتے ہی کہا: اچھا آپ شعیبیؒ ہیں۔ پھر ان کے سامنے اپنے انعامات و احسانات بیان کیے۔ آپ نے ہر ہر انعام و احسان کا اقرار و اعتراف کیا۔ حجاج نے کہا کہ میں نے آپ کو جو مرتبہ و اعزاز بخشا اور کسی کو نہیں بخشا۔ کہا بے شک ٹھیک ہے اے امیر المومنین! کہا میں نے آپ کو بڑے بڑے عہدوں پر مامور کیا آپ کو آگے سے آگے بڑھایا، کہا بے شک صحیح ہے۔ پھر حجاج نے کہا: میں نے آپ کے وظیفہ میں اضافہ کیا آپ کی مانند کسی کو یہ انعام نہیں دیا۔ آپ کو اپنی قوم کا امام و سردار بنایا کسی اور کو یہ اعزاز نہ بخشا تھا۔ آپ کو آپ کے قبیلہ کا عریف (چودھری) بنایا اور میں نے سرکاری و فود میں ہمیشہ عبد الملک کے پاس آپ کو بھیجا۔ ایک مرتبہ تمہیں والی جستان کے پاس سفیر بنا کر بھیجا۔ جہاں آپ کو بڑا انعام و اکرام ملا۔ الغرض حجاج اپنے احسانات گنواتا جاتا تھا اور آپ اقرار کرتے جاتے تھے۔

آخر میں حجاج نے پوچھا آپ نے عدد الرحمن (یعنی عبد الرحمن) بن اشعث کا ساتھ کیوں دیا؟ آپ نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے ندامت کا اظہار کیا۔ اس پر حجاج نے آپ کی خطاؤں کو معاف کر دیا۔

آپ نے فرمایا یہ خطائیں میرے لیے فتنہ تھیں، ہم نے اس کے ساتھ نیک اور متقی لوگوں کو نہیں پایا۔ وہ چند شریر لوگ تھے جو آپ سے قوی نہ تھے۔ میں نے یہ سب باتیں یزید بن ابی مسلم کو لکھ دی تھیں، میں نے ان پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے لکھ دیا تھا کہ

وہ میرے اور آپ کے درمیان صلح صفائی کرادے مگر اس نے یہ ہمت و جرأت نہ کی۔ حجاج نے کہا تو آپ نے مجھے کیوں نہ لکھا؟ فرمایا کچھ ایسے ہی مواعظ تھے جن کی وجہ سے آپ کو نہ لکھا۔ غرض یہ کہ حجاج اور امام شعیبؓ میں صلح صفائی ہوگئی اور آپ امن و امان کے ساتھ لوٹے۔

قوت حافظہ:

آپ کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ کبھی قلم دوات سے کام نہیں لیا۔ ایک مرتبہ جو حدیث سن لیتے تھے وہ ہمیشہ کے لیے سینے میں محفوظ ہو جاتی تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی سفید کاغذ کو کتابت سے سیاہ نہیں کیا۔ یعنی کبھی کچھ لکھا نہیں۔ جب کسی نے کوئی حدیث سنائی تو وہ میرے سینے میں محفوظ ہوگئی اس کے دوبارہ سننے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔

فرماتے ہیں کہ میں نے بیس سال کے عرصے میں کسی سے کوئی ایسی نئی حدیث نہیں سنی جس سے میں بیان کرنے والے سے زیادہ واقف نہ رہا ہوں۔ اہل حجاز، بصرہ اور کوفہ تینوں مرکزوں کے محدثین کی احادیث کا ان سے بڑا کوئی حافظ نہ تھا۔ سنن کے بھی بہت بڑے عالم تھے۔ کمال اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے شعیبؓ سے زیادہ سنن باضیہ کا عالم نہیں دیکھا۔ ابن ابی لیلیٰ کہتے ہیں کہ شعیبؓ صاحب آثار تھے اور ابراہیم صاحب قیاس۔

روایت حدیث میں احتیاط:

علم حدیث نہایت ہی نازک اور ذمہ داری کا علم ہے۔ اس لیے آپ دوسروں سے حدیث لینے میں بڑے محتاط تھے۔ وہ احادیث صرف انہی بزرگوں سے لیتے تھے جو عقل و فہم اور تقویٰ و دیانت بھی رکھتے ہوں اور سیرت و کردار کے اعتبار سے ان پر بھروسہ کیا جاسکتا ہو۔ قبول حدیث میں ان کا اصول یہ تھا کہ علم اسی شخص سے حاصل کرنا چاہیے جس میں زہد و عبادت اور عقل و دانش دونوں چیزیں جمع ہوں۔ جو شخص صرف عقل و دانش رکھتا ہو مگر تقویٰ و دیانت کا مالک نہ ہو یا وہ شخص جو تنہا زہد و عبادت رکھتا ہو مگر عقل و فہم نہ رکھتا ہو۔ یہ دونوں علم کی حقیقت کو نہیں پاسکتے۔

صرف یہی نہیں کہ آپ حدیث قبول کرنے میں احتیاط برتتے تھے بلکہ حدیث بیان کرنے میں بھی احتیاط کرتے تھے۔ حدیث میں اپنی رائے و تحقیق کا دخل نہ ہونے دیتے تھے چنانچہ محمد بن جادۃ کا بیان ہے کہ جب حضرت عامر شعیبؓ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس کے بارے میں ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم نہ ہوتا اور پوچھنے والا کہتا تو اپنی رائے سے ہی کچھ فرمائیے تو آپ فرماتے میں دین میں اپنی رائے کو دخل نہیں دیتا۔ حتی الامکان اپنی رائے دینے سے بچتے تھے۔ فرماتے میری رائے کیا کرو گے اس پر پیشاب کرو۔

حدیث میں علمی مقام:

روایت بالمعنی کا مفہوم یہ ہے کہ کسی روایت کے الفاظ کے بغیر اس کے معنی اپنی سمجھ کے مطابق بیان کیے جائیں مطلب یہ کہ آپ روایت میں الفاظ کی پابندی نہایت ضروری نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ ابن عون کی روایت ہے کہ شعیبؓ حدیثیں بالمعنی روایت

کرتے تھے (مگر اسی احتیاط کے ساتھ جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا) آپ فرماتے۔ تم جو کچھ مجھ سے سناؤ اسے لکھ لیا کرو۔
عبداللہ بن ابی سرف کہتے ہیں کہ شععی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”میں عالم نہیں ہوں مگر میں نے کسی عالم کو نہیں چھوڑا جس سے علم حاصل نہ کیا ہو اور ابو حصین تو ایک صالح آدمی ہیں۔ باوجود اس کے کہ وہ خود ایک ممتاز عالم دین تھے، فقیہ تھے۔ کوفے کی مسند افتاء پر فائز تھے پھر بھی انکار کا یہ عالم تھا کہ میں عالم نہیں۔“
امام شععی رضی اللہ عنہ اور امام ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ:

حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم و فقیہ تھے مگر شععی رضی اللہ عنہ کے تفقہ فی الدین کے ایسے قائل تھے کہ جو مسئلہ ان کو معلوم نہ ہوتا اس کے مسائل کو امام شععی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیتے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، انہوں نے لاعلمی ظاہر کی۔ اسی اثناء میں سامنے سے شععی رضی اللہ عنہ گزرتے ہوئے نظر آئے۔ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے مسائل سے کہا کہ اس شیخ کے پاس جا کر پوچھو اور جو جواب وہ دیں مجھے بھی آ کر بتانا۔ مسائل نے جا کر وہ مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے بھی اپنی لاعلمی ظاہر کی، جب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہا واللہ یہ فقیہ ہے اور فقہ اسے کہتے ہیں (کہ محض اپنی رائے سے کچھ نہیں کہتے)۔
صلت بن بہرام کہتے ہیں کہ میں نے کسی ایسے شخص کو جو علم میں شععی رضی اللہ عنہ کا ہم پایہ ان سے زیادہ لا اذری (میں نہیں جانتا) کہنے والا نہیں دیکھا۔

عمر بن سعید کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ شععی رضی اللہ عنہ سے کہا ”آپ نے مجھ سے ایک حدیث بیان کی تھی۔ اب وہ میرے حافظے سے نکل گئی۔ آپ نے فرمایا: مجھے کچھ بتاؤ تو میں جانوں کہ وہ کون سی حدیث تھی، میں نے کہا مجھے کچھ یاد نہیں آتا۔ امام شععی رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث سنا کر کہا کہ یہ تو نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ نہیں ہے۔ آخر میں انہوں نے ایک شعر پڑھ کر کہا: یہ تو نہیں ہے۔
فکر آخرت:

باوجود اس کے کہ آپ جید عالم و فقیہ اور امام تھے، خوف و خشیت کا یہ حال تھا کہ سفیان کے ایک قول کے مطابق ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: ”کاش میں اس علم سے برابر سر ابر بھوٹ جاتا۔ نہ مجھ سے اس کا مواخذہ ہوتا اور نہ مجھے اس کا صلہ ملتا۔“
صالح بن صالح ہمدانی کہتے ہیں کہ شععی رضی اللہ عنہ چند ایسے لوگوں کے پاس کھڑے ہو گئے کہ وہ ان سے بیزار تھے اور ان کو دیکھنا نہ چاہتے تھے۔ جب آپ نے ان کا کلام سنا تو یہ شعر کہا۔

هِنَا مَرِيئًا عَنِّي دَاءٌ مُّحَامِرٌ لِعِزَّةٍ مِنْ أَعْمَرَ صَنَا مَا اسْتَحَلَّتْ

صالح بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اور شععی رضی اللہ عنہ ہاتھ میں ہاتھ دیئے ٹہلتے ٹہلتے مسجد میں جا پہنچے۔ وہاں حماد رضی اللہ عنہ کے شاگردوں اور اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا اور ایک شور و غل برپا تھا شععی رضی اللہ عنہ نے یہ شور و غل سن کر کہا خدا کی قسم ان بازار یوں نے تو اس مسجد کو میرے لیے ناگوار بنا دیا ہے۔ یہ کہا اور لوٹ آئے۔

فقیہ اور عالم کی پہچان:

علماء حق کی شان اور پہچان ہی یہ ہے کہ وہ شور و ہنگامہ اور فتنہ و فساد سے کنارہ کشی کرے۔ غور فرمائیے آپ نے معمولی علمی

شور و غل سن کر مسجد ہی کو چھوڑ دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی سرف کہتے ہیں کہ شععی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھ پر ایک ایسا زمانہ گزرا کہ میں کسی مجلس میں بیٹھنا گوارا نہ کرتا تھا۔ بس یہی ایک مسجد تھی جس میں میں بیٹھا کرتا تھا (شور و غل نے مجھ سے یہ بھی چھڑا دی) اس سے تو کسی کوڑے کے ڈھیر پر بیٹھ رہنا اچھا ہے۔

آپ کہا کرتے تھے کہ فقیر وہ ہے جو خدا کے محارم سے بچتا رہے۔ اور عالم وہ ہے جو خدا کا خوف کرتا ہے۔ تم لوگوں کو چاہیے کہ کم استعداد علماء اور جاہل عبادت گزاروں سے بچتے رہو (یعنی علماء سوء اور پیران ریاکار سے اجتناب کرو) جو لوگ اپنی رائے سے کوئی مسئلہ کہتے تو آپ فرماتے کہ اس کی رائے پر پیشاب کرو۔ تم تو صرف قرآن و حدیث اور اصحاب محمد سے واسطہ رکھو کسی حال میں قرآن و حدیث کو نہ چھوڑو۔

خصائل اور لباس:

آپ ایک خاص قسم کا ریشمی لباس پہنتے تھے، کبھی کبھی شعراء کی مجلس میں بھی بیٹھتے تھے۔ شعر و سخن سے دلچسپی تھی کہا کرتے تھے کہ یہ حکومت کے وظائف و عطیات گدھے کے پیشاب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ بہت سے لوگوں کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ عطیۃ السراج کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ شععی کے پاس مسجد میں آیا یہ جہمیہ کی ایک مسجد تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس مسجد میں تقریباً میں نے تین سو صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھا ہے۔

زید بن خطاب کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر ہوئے تو آپ نے شععی رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا قاضی بنا دیا۔ آپ باب الفیل کے نزدیک ایک گوشے میں مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے۔

حسن بن صالح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام شععی رضی اللہ عنہ کے سر پر سفید عمامہ اور اس کا لٹکا ہوا شملہ دیکھا ہے۔ عمرو بن شیبہ السسلی کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے کہا کہ انہوں نے شععی رضی اللہ عنہ کو ایک نہایت سرخ رنگ کی چادر اوڑھے ہوئے دیکھا ایٹ کہتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کی چادر زیادہ سرخ تھی یا ان کی داڑھی۔ کبھی کبھی سرخ عمامہ بھی باندھ لیتے تھے جس زمانے میں آپ قاضی تھے۔ آپ داڑھی رنگتے تھے کبھی سبز چادر بھی اوڑھے لیتے تھے۔ ایک خاص قسم کا ریشمی سبز لباس بھی زیب بدن فرماتے۔ چادر اور لباس کے رنگ مختلف ہوتے تھے۔ زرد ازار بھی پہنتے تھے۔

عبید بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے شععی رضی اللہ عنہ کو شیر کی کھال پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ فرماتے ہیں گورخر کی کھال باغمت سے پاک ہو جاتی ہے۔

مجالد کا بیان ہے کہ میں نے شععی رضی اللہ عنہ کو لومزی کی کھال کی پوتین پہنے دیکھا۔ اسی میں آپ نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا۔ میں نے ابواسحاق سے پوچھا۔ عمر میں آپ بڑے ہیں یا شععی رضی اللہ عنہ؟ فرمایا شععی رضی اللہ عنہ مجھ سے ایک یا دو سال بڑے ہیں۔

دارفانی سے رحلت:

طارق بن عبدالرحمن کی روایت ہے کہ میں شععی رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے ان کے پاس آیا۔ تو میں نے آپ کو دیکھا کہ

کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں ایک قبض اور ازار میں ان پر چادر نہ تھی۔

خلف بن تمیم مالک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد کا بیان ہے کہ شععی رضی اللہ عنہ جب بھی مجلس سے اٹھتے تو یہ کہا کرتے۔ کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اکیلا اور لا شریک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ دین وہی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اسلام وہی ہے جس کا وصف قرآن نے بیان کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی کتاب قرآن ویسا ہی ہے جیسا کہ نازل ہوا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حق بالکل ظاہر اور روشن ہے۔

ایک شخص نے شععی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے کہا کہ اللہ کہے؟ فرمایا: مجھے کیا ہوا کہ میں اللہ نہ کہوں۔ آپ نے ۱۰۳ھ یا ۱۰۴ھ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر ۷۷ سال کی تھی۔ آپ نے اچانک وفات پائی۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کرے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ

نام و نسب:

سعید نام ابو عبد اللہ کنیت یہ بنی والہ بن حارث اسدی کے غلام تھے۔ اسی وجہ سے وہ والہی کہلاتے ہیں۔ سعید بن جبیر ہی سے روایت ہے کہ مجھ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے پوچھا: آپ کن میں سے ہیں؟ میں نے کہا بنی اسد سے۔ پھر پوچھا: شرفاء عرب میں سے ہو یا غلاموں میں سے؟ میں نے عرض کیا: میں غلاموں میں سے ہوں۔ آپ نے فرمایا: تو یوں کہو نا کہ آپ ان میں سے ہیں جن پر بنی اسد میں سے اللہ نے اپنا انعام و احسان کیا (کہ مسلمان ہونے کی سعادت بخشی)۔

حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ سے ملاقات:

ابی معشر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ”میں نے عید کے دن ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ میرے گیسو تھے انہوں نے کہا: اے غلام (لڑکے یا اے بچے! عید کے دن امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے کوئی نماز نہیں۔ ہاں نماز عید کے بعد تم دو رکعتیں طویل قراءت کے ساتھ پڑھ سکتے ہو۔“

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہما سے بھی روایت کرتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے کہا حدیثیں سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ میں اور آپ کی موجودگی میں حدیثیں سناؤں (یہ تو ایسا ہوا جیسے آفتاب کے سامنے چراغ جلانا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نہیں سناؤ یہ تو خدا کی نعمت ہے کہ تم میرے سامنے حدیثیں بیان کرو۔ اگر صحیح بیان کرو گے تو بہت اچھا اور اگر کہیں غلطی کرو گے تو میں اس کی تصحیح کروں گا (یہ گویا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے سب سے بڑی سند ملی)۔

سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کے حلقہ درس میں شرکت:

امام نووی کا بیان ہے کہ سعید رضی اللہ عنہ تابعین کے بڑے آئمہ میں سے تھے۔ حافظ ذہبی رضی اللہ عنہ ان کو علمائے اعلام بتلاتے ہیں۔

تفسیر، حدیث، فقہ زہد و عبادت اور اخلاق و تقویٰ وغیرہ جملہ کمالات اوصاف میں وہ بڑے بڑے اماموں کا ہم پایہ اور سرگروہ تابعین سے تھے۔

آپ نے یوں تو بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اکتساب فیض کیا لیکن حیر الامۃ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے خصوصیت کے ساتھ فیض پایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا حلقہ درس بڑا وسیع اور عظیم و جلیل تھا۔ جس میں قرآن، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض، ادب و انشاء اور شعر و شاعری کے دریا بہتے تھے، سعید سب سے زیادہ یہیں سے سیراب ہوئے اور بحر بیکراں بنے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں بڑی پابندی کے ساتھ ان کے حلقہ درس میں شریک ہوتا تھا اور میرے علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ باہر کے جو سائلین سوالات کرتے تھے اور جو مسائل پوچھتے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جوابات دیا کرتے تھے میں ان کو خاموشی کے ساتھ اور بڑے غور سے سنا کرتا تھا۔ کبھی کبھی خود بھی کچھ پوچھ لیتا تھا۔ ان سوالات میں حدیثیں بھی ہوتی تھیں اور فقہ کے مسائل بھی۔ لیکن انہیں قلم بند کرنے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے منع کر رکھا تھا۔ کچھ مدت تک اسی زبانی یاد پر انحصار رہا مگر بعد میں لکھنے کی اجازت مل گئی تھی۔ پھر لکھنا شروع کر دیا۔ بعض دن اتنی کثرت سے مسائل پیش آتے کہ لکھتے لکھتے ان کی بیاض پر ہو جاتی۔ تو کپڑوں پر کبھی ہتھیلی پر اور کبھی کسی اور چیز پر لکھ لیتے۔

حسن بن مسلم کہتے ہیں کہ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے نابینا ہونے سے پہلے ان سے اتنے مسائل پوچھتے کہ لکھ نہ سکتے۔ جب وہ نابینا ہو گئے تو لکھنا شروع کر دیا۔ جب یہ خبر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو ملی تو وہ ناراض ہوئے۔

بنی وادعہ کے مؤذن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ نکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما ان کے قدموں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ان سے کہہ رہے تھے کہ مجھے دکھاؤ کہ تم مجھ سے حدیث کس طرح بیان کرتے ہو تم نے مجھ سے بے شمار حدیثیں سنیں اور کبھی ہیں۔

جعفر بن ابی المغیرہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بینائی جاتی رہی تو جو کوئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو اس سے فرماتے۔ تم میں ابن ام دھماء (یعنی سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما) موجود ہیں ان سے مسائل پوچھ لیا کرو۔

ابو حصین کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ کیا وہ تمام حدیثیں جو آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنیں اور تمام مسائل جو آپ نے ان سے پوچھے ان کا دار و مدار صرف زبانی یادداشت پر ہے؟ کہا نہیں۔ میں آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا۔ کوئی کلام نہیں کرتا تھا۔ وہ جتنی حدیثیں بیان کرتے میں ان کو یاد کر لیتا۔ اور کبھی لکھ بھی لیتا تھا۔

عبداللہ بن مسلم بن ہرمز کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما حدیث لکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ایوب کا بیان ہے کہ سعید نے کہا: میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مسائل پوچھتا تھا اور بیاض میں لکھ لیتا تھا میں نے ان سے مسئلہ ایلاء کے متعلق بھی پوچھا تھا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں ان کا جواب تمہیں بتلاؤں کہا انہوں نے کیا فرمایا؟ میں نے کہا ضرور بتلائیے۔ ہمیں آپ کے علم پر بھروسہ ہے، کہا انہوں نے اس بارے میں فرمایا اس سے مراد امراء ہیں۔

فرماتے ہیں کہ جب ہم اہل کوفہ کو کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا تو میں اسے اپنی کتاب میں لکھ لیتا اور پھر وہ حضرت ابن

عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھ لیتا وہ اصل مسئلہ سمجھا دیتے۔

اوصاف و کمالات:

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما ریاضی کے بڑے ماہر تھے۔ علم فرائض میں خاصہ ملکہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس فرائض کا ایک ساکل آیا۔ آپ نے اس سے کہا کہ ابن جبیر رضی اللہ عنہما کے پاس جاؤ وہ مجھ سے زیادہ علم حساب جانتے ہیں وہ تم کو وہی بتلائیں گے جو فرض مقرر ہے۔

ان کا اپنا بیان ہے کہ میری مہر پر نقش تھا عَزَّوَجَلَّ رَبِّي وَاقْتَدِرُ (میرے رب نے مجھے عزت و اقتدار بخشا ہے) میں نے اس کا ذکر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کیا۔ آپ نے مجھے اس سے منع کیا اور میں نے اسے مٹا دیا۔

مسعود ابن مالک کہتے ہیں مجھ سے ایک مرتبہ علی بن حسین نے کہا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے یہ کیا کیا؟ میں نے کہا وہ ایک صالح آدمی ہیں۔ یہ وہ شخص تھا جو ہمارے پاس آتا اور مسائل پوچھتا فرائض کے متعلق اور دوسرے مسائل میں جن سے اللہ ہمیں نفع پہنچاتا۔

بعض کوتاہ نظر اصحاب ان کو زیادہ حدیث بیان کرنے پر ملامت کرتے تھے آپ انہیں جواب دیتے مجھے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے حدیث بیان کرنا زیادہ پسند ہے بہ نسبت اس کے کہ میں اسے اپنے ساتھ اپنی قبر میں لے جاؤں۔

محمد بن حبیب کا بیان ہے کہ جب سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما اصفہان میں قیام پذیر تھے اور لوگ ان سے حدیثیں پوچھتے تو آپ ان کو نہ بتاتے لیکن جب کوفہ میں آئے تو یہ فیض جاری کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا بات ہے کہ اصفہان میں تو آپ حدیثیں بیان نہ کرتے تھے اور یہاں بیان کرتے ہیں؟ فرمایا اپنی متاع وہاں پیش کرو جہاں اس کے قدر دان ہوں۔

قرآن مجید سے خاص شغف:

آپ کے نزدیک عبادت محض نماز روزہ اور تسبیح و تہلیل نہیں بلکہ اس کا دائرہ پوری کی پوری زندگی ہے۔ آپ اطاعت کو سب سے بڑی عبادت سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے جو شخص خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے وہ ذاکر ہے اور جو نافرمانی کرتا ہے وہ ذاکر نہیں خواہ وہ کتنی ہی تسبیح اور تلاوت قرآن کیوں نہ کرے۔ آپ سے کسی نے سوال کیا کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا جو کچھ گناہوں میں مبتلا ہو کر پھر ان سے تائب ہو گیا اور جب اس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا تو ان کے مقابلے میں اپنے اعمال کو بے حقیقت سمجھا۔ عبد الملک بن ابی سلیمان کا بیان ہے کہ سعید دو راتوں میں قرآن ختم کرتے تھے۔

حماد رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے کہا: میں نے خانہ کعبہ میں ایک رکعت میں قرآن ختم کیا ہے۔ عفان بن مسلم اور موسیٰ بن اسماعیل دونوں کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ہر روز دو مرتبہ بعد نماز فجر اور بعد نماز عصر وعظ و درس دیا کرتے تھے۔ رفاء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مغرب اور عشاء کے درمیان سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما آتے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے۔

صعب ابن عثمان کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ”جب سے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما شہید ہوئے ہیں اس

وقت سے میں پوری پابندی کے ساتھ دوراتوں میں قرآن ختم کرتا ہوں۔ ہاں اگر سفر کی حالت میں ہوں یا مریض ہو جاؤں تو پھر مجبور ہو جاتا ہوں۔“

ابو ہاشم کی روایت ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا: ”میں جمعہ کے دن اپنے اُوراد و وظائف پڑھتا رہتا ہوں یہاں تک کہ امام خطبہ کے لئے آئے۔“

ابوشہاب کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ رمضان میں ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے، کبھی ایسا ہوتا کہ ایک آیت کو بار بار پڑھتے رہتے یا دو مرتبہ پڑھتے۔

عطاء بن سائب کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا۔ میرے بعد تم حدیث کا علم کس سے حاصل کرو گے؟ اس نے کہا ہم آپ کے سوا یہ علم کسی سے حاصل نہ کریں گے۔ فرمایا: بے شک، اعمیٰ اور ابن الصیقل تمہیں قرآن کے علم سے بے نیاز کر دیں گے۔

سعید بن عبید کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو امامت کراہتے ہوئے دیکھا وہ بار بار اس آیت کو دہراتے تھے: إِذَا الْأَعْلَالُ فِيْ أَعْنَاقِكُمْ الْخ.

ابوشہاب کی روایت ہے کہ رمضان میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ ہمارے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے پھر گھر واپس آ کر تھوڑی دیر آرام کرتے۔ اس کے بعد پھر آ کر ہمارے ساتھ سات ترویحات پڑھتے اور تین ہتر پڑھتے اور پچاس آیتوں کی مقدار دعائے قنوت پڑھتے۔ جب نماز میں ایک سورہ ختم کر لیتے تو کہتے: صَدَقَ الصَّادِقُ الْبَارُ۔ سچے باری تعالیٰ نے سچ فرمایا۔

عبدالکریم کا کہنا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: ”مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرے سر پر کوڑے لگائے جائیں اس بات سے کہ امام جمعہ کا خطبہ دے رہا ہو اور میں کوئی کلام کروں۔ صبح صادق کے بعد آپ کسی سے کلام نہیں کیا کرتے تھے۔“

سفیان کہتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ ایک شخص نے دیکھا کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک بڑے لڑکے کی پیشانی چومی۔ کھانے کے بعد کی دعا:

عطاء بن السائب رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو یہ دعا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اشْبَعْتَ وَارْوَيْتَ فَهَيَّنَا وَرَزَقْتَ وَكَثَرْتَ وَأَطْبَقْتَ وَفَرَّدْنَا.

”اے اللہ تو نے ہمیں سیر کیا، غذا پہنچائی، ہم تازہ دم اور قوی ہوئے۔ پس تو نے ہمیں کثرت سے پاکیزہ رزق دیا اس میں زیادتی کر۔“

یزید بن مہلب کی روایت ہے کہ میں سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں نماز پڑھ رہا تھا۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا تو جبیر رضی اللہ عنہ کہتے اللھم اغفر لی، آمین۔ اے اللہ میری مغفرت کرا یا ہی ہو۔ جب امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتا تو سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَمِلْءُ الْأَرْضِينَ وَالسَّبْعُ وَمِلْءُ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔ ترجمہ: ”اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لیے ہیں تمام تعریفیں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی بھر پور تعداد میں جو کچھ

ان کے درمیان ہے اور ان کے علاوہ بھی۔ یعنی بے حدود بے شمار تعزیریں ہیں تیرے لیے یہی کہتے رہے اور اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے گئے۔

ذوق عبادت و تقویٰ:

آپ اپنی قوم کی مسجد میں اعمکاف کیا کرتے تھے۔ آپ کو غیبت کرنا اور غیبت سنانا دونوں باتیں ناپسند تھیں، مسلم البطل کا بیان ہے کہ سعید اپنے سامنے کسی کو غیبت نہ کرنے دیتے تھے غیبت کرنے والے سے فرماتے کہ جو کچھ تمہیں کہنا ہے اس شخص کے منہ پر کہو۔ آپ اپنے نفس کو اتنا حقیر سمجھتے تھے کہ گنہگاروں کو بھی ان کے گناہوں پر ٹوکتے ہوئے شرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے کہ میں ایک شخص کو گناہ میں مبتلا دیکھتا ہوں، لیکن خود اپنا نفس اپنی نگاہ میں اتنا حقیر ہے کہ دوسرے کو ٹوکتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔

جعفر بن ابی المغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو روزے کی حالت میں سرمد لگاتے دیکھا ہے اور میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو بے نیام تلوار کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اسمعیل بن عبد الملک کا کہنا ہے کہ آپ طاق یعنی محراب مسجد کے اندر نماز پڑھ لیتے تھے اور صبح کی نماز میں قنوت نہیں پڑھا کرتے تھے آپ اپنے عمامہ کا بالشت بھر شملہ چھوڑتے تھے۔

مسلم بطلین کا بیان ہے کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ شکر افضل ہے یا صبر؟ فرمایا: صبر اور عافیت زیادہ پسند ہے۔

علمائے سوء کا فتنہ:

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور تباہی کی جڑ علماء سوء کو سمجھتے تھے۔ چنانچہ ہلال بن خباب نے آپ سے پوچھا۔ لوگوں کی ہلاکت کہاں سے ہوگی؟ فرمایا: ”ان کے علماء کے ہاتھوں“۔^①

- ① شکر یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام طاقتوں، صلاحیتوں اور اسباب و وسائل کو احکام الہی کے مطابق صحیح موقعہ و محل پر صحیح طور پر استعمال کیا جائے اور صبر یہ ہے کہ اقامت حق و عدل کی راہ میں جتنی تکلیفیں، مصیبتیں، رکاوٹیں اور مصائب پیش آئیں ان کو بے خندہ پیشانی برداشت کیے چلے جانا اور راہ حق میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جانا یہ صبر و استقامت کا مایا اور رضائے الہی کے حصول کی شرط اول ہے۔ (مترجم)
- ② حضرت امام غزالی رضی اللہ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ اس امت کو تین طبقوں نے ذلیل و خوار اور تباہ و برباد کیا ہے۔ ظالم و مستبد اور فاسق و فاجر حکمران و بادشاہ، علمائے سوء اور پیران ریاکار قرآن و حدیث میں ایسے لوگوں کے حق میں سخت مذمت اور وعیدیں آئی ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث ہے:

عَلَمَاءُ هُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ اَدْبِمِ السَّمَاءِ مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ وَفِيهِمْ تَعُوذُ.

یعنی زمین پر بدترین فتنہ ان کے علماء ہوں گے۔ ان سے فتنے پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گے اور انہیں میں لوٹیں گے۔ عہد نبوت اور خلافت راشدہ سے لے کر آج تک یہی امت کے لیے سب سے بڑا فتنہ بنے ہوئے ہیں۔ جہاں صالح بادشاہ و حکمران، علمائے حق اور سچے پیران عظام اصلاح و انقلاب کی کوشش کرتے رہے وہاں علماء سوء ہمیشہ ان کی کوششوں پر پانی پھیرتے، مسلمانوں کو بگاڑتے اور ان کی دنیا تباہ کرتے رہے۔ یہی ہیں جنہوں نے مسلمانوں سے ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کی روح سلب کی اور شرک و بدعت کا دلدادہ بنایا اور ان کے ایمان و اخلاق کو تباہ کیا۔ (مترجم)

تفسیر قرآن میں مہارت:

قراءت اور تفسیر دونوں فنون میں آپ کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ آیات قرآن کی شان نزول اور ان کی تفسیر و تاویل میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ چنانچہ ابو یونس قزوی کا بیان ہے کہ میں نے ایک مرتبہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ آیت پڑھی۔ **إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ** مگر نہ تو ان مردوں عورتوں اور لڑکوں میں سے۔

تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں فرمایا: اس میں جن مردوں عورتوں اور لڑکوں کا ذکر ہے ان سے مراد ملکہ کے وہ مظلوم تھے جو طرح طرح ستائے جا رہے تھے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ میں ایسے ہی لوگوں کے پاس سے آ رہا ہوں (یعنی میں حجاج کے ستم رسیدہ لوگوں میں سے ہوں)۔ سعید نے کہا بھتیجے! ہم نے تو اس کے خلاف بڑی کوشش کی لیکن کیا کیا جائے خدا کی مرضی یہی ہے۔ (اس میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک بڑا سبق آموز نکتہ ہے کہ دنیا میں جن ظالموں اور فاسقوں نے ظلم و فساد پھاڑ رکھا ہے ان کے متعلق ان سے نجات پانے کی امکان بھر کوشش کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ ہم کیا کریں اللہ کی مرضی یہی ہے۔ یہ ہمارے نام نہاد مقتداؤں اور پیشواؤں کی حماقت و نادانی ہے۔ ہاں امکانی جدوجہد کے بعد جو نتیجہ ظاہر ہو اس کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی ہے۔ کاش ہم اس نکتے کو سمجھ سکیں۔ مترجم)

اعمش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ **إِنَّ أَوْصِيَّ وَأَسْعَةَ** (بے شک میری زمین کشادہ ہے) کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کسی زمین میں فساد برپا کیا جائے اور وہاں گناہوں کی کثرت ہو جائے تو اس سے نکل جاؤ (یہاں آپ ہمیں ایک بہت عمدہ سبق دے گئے کہ جس ملک و قوم میں فتنہ و فساد پھیل جائے۔ فسق و فجور کی کثرت ہو جائے اور اپنے دین و اخلاق کا بچانا ناممکن ہو جائے تو وہاں سے ہجرت کر جاؤ بشرطیکہ ہجرت کرنا ممکن ہو)۔



سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سیاسی سرگرمیاں اور مجاہدانہ کارنامے

یہاں سے ہم حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کی سیاسی سرگرمیوں اور مجاہدانہ کارناموں کا ضروری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ آپ صرف قرآن حدیث فقہ کلام اور زہد و تقویٰ میں ہی ممتاز و نمایاں نہ تھے بلکہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ صلح اور مجاہد بھی تھے۔ مذہب و سیاست دونوں کے بلند مقام پر فائز تھے۔ گوشہ نشین عافیت پسند عابد و زاہد ہی نہ تھے بلکہ جبر و استبداد اور ظلم و فساد کے خلاف مجاہد حق و صداقت بھی تھے۔ ان کے مجاہدانہ کارنامے اس دور کے آرام طلب اور عافیت پسند عابدوں کے لیے بڑے سبق آموز ہیں۔ اسی لیے ہم ان کو نمایاں حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ مترجم

جامع مسجد کوفہ میں امامت:

حضرت سعید جبیر رضی اللہ عنہ ایک زمانہ تک مدینہ میں رہے کچھ دنوں عراق کے مختلف شہروں میں رہ کر علم و عرفان کی بارشیں کرتے اور تشنگانِ علوم نبوت کو سیراب کرتے رہے۔ پھر کوفہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ کوفہ میں قیام کے دوران کچھ دنوں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قاضی کوفہ کے کاتب رہے اور کچھ دنوں ابو بردہ بن الیوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے کاتب بھی رہے۔ حجاج ان کا بڑا قدر دان تھا۔ ان کی بڑی عزت کرتا تھا۔ انہیں جامع کوفہ کا امام بنا دیا تھا اور عہدہ قضا بھی سونپ دیا تھا لیکن کوفہ والوں نے ان کے خلاف سخت احتجاج کیا کہ قاضی کو عربی النسل ہونا چاہیے۔ اس لیے حجاج نے ان سے عہدہ قضا لے کر ابو بردہ بن الیوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو دے دیا اور ان کو ہدایت کر دی کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کے مشورے سے کام کریں۔

حجاج کی مخالفت اور گرفتاری:

حجاج تو آپ پر انعامات کی بارش کر رہا تھا مگر آپ ان انعامات سے متاثر نہ تھے اس کو اس کے مظالم کی وجہ سے برا سمجھتے تھے اس لیے جب ابن اشعث نے حجاج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تو آپ نے اس کا ساتھ دیا ان کی وجہ سے کوفہ کے بہت سے قراء اور علماء بھی ابن اشعث کے ساتھ ہو گئے۔ ابن جبیر رضی اللہ عنہ جماعت علماء و قراء کے سرگروہ تھے اور میدان جنگ میں لوگوں کو حجاج اور بنو امیہ کے خلاف یہ کہہ کر ابھارتے تھے کہ یہ لوگ اسلامی عدل و انصاف اور خلفاء کے طریقے کو چھوڑ کر ظالمانہ طور پر حکومت کر رہے ہیں خدا کے بندوں پر اپنی مرضی سے حکومت کر رہے اور ان پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ فسق و فجور کی سرپرستی کرتے ہیں نمازوں میں تاخیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو ذلیل و خوار کرتے ہیں اس لیے ان کی بے دینی، ظلم و جور اور فسق و فجور کے خلاف جہاد کرو۔ ہدی کا زور توڑو اور نیکی کو غالب کرو۔

ابتداء میں ابن اشعث کی بڑی قوت تھی اس کو حجاج کے مقابلے میں کچھ فتوحات بھی حاصل ہوئیں اس نے عراق کا بڑا حصہ بھی فتح کر لیا تھا۔ لیکن حجاج کی مخالفت نے عبدالملک کی حکومت کی مخالفت کی شکل اختیار کر لی۔ حکومت کی مخالفت میں وہ کہاں ٹھہر سکتا

تھا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دیر جماع کے معرکے میں اس کو شکست فاش ہوئی۔ وہ شکست کھا کر سیستان بھاگ گیا۔ اس کی شکست کے بعد حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں چلے آئے۔ مکہ کے والی خالد بن عبد اللہ قسری نے ان کو گرفتار کرنا کر حجاج کے پاس بھیج دیا۔ وہ ان کا سخت ترین دشمن ہو گیا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ حجاج کے ساتھ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کا ایمان افروز مکالمہ:

ایمان اور جہاد یعنی ایمان باللہ اور جہاد فی سبیل اللہ مومن کا طرہ امتیاز ہے۔ جو حقیقی معنوں میں مومن ہوتا ہے وہی لازمی طور پر مجاہد ہوتا ہے۔ ایمان کے ساتھ ہی نفس کے ساتھ جہاد شروع ہو جاتا ہے بالآخر ظلم و استبداد کے خلاف میدان جنگ میں آ جاتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتا۔ وہ موت کا ڈر اپنے سینے سے نکال کر باہر پھینک دیتا ہے اور شہادت کو اپنی زندگی کی معراج تصور کرتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے۔ ذرا اس شیر دل مرد حق کی جرأت و بیباکی اس مکالمے سے نگاہ تصور میں لائیے:

حجاج: تمہارا کیا نام ہے؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ۔

حجاج: نہیں بالکل نہیں اس کے برعکس تم شتی بن کبیر ہو۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: معاف فرمائیے میری ماں آپ سے زیادہ میرے نام سے واقف تھیں۔

حجاج: تمہاری ماں بھی بد بخت تھی اور تم بھی بد بخت ہو۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔

حجاج: میں تمہاری دنیا کو دہکتی ہوئی آگ سے بدل دوں گا۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: اگر مجھے اس بات کا یقین ہوتا کہ یہ بات آپ کے اختیار میں ہے تو میں آپ کو اپنا معبود بنا لیتا۔

حجاج: محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: وہ امام ہدی اور نبی رحمت تھے۔

حجاج: تم حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہو؟ وہ جنت میں ہیں یا دوزخ میں؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: اگر میں جنت و دوزخ میں گیا ہوتا اور یہ دیکھ آتا کہ یہ دونوں خلفاء راشد کہاں ہیں تو پھر بتلا سکتا تھا۔ اب میں کیا

جانوں کون کہاں ہیں۔ عالم غیب کی خبر میں کیا دے سکتا ہوں؟

حجاج: خلفاء کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: میں ان کا وکیل نہیں ہوں۔

حجاج: اچھا تم ان میں سے کس کو زیادہ پسند کرتے ہو؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: جو میرے خالق کے نزدیک زیادہ پسندیدہ تھا۔

حجاج: خالق کے نزدیک کون زیادہ پسندیدہ تھا؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: اس کا علم خدا ہی کو ہے۔

حجاج: عبدالملک کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: تم ایسے شخص کے بارے میں کیا پوچھتے ہو جس کے گناہوں میں سے ایک گناہ تمہارا وجود ہے۔

حجاج: تم ہنتے کیوں نہیں؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: وہ کیسے ہنس سکتا ہے جو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مٹی کو آگ کھا جاتی ہے۔

حجاج: اگر یہ بات ہے تو ہم تفریحی مشاغل سے ہنتے کیوں ہیں؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: سب کے دل یکساں نہیں ہوتے۔

حجاج: تم نے کبھی تفریح کا سامان دیکھا بھی ہے؟

اس کے بعد حجاج نے حکم دیا (ہمارے فن کار کہاں ہیں وہ) عود اور بانسری بجا کر (اپنے فن کا مظاہرہ کریں تاکہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم ہو کہ دنیا کی دلچسپیاں اور رونقیں یہ ہیں) مگر ابن جبیر رضی اللہ عنہ نغمہ و سازن کر رہے تھے۔ حجاج نے کہا یہ رونے کا کیا موقع ہے۔ موسیقی تو ایک تفریحی چیز ہے آپ نے جواب دیا کہ تمہارا عود نالہ نغم ہے اور بانسری کی پھونک نے مجھے وہ دن یاد دلایا جس دن صور پھونکا جائے گا۔ عود ایک کانٹے ہوئے درخت کی لکڑی ہے جو ممکن ہے کہ ناحق کافی گئی ہو اور اس کے تار بکریوں کے پٹھوں کے ہیں جو ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائی جائیں گی۔

یہ سب باتیں سن کر حجاج نے کہا سعید تمہاری حالت قابل افسوس ہے۔ فرمایا: وہ شخص افسوس کے قابل نہیں جو آگ سے نجات دے کر جنت میں داخل کیا گیا ہو۔

حجاج: کیا میں نے تمہیں کوفہ کا امام نہیں بنایا تھا؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: ہاں بنایا تھا۔

حجاج: کیا میں نے تمہیں عہدہ قضا دے کر سرفراز نہیں کیا تھا؟ اور جب کوفہ والوں نے تمہاری اس بناء پر مخالفت کی کہ قاضی کو عربی النسل ہونا چاہیے تو اس پر میں نے ابو بردہ کو قاضی بنایا اور اسے ہدایت کی کہ تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: یہ بھی بالکل صحیح ہے۔

حجاج: کیا میں نے تم کو ایک لاکھ روپے کی خطیر رقم حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کے لیے نہیں دی تھی؟ اور پھر اس کا کوئی حساب و کتاب بھی نہیں مانگا۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: یہ بھی درست ہے۔

حجاج: جب تمہیں میرے ان احسانات کا اقرار ہے تو پھر کس چیز نے میری مخالفت پر آمادہ کیا۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: میری گردن میں ابن اشعث کی بیعت کا طوق تھا اور میں اس کی اطاعت پر مجبور تھا۔

حجاج: تمہیں ایک دشمن خدا کی بیعت کا اتنا فکر و احساس تھا اور اس کے مقابلے میں تم نے امیر المؤمنین کی بیعت کا کوئی خیال نہ کیا۔ خدا کی قسم میں تمہیں قتل اور واصل جہنم کیے بغیر یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ بناؤ تم کس طرح قتل کیا جانا پسند کرتے ہو؟ ابن جبیر رضی اللہ عنہ: خدا کی قسم تم جس طرح مجھے دنیا میں قتل کرو گے خدا تعالیٰ تم کو آخرت میں اسی طرح قتل کرے گا۔

حجاج: کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں؟

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: اگر تم مجھے معاف کر دو گے تو وہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی جانب سے ہوگا (تمہارا کچھ احسان نہ ہوگا)۔

حجاج: تو لو سنو! میں تم کو ضرور قتل کر دوں گا۔

ابن جبیر رضی اللہ عنہ: اللہ تعالیٰ نے میرا ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔ اس سے آگے پیچھے موت آ ہی نہیں سکتی اگر وہ وقت آ گیا ہے تو بے شک تم مجھے ضرور قتل کر دو گے اس سے کسی طرح مفر نہیں۔ اگر نہیں آیا ہے اور عافیت مقدر ہے تو تمہاری کیا مجال کہ مجھے قتل کر دو۔ بہر حال جو کچھ بھی اللہ کو منظور ہے تم وہی کرو گے۔

یہ سن کر حجاج نے آپ کو قتل کر دینے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگا۔ ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ اس نے کہا میں آپ کے قتل کیے جانے پر رورہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اس پر رونے کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعہ تو خدا تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود تھا۔ ایسا ہونا ہی تھا پھر یہ آیت تلاوت فرمائی:

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا﴾ (سورہ حدید: پارہ ۲۸)

”تم کو زمین اور اپنی جانوں میں جو مصیبتیں پہنچیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہم نے ان کو کتاب میں لکھ رکھا ہے۔“

(صبر و استقامت اور رضا بقضائے الہی کا یہ وہ ایمان افروز مظاہرہ تھا جو قیامت تک ہم مسلمانوں کے ایمانوں کو گرماتا رہے گا)۔

مقتل کی طرف روانگی اور شوق شہادت:

صبر و رضا کی آپ نے حد کر دی، بڑی ہنسی خوشی اور دلہانہ انداز سے مرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیا مجال جو ذرا سا بھی خوف و ہراس طاری ہوا ہو شہادت کی بے تاب تمننا رکھنے والے مرد مومن کے پاکیزہ قلب میں خوف و ہراس کا گزر کہاں! مقتل میں جانے سے پہلے اپنے صاحبزادے کو دیکھنے کے لیے بلایا۔ وہ آ کر رونے لگا۔ بیٹے کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا: بیٹے روتے کیوں ہو؟ ستاون سال کے بعد تمہارے باپ کی زندگی تھی ہی نہیں پھر رونے کا کون سا مقام ہے۔

اللہ اکبر کس قدر صبر و استقامت ہے کہ بڑی ہنسی خوشی اور شاداں و فرحاں مقتل کی طرف جا رہے ہیں مئے عشق الہی سے سرشار ہیں۔ دیکھنے والے انگشت بدنداں رہ گئے۔ یہ مرد مومن ہے یا صبر و استقامت کا پہاڑ۔ حجاج کو اطلاع دی گئی کہ آپ نے تو قتل کا حکم دے کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا مگر اس مرد مومن کا یہ حال ہے کہ وہ دلہانہ مقتل کی طرف جا رہا ہے۔ خوف و ہراس کیسا اسے تو حد سے زیادہ خوشی ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مر رہا ہوں۔ اس نے واپس بلا کر پوچھا کہ میاں مرد حق آپ ہنس کس بات پر رہے ہیں؟ فرمایا خدا کے مقابلے میں تمہاری جراتوں اور تمہارے مقابلے میں اس کے حکم پر۔ (سبحان اللہ کیا بات ہے مرد مومن کی مرتے مرتے وہ نقش وفا ثبت کر گیا جو قیامت تک تاباں و درخشاں رہے گا)۔

شہادت گاہ اُلفت میں:

حجاج نے اپنے سامنے ہی قتل کا چڑا بچھانے کا حکم دیا۔ جب چڑا بچھ گیا تو قتل کا حکم دیا سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے صرف اتنی مہلت مانگی کہ میں دو رکعت نماز پڑھ لوں۔ ظالم حجاج اس وقت بھی اپنی فرعونیت سے باز نہ آیا کہا اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو تو اجازت مل سکتی ہے۔ فرمایا کچھ حرج نہیں۔ اَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَنَّمَّ وَجْهُ اللّٰهِ (تم جدھر بھی رخ کرو اُدھر ہی اللہ کا چہرہ ہے) یعنی وہ کسی جہت کے ساتھ محدود و مقید نہیں۔ وہ سب جگہ ہے۔ جدھر بھی اپنا رخ کرو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی خالقیت ربوبیت الوہیت قدرت اور حکمت کے آثار پاؤ گے) پھر یہ آیت پڑھی:

﴿ اِنِّىْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْۗقًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمَشْرِکِیْنَ ﴾ (الانعام: ۹۰)

”میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

حجاج نے حکم دیا ان کو سر کے بل جھکا دو۔ یہ سن کر خود سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سر کو خم کیا اور یہ آیت پڑھی:

﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیْهَا نُعِیْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اٰخَرٰی ﴾

”اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور پھر تم کو دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔“

مطلب یہ کہ آپ نے ہر ہر قدم پر اپنے مومن ہونے کا ثبوت دیا ہر طرح حجاج کی سوئی ہوئی فطرت کو بھنجوڑا اور اس کی مسلمانی پر بھرپور طنز کی مگر اس ظالم کی فطرت نہ جاگی اور اس کی فرعونیت میں کوئی فرق نہ آیا۔ موت کو سر پر دیکھ کر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور بارگاہ ایزدی میں دعا کی:

”خدا یا میرے قتل کے بعد پھر اس (حجاج) کو کسی کے قتل پر قادر نہ کرنا۔“

خون کا فوارہ اور روحانی قوت:

اس دنیا میں ہمیشہ اہل حق کی شہادتیں ہوتی رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی۔ مجاہدین حق و صداقت ہمیشہ راہ حق میں ہنس ہنس کر اپنی جانیں فدا کرتے رہے مگر جو بات حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت میں ہے وہ کسی میں نظر نہیں آتی۔ حضرت سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے شہادت گہ اُلفت میں ایسے ایسے نقوش ثبت کیے ہیں جو قیامت تک کے مسلمانوں کے دلوں میں خون حیات دواڑتے رہیں گے۔

جلاد شمشیر براں لیے حجاج کے حکم کا منتظر تھا اس نے حکم دیا دفعۃً تلوار چمکی اور کشتہ حق کا سر زمین پر تڑپنے لگا۔ زمین پر گرنے کے بعد زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا۔

اس دلدروز واقعہ کے بعد جو تعجب انگیز واقعہ ظہور پذیر ہوا وہ بڑا بصیرت افروز ہے شہید ہونے والوں کے جسم سے عموماً جو خون نکلتا ہے اس سے بہت زیادہ خون آپ کے جسم سے نکلا۔ جس نے تمام درباریوں کو محو حیرت کر دیا۔ حجاج نے اطباء کو بلا کر اس کا سبب دریافت کیا کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے کیوں پھوٹ پڑے؟ انہوں نے جواب دیا خون رُوح کے تابع ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو

پہلے قتل کیا گیا ان کی روح قتل سے پہلے اس کے حکم سنتے ہی تحلیل ہو چکی تھی اور ابن جبیر رضی اللہ عنہ کی روح پر حکم قتل کا کچھ بھی اثر نہ تھا۔ شہادت کا یہ واقعہ ۹۴ھ میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر باختلاف روایت ۵۷ یا ۵۹ سال کی تھی۔ آپ کی شخصیت معمولی شخصیت نہ تھی، آپ کی شہادت نے تمام دنیائے اسلام میں صف ماتم بچھا دی۔ اکابر تابعین سخت متاثر و مضطرب ہوئے۔ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”خدا یا ثقیف کے فاسق (یعنی حجاج سے) اس کا انتقام لے۔ خدا کی قسم تمام روئے زمین کے باشندے بھی ان کے قتل میں شریک ہوتے تو خدا ان سب کو منہ کے بل دوزخ کی آگ میں جھونک دیتا۔“

شائکل و خصائل:

رنگ سیاہ سر اور داڑھی دونوں سفید، خضاب لگانا پسند نہ کرتے تھے آپ سے دسمہ کے خضاب کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا: خدا تو بندہ کے چہرے کو نور سے روشن کرتا ہے اور بندہ اس کو سیاہی سے بچھا دیتا ہے۔

ایک قابل غور بات یہ ہے کہ آپ نے عبدالملک اور حجاج کی مخالفت کے جوش میں حق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، درحقیقت آپ نے ظلم و استبداد کے خلاف علم جہاد بلند کیا تھا اور علماء و کورس دیا تھا کہ حتی الامکان جبر و استبداد اور فتنہ و فوج کا غلبہ تسلیم نہ کرو، بدی کی قوت کو نیکی کی قوت پر کبھی غالب نہ آنے دو اور اگر تم نے ظلم و فساد کی روک تھام میں بقدر امکان کوشش نہ کی تو تمہارا حشر بھی ظالموں کے ساتھ ہوگا۔ جس آگ میں وہ جلیں گے اسی آگ میں تمہیں بھی جلنا پڑے گا۔

اسدی کا بیان ہے کہ میں نے سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ میرا آقا (جس کا میں غلام ہوں) حجاج کا حامی اور اس کے ساتھ ہے۔ اگر میں حجاج کے خلاف ابن اشعث کے ساتھ ہو جاؤں اور لڑتے لڑتے جان دے دوں تو مجھ سے اس کا مواخذہ تو کوئی نہ ہوگا؟ آپ نے جواب دیا۔ تم ابن اشعث کا ساتھ نہ دو، حجاج کے خلاف مت لڑو۔ اگر تمہارا آقا یہاں موجود ہوتا تو تم کو لے کر حجاج کی حمایت میں لڑتا۔

لائقیۃ فی الاسلام:

ابی الصہبہ سے روایت ہے کہ سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ”ان سے ذکر کیا گیا کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تقیہ نہیں۔ سعید نے بھی کہا بے شک اسلام میں تقیہ نہیں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے یہ گمان کیا اور خطرہ محسوس کیا کہ اب وہ ضرور کسی آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ پکڑے جائیں گے اور نہ معلوم کیا حشر ہو۔“

ان کی شہادت سے تمام تابعین میں کہرام مچ گیا۔ ابراہیم کہتے ہیں سعید ابن جبیر رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے۔ اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے انہوں نے اپنے پیچھے کوئی اپنے جیسا عالم نہیں چھوڑا۔ میمون بن مهران کہتے ہیں کہ سعید رضی اللہ عنہ مر گئے۔ اس حالت میں کہ زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں جو سعید رضی اللہ عنہ کا محتاج نہ ہو۔

اسماعیل بن عبدالملک کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کو سفید عمامہ باندھے ہوئے دیکھا۔ یہ بھی روایت ہے کہ چادر اوڑھ کر نماز پڑھ لیتے تھے اور ہاتھ باہر نہ نکالتے تھے۔

ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما:

عامر نام ابو بردہ کنیت۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ بھائی کے ساتھ ہی اسلام لائے۔ ان ہی کے ساتھ حبشہ گئے۔ پھر وہاں سے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ آئے۔ سعید بن ابی بردہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بردہ نے کہا: مجھے میرے والد نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا کہ میں ان سے دین کی تعلیم حاصل کروں۔ سو میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور کیوں آئے ہو؟ میں نے سب کچھ بتلا دیا۔ آپ نے مجھ سے مرحبا کہا: میری حوصلہ افزائی کی۔ میں نے عرض کیا مجھے میرے والد نے آپ کے پاس دین کی تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ نے فرمایا: سچے! تم ایک ایسی جگہ آئے ہو جہاں کے لوگ تجارتی کاروبار کرتے ہیں اگر یہاں کا کوئی مال دار شخص تمہیں گھاس کا ایک تنکا بھی ہدیہ دے تو اسے قبول نہ کرنا اس لیے کہ وہ سود کا ہوگا۔

ابو بردہ رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ جب میں مدینے میں آیا تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ملا اور ان سے عرض کیا: ”آپ اس گھر میں کیوں داخل نہیں ہوتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوا کرتے تھے اور جس میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں اور ستو کھلایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا: سچے! (وہ زمانہ گیا جب تمام مسلمان پاکیزہ زندگی بسر کیا کرتے تھے) اب تم ایسی جگہ ہو جہاں ہر چیز میں غیر محسوس انداز میں سود کی ملاوٹ ہے (اب لوگ حرام کی کمائی سے اجتناب کرنے میں اتنا اہتمام نہیں کرتے جتنا عہد نبوت میں کیا کرتے تھے)۔

ابی الحسن کہتے ہیں کہ ابو اوسل رضی اللہ عنہ اور ابو بردہ رضی اللہ عنہما بیت المال کے افسر تھے۔ ابو نعیم کا بیان ہے کہ کوفہ کا محکمہ قضا قاضی شریح رضی اللہ عنہ کے بعد ابو بردہ رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد ہوا تھا۔

یزید بن مردانیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ گھوڑے پر سوار ہیں اور قرآن پاک ان کے آگے لٹکا ہوا ہے۔ ابن معاویہ نخعی کہتے ہیں کہ ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما ایک جنازے پر آئے قبیلہ کے امام نے جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے ان کو آگے کیا۔

ان کی وفات کوفہ میں ۱۰۳ھ میں ہوئی۔ ایک دوسری روایت میں ۱۰۴ھ ہے۔

موسیٰ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما:

یہ بھائی ہیں ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے۔ ان کی ماں کا نام ام کلثوم بنت الفضل بن عباس بن عبدالمطلب ہے۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

ابو بکر بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہما:

یہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ کے تیسرے بھائی ہیں۔ اپنے والد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں قلیل الروایت ہیں۔ ضعیف مانے جاتے ہیں۔ ان کا خالد بن عبداللہ کی ولایت میں انتقال ہوا اور یہ ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے۔

عروہ بن المغیرہ رضی اللہ عنہما:

ابن شعبہ النخعی ابو یعفور کنیت اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ شععی روایت کرتے ہیں کہ عروہ بن المغیرہ بن شعبہ کوفہ کے امیر تھے اور ان کے گھر والوں میں سب سے بہتر تھے۔

عقار بن المغیرہ رضی اللہ عنہما:

ابن شعبہ النخعی۔ یہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

یعفور بن المغیرہ رضی اللہ عنہما:

ابن شعبہ النخعی۔ یہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

حمزہ بن المغیرہ رضی اللہ عنہما:

ابن شعبہ النخعی۔ یہ بھی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

ابراہیم النخعی رضی اللہ عنہما:

نام و نسب یہ ہے: ابراہیم نام ابو عمران کنیت نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن یزید بن اسود بن عمرو بن ربیعہ بن حارثہ بن سعد ابن مالک بن النخع مذحج سے۔ یہ یک چشم تھے۔ نخع قبیلہ مذحج کی ایک شاخ ہے۔ یہ لوگ کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔

مزاج میں سادگی اور انکساری:

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہما اپنے فضل و کمال اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے کوفہ کے ممتاز ترین تابعین میں سے تھے لیکن عجز و نیاز اور خاکساری کا یہ عالم تھا کہ کوئی جان بھی نہ سلکتا تھا کہ یہ کون ہیں؟ محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ میں اپنی مجلس میں ایک نوجوان ابراہیم کا ذکر سنا کرتا تھا مسروق رضی اللہ عنہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عالم تھے لیکن وہ ہم میں ایسے رہتے تھے گویا ہمارے ساتھ نہیں۔ یہی یک چشم نوجوان علقمہ رضی اللہ عنہ کے حلقہ درس میں بیٹھا کرتا تھا وہ لوگوں میں بالکل گننام تھے۔ ان کی فوت حافظ اتنی قوی تھی کہ خود فرماتے ہیں ”میں نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔“

عبد الملک بن ابی سلیمان کا بیان ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ کہتے کہ تمہارے اندر ابراہیم موجود ہیں اور تم پھر مجھ سے مسائل پوچھنے آتے ہو۔ سفیان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ عنہما جب کبھی یہ بات سنتے تو بڑا تعجب کرتے اور کہتے کہ میں ان کے علم کا محتاج ہوں۔

علقمہ رضی اللہ عنہما ان کے چچا اور اسود رضی اللہ عنہما ان کے ماموں دونوں کوفہ کے ممتاز محدثین میں سے تھے ابراہیم نے انہی کے دامن میں پرورش پائی تھی۔ ابو زرعمہ نخعی کا بیان ہے کہ وہ ممتاز ترین علمائے اسلام میں سے تھے اور ان کو حدیث و فقہ دونوں میں کامل دستگاہ حاصل تھی۔ لیکن وہ ریا اور شہرت و ناموری کو ناپسند کرتے تھے۔ اعمش کہتے ہیں کہ ہم شقیق کی مجلس میں آتے تو بڑا ہجوم اور رونق پاتے اور ابراہیم رضی اللہ عنہما کی صحبت میں آتے تو وہاں کچھ بھی نہ پاتے۔

علمی رعب و دبدبہ:

اعمش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ سے جب بھی کسی حدیث کا ذکر کیا تو آپ نے اس کے متعلق میری معلومات میں اضافہ ہی کیا (یعنی حدیث میں اس قدر تعمق اور تبحر حاصل تھا) زبید کا کہنا ہے کہ میں نے جب کبھی بھی ابراہیم رضی اللہ عنہ سے کسی چیز کے متعلق کچھ پوچھا تو ان میں ناگواری کے آثار نظر آئے۔ مغیرہ کی روایت ہے کہ ہم ابراہیم سے امیر کی طرح ڈرتے تھے (یعنی فروتنی و خاکساری کا تو یہ حال تھا کہ جو آپ نے سنا اور رعب و جلال اتنا تھا کہ لوگ جس طرح امیر سے ڈرتے تھے اسی طرح ان سے ڈرتے تھے)۔

طلحہ کہا کرتے تھے کہ کوفہ میں سب سے بڑی ہستیاں دو ہیں۔ ابراہیم اور خیمہ آپ کو علم سفینہ سے زیادہ علم سینہ پر اعتماد تھا۔ قوت حافظہ اتنی قوی تھی کہ کتابت کی ضرورت نہ سمجھتے تھے۔

فضیل کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے کچھ مسائل کو ایک کتاب میں جمع کیا تھا۔ لیکن مجھے کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اس کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب انسان لکھ لیتا ہے تو اس پر اس کو اعتماد ہو جاتا ہے اور جب انسان علم کی جستجو کرتا ہے تو خدا اس کو بقدر کفایت علم عطا فرماتا ہے۔
ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے علمی استفادہ:

ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جس چیز نے زیادہ چمکایا وہ یہ تھی، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بے پناہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ ابو معشر کا بیان ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کے پاس جاتے رہتے تھے اور ان سے علمی استفادہ کرتے تھے۔ خاص کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑی عقیدت و ارادت تھی کہ یہ ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ علوم نبوت کی وارث اور فقیہہ بھی تھیں۔ ان کی مجلسوں میں یہ زیادہ حاضری دیتے۔ اگرچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا سماع ثابت نہیں لیکن ان کی جیسی برگزیدہ ہستیوں کی مجلس میں شریک ہو جانا ہی حصول برکت و سعادت کے لیے کافی تھا۔

ابوب نے اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ بچپن میں بلوغ کے پہلے اپنے چچا اور ماموں علقمہ رضی اللہ عنہ اور اسود رضی اللہ عنہ کے ہمراہ حج کو جاتے تھے اور ان لوگوں کو ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عقیدت و ارادت اور ان کی مجلسوں میں آنا جانا تھا۔ یہ سعادت و برکت کیا کم ہے؟ کہ انہوں نے بچپن میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سرخ کپڑوں میں دیکھا تھا۔ علمی کمالات کے باوجود آپ علم کا اظہار کرنا اچھا نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ زبید کہتے ہیں کہ میں جب کبھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھتا تو آپ کہتے کہ کیا تمہیں میرے علاوہ کوئی عالم نہ ملا کہ تم اس سے یہ مسئلہ دریافت کر لیتے، یہی بات ابی حصین بھی روایت کرتے ہیں۔

فرامین نبوی کو بیان کرنے میں احتیاط:

ابن حصین ان کی مرسل (مرسل روایت اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی راوی درمیان میں سے چھوٹ گیا ہو) حدیثوں کو امام شععی رضی اللہ عنہ کی مرسل روایات سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ ابراہیم حدیث کی روایت میں الفاظ کی پابندی کو بعینہ ضروری نہیں سمجھتے تھے

اور بالمعنی روایت کو کافی سمجھتے (یہ روایت بالمعنی اس زمانے میں تو چل گئی کیونکہ علماء اور عوام دونوں میں اطاعت الہی کا جذبہ اتباع شریعت کا دلورہ اور ذوق سلیم تھا ان کے عقائد و اعمال میں شرک و بدعت کا دخل نہ ہوا تھا اور ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ اور نیتوں میں فتور نہ تھا۔ لیکن جب شرک و بدعت کا سیلاب آ گیا اور دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا تو یہ روایت بالمعنی مسلمانوں کے عقائد و اعمال پر قیامت ڈھا گئی۔ حدیثوں کا نام لے لے کر اور ان کو اپنی پسند و رائے کا لباس پہننا کر بے شمار شرکانہ عقائد و اعمال گھڑ لیے گئے اور امت واحدہ بہتر بہتر ٹکڑوں میں بٹ گئی)۔

آپ اگرچہ روایت بالمعنی کو کافی سمجھتے تھے لیکن اس کے ساتھ اس کے اس پہلو کا بھی اندازہ تھا جس کا ہم نے اوپر ذکر کیا اس لیے وہ کسی روایت کو رسول اللہ ﷺ کی طرف منسوب کرنے میں بڑے محتاط تھے آپ کو بہت سی مرفوع روایات (ایسی روایات جن کا سلسلہ اسناد صحیح طور پر رسول اللہ ﷺ تک پہنچتا ہے) حفظ تھیں مگر ان کو اس خیال سے روایت نہ کرتے تھے کہ کہیں کوئی بھول چوک نہ ہو جائے۔ ابو ہاشم کی روایت ہے کہ میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا آپ کو رسول خدا ﷺ سے کوئی حدیث نہیں پہنچی جس کو آپ ہم سے بیان کریں؟ فرمایا: کیوں نہیں لیکن میں عمر بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، علقمہ رضی اللہ عنہ اور اسود رضی اللہ عنہ سے روایت کرنا اس لیے زیادہ آسان اور بہتر سمجھتا ہوں۔ یعنی وہ روایت کی ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے۔ چنانچہ حسن بن عبید اللہ کا بیان ہے کہ میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے کہا۔ آپ ہم لوگوں سے حدیث کیوں نہیں بیان کرتے؟ فرمایا: کیا تم یہ چاہتے ہو کہ میں فلاں شخص کی طرح ہو جاؤں اگر تم کو اس کی خواہش ہے تو قبیلے کی مسجد میں آیا کرو۔ وہاں جب کوئی شخص کچھ پوچھے گا تو تم بھی اس کا جواب سن لو گے۔

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ لوگ قرآن ذکر کرتے ہوئے ڈرتے تھے (کہ ہم سے قرآن سمجھنے اور سمجھانے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے) اور اب یہ زمانہ ہے کہ جس کا دل چاہتا ہے وہ مفسر بن بیٹھتا ہے (اس زمانے میں تو اس کی ابتداء تھی اور اب تو یہ حال ہے کہ خود ساختہ مفسرین قرآن اپنی رائے اور پسند سے قرآنی آیات کی نئی نئی تفسیریں کر کر کے امت میں انتشار اور نزاع و تصادم پھیلا رہے ہیں قرآن کا نام لے کر جس کا جو جی چاہتا ہے کہہ دیتا ہے۔ قرآن کی کوئی نہیں سنتا۔ بس اپنی اپنی کہے جا رہے ہیں) مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں علم کا ایک کلمہ بھی اپنے منہ سے نہ نکالوں جس زمانے میں میں فقیر ہوا وہ بہت ہی برا زمانہ ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جب وہ جمعوں میں ہوتے تھے تو اپنی بہترین احادیث بھی بیان نہ کرتے تھے۔

اس احساس ذمہ داری سے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ مسائل کے جوابات دینے سے بھی کتراتے تھے اعمش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک مرتبہ ابراہیم سے کہا میں چند مسائل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں؟ فرمایا میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ میں کسی شے کے متعلق کہوں کہ وہ اس طرح ہے اور وہ اس کے خلاف ہو۔

فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص علم کا ایک کلمہ بھی اس نیت سے منہ سے نکالتا ہے کہ اس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو وہ اس کے وسیلے سے وہ سیدھا جہنم میں گرتا ہے نہ کہ جس کی شروع سے آخر تک یہی نیت ہو۔

عقائد و اعمال کی درستگی کا اہتمام:

صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین رضی اللہ عنہم اس امر کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اسلامی زندگی کی بنیاد ایمان و عمل صالح ہے عقائد کی

اصلاح و درستی سے اعمال درست ہوتے ہیں اور ظاہر کی پاکیزگی باطن کی صفائی سے حاصل ہوتی ہے اس بناء پر ابراہیم رضی اللہ عنہ عقائد کے بارے میں سلف کے عقائد سے سرمو تجاوز نہ کرتے تھے۔ عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے بعد ارجاء کا ایک نیا عقیدہ پیدا ہوا۔ جس سے ایک نئے فرقے مرجیہ نے جنم لیا۔ بعض تابعین بھی اس عقیدے سے متاثر ہو گئے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ارجاء بدعت ہے۔ تم لوگ ہمیشہ اس سے بچتے رہو۔ مرجیہ کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے پاس جو لوگ آتے جاتے تھے اور ان کے عقائد میں اس نئے عقیدہ کا ذرا سا شبہ بھی پایا جاتا تو اس کو اپنے پاس آنے سے منع کر دیتے تھے (اس عقیدے اور اس فرقے کو ہم اپنی طرف سے ضروری تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ مترجم)۔

فرقہ مرجیہ کا تعارف:

اس فرقے کا نام مرجیہ اس لیے ہوا کہ ان کا اعتقاد یہ ہے کہ جس نے ایک مرتبہ کلمہ توحید لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ پڑھ لیا بس وہ مسلمان ہو گیا۔ خواہ وہ اس کلمے کے بنیادی معنی و مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے۔ یعنی توحید و رسالت کی حقیقت کو سمجھے یا نہ سمجھے بس وہ مومن اور مسلمان ہو گیا اس کے بعد وہ تمام عمر مشرک و مصیبت کی نجاست میں سر سے پیر تک دھنسا رہے اور گناہ کیے چلا جائے وہ ہرگز ہرگز دوزخ میں نہ جائے گا۔

ان کا کہنا یہ ہے کہ ایمان فقط ایک قول ہے اس میں احکام و اعمال کا کوئی دخل نہیں اگر کوئی مسلمان اسلام کے کسی حکم پر عمل کر لے تو اچھی بات ہے اور نہ کرے تو کوئی ہرج بھی نہیں، کلمہ توحید ایک قول ہے۔ یہی ایمان ہے۔ ایمان میں کمی و بیشی نہیں ہوتی۔ عام مسلمانوں فرشتوں اور انبیاء علیہم السلام کے ایمان میں کوئی فرق نہیں۔ جس نے زبان سے توحید کا اقرار کر لیا اگرچہ شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کیا وہ مومن ہے۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کا عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ گویا ان ظالموں اور نادانوں نے یہ سمجھا کہ اسلام انسانوں سے صرف ایمان کا مطالبہ کرتا ہے۔ عمل کا مطالبہ نہیں کرتا۔

یہ ہے عقیدہ ارجاء جس کو ابراہیم نے بدعت بتلایا۔ اس کی سختی سے تردید اور روک تھام کی۔ خاص کر ابراہیم رضی اللہ عنہم تو اس کے سخت مخالف تھے مگر چونکہ اس عقیدے سے نفس کو احکام الہی کی پابندی سے آزادی مل جاتی تھی، حق پرستی کی جگہ نفس پرستی کی تمام راہیں کھل جاتی تھیں۔ اور عہد نبوت اور خلافت راشدہ کے بعد کا مسلمان یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس کو اسلام میں عمل کے اعتبار سے کچھ مل جائے وہ مسلمان بھی رہے۔ جنت بھی ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ خدا بھی خوش رہے اور دین پر عمل بھی ہو جائے اس لیے عقیدہ ارجاء ہمارے سارے اسلامی لٹریچر میں پھیل گیا، ہمارے دل و دماغ پر چھا گیا اور ایمان باللہ و جہاد فی سبیل اللہ کی روح فنا کے گھاٹ اتر گئی۔

ہر زمانے کے علمائے حق اور مجاہدین حق و صداقت نے مسلمانوں کو خدا پرستی اور نیک عمل کی تلقین کی۔ ایمان و عمل صالح کا صحیح مفہوم ذہنوں میں پیوست کرنا چاہا اور انہیں اسلام کی ضراط مستقیم پر کھینچ لانا چاہا مگر کبھی بھی ان کی مساعی حسنہ کامیاب نہ ہو سکیں اور وہ بدستور عمل صالح سے محروم اور فسق و فجور میں غرق ہوتے چلے گئے۔ اس خطرے کو تابعین نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہم نے سختی سے اس عقیدے کی تردید کی لیکن افسوس اور صد ہزار افسوس کہ اس فتنے کی تنگی نہ ہو سکی، باوجود اس کے کہ

ہمارے یہاں بے شمار علماء و صوفیہ اور مشائخ موجود ہیں پھر بھی مسلمانوں میں خدا پرستی و نیک عملی کی روح پیدا نہیں ہوتی۔ مترجم
فتنہ مرجیہ کی مذمت:

ابن عون کہتے ہیں کہ میں ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا۔ انہوں نے مرجیہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ تمہیں ان کی صحبت اور ان کے عقیدے سے بچنا چاہیے۔ انہوں نے ایک نئی راہ اور نیا عقیدہ اپنی رائے سے نکالا ہے۔ عقیدہ ارجاء بدعت ہے اور ایک فتنہ ہے۔ آپ ہمیشہ اس عقیدے سے بچنے اور ان کی مجلسوں سے الگ رہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حکیم ابن جبیر رضی اللہ عنہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ”مجھے اس امت کے لیے مرجیہ سے زیادہ خطرہ ہے۔ مرجیہ کے چند لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے عقیدے کی باتیں کرنی شروع کیں آپ کو بڑا غصہ آیا اور فرمایا اگر تمہارا عقیدہ یہی ہے تو میرے پاس نہ آیا کرو۔ اعمش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے سامنے مرجیہ کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں ان کو اہل کتاب سے زیادہ مبغوض سمجھتا ہوں (اہل کتاب مسلمانوں کے لیے اتنے خطرناک اور گمراہ کن نہیں جتنے مرجیہ ہیں)۔

محل کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ تم بھی ہماری طرح مومن بن جاؤ؟ آپ نے فرمایا جب تم سے وہ یہ بات کہیں تو تم کہہ دیا کرو فُقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ آخِرَ آيَاتِكَ (کہو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ ابراہیم پر نازل کیا گیا تمام احکام و شرائع پر ایمان لاتے ہیں)۔
تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے حسن ظن:

امت مسلمہ کے حق میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا اختلاف بھی ایک مستقل مسئلہ بنا ہوا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے بارے میں صحیح روایات بھی ہیں اور غلط بھی۔ صحیح و غلط میں فرق و امتیاز کرنا خواص کے لیے بھی مشکل ہے اور عوام کے لیے تو ناممکن۔ اس لیے حق و اعتدال کی راہ یہی ہے کہ ان کے بارے میں سکوت اختیار کیا جائے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا یہی مسلک تھا۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اختلافات پر تنقید اظہار رائے اور فریقین میں سے کسی کی جانب داری کو ناپسند کرتے تھے اور سکوت سے کام لیتے تھے۔ ان کے ایک شاگرد نے حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے اختلاف کے بارے میں ایک سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سبائی ہوں نہ مرجی (یعنی نہ سبائی ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کوئی بات کہوں اور نہ مرجی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر لب کشائی کروں) اسی طرح ایک شخص نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تمہارا یہ خیال سنتے تو تم کو سزا دیتے۔ اگر تم کو اس قسم کی باتیں کرنی ہیں تو میرے پاس نہ بیٹھا کرو۔ آپ فرمایا کرتے تھے مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت ہے۔ لیکن میں آسمان سے منہ کے بل گرنا پسند کرتا ہوں اور یہ گوارا نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی قسم کا سوء ظن رکھوں۔

کمالات و محاسن:

آپ فضائل اخلاق سے آراستہ و پیراستہ اور بڑے عابد و زاہد تھے راتیں عبادت میں گزارتے تھے۔ ظلمہ کا بیان ہے کہ جب لوگ سو جاتے تھے اس وقت ابراہیم رضی اللہ عنہ عمدہ حلد پہن کر اور خوشبو لگا کر مسجد چلے جاتے تھے۔ اعمش کی روایت ہے کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ

اکثر نماز پڑھ کر ہمارے یہاں آتے تھے اور دن چڑھے تک یہ حال رہتا تھا کہ بیمار معلوم ہوتے تھے۔ ایک دن ناغہ دے کر پابندی کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔

ابی مسکین کہتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ بڑے مہمان نواز تھے۔ اگر ان کے گھر میں کھجوریں ہوتیں اور کوئی آنے والا آتا اور ان کھجوروں کے سوا گھر میں اور کچھ نہ ہوتا تو وہی کھجوریں پیش کر دیتے اگر کوئی ساکھ آتا تو کھجوریں ہی دے دے دیتے۔

آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سخت گیر نہ تھے۔ معمولی باتوں میں سختی کرنا پسند کرتے تھے۔ ایک دن آپ کے یہاں دو شخص آئے ان میں سے ایک کا بند کھلا ہوا تھا اور دوسرے کے بال گندھے ہوئے تھے ان کو دیکھ کر فرقدنجی نے کہا اے ابو عمران! آپ اس شخص کو بند کھولنے اور دوسرے کو بال گوندھنے سے منع نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا: میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم میں بنی اسد کی سنگدلی یا بنی تمیم کی سختی کیوں پیدا ہو گئی ہے (بھلا کہیں سنگدلی اور سختی سے بھی لوگوں کی اصلاح ہوا کرتی ہے) ان میں سے ایک شخص کو گرمی لگ رہی تھی اس لیے اس نے بند کھول دیا اور دوسرا شخص نماز کے وقت بال کھول دیتا ہے (کون سی ایسی بات ہے کہ میں اس سے ان کو منع کروں)۔

باوجود علمی جلالت و شان کے ٹیک لگا کر بیٹھنے تک کا امتیاز گوارا نہ تھا۔ کبھی کبھی حصول اجر و ثواب کے لیے دوسروں کا بوجھ اٹھا لیتے تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے بسا اوقات ابراہیم کو بوجھ اٹھائے ہوئے دیکھا ہے۔
اصلاح کا ایک دلچسپ واقعہ:

اسلامی زندگی کی بنیاد دو چیزوں پر ہے توحید اور سنت۔ مسلمانوں کے تمام عقائد و اعمال میں توحید اور سنت کی روح اور اتباع شریعت کا جذبہ کارفرما ہونا چاہیے۔ ان دونوں کے مقابلے میں دوسرا یہاں ہیں شرک اور بدعت۔ یہ دونوں گمراہیاں مسلمانوں کو اسلام کی راہ راست سے ہٹا کر جہنم میں لے جانے والی ہیں اس لیے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ ان دونوں کی تردید اور جنگ میں نہایت سخت اور محتاط تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے۔

اللہ کے بزرگ بندوں سے دعا کی درخواست کرنا بدعت نہیں ہے۔ اس پر تو صحابہ رضی اللہ عنہم و تابعین کا عمل رہا ہے لیکن چونکہ اس سے عوام میں بدعتوں کا دروازہ کھلتا اور خدا سے تعلق ٹوٹتا ہے اس لیے آپ اسے بھی پسند نہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے درخواست کی کہ اے ابو عمران! میرے حق میں دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے شفا عطا کرے مگر آپ کو یہ درخواست ناگوار گزری اس سے کہا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مغفرت کی دعا کی درخواست کی انہوں نے دعا کی بجائے کہا کہ خدا تمہاری مغفرت نہ فرمائے یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور الگ ہٹ گیا۔ پھر دوبارہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور دعا کی کہ خدا تمہیں حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جگہ داخل کرے۔ اس کے بعد اس سے پوچھا کہ اب تم راضی ہو (لو سنو میں نے ایسا کیوں کیا؟) تمہارا حال یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ ایک شخص کے پاس یہ عقیدہ لے کر جاتے ہیں کہ اس نے تمام مراتب و مقامات قرب حاصل کر لیے ہیں اور وہ بزرگ و صالح ہستی بن گیا ہے (مگر حقیقت حال خدا ہی بہتر جانتا ہے یہاں سے تمہارے عقیدے کا لگاؤ شروع ہو جاتا ہے پھر تم خدا کو چھوڑ کر اسی کو اپنا حاجت روا و مشکل کشا بنا لیتے ہو۔ اس لیے میں نے تمہیں سبق دیا) ابراہیم رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ اس شخص کو سنا

کر کہا کہ دیکھو سنت کی ہر عقیدے و عمل میں پابندی کرو اور بدعتوں سے اجتناب کرو سنت کی پابندی اور بدعت سے اجتناب کا یہاں تک خیال رکھتے تھے۔ عیاض بن مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”جو مسح کرنے سے منہ موڑتا ہے وہ سنت سے منہ موڑتا ہے اور یہ چیز شیطان کی طرف سے ہوتی ہے (کہ وہ سنت کی راہ سے ہٹا کر بدعت کی راہ پر ڈال دیتا ہے)۔“

فصیل کہتے ہیں اس سے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی مراد مسح کو ترک کرنا تھی۔ یعنی جس نے مسح کرنا ترک کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے منہ موڑا۔

اعمش رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے تو سلام کرتے۔ اگر ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا تو پھر سلام کرتے۔ اگر ہمیں کچھ پوچھنا ہوتا تو پھر سلام کرتے اور پھر کلام کو سلام پر ہی ختم کرتے۔

ظالموں پر لعنت کا قرآنی جواز

اسلام کا مقصد دنیا میں امن و عدل کا قیام ہے اس لیے دنیا میں جتنی چیزیں بھی ظلم و فساد پھیلانے والی ہیں ان سب کو مٹانا چاہتا ہے اور یہی وجہ یہ کہ علمائے حق ہمیشہ ظالم و جابر بادشاہوں اور حاکموں کے خلاف علم جہاد بلند کرتے اور ان کی مخالفت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ میں بھی یہ صفت موجود تھی۔ مگر حکیمانہ و مشفقانہ انداز کے ساتھ۔ آپ کے سلاطین و امراء کے ساتھ دوستانہ تعلقات و مراسم بھی تھے۔ ان میں باہم بدایا و تحائف کا تبادلہ ہوا کرتا تھا ممتاز امراء ان کی خدمت کیا کرتے تھے یہ ان کو قبول کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے تھے البتہ ظالم و جفا کار امراء کے سخت خلاف تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حجاج میں اور ان میں نہیں بنتی تھی۔ آپ اسے بہت برا بھلا کہا کرتے تھے۔ بعض اوقات اس پر لعنت بھی بھیجتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حجاج اور اس جیسے ظالموں پر لعنت بھیجنے کے بارے میں سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِیْنَ۔ (خبردار ہو جاؤ۔ اللہ ظالموں پر لعنت کرتا ہے) مطلب یہ کہ ظالموں پر لعنت کرنا منافی اخلاق نہیں۔ حجاج کی موت پر آپ اس قدر خوش ہوئے سجدے میں گر پڑے اور آنکھوں سے اشک مسرت رواں ہو گئے۔

بدیہ قبول فرمانا:

ابن عمون کہتے ہیں کہ سلاطین آپ کے پاس آیا کرتے اور مسائل پوچھا کرتے تھے۔ زہیر الازدی کہتے ہیں کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ حلوان میں میرے والد کے پاس آئے انہوں نے قیمتی نفیس کپڑے چادریں اور ایک ہزار درہم بطور ہدیہ پیش کیے آپ نے قبول فرمالیے۔

نعیم بن ابی ہند نے ایک مڑکا طلاء آپ کو بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسے قبول کیا۔ اس کو بڑا میٹھا پایا اور اس کو پکوا کر نیند سوا لیا۔

آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کسی کو کوئی چیز ہدیہ یا تحفہ دی جائے اور وہ اس کو لینے سے انکار کر دے۔ جب آپ سے پوچھا جاتا۔ آپ نے کیسے صبح کی؟ فرماتے اللہ کی نعمت سے۔

لغو کام میں مشغول لوگوں کو سلام نہ کرنا:

حماد بن ابی سفیان کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ چند لوگوں پر گزرے آپ نے ان کو سلام نہیں کیا، لوگوں کو ان کی یہ بات ناگوار گزری، آپ کو بھی اس کا احساس ہوا پھر واپس آئے۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو عمران! آپ ہمارے پاس سے گزرے مگر سلام نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں کچھ ایسے نا جائز اور ناگوار مشاغل میں دیکھا اس لیے سلام نہیں کیا۔
خوش ذوق اور خوش لباس:

آپ بڑے خوش ذوق اور خوش لباس تھے، رنگین اور بیش قیمت لباس پہنتے تھے زعفرانی اور سرخ لباس استعمال کرنے میں بھی مضائقہ نہ سمجھتے تھے۔ جاڑوں کے لباس میں سمور کی سجاوٹ لگی ہوتی تھی، عمامہ بھی باندھتے تھے۔ کبھی سمور کی ٹوپی بھی پہن لیتے تھے۔ لوہے کی انگوٹھی بھی پہنتے تھے اس پر نقش تھا ذبابُ اللہِ وَنَحْنُ لَهُ اِمَامٌ شِعْرَانِي كَيْتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے رنگین لباس پہنتے تھے۔

آپ کے حکیمانہ اقوال بہت ہیں۔ ان میں سے چند ایک پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

- ① انسان چالیس سال تک جس سیرت پر قائم رہے، پھر وہ نہیں بدل سکتی۔
- ② ایمان کے بعد انسان کو سب سے بڑی دولت جو عطا کی گئی ہے وہ تکلیفوں پر صبر کرنا ہے اسی لیے بیماری کا حال بیان کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب مریض سے اس کی حالت پوچھی جائے تو اس کو چاہیے کہ پہلے اچھا کہے، اس کے بعد اصل حالت بیان کرے کیونکہ شکوہ غم صبر کے خلاف ہے۔
- ③ انسان کے لیے یہ معصیت کافی ہے کہ لوگ دین یا دنیا کے معاملے میں اس پر انگشت نہائی کریں۔
- ④ جو شخص علم کا ایک کلمہ بھی اس نیت سے منہ سے نکالتا ہے کہ اس سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے تو وہ اس سے سیدھا جہنم میں گرتا ہے۔

⑤ اگر میں اہل قبلہ میں سے کسی سے قتال کو حلال سمجھتا تو ان حشیہ والوں سے قتال کرتا۔

دارالبقاء کی طرف روانگی:

ابی الہیثم کہتے ہیں آپ مریض تھے میں آپ کے پاس عبادت کے لیے پہنچا تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا: میں دنیا چھوڑنے پر نہیں رو رہا بلکہ اپنی دوڑ کیوں کی وجہ سے رو رہا ہوں۔ دوسرے دن میں پہنچا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کی زوجہ محترمہ رو رہی تھیں۔

ابن عون کہتے ہیں کہ جب ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو ہم آپ کے گھر آئے پوچھا: آپ نے کیا وصیت کی ہے کہا گیا کہ آپ نے وصیت کی ہے کہ میری قبر لحد والی بنائی جائے اور پختہ نہ کیا جائے اگر تم چار بھی میری میت اٹھانے والو ہو تو میری وجہ سے کسی پانچویں کو تکلیف نہ دی جائے۔ ابن عوف کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو رات کے وقت دفن کیا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی وفات کے بعد امام شعی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا آپ نے پوچھا کہ کیا تم ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے غسل و دفن میں شریک ہوئے تھے؟ میں نے عرض کیا،

ہاں یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد ایک شخص عالم بھی اپنے جیسا نہیں چھوڑا۔ نہ کوفہ میں نہ شام نہ بصرہ میں اور نہ کوئی اور ایک روایت میں ہے کہ اب حجاز میں بھی آپ جیسا کوئی نہ رہا۔

حجاج کی موت کے چند دن بعد آپ بیمار پڑے تھے۔ آخر دم تک نہایت مضطرب و بے قرار رہے لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو فرمایا اس سے زیادہ خوف اور خطرہ کا وقت اور کون سا ہوگا کہ خدا کا قاصد دوزخ یا جنت کا پیغام لے کر آئے۔ میں اس پیغام کے مقابلے میں قیامت تک موجودہ صورت کا قائم رہنا پسند کرتا ہوں۔ اسی مرض میں آپ نے کوفہ میں ولید بن عبد الملک کے زمانہ خلافت میں انچاس یا پچاس سال کی عمر میں ۹۶ھ میں وفات پائی۔

ابراہیم التیمی رضی اللہ عنہ:

نام و نسب: نام ابراہیم، کنیت ابواسماء، نسب نامہ یہ ہے: ابراہیم بن یزید بن شریک بن تیم الرباب تمیمی، یہ بھی کوفہ کے عابد و زاہد تابعین میں سے تھے۔

عوام بن خوشب کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو سرخ چادر میں لپٹے ہوئے دیکھا۔ میں ان کے گھر میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ آپ سرخ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سرخ پردہ لٹکا ہوا ہے۔

حجاج اور ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ:

حجاج ثقفی حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا سخت دشمن تھا (جن کا ذکر آپ اوپر ملاحظہ کر چکے ہیں) ان پر قابو پانے کی کوشش میں رہا کرتا تھا، مگر وہ اس کی دسترس سے باہر تھے، ایک آدمی کو ان کی تلاش میں لگا رکھا تھا، ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ کو اس دشمنی کا علم تھا۔ تلاش کرنے والے آدمی ابراہیم رضی اللہ عنہ کو پہچانتے نہ تھے وہ لوگ ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ پکڑ لائے۔ ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ کا اخلاص و ایثار ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کو پہچاننے کے لیے کہہ دیا کہ میں ابراہیم ہوں۔ حجاج نے انہیں زنجیروں میں جکڑوا کر دیماں کے قید خانہ میں مقید کر دیا۔ حجاج نے یہ قید خانہ سنگین مجرموں کے لیے خاص طور پر بنوایا تھا۔ یہ قید خانہ کیا تھا آدمی کے لیے ایک قبر تھی اس میں سردی، گرمی اور دھوپ سے بچنے کا کوئی انتظام نہ تھا۔

چند دنوں میں ہی حضرت ابراہیم تمیمی رضی اللہ عنہ کا رنگ و روپ بدل گیا، حتیٰ کہ ان کی والدہ بھی ان کو نہ پہچان سکتی تھیں۔ لیکن وہ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ قید کے زہرہ گداز مصائب برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ اسی قید خانہ میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی وفات کے بعد حجاج نے خواب میں دیکھا کہ آج شہر میں ایک جنتی شخص مر گیا ہے۔ صبح کو اس نے حقیقت حال کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ قید خانہ میں ابراہیم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس ظالم کا ضمیر اب بھی بیدار نہ ہوا کہا کہ یہ خواب ایک شیطانی و سورہ معلوم ہوتا ہے اور ابراہیم رضی اللہ عنہ کی لاش کو گڑھے میں پھینکوا دیا۔

سفیان ثوری ابی حیآن سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابراہیم تمیمی نے فرمایا: ”میں اپنے قول و عمل میں موازنہ کرتا ہوں تو جھوٹا بننے سے خوف معلوم ہوتا ہے۔“

دولت سے بے نیازی:

دوسرے تابعین کی طرح آپ زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ ان کے والد بھی بڑے عابد و زاہد تاجی تھے انہوں نے بڑی دولت پیدا کی لیکن دنیا کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دی۔ ان کے لباس سے ان کی دولت و ثروت کا اندازہ نہ لگایا جاسکتا تھا۔ ایک مرتبہ ابراہیم رضی اللہ عنہ نے ان کے جسم پر روئی کا معمولی کرتہ جس کی آستین ہتھیلیوں تک لگتی تھیں دیکھ کر کہا آپ کوئی ڈھنگ کا لباس کیوں نہیں پہنتے بھلا یہ بھی کوئی لباس ہے جو اب دیا بیٹا جب میں بصرہ میں تھا اس وقت ہزاروں روپے مکائے لیکن ان سے میری خوشی اور مسرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا اور نہ پھر دوبارہ دولت کمانے کی خواہش پیدا ہوئی میں چاہتا ہوں کہ جو پاک اور حلال کمائی کا لقمہ میں کھاتا ہوں وہ اس شخص کے منہ میں جائے جو سب سے زیادہ مبغوض ہو کیونکہ میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ صحابی سے سنا ہے کہ قیمت کے دن ایک درہم رکھنے والے سے زیادہ دودرہم رکھنے والے سے حساب ہوگا۔

ذوق و شوق عبادت:

حافظ ابن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بڑے عابد و زاہد تھے اور فاقہ کشی پر ان کو بڑی قدرت تھی۔ عبادت میں اس قدر اہتمام کرتے تھے کہ ان کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوتی۔ جو تکبیر اولیٰ فوت کر دے آپ اس کو صحیح معنوں میں عابد نہ سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے۔ جس کو تکبیر اولیٰ فوت کرتے ہوئے دیکھو اس سے ہاتھ دھو ڈالو۔ نماز میں کیف و استغراق کا یہ عالم تھا کہ سجدہ کی حالت میں چڑیاں پیٹھ پر اڑاڑ کر بیٹھتی تھیں اور چونچیں مارتی تھیں۔ دودو مہینے مسلسل روزے رکھتے تھے۔

خیشمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن ابی سبرہ ان کا نام بزید بن مالک بن عبد اللہ بن الزویب بن سلمہ ابن عمرو بن ذہل بن مران بن جہلی بن سعد العسیرہ مذبح سے۔

شعبہ و ابی اسحاق خیشمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب میرے باپ پیدا ہوئے تو میرے دادا نے ان کا نام عزیز رکھا۔ اور اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ نے فرمایا: نہیں اس کا نام عبد الرحمن رکھو۔ عبید اللہ کہتے ہیں کہ خیشمہ رضی اللہ عنہ مدینہ میں پیدا ہوئے۔ خیشمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو ناموں عبد اللہ و عبد الرحمن کو زیادہ پسند کرتے تھے۔

اہل کوفہ ابراہیم رضی اللہ عنہ اور خیشمہ رضی اللہ عنہ سے بہت زیادہ محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ نعیم بن ابی ہند کہتے ہیں کہ میں نے خیشمہ رضی اللہ عنہ کے جنازے کے ساتھ حضرت ابو اہل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک گدھے پر سوار تھے اور کہہ رہے تھے ہائے افسوس (ایک قابل قدر اہل علم جاتا رہا) خیشمہ رضی اللہ عنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے سن کر روایت کرتے ہیں۔ خیشمہ رضی اللہ عنہ نے ۱۳ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو پایا۔

نعیم بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

خزاعی ہیں۔ ۱۰۰ھ میں حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی۔ ان سے عمش رضی اللہ عنہ روایت

کرتے ہیں۔ ثقہ راوی تھے۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔
عمارہ بن عمیر رضی اللہ عنہما:

تیم اللہ بن ثعلبہ کے تہمی ہیں۔ ان سے اعمش رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے سلیمان بن عبدالمالک کے زمانے میں وفات پائی۔

اعمش رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ عمارہ کو مغازی میں ایک شخص ملا۔ انہوں نے اس سے کہا میں آپ کو پہچانتا ہوں۔ کیا آپ ابراہیم رضی اللہ عنہما کی علمی مجلس میں ہمارے ساتھ نہ بیٹھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس کے پاس ستر دینار تھے ان میں سے ان کو تیس دینار عطا کیے۔

ابوالضحیٰ رضی اللہ عنہما:

مسلم بن صبح الہمدانی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ وہ مسروق رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما کے اصحاب رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ راوی ہیں بہت سی احادیث ان سے مروی ہیں۔

تمیم بن طرفہ رضی اللہ عنہما:

قبیلہ طے سے ہیں۔ حجاج کے زمانہ میں ۲۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ راوی ہیں مگر بہت کم روایت کرتے ہیں۔

حکیم بن جابر رضی اللہ عنہما:

ابن ابی طارق حمسی بخیلہ سے۔ ولید بن عبدالملک کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھے بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہما:

ابن یزید بن قیس بن عبداللہ بن مالک بن علقمہ بن سلمان بن کھل بن مکر بن عوف بن النخعی قبیلہ مذحج سے۔ زہیر ازدی کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہما نے مجھ سے بیان کیا کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آپ کی اجازت کے بغیر حاضر ہوا کرتا تھا جب تک میں نابالغ رہا۔ بالغ ہونے کے بعد میں ان سے اجازت لے لیا کرتا تھا۔ اس طرح ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے علمی استفادہ کا بہت زیادہ موقع ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتی تھیں۔

صقب ان سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا۔ میں اس وقت بالغ ہو گیا تھا۔ میں آیا اور پردے کے پیچھے سے آزدی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آواز پہچانی کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا میرے والد نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ غسل کو واجب کون سی چیز کرتی ہے؟ فرمایا جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں۔

طلق بن غنم کہتے ہیں کہ میں نے ابواسرائیل کو یہ کہتے سنا کہ جب میں عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہما کو دیکھتا تو کہتا کہ یہ تو عرب کے دیہاتیوں میں سے ایک دیہاتی ہے۔ اپنے لباس اور سواری وغیرہ میں۔ وہ خمر پر بھی سواری کرتے تھے۔

فطر کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہما کو خمر کی چادر اوڑھے دیکھا ہے وہ حنا کا خضاب لگاتے تھے۔

ابی نام بن طلق کہتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں ہم میں اور اسود بن یزید کے بچپن کے تعلقات تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ اس بات کا اتنا لحاظ کرتے تھے کہ جب کسی سفر میں جاتے یا سفر ہے واپس آتے تو ہم لوگوں کو آ کر سلام کیا کرتے تھے۔ سلام اسلام کی نشانی ہے اس کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ بلا قید مذہب و ملت مسلم و غیر مسلم سب کو سلام کرتے۔ شان بن حبیب سلمی کا بیان ہے کہ میں عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ کے ہمراہ پل کی طرف گیا۔ راستے میں جو بھی یہودی یا نصرانی ملتا تھا تو آپ سب کو سلام کرتے۔ میں نے کہا آپ مشرکوں کو بھی سلام کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: سلام مسلم کی نشانی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ لوگ مجھے پہچان لیں کہ میں مسلمان ہوں۔

رمضان میں اپنے قبیلہ کی امامت کرتے تھے اور اہل قبیلہ کے ساتھ بارہ تراویح پڑھتے تھے اس میں ایک تہائی قرآن سناتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ خود علیحدہ بھی ایک ایک ترویجہ میں بارہ بارہ رکعتیں پڑھتے تھے۔

ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن الاسود رضی اللہ عنہ نے عید کی رات ہمارے ساتھ نماز پڑھی ان کے پاؤں میں کچھ تکلیف تھی۔ روزے کی حالت میں اپنے پاؤں پانی میں ڈالے ہوئے تھے۔

محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ آپ حج کے سلسلے میں ہمارے یہاں آئے۔ ان کے ایک پاؤں میں کچھ تکلیف تھی مگر اس حالت میں بھی وہ صبح تک نماز پڑھتے رہے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں اسی حج اور اسی عمرے کیے۔
عبداللہ بن مرہ رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھے۔ بہت سی صحیح احادیث ان سے مروی ہیں۔

سالم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

غطفانی غلام ہیں۔

منصور کہتے ہیں جب سالم حدیث بیان کرتے تو کثرت سے حدیثیں بیان کرتے اور جب ابراہیم رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تو بڑے احتیاط سے کام لیتے۔ میں نے ابراہیم سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو فرمایا کہ سالم حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے اس لیے وہ زیادہ حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ۱۰۰ھ یا ۱۰۱ھ میں وفات پائی۔ ثقہ راوی تھے اور بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

عبید بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

یہ سالم کے بھائی ہیں۔ ان سے روایت کرتے ہیں۔ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عمران بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

یہ بھی سالم کے تیسرے بھائی ہیں یہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔

زیاد بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

یہ بھی سالم کے بھائی ہیں اور انہی سے روایت کرتے ہیں۔

مسلم بن ابی الجعد رضی اللہ عنہ:

یہ بھی سالم کے بھائی ہیں۔ کہا گیا ہے یہ سات بھائی تھے۔ دو ان میں شیعہ تھے دوسرے جہتے اور دو خارجی تھے۔ ان کے باپ کہا کرتے تھے۔ اے بیٹو! تم نے اللہ کا نام لے کر اپنے اندر خود اختلاف پیدا کر لیا ہے۔ تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی۔ اس نے اتحاد و اتفاق کا حکم دیا تھا تم نے نزاع و اختلاف پیدا کر لیا۔

ابوالبختری الطائی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام علی بن عبد اللہ بن جعفر نے سعید بن ابی عمران بتلایا ہے۔ اور بعضوں نے سعید بن جبیر بتلایا ہے۔ یہ قبیلہ طے کے بنی مہمان کے غلام تھے۔

عمر و ابن مرہ کہتے ہیں کہ مجاہم کے معرکہ میں قاریوں کی جماعت نے ابوالبختری رضی اللہ عنہ کو اپنا امیر بنا لینا چاہا۔ مگر انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہ کرو میں غلاموں میں سے ہوں۔ تم اپنا امیر عرب میں سے کسی آزاد شخص کو بناؤ۔ یہ عبد الرحمن بن الاشعث کے ہمراہ یوم مجاہم میں شہید ہوئے ۸۳ھ میں۔ ابوالبختری اور ان کے ساتھی بڑے منکسر المزاج تھے جب کوئی ان کی تعریف کرتا تو اس کو اس سے منع کرتے کہ اس سے قلب میں عجب پیدا ہوتا ہے۔

عطاء بن سائب کہتے ہیں کہ ابوالبختری نوہ سنا کرتے اور رویا کرتے تھے۔ ربیع بن حسان کہتے ہیں کہ میں نے ابوالبختری کو قباء میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

شعبہ کہتے ہیں کہ نہ ابوالبختری نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور نہ انہوں نے اس کو دیکھا۔ سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ مجھے ابوالبختری کے بارے میں تعجب ہے کہ وہ بہت حدیثیں روایت کرتے ہیں اور درمیان میں کوئی نہ کوئی راوی چھوڑ دیتے ہیں اور وہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے بھی روایت کرتے ہیں مگر انہوں نے کسی صحابی سے نہیں سنا۔ لہذا ان کی جو حدیثیں سنی ہوئی مسلسل ہیں وہ حسن ہیں اور ان کے علاوہ جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ ضعیف ہیں۔

ذری بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن زرارہ بن معاویہ بن عمیرہ بن منبہ بن غالب بن وقش بن قاسم بن مرہبہ قبیلہ ہمدان سے۔ یہ ذری بن عبد اللہ بڑے فصیح و بلیغ قصہ گو تھے۔ مرجہ فرقتہ سے تعلق رکھتے تھے اور وہ ابو عمر بن ذری بن یہ ان قاریوں میں سے تھے جنہوں نے عبد الرحمن بن الاشعث کے ساتھ ہو کر حجاج بن یوسف کے خلاف جہاد کیا تھا۔

حکم کہتے ہیں کہ میں نے مجاہم کے معرکہ میں یہ کہتے سنا کہ یہ معرکہ قتال تو ایک فولادی بیچ کے خلاف برد کی مانند ہے۔ یعنی ایک قسم کی شطرنج کی بازی ہے۔ یہ بازی وہ ہوتی ہے کہ حریف کے تمام مہر پٹ جائیں فقط شاہ باقی رہ جائے اور یہ بمنزلہ نصف مات کے ہوتی ہے۔

مسیب بن رافع رضی اللہ عنہ:

یہ اسدی ہیں۔ یحییٰ بن طلحہ ابن مسیب بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ عمر بن ہبیرہ نے ان کو بلایا کہ محکمہ قضا ان کے سپرد کر دیں مگر انہوں نے اس منصب کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ۱۰۵ھ میں وفات پائی۔

ثابت بن عبید رضی اللہ عنہ:

انصاری ہیں۔

یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سے ملے۔ کہتے ہیں میں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ثقہ راوی تھے بہت سی احادیث روایت کرتے ہیں۔ ان سے اعمش رضی اللہ عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

ابو حازم الاشجعی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام سلمان ہے۔ عزة الاشجعی کے غلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں فوت ہوئے۔ ثقہ راوی تھے۔ کئی صالح حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

مری بن قطری رضی اللہ عنہ:

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

مالک بن الحارث رضی اللہ عنہ:

سلمی ہیں۔ ثقہ راوی ہیں بہت سی صحیح حدیثوں کے راوی ہیں۔ ان سے اعمش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

یحییٰ بن الجزار رضی اللہ عنہ:

بجیلہ کے غلام ہیں۔ حکم کہتے ہیں یہ شیعہ تھے اور بڑا غلو کرتے تھے۔ ثقہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

حسن العرنی رضی اللہ عنہ:

قبیلہ بجیلہ سے۔ ثقہ راوی تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

قبیصہ بن ہلب رضی اللہ عنہ:

ابن یزید بن عدی بن قنافة بن عدی بن عبد شمس بن عدی بن اہزم۔ یہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے والد

ایک وفد میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور حضور سے سنا تھا۔

ابو مالک الغفاری رضی اللہ عنہ:

صاحب تفسیر ہیں۔ حدیث بہت کم بیان کرتے تھے۔

ابوصادق الازدی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عبداللہ بن ناجد ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا نام مسلم بن یزید ہے۔ از دشنوۃ سے۔ ابوسلمہ صالح کہتے ہیں

میں نے ابوصادق کو دیکھا آپ کی داڑھی سفید تھی اور سر کے بال بھی سفید تھے۔

ابوبکر بن شعیب کہتے ہیں کہ میں نے ابوصادق کو تان اور قطفہ میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

ابن الحجاب کہتے ہیں کہ ابوصادق نہ تو کوئی سنت روزہ رکھتے تھے اور نہ فرض نماز کے علاوہ سنت نماز پڑھتے تھے۔ نہ فرض سے پہلے اور نہ اس کے بعد۔ اور نہ وہ زیادہ متقی تھے حدیث بہت کم بیان کرتے تھے۔ ان کے بارے میں علماء نے کلام کیا ہے۔
ابوصالح رضی اللہ عنہما:

ان کا نام بازام ہے۔ باذان بھی بتلایا گیا ہے۔ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام تھے۔ یہ صاحب تفسیر ہیں۔ یعنی تفسیری روایتیں کرتے ہیں۔ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابوصالح رضی اللہ عنہما کلبی رضی اللہ عنہما اور محمد بن السائب رضی اللہ عنہما سے مروی ہیں۔ ابوصالح سے سماک بن حرب اور اسماعیل ابن ابی خالد بھی روایت کرتے ہیں۔

عاصم کہتے ہیں کہ ابوصالح بہت لمبی داڑھی رکھتے تھے اور اس میں خلال کیا کرتے تھے۔
یزید بن البراء رضی اللہ عنہما:

ابن عازب بن الحارث الانصاری۔ اوس کے بی حارثہ میں سے۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ عدی بن ثابت سے روایت کرتے ہیں۔
سوید بن البراء رضی اللہ عنہما:

ابن عازب۔ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔ عمان کے امیر تھے اور بہترین امراء میں سے تھے۔
موسیٰ بن عبداللہ رضی اللہ عنہما:

ابن یزید بن زید رضی اللہ عنہما، قبیلہ اوس کے انصاری ہیں اور ان کی ماں موسیٰ بنت حدیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہما ہیں۔
رباح بن الحارث رضی اللہ عنہما اور ابراہیم بن جریر رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ الجلی۔ ان سے عبد الملک بن عمیر روایت کرتے ہیں۔ سعید بن العاص رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور ابان ابن جریر بن عبداللہ کو دیکھا ہے میرے دادا احناء اور شکم کا خضاب کیا کرتے تھے۔
ابوزرعتہ بن عمرو رضی اللہ عنہما:

ابن جریر بن عبداللہ الجلی۔ یہ اپنے دادا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔
ہلال بن سیاف رضی اللہ عنہما:

اشجعی ہیں۔

ان کی کنیت ابوالحسن تھی۔ ثقہ راوی تھے۔ بہت سی احادیث روایت کرتے ہیں۔
سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہما:

سلمیٰ ہیں۔

ان سے اعمش اور حصین روایت کرتے ہیں۔ عمرو بن ہبیرہ کی ولایت کے زمانے میں انہوں نے وفات پائی۔ ثقہ راوی

تھے۔ کثیر الحدیث ہیں۔

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن یزید النخعی، یہ اسود بن یزید نخعی کے بھتیجے ہیں۔ ان کی کنیت ابو جعفر تھی۔ وہ عبادت میں بڑا لطف و سرور لیتے تھے اس لیے ان کو دانا بھی کہا جاتا تھا، ان کو رقیق بھی کہا جاتا تھا۔

ان کی بیوی بڑی مومنہ اور صالحہ تھیں۔ جب بھی ان کو کوئی مصیبت، تکلیف اور مشکل پیش آتی تو دعا کیا کرتی تھیں۔ یہ بہت کم روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن ابی نعم رضی اللہ عنہما:

قبیلہ بنیہ سے ہیں۔ ان کی کنیت ابوالحکم۔ یہ وہ ہیں جو سنت کو سنت سے حرام کرتے تھے ثقہ راوی تھے۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ابوالسفر سعید بن محمد رضی اللہ عنہما:

قبیلہ ہمدان کے ثوری ہیں۔ کوفہ میں خالد بن عبداللہ القسری کی ولایت کے زمانہ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے، بہت کم روایت کرتے تھے اور صاحب قرآن تھے۔

عبداللہ ابی رضی اللہ عنہما:

یہ زبیر بن عقیل کے غلام ہیں۔ مشہور ثقہ راوی تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابوالوڈاک رضی اللہ عنہما:

ان کا نام جبر بن نوف بن ربیعہ ہمدانی ہے۔ کم روایت کرتے تھے۔

یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہما:

بنی اسد بن خزیمہ میں سے کابل کے غلام ہیں۔ یہ قاری تھے۔

اعمش رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یحییٰ بن وثاب رضی اللہ عنہما جب نماز میں ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ کسی شخص سے مخاطب ہیں (یعنی پورے خلوص و شعور اور حضور دل سے نماز پڑھتے تھے)۔

کوفہ میں یزید بن عبدالملک کی خلافت کے زمانے میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے اور صاحب قرآن تھے۔

ابو ہلال رضی اللہ عنہما:

عمیر بن قسیم بن یرم التعلی، مشہور و معروف تھے۔ حدیث کم بیان کرتے تھے۔

تمیمی رضی اللہ عنہما:

یہ وہ ہیں جن سے ابواسحاق سمیعی روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ الاسدی کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل سے ان کے نام کے

بارے میں پوچھا۔ انہوں نے ارہ بتلایا۔

جر وہ بن حمیل رضی اللہ عنہ۔

ابن مالک الطائی۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔

بشر بن غالب رضی اللہ عنہ اور ضحاک بن مزاحم رضی اللہ عنہ۔

ہلائی ہیں کینیت ابوالقاسم ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے پیٹ میں رہا۔ یعنی دو سال میں پیدا ہوا۔

قرہ بن خالد کہتے ہیں کہ ضحاک ایک چاندی کی انگوٹھی پہنتے تھے۔ اس میں جو نگینہ تھا اس پر پرندہ کی صورت نقش تھی۔

بشیر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں ضحاک بن مزاحم کا کاتب تھا۔

سفیان کہتے ہیں کہ ضحاک دین کی تعلیم و تدریس دیتے تھے اور اس پر کوئی اجرت نہ لیتے تھے۔

ایک شخص روایت کرتا ہے کہ میں نے ضحاک کو لومڑی کے کھال کی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا۔ مشاش کہتے ہیں کہ میں نے

ضحاک سے پوچھا کہ کیا آپ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملے تھے فرمایا نہیں۔

عبدالملک بن مہسرہ کا بیان ہے کہ ضحاک حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے تو نہیں ملے البتہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے ملے

تھے اور انہی سے تفسیر کا علم حاصل کیا۔

سفیان ایک شخص کے حوالہ سے خود ضحاک سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ”میں اپنے اصحاب سے ملا ہوں مگر میں نے ان سے

صرف زہد و تقویٰ حاصل کیا۔

محمد بن بکر الریحی کوفہ کے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب ضحاک کی وفات کا وقت قریب آیا تو ایک شخص کو بھیج کر

مجھے بلایا اور کہا کہ میں صبح تک وفات پانے والا ہوں۔ جب میں مرجاؤں تو منادی کر دینا کہ ضحاک مر گیا۔ جو یہ آواز سنے میرے

غسل اور کفن و دفن میں شریک ہو جائے۔ مجھے پاک صاف ہو کر غسل دینا، سجدے کی جگہوں پر خوشبو لگانا، کفن کو بھی معطر کر دینا، کفن

صرف اتنا ہی دینا جو مسنون ہے۔ سفید ہو۔ اس میں کفایت کو مد نظر رکھنا۔ خبردار کوئی رسم و رواج اور بدعت کی بات نہ کرنا۔

مجھے لحد میں دفن کرنا۔ جو لوگ میرے جنازے کو کندھوں پر اٹھا کر لے جائیں تو وہ شادی اور دلہن کی چال نہ چلیں بلکہ وقار و

متانت کے ساتھ درمیانی چال چلیں۔ نہ زیادہ تیز چلیں اور نہ زیادہ آہستہ۔ اگر کچی اینٹیں پاؤ تو ان سے میری قبر پاٹ دینا اور نہ گھاس

پاٹ سے پاٹ دینا۔ مجھے لحد میں رکھ کر قبر برابر کر دینا اور سر کی طرف بطور نشان ایک اینٹ کھڑی کر دینا۔ پھر پانی چھڑک دینا۔ جب

تم مجھے دفن کر چکو اور لوگ میری قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ جھاز لیں تو میری قبر پر کھڑے ہو کر اور قبلہ رخ ہو کر ذرا بلند آواز سے یہ کہیں۔

اے اللہ! تو ضحاک کو قبر میں بٹھائے گا۔ اس سے سوال کر۔ گا تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تو نبی کے متعلق کیا

جانتا اور کیا کہتا ہے؟ تو تو اس کو قول حق پر ثابت قدم رکھیو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پس پھر واپس آ جانا۔

الحج کہتے ہیں کہ ضحاک بن مزاحم نے مجھ سے کہا کہ جتنا ہو سکے نیک عمل کر لے۔ اس سے پہلے کہ تجھ میں عمل کرنے کی

طاقت نہ رہے۔ یعنی آج جس قدر بھی ہو سکے نیک اعمال بجالا۔

طفیل کا کہنا ہے کہ ضحاک نے اپنی موت کے وقت کہا کہ میرے جنازے کی نماز تمہارے سوا دوسرے نہ پڑھیں نہ امیر کو بلا کہ وہ آ کر میرے جنازے کی نماز پڑھائیں۔ اس لیے میں نے تمہیں جو وصیت کر دی ہے اس پر عمل کرنا۔ انہوں نے ۱۰ھ میں وفات پائی۔

القاسم بن مخیرة رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ یہ مؤذن تھے۔

محمد بن عبد اللہ شعی کہتے ہیں کہ یہ موت کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی دادی سے کہا کہ میں موت کی دعا مانگا کرتا تھا مگر اب جب کہ مجھے موت آرہی ہے تو میں اس سے گھبرار ہا ہوں۔ کہتے ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کئی حدیثوں کے راوی ہیں۔

القاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہندی۔ یہ کوفہ کی قضاء پر فائز تھے۔ ابواسرائیل کہتے ہیں میں نے القاسم بن عبد الرحمن کو اپنے گھر کے دروازے پر مقدمات کا فیصلہ کرتے ہوئے دیکھا۔ اعمش کہتے ہیں کہ میں ان کی عدالت میں جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور وہ مقدمات فیصلہ کیا کرتے تھے۔

مسعودی کا بیان ہے کہ آپ چار چیزوں پر اجرت اور معاوضہ لینے کو مکروہ سمجھتے تھے وہ یہ ہیں:

(۱) قراءت قرآن (۲) اذان (۳) قضاء (۴) تقسیم غنائم۔

مخارب بن دثار کہتے ہیں کہ مجھے القاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ایک سفر میں جانے کا اتفاق ہوا ہم پر تین چیزوں کا غلبہ رہا۔ طویل خاموشی نمازوں کی کثرت اور نفس کی سخاوت۔

یہ جناب کا خضاب کرتے تھے۔ ان کا انتقال کوفہ میں خالد بن عبد اللہ القسری کی ولایت کے زمانے میں ہوا۔

معن بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

یہ بھائی ہیں القاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے۔ ان سے چھوٹے تھے۔ ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ ثقہ تھے۔ اور قلیل الحدیث۔

زیاد بن ابی مریم رضی اللہ عنہ:

ان سے بھی روایتیں ہیں۔

عبد اللہ بن الحارث رضی اللہ عنہ:

شیبانی۔ ان سے منہال بن عمرو روایت کرتے ہیں۔ یہ معلم تھے مگر کوئی اجرت و معاوضہ نہ لیتے تھے۔

ابوبکر بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن عتبہ۔ ان سے مسعودی روایت کرتے ہیں۔

محمد بن المنشتر رضی اللہ عنہ:

ابن الاجدع اور وہ عبدالرحمن بن مالک بن امیہ بن عبداللہ بن مر بن سلیمان بن معمر بن الحارث بن سعد بن عبداللہ بن وداع۔ ہمدان سے۔ اور وہ بھتیجے ہیں مسروق بن الاجدع کے۔ اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں۔

ثنی بن سعید کہتے ہیں کہ محمد بن المنشتر خلیفہ عبدالحمید بن عبدالرحمن بن زید بن الخطاب واسطہ میں تھے۔ ثقہ ہیں۔ ان سے چند احادیث مروی ہیں۔

مغیرہ بن المنشتر رضی اللہ عنہ:

یہ بھائی ہیں محمد بن المنشتر کے۔ ابن الاجدع۔ ان سے روایت کرتے ہیں۔

سلیمان بن میسرۃ رضی اللہ عنہ:

احسی۔ ان سے اعش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

سلیمان بن مسہر رضی اللہ عنہ:

ان سے بھی اعش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

نعیم بن ابی ہند رضی اللہ عنہ:

اشجعی۔ خالد بن عبداللہ القسری کے زمانہ ولایت میں وفات پائی۔

ثقہ تھے۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا تیسرا طبقہ

محارب بن دثار رضی اللہ عنہ:

بنی سدوس بن شیمان بن ذہل بن ثعلبہ بن عکابہ بن صععب میں سے ابن علی بن بکر بن وائل کنیت ابو مطرف۔ یہ بھی کوفہ کے قاضی رہے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب مجھے عہدہ قضاء سے معزول کیا گیا تو میں بھی رویا اور میرے اہل و عیال بھی روئے۔

سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے۔ ان سے پوچھا گیا آپ نے ان کو کہاں دیکھا ہے؟ کہا میں نے ان کو ایک گوشے میں قضاء کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ جب وہ لوگ یعنی بنی ہاشم آئے تو محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ اصحاب محارب کے پاس بیٹھ گئے اور ان سے گفتگو کی۔

یہ خالد بن عبداللہ القسری کی ولایت کے زمانے میں فوت ہوئے اور یہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت کا دور تھا۔ ان سے کئی حدیثیں مروی ہیں۔ لیکن ان کو مستند نہیں سمجھا جاتا۔ یہ مرجیہ فرقت کے ان لوگوں میں سے تھے جو حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما دونوں پر رحمت و مغفرت کی امید رکھتے ہیں اور ان کے کفر و ایمان کی گواہی نہیں دیتے۔

عیزار بن حریش رضی اللہ عنہ:

عبدی ہیں۔ یہ اپنی قوم کا چودھری یا سردار تھا۔

مسلم بن ابی عمران رضی اللہ عنہ:

بظین۔

حجاج کہتے ہیں کہ میں نے مسلم بظین کو لومڑی کی کھال کا لباس پہنے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔

عدی بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن مصرف رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن کعب بن محمد بن معاویہ بن سعد بن الحارث بن ذہل بن سلمہ بن دودل بن ہشم بن یام۔ ہمدان میں سے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے۔ کوفہ کے قاری تھے لوگ ان سے قراءت قرآن سیکھتے تھے۔ جب لوگوں کی کثرت ہوئی تو انہوں نے اس کو ناپسند کیا اور اعمش رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر قراءت قرآن شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اعمش رضی اللہ عنہ کی طرف مائل ہو گئے اور طلحہ کو چھوڑ دیا۔

سفیان کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابجر سے پوچھا جن کو تم نے دیکھا ہے ان میں سے کس کو تم نے افضل پایا؟ کچھ دیر انہوں نے سکوت کیا۔ پھر فرمایا: اللہ رحم کرے طلحہ کو۔

مغول روایت کرتے ہیں کہ طلحہ نے ان سے کہا: ”میں ایک تنگ راستہ میں پہنچا۔ انہوں نے مجھے آگے کر دیا۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا۔ اگر آپ جانتے کہ میں آپ سے ایک ساعت یا ایک دن بھی بڑا ہوں تو میں آپ کو آگے نہ کرتا۔“
 عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ میں نے سفیان سے پوچھا۔ عمر میں طلحہ بڑے تھے یا زبید؟ فرمایا قریب قریب ایک ہی جیسے تھے۔ پھر کہا: طلحہ نے زبید کو اپنی لڑکی پیش کی تو زبید نے کہا: مجھے اس بات سے کوئی چیز روکنے والی نہ تھی کہ میں اس کو آپ سے طلب کروں مگر مجھے اس کا علم نہ تھا کہ وہ بھی آپ سے موافقت کرے گی یا نہیں؟
 طلحہ کہتے ہیں کہ میں خیمہ کی عیادت کرنے کے لیے آیا، کچھ لوگ آپ کے پاس موجود تھے۔ جب وہ لوگ جانے کے لیے آپ کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے تو میں بھی اٹھ کھڑا ہوا تو فرمایا کہ کیا آپ بھی جا رہے ہیں۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اسے بوسہ دیا۔ میں نے بھی ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔

موسیٰ بن قیس کہتے ہیں کہ رمضان کی ستائیسویں شب کو طلحہ وزبید دونوں خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے بچوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔

حسن بن عمرو کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ طلحہ بن مصرف نے فرمایا: اگر میں وضو سے نہ ہوتا تو تمہیں بتلاتا کہ شیعہ کیا کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حجاج کے خلاف جن لوگوں نے خروج کیا اور جماجم کا معرکہ گرم ہوا تھا تو طلحہ بھی قاریوں کی جماعت میں شریک تھے۔ یہ اس معرکہ کے بعد ۱۱۲ھ میں فوت ہوئے۔

- آپ اپنی مثال آپ تھے۔ ثقہ تھے۔ کئی صحیح احادیث کے راوی ہیں۔

زبید بن الحارث رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالکریم بن حجب بن ذہل بن مالک بن الحارث بن ذہل ابن سلمہ بن دودل بن جشم بن یام۔ ہمدان سے۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔

حسین کہتے ہیں کہ زبید ابراہیم کے پاس آئے اور وہ سیاہ بالوں کا قیمتی لباس پہنے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ زمانہ ایسے لباسوں کا نہیں۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے کسی بندے پر اختیار دیا جاتا کہ اللہ اس کو کھال کھینچنے کی جگہ لے آئے تو میں زبید الیامی کو اختیار کرتا۔

ابونوح قراد کہتے ہیں کہ میں نے شعبہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ میں نے کوفہ میں زبید سے زیادہ بہتر شیخ کسی کو نہیں دیکھا۔ شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ہمراہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں ایک عورت گزری جس کے پاس سوت کا ایک گولا تھا۔ وہ سوت کا گولا گر پڑا۔ مگر اس عورت نے نہیں اٹھایا، زبید نے اس کو اٹھالیا۔ اور مجھے بیٹھا ہوا چھوڑ کر بھاگے بھاگے اس عورت کے نشانات دیکھتے ہوئے گئے۔ اس تک پہنچے اور اس کو وہ گولا دے کر واپس آگئے۔ انہوں نے زبید بن علی کے زمانے میں ۱۲۲ھ میں وفات پائی۔

ثقہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

شمر بن عطیہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالرحمن اسدی۔ بنی مرہ بن الحارث بن سعد بن ثعلبہ سے۔ ثقہ تھے۔ کئی احادیث صحیحہ کے راوی ہیں۔

بکر بن ماغر الشوری رضی اللہ عنہ:

بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

ابو یعلیٰ منذ الشوری رضی اللہ عنہ:

ثقہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن وہب ہمدانی۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابو ہبیرہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام یحییٰ بن عباد الانصاری ہے۔ یوسف بن عمرو کی ولایت میں انتقال فرمایا۔ قلیل الروایت تھے۔

بکیر بن الاخص رضی اللہ عنہ:

قلیل الروایت۔

علی بن مدرک التیمی رضی اللہ عنہ:

انہوں نے یوسف بن عمرو کے عراق میں آنے کے بعد ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ یہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے آخری

ایام تھے۔

اسی سنہ میں خالد بن عبداللہ اور یوسف بن عمرو دونوں نے سکے جاری کیے۔

قلیل الحدیث تھے۔ ان سے شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

موسیٰ بن طریف الاسدی رضی اللہ عنہ، علی بن الاقمر رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن الحارث بن معاویہ بن عمرو بن الحارث بن ربیعہ بن عبداللہ بن وداعہ۔ ہمدان سے۔

کلثوم بن الاقمر رضی اللہ عنہ:

علی بن الاقمر کے بھائی ہیں۔ ہمدان کے وداعی ہیں۔

جبلہ بن حکیم الشیبانی رضی اللہ عنہ:

ولید بن یزید کے فتنے کے دوران فوت ہوئے۔

وبرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

قبیلہ مذحج کے سہلی ہیں۔ ہشام بن عبدالملک نے جب خالد بن عبداللہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔

ابوالزنباع رضی اللہ عنہ:

ان کا نام صدقہ بن صالح ہے۔

ابوعون الشقی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام محمد بن عبد اللہ ہے۔

خالد بن عبد اللہ القسری کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔ ان سے سفیان رضی اللہ عنہ اورشعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔عبد الجبار بن وائل رضی اللہ عنہ:

ابن حجر حضرمی۔ یہ ثقہ تھے۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ روایتیں جو یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ان کے

بارے میں محدثین کو کلام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے نہیں ملے۔

ان کے بھائی علقمہ بن وائل ہیں۔ ثقہ تھے۔ اور کم روایت کرتے تھے۔

یحییٰ بن عبید رضی اللہ عنہ:

بھرائی ان کی کنیت ابو عمر ہے۔

زائدہ بن عمیر رضی اللہ عنہ:

ابن عتبہ بن مسعود البہذلی۔

یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عون بن عبد اللہ ابوالصبح موی بن کثیر اور عمر بن حمزہ ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے عقیدہ ارجاء (جس کو ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں) کے بارے میں ان سے بحث و مناظرہ کیا۔ ان حضرات کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان سے موافقت کی اور کسی چیز سے بھی اختلاف نہیں کیا (مگر یہ روایت خلاف عقل و نقل ہے۔ یہ تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ جیسے فقیہ و مبصر اور مجاہدین حق و صداقت نے عقیدہ ارجاء سے اتفاق کیا۔ درآنحالیکہ یہ عقیدہ واضح طور پر کتاب و سنت اور سلف صالحین کے خلاف ہے۔ مترجم)

عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:عون بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ثقہ تھے۔ مگر اپنی روایت کے سلسلے میں کسی راوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔عبد اللہ بن ابی الجالد رضی اللہ عنہ:

ازد کے غلام اور مجاہد کے داماد ہیں۔

ابواسحاق السبعی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن عبد اللہ بن علی بن احمد بن ذی محمد بن السبع ابن سبع بن صعوب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن جشم بن

ثقفہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

شمر بن عطیہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالرحمن اسدی۔ بنی مرثدہ بن الحارث بن سعد بن ثعلبہ سے۔ ثقفہ تھے۔ کئی احادیث صحیحہ کے راوی ہیں۔

بکر بن ماغر الشوری رضی اللہ عنہ:

بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

ابو یعلیٰ منذر الشوری رضی اللہ عنہ:

ثقفہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن وہب ہمدانی۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابو ہبیرہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام یحییٰ بن عباد الانصاری ہے۔ یوسف بن عمرو کی ولایت میں انتقال فرمایا۔ قلیل الروایت تھے۔

بکیر بن الاخنس رضی اللہ عنہ:

قلیل الروایت۔

علی بن مدرک النخعی رضی اللہ عنہ:

انہوں نے یوسف بن عمرو کے عراق میں آنے کے بعد ۱۲۰ھ میں وفات پائی۔ یہ ہشام بن عبدالملک کی خلافت کے آخری

ایام تھے۔

اسی سنہ میں خالد بن عبداللہ اور یوسف بن عمرو دونوں نے سکے جاری کیے۔

قلیل الحدیث تھے۔ ان سے شعبہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

موسیٰ بن طریف الاسدی رضی اللہ عنہ، علی بن الاقمر رضی اللہ عنہ:

ابن عمرو بن الحارث بن معاویہ بن عمرو بن الحارث بن ربیعہ بن عبداللہ بن وداعہ۔ ہمدان سے۔

کلثوم بن الاقمر رضی اللہ عنہ:

علی بن الاقمر کے بھائی ہیں۔ ہمدان کے وداعی ہیں۔

جبلہ بن حکیم الشیبانی رضی اللہ عنہ:

ولید بن یزید کے فتنے کے دوران فوت ہوئے۔

وبرہ بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

قبیلہ ندج کے مسلی ہیں۔ ہشام بن عبدالملک نے جب خالد بن عبداللہ کو کوفہ کا گورنر بنایا تو اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔

ابو الزبیرؓ:

ان کا نام صدقہ بن صالح ہے۔

ابوعون الشقیؓ:

ان کا نام محمد بن عبداللہ ہے۔

خالد بن عبداللہ القسری کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔ ان سے سفیانؓ اور

شعبہؓ روایت کرتے ہیں۔

عبدالجببار بن وائلؓ:

ابن حجر حصری۔ یہ ثقہ تھے۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔ وہ روایتیں جو یہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں ان کے

بارے میں محدثین کو کلام ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے نہیں ملے۔

ان کے بھائی علقمہ بن وائل ہیں۔ ثقہ تھے۔ اور کم روایت کرتے تھے۔

یحییٰ بن عبیدؓ:

بھرائی ان کی کنیت ابو عمر ہے۔

زائدہ بن عمیرؓ:

ابن عتبہ بن مسعود البہذلی۔

یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ خلیفہ ہوئے تو عون بن عبداللہ ابو الصباح موی بن کثیر اور عمر بن حمزہ ان

کے پاس پہنچے اور انہوں نے عقیدہ ارجاء (جس کو ہم تفصیل سے بیان کر آئے ہیں) کے بارے میں ان سے بحث و مناظرہ کیا۔ ان

حضرات کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان سے موافقت کی اور کسی چیز سے بھی اختلاف نہیں کیا (مگر یہ روایت خلاف عقل و نقل ہے۔ یہ

تسلیم ہی نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ جیسے فقیہ و مبصر اور مجاہدین حق و صداقت نے عقیدہ ارجاء سے اتفاق کیا۔

درآنحالیکہ یہ عقیدہ واضح طور پر کتاب و سنت اور سلف صالحین کے خلاف ہے۔ مترجم)

عون بن عبداللہؓ:

عون بن عبداللہؓ ثقہ تھے۔ مگر اپنی روایت کے سلسلے میں کسی راوی کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔

عبداللہ بن ابی الجالدؓ:

ازد کے غلام اور مجاہد کے داماد ہیں۔

ابو اسحاق السبیبیؓ:

ان کا نام عمرو بن عبداللہ بن علی بن احمد بن ذمی محمد بن السبیب بن سبیب بن صعوب بن معاویہ بن کثیر بن مالک بن جشم بن

حاشد بن حشم بن خیران بن نوف بن ہمدان۔

یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا اخیار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا شیخ! آپ کے بال بچے کتنے آپ کے ساتھ ہیں؟ عرض کیا وہ میرے ہمراہ ہیں۔ آپ نے فرمایا: ہم نے تمہارا وظیفہ ایک ہزار پانچ سو مقرر کر دیا اور آپ کے بچوں میں سے ہر ایک کے لیے سو سو۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ شععی رضی اللہ عنہ اور ابواسحاق رضی اللہ عنہ دونوں ایک جگہ جمع ہوئے۔ شععی رضی اللہ عنہ نے ابواسحاق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے ابواسحاق رضی اللہ عنہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ انہوں نے فرمایا: نہیں، خدا کی قسم میں آپ سے بہتر نہیں بلکہ آپ مجھ سے بہتر ہیں۔ اور عمر میں بھی بڑے ہیں۔

زہیر کہتے ہیں کہ ہیں کہ ابواسحاق نے مجھ سے بیان کیا کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے جمعہ پڑھا۔ زوال شمس کے تھوڑی دیر بعد انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کھڑے ہوئے دیکھا آپ کی داڑھی سفید تھی، ابواسحاق سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ مجھ سے میرے والد نے کہا اے عمرو! کھڑا ہو اور امیر المومنین کو دیکھ میں نے آپ کی طرف دیکھا۔ آپ کی داڑھی پر خضاب نہیں تھا اور داڑھی گھنی تھی یہ ابواسحاق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خراسان میں بھی رہے ہیں۔ ابوالہجری طائی سے بڑے تھے۔

باختلاف روایات ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں سویان ناموے سال کی عمر میں ہوا۔ جس روز ضحاک کوفہ میں داخل ہوا۔ یہ واقعہ

۱۲۹ھ کا ہے۔

عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ:

قبیلہ مذحج کے مراد سے جملی ہیں۔

شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ عمرو بن مرہ رضی اللہ عنہ اتنے ذوق و انہماک سے دعا مانگتے تھے کہ گمان ہوتا تھا اب یہ بغیر دعا قبول ہوئے مسجد سے نہ جائیں گے۔

ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں ہوا۔

عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ:

نخعی ہیں۔ ابو عمر کنیت، قریش کے بنی عدی بن کعب کے حلیف ہیں۔

یہ خلافت عثمان رضی اللہ عنہ میں جب کہ ان کی خلافت کے تین سال باقی تھے پیدا ہوئے۔ ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں کہ ایک دن عبد الملک بن عمیر نے مجھ سے کہا کہ مجھ پر ۱۰۳ سال گزرے ہیں۔

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ اور زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہ دونوں کوفہ کے بڑے لوگوں میں شمار ہوتے تھے اس وقت دونوں سو سو سال کے تھے۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ ”خدا کی قسم میں جو حدیث بھی روایت کرتا ہوں

اس کا ایک حرف بھی نہیں چھوڑتا (یعنی بڑے احتیاط و ضبط کے ساتھ حدیث کی روایت کرتا ہوں)۔

امام شعبی رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں۔ ان کا لقب ”قبلی“ تھا ماہ ذی الحجہ ۱۳ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

ہشیم بن عدی کہتے ہیں کہ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔

زیاد بن علاقہ رضی اللہ عنہ:

قبیلہ غطفان سے ہیں۔ اور ابوما لک کنیت ہے۔

سلمہ بن کہیل رضی اللہ عنہ:

حضری ہیں۔

۱۲۲ھ میں جب کہ زید بن علی قتل کیے گئے کوفہ میں وفات پائی۔ اسی سنہ میں عاشورہ کے دن زید قتل کیے گئے۔

میسرہ بن حبیب رضی اللہ عنہ:

نہدی ہیں۔ ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

قیس بن مسلم رضی اللہ عنہ:

قیس جدیلہ کے جدلی ہیں۔

۱۲۰ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ ان سے چند صحیح احادیث ثابت ہیں۔

عبدالملک بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن جبیر ازدی۔

نسیر بن ذعلوق رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو طعمۃ الثوری ہے۔

جواب بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ:

تیم الرباب کے بھائی ہیں۔

اسماعیل بن رجاہ رضی اللہ عنہ:

زہیدی۔ ان سے اعمش رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

وہ بڑوں کو جمع کر کے ان سے حدیثیں بیان کرتے تاکہ وہ حدیثیں نہ بھول جائیں۔

جامع بن شداد رضی اللہ عنہ:

حارثی۔ ابو صخرہ کنیت۔

رمضان کے آخری جمعہ کی رات کو ۱۲۵ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

معبد بن خالد رضی اللہ عنہ:

جدلی۔

خالد بن عبداللہ القسری کے زمانے میں ۱۲۸ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

واصل بن حیان رضی اللہ عنہ:

احدب اسدی۔ بنی سعد بن احلاث بن ثعلبہ بن دودان سے۔ ان کی والدہ ابوسال شاعر کی بیٹی ہیں۔ ۱۲۰ھ میں کوفہ

میں ان کا انتقال ہوا۔

عبدالملک بن میسرۃ رضی اللہ عنہ:

زراد۔ بنی ہلال بن عامر کے غلام۔ یہ زراحدیث میں ثقہ تھے۔ کثیر الحدیث ہیں۔ کوفہ میں خالد بن عبداللہ القسری کے

زمانہ میں ان کا انتقال ہوا۔

اشعث بن ابی الشعثاء رضی اللہ عنہ:

مخاربی ہیں۔ ان کے والد کا نام ابی الشعثاء سلیم بن الاسود ہے۔ اشعث نے یوسف بن عمر کی ولایت میں کوفہ میں وفات

پائی۔

عون بن ابی حنیفۃ السوائی رضی اللہ عنہ، وہب السوائی رضی اللہ عنہ:

بنی عامر بن معصمہ میں سے ہیں۔

خلیفہ بن الحصین رضی اللہ عنہ:

ابن قیس بن عاصم المقری۔ یہ اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں

مسلمان ہوئے اور ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پیری کے پتوں سے جوش دیئے ہوئے پانی سے غسل کریں۔

حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ:

اسدی ہیں۔ بنی کابل کے غلام ہیں۔ ابو یحییٰ کنیت ہے۔ ان کے والد کا نام ثابت قیس بن دینار ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ میں نے جس نیت سے علم حاصل کیا اللہ نے میری وہ نیت پوری کر دی یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس زمین پر

حدیث کی کتاب کے سوا اور کوئی کتاب نہیں جو میرے صندوق میں محفوظ ہے۔

نیز فرمایا: میری عمر کے ۳۷ سال گزر چکے ہیں۔

ابوبکر بن عیاش کہتے ہیں کہ کوفہ میں تین جلیل و عظیم ہستیاں تھیں ان جیسی چوتھی ہستی کوئی نہ تھی۔ وہ تین ہستیاں یہ ہیں: (۱)

حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ (۲) حکم بن عتبہ رضی اللہ عنہ (۳) حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ یہ تینوں صاحب فتویٰ تھے اور یہی بہت مشہور تھے۔

حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ عنہ کی وفات ۱۲۹ھ میں ہوئی۔

حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا تھا۔ یہ طویل القامت اور یک چشم تھے۔

عاصم بن ابی الجوزہ رضی اللہ عنہ

اسدی ہیں۔ اور وہ عاصم بن بھدلہ بنی جذیمہ بن مالک بن نصر ابن قعبن بن اسد کے غلام ہیں۔ ابو بکر کنیت ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ میں جب کبھی بھی کسی سفر سے ابوداؤد کے پاس آتا تھا تو آپ میرا ہاتھ چوم لیتے تھے۔ اگلی روایت کا مضمون بھی یہی ہے۔

اہل علم نے کہا ہے کہ عاصم اگر چہ ثقہ تھے لیکن حدیث میں بہت زیادہ غلطی کرتے تھے۔

ابو حصین رضی اللہ عنہ

ان کا نام عثمان بن عاصم بن حصین ہے۔ اور وہ بنی ششم بن الحارث ابن سعد بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ میں سے ہیں اور وہ بنی کبیر ابن زید بن مرہ بن الحارث بن سعد میں شمار ہوتے ہیں۔

سفیان بن عیینہ شیبانی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں امام شعیب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مسجد میں داخل ہوا۔ آپ نے فرمایا جاؤ دیکھو ہمارے اصحاب میں سے کوئی یہاں بیٹھا ہے؟ کیا تمہیں ان میں ابو حصین رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں؟

سفیان رضی اللہ عنہ اہل کوفہ میں سے ایک شخص سے روایت کرتے ہیں کہ جب عامر کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے پوچھا گیا آپ اپنے بعد کس کو مستدرس واقفاء کے قابل سمجھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: نہ میں عالم ہوں اور نہ اپنے بعد کسی عالم کو چھوڑ رہا ہوں۔ ہاں ابوصالح ایک نیک آدمی ہے۔

مسعر رضی اللہ عنہ ابو حصین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے عبد اللہ بن معقل نے کہا کہ آپ کا شغل تجارت ہے۔ میں نے کہا اور آپ کا شغل امارت (یعنی حکومت و سرداری) ہے۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کو عامل بنایا گیا۔ اس کے پاس ایک ہزار درہم کسی نے بھیجے آپ نے ان کو لوٹا دیا، قبول نہیں کیا۔ میں نے پوچھا آپ نے ان کو کیوں لوٹا دیا؟ کہا جیسا اور کرم کی وجہ سے۔

ابن ابی اسحاق کا بیان ہے کہ ابو حصین رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا یہ کون شخص ہے؟ یہ محسن ہے جس کا بڑا احسان ہے۔ اس جیسی نماز پڑھنے کی ہم میں سے کسی کو طاقت نہیں۔ ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں ہوا۔

آدم بن علی الشیبانی رضی اللہ عنہابوالجوزیة الجرمی رضی اللہ عنہ

اس کا نام طحان بن خفاف ہے۔

ابوقیس الاودی رضی اللہ عنہ

اس کا نام عبدالرحمن بن ثروان ہے۔ ان کا انتقال ۱۲۰ھ میں ہوا۔

عبداللہ بن حنش الاودی رضی اللہ عنہ

عائذ بن نصیب الکاهلیؓ

بنی اسد سے۔

مجمع التیمیؓ

عبداللہ بن عصیم الحنفیؓ

سماک بن حرب الذہلیؓ

شمیب بن غرقہ المبارقیؓ

کلیب بن وائل البکریؓ

اسامحیل بن عبدالرحمنؓ

سدی صاحب قہر۔ ان کا انتقال ۱۲ھ میں ہوا۔

محمد بن قیس الہمدانیؓ

طارق بن عبدالرحمن الاحمسیؓ

مخارق بن عبداللہ الاحمسیؓ

عبدالعزیز بن رفیعؓ

عبدالعزیز بن حکیم الحضرمیؓ

ابو المعجلؓ

اس کا نام روین بن مرہ۔

عبداللہ بن شریک الحامریؓ

سعید بن ابی بردہؓ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بیٹے۔

حصین بن عبدالرحمن النخعیؓ

طلق بن غنم النخعی کہتے ہیں کہ میں نے حفص بن غیاث کو یہ کہتے سنا ہے کہ مالک بن مغول نے طلحہ کی فضیلت کا ذکر کیا۔

یعنی ابن مصرف کا۔ اس کو ایک شخص نے کہا کہ کیا تم نے حفص بن عبد الرحمن نخعی رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ حصین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو طلحہ کی فضیلت کا ذکر نہ کرتے۔

حفص بن غیاث کہتے ہیں کہ آپ سردی کے موسم میں دن کو قبائلاً پہنچتے تھے اور رات کو چادر اوڑھتے تھے۔

ابوصخرہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام جامع بن شداد الحارثی ہے۔

ان کا انتقال ۲۷ھ میں ہوا۔

ابوالسوداء النہدی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن عمران ہے۔

عثمان بن المغیرہ رضی اللہ عنہ:

ثقفی ہیں۔ ابوالمغیرہ کنیت ہے۔ اور وہ عثمان الاعشی ہے اور وہ عثمان بن ابی زرعہ ہیں۔

عبد الرحمن بن عائش نخعی رضی اللہ عنہ:

عیاش بن عمرو العامری رضی اللہ عنہ:

اسود بن قیس العبیدی رضی اللہ عنہ:

رکین بن الربیع رضی اللہ عنہ:

ابن عمیرۃ الفزاری۔ اس نے حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے۔ ولید بن یزید بن عبد الملک کے فتنہ

میں وفات پائی۔

ابوالزعراء رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن عمرو بن عوف الجشمی ہے۔ یہ ابی الاحوص کے بھتیجے ہیں جو حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت

کرتے ہیں۔

بلال الوزان الجہنی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابوامیہ ہے۔ وہ بلال الصراف ہیں اور وہ ابن ابی حمید ہیں اور وہ ابن مقلاص۔

ثویر بن ابی فاخترہ رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابوالجہم ہے۔

یہ ام ہانی بنت ابی طالب کے غلام ہیں ان کے بعد زندہ رہے بڑی عمر کے تھے۔ ان کے والد نے مکہ میں ایک گروہ بنایا

تھا۔ جس میں علقمہ اسود اور عمرو بن میمون وغیرہ شامل تھے۔

زیاد بن فیاض الخزاعی رضی اللہ عنہ:

موسیٰ بن ابی عاتشہ رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔

یہ بہت عابد و زاہد تھے۔ نمازیں کثرت سے پڑھتے تھے۔

حکیم بن جبیر الاسدی رضی اللہ عنہ:

حکیم بن الدیلم رضی اللہ عنہ:

سعید بن مسروق رضی اللہ عنہ:

ثوری اور وہ ابوسفیان الثوری رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب کہ عبداللہ بن عمر بن عبدالعزیز عراق کے گورنر تھے ان کی وفات ۱۲۸ھ میں

ہوئی۔

سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ:

ابن سعید بن العاص یہ سعید بن العاص بن امیہ۔ ان سے اسود ابن قیس روایت کرتے ہیں۔

سعید بن اشوع رضی اللہ عنہ:

ہمدانی۔ کوفہ کے قاضی تھے۔ خالد بن عبداللہ القسری کی ولایت میں وفات پائی۔

جامع بن ابی راشد رضی اللہ عنہ:

یہ سعید بن اشوع کے بھائی ہیں۔

ربیع بن ابی راشد رضی اللہ عنہ:

خلاد بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ حبیب بن ابی ثابت اور ان کے اصحاب کے پاس

جب ربیع بن ابی راشد رضی اللہ عنہ آتے تو وہ اپنے اصحاب سے کہتے کہ چپ ہو جاؤ ربیع بن ابی راشد رضی اللہ عنہ آگے ہیں (یعنی اہل کوفہ ان کا اتنا

ادب و احترام کرتے تھے)۔

ابو الحجاج رضی اللہ عنہ:

ان کا نام داؤد بن ابی عوف ہے۔ ان سے سفیان الثوری رضی اللہ عنہ اور سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

قیس بن وہب الہمدانی رضی اللہ عنہما:

ثابت بن ہرمز رضی اللہ عنہما:

ان کی کنیت ابوالمقدام الحلی ہے۔ اور وہ ابو عمرو بن ابی المقدام ہیں۔

عبدہ بن ابی الباہہ رضی اللہ عنہما:

قریش کے غلام ہیں۔ ابو القاسم کنیت ہے۔ جب کھول ان سے ملے تو یہی کنیت استعمال کرتے۔

مقدام بن شریح رضی اللہ عنہما:

ابن ہانی الحارثی۔

محل بن خلیفۃ الطائی رضی اللہ عنہما:

سنان بن حبیب رضی اللہ عنہما:

سلی۔ ابو حبیب کنیت۔

زہیر بن ابی ثابت العبسی رضی اللہ عنہما:

عامر بن شقیق رضی اللہ عنہما:

ابن حمزۃ الاسدی۔

مغیرہ بن النعمان النخعی رضی اللہ عنہما:

ابونہیک رضی اللہ عنہما:

ان کا نام قاسم بن محمد الاسدی ہے۔

ابوفروہ الہمدانی رضی اللہ عنہما:

ان کا نام عمرو بن الحارث ہے۔

ابوفروہ الحنفی رضی اللہ عنہما:

ان کا نام مسلم بن سالم ہے۔

ابونعامة الكوفي رضی اللہ عنہ:

ان کا نام شیبہ بن لغامة ہے۔ ان سے سفیان ثوری، یثیم اور جریر روایت کرتے ہیں۔

زید بن جبیر الجشمی رضی اللہ عنہ:

بدر بن دثار رضی اللہ عنہ:

ابن ربیعہ بن عبید بن الارص بن عوف بن حشم بن الحارث بن سعد بن ثعلبہ بن دودان بن اسد بن خزیمہ۔

زبیر بن عدی الیامی رضی اللہ عنہ:

ہمدان سے۔

ابوجعفر الفراء رضی اللہ عنہ:

ان کی کئی احادیث ہیں۔

الحمر بن صیاح التیمی رضی اللہ عنہ:

ابومعشر رضی اللہ عنہ:

زیاد بن کلیب التیمی۔ جس وقت عراق کے والی یوسف بن عمر تھے اس وقت ان کا انتقال ہوا۔
بہت کم حدیث بیان کیا کرتے تھے۔

شباک الضمی رضی اللہ عنہ:

ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کے ساتھی۔ ان سے منیرہ روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے اور قلیل الحدیث۔

بیان بن بشر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو بشر ہے۔ احمس بن بحلیہ کے غلام ہیں۔

علقمة بن مرشد الحضرمی رضی اللہ عنہ:

ابراہیم بن المہاجر رضی اللہ عنہ:

ابن جابر بجلی۔ اس کا باپ حجاج بن یوسف کا کاتب تھا اور ابراہیم ثقہ تھا۔

حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عبد اللہ تھی۔

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ میں ایک کام کے لیے عبد اللہ بن ادریس کے ہمراہ روانہ ہوا۔ جب ہم شہار سو جگندہ کے محلے میں پہنچے تو ایک گلی میں ایک گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور مجھ سے کہا: جانتے ہو یہ گھر کس کا ہے؟ پھر خود ہی کہا یہ گھر حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ یہ کندہ کے غلام تھے۔ یہ حکم رضی اللہ عنہ اور ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ ہم عمر تھے اور دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ عبد الرزاق بن معمر کہتے ہیں کہ زہری کے اصحاب میں حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ جیسے اہل علم داخل تھے۔ آپ کی داڑھی سفید تھی۔ ابواسرائیل حکم سے روایت کرتے ہیں کہ حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ سا بری عمامہ باندھتے تھے اور صرف ایک جبہ میں ہماری امامت کراتے تھے۔

حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے ابواسرائیل کو یہ کہتے سنا کہ میں نے سب سے پہلے اس دن حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ کو پہچانا، جس دن امام شعیب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ جب امام شعیب رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص کوئی مسئلہ پوچھنے آتا تو آپ کہتے جاؤ حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ سے پوچھو۔

آپ کا انتقال کوفہ میں ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے دور میں ۱۵ھ میں ہوا۔ اس کے راوی ابن ادریس کہتے ہیں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا۔

حکم بن عتیبہ رضی اللہ عنہ بڑے ثقہ، فقیہ، جید اور بلند مقام عالم تھے۔ ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔

حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابواسامیٰ ہے۔ ابراہیم بن ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں۔ ان کا نام مسلم بھی تھا۔ یہ ان میں سے تھے جن کو حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے دومتہ الجندل میں حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا۔ جامع بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے پاس حماد رضی اللہ عنہ کو تختیوں پر لکھتے ہوئے دیکھا آپ کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم میں اس (علم دین) سے دنیا نہیں چاہتا (یعنی میں علم دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہیں بناتا)۔

مغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابراہیم کا انتقال ہوا تو ہم نے ان کے جنازے کے پیچھے اعمش رضی اللہ عنہ کو دیکھا، ہم ان کے پاس آئے اور ان سے حرام و حلال کے متعلق پوچھا تو کوئی نئی چیز نہیں معلوم ہوئی۔ فرائض کے متعلق سوالات کیے تو فرائض کے علم کو ان کے پاس بھر پور پایا۔ پھر ہم حماد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان سے فرائض کے متعلق سوالات کیے تو ان کے پاس کما حقہ فرائض کا علم نہ پایا۔ ہاں حرام و حلال کے مسائل سے وہ بخوبی واقف تھے۔ اس لیے ہم فرائض کا علم اعمش رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے اور حرام و حلال کا علم حماد رضی اللہ عنہ سے حاصل کرتے تھے۔ اور یہ علم انہوں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے حاصل کیا تھا۔

مالک بن مغول رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حماد رضی اللہ عنہ کو زرداز اور ایک چادر میں لپٹے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

مالک بن اسماعیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی والدہ کو جو اسماعیل بن حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے بارہا دیکھا کہ میرے دادا حماد بن ابی سلیمان اپنے حجرے میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور اوراق قرآن پر آپ کے آنسو گر رہے ہیں۔

ان کا انتقال ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں ۱۲۰ھ میں ہوا۔

حماد بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ بصرے میں ہلال بن بردہ کے پاس آئے وہ اس وقت بصرے کے گورنر تھے انہوں نے اور ہشام دستوائی نے ان سے حدیث سنی اور دوسرے قدیم تابعین سے۔

جب حماد رضی اللہ عنہ لوٹ کر کوفہ میں آئے تو ہم نے ان سے پوچھا آپ نے بصرے والوں کو کیا پایا؟ فرمایا کہ عقائد و اعمال کے اعتبار سے وہ اہل شام ہی کا ایک حصہ ہیں (جو سیاسی اور مذہبی حالات اہل شام کے میں وہی اہل بصرہ کے ہیں دونوں ایک ہی جیسے ہیں) یعنی وہ ہماری طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت و عقیدت نہیں رکھتے۔

محدثین نے کہا ہے کہ حماد رضی اللہ عنہ علم حدیث میں ضعیف تھے۔ حدیث صحیح و غیر صحیح کو ملا دیتے تھے اور مر جی تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ہم آپ کے بعد مسائل دین کس سے پوچھیں فرمایا حماد رضی اللہ عنہ سے۔ عثمان التیمی کا کہنا ہے کہ جب حماد اپنی تحقیق و رائے سے کچھ کہتے تو صحیح کہتے اور جب ابراہیم رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور سے روایت کرتے تو غلطی کرتے۔

فضیل بن عمرو رضی اللہ عنہ:

فقیمی ہیں۔

خالد بن عبد اللہ قسری کی ولایت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کئی احادیث ان سے مروی ہیں۔

حارث العکلی رضی اللہ عنہ:

مغیرہ کہتے ہیں کہ حارث عکلی اور ابن شبر دونوں زیادہ رات تک بیٹھے ہوئے آپس میں قضا کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے۔ جب کبھی ان کے پاس ابوالمغیرہ آتے تو ان سے کہتے کہ کیا تم دن کو یہ گفتگو نہیں کر سکتے جو اتنی رات تک مذاکرہ کر رہے ہو۔ ثقہ تھے اور قبیل الحدیث۔

حارث بن حصیرہ رضی اللہ عنہ:

قبیلہ ازد سے۔ ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن السائب رضی اللہ عنہ:

یہ زاذان سے روایت کرتے ہیں اور ان سے سفیان بن سعید ثوری روایت کرتے ہیں۔

عبدالاعلیٰ بن عامر رضی اللہ عنہ:

ثعلبی ہیں۔ ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور اسرائیل روایت کرتے ہیں۔

عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ میں نے عبدالاعلیٰ کی ایک حدیث سفیان سے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا: ہمارا خیال ہے یہ اس کی کتاب میں ہوگی۔ عبدالاعلیٰ ابن حنفیہ عن علی سے کثرت سے روایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث میں ضعیف تھے۔

آدم بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

یہ خالد بن خالد بنی عمارہ بن الولید بن عقبہ بن ابی معیط کے غلام ہیں۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے جب وہ ان سے کوئی روایت کرتے جس کے بارے میں مجھے مؤمل ابن اسماعیل نے خبر دی۔ کہا: وہ ابو یحییٰ بن آدم کوفہ کا محدث ہے اور خالد بن خالد بڑا شریف آدمی تھا۔

محمد بن مجاہد رضی اللہ عنہ:

بنی اود کے غلام ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کا مکہ کے راستے میں انتقال ہوا۔ تو تعزیرت کے لیے ہمارے پاس طلحہ ابن مصرف آئے اور کہا: وہ کہتے تھے کہ تین حالتیں ہیں جن میں کوئی شخص مرے تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حج کے دوران یا عمرہ کرتے ہوئے اور یا جہاد میں۔

عبدالملک بن ابی بشیر رضی اللہ عنہ:

حماد بن زید غالب یعنی قطان سے روایت کرتے ہیں کہ میں حسن کے پاس عبدالملک بن ابی بشیر رضی اللہ عنہ کا ایک خط لے کر آیا۔ انہوں نے فرمایا: اسے پڑھو، میں نے اس کو پڑھا تو اس میں ان کو دعا لکھی تھی امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بہت سے تیرے بھائی ہیں جن کو تیری ماں نے نہیں جانا۔

سالم بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو یونس ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے امام شعیب رضی اللہ عنہ دیکھتے تو کہتے کہ اے اللہ کے کووال۔

محمد ثین کہتے ہیں کہ یہ بڑے سخت شیعہ تھے۔ جب کہ بنی ہاشم کی حکومت تھی۔ داؤد بن علی نے ایک سال حج کیا لوگوں کے ساتھ۔ وہ سال ۱۳۲ھ تھا۔ اسی سال سالم بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہ نے بھی حج کیا۔ وہ یوں لیکہ کہتا تھا۔ لیکہ لیکہ اے اللہ بنی امیہ کو

ہلاک کر لیک۔ یہ یہ داؤد بن علی رضی اللہ عنہما نے بھی سنا۔ پوچھا: یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا: یہ سالم بن ابی حفصہ رضی اللہ عنہما ہے۔

ابان بن صالح رضی اللہ عنہما:

ابن عمیر بن عبید۔

کہتے ہیں کہ ابو عبید خزاعہ کا قیدی تھا۔ جن پر رسول خدا ﷺ نے شیخون مارا تھا یوم بنی المصطلق میں۔ پھر یہ اسید بن ابی العیص کا قیدی ہو گیا۔ اس نے خالد بن اسید بن ابی العیص بنی امیہ کے حوالے کر دیا۔ اس نے اسے آزاد کر دیا اور قتل کیے گئے رے میں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو یہ کہتے سنا کہ میرے والد ابان بن صالح بن عمیر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما نے پوچھا کہ کیا آپ کا نام ہمارے دفتر میں درج ہے؟ انہوں نے کہا میں اس بات کو پسند نہ کرتا تھا کہ آپ کے سوا کسی اور خلیفہ کے رجسٹر میں اپنا نام درج کراؤں۔ اب اگر یہ انتظام آپ کے ہاتھ میں ہے تو اس میں کوئی ہرج مہرج نہیں سمجھتا۔ آپ نے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا۔

ابان بن صالح ۶۷ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۵ھ میں عسقلان میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۷۷ سال تھی اور ابو بکر ان کی کنیت تھی۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا چوتھا طبقہ

منصور بن المعتمر رضی اللہ عنہما:

سلمیٰ ہیں۔ ابو عتاب کنیت ہے۔

یہ کہتے ہیں کہ ہم نے خلوص نیت سے علم دین حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دین کے صدقے میں دنیا بھی ہاتھ آگئی، عبد اللہ بن جعفر کہتے ہیں۔ میں نے سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما سے منصور بن المعتمر رضی اللہ عنہما کا ذکر سنا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ منصور خوفِ الہی سے اتاروتے تھے۔ کہ آپ کا خرقتہ تر ہو جاتا۔ اس سے آنسو پونچھتے جاتے۔

سفیان ثوری کہتے ہیں کہ جب میں اعمش رضی اللہ عنہما سے اصحاب ابراہیم کی کوئی حدیث بیان کرتا تو وہ قبول کرتے اور جب منصور سے روایت کرتا تو خاموش رہتے۔

انہوں نے ۳۲ھ میں وفات پائی۔ ثقہ اور محفوظ تھے بڑے بلند مرتبہ عالم تھے اور کثیر الحدیث تھے۔

مغیرہ بن مقسم رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو ہشام ۳۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کثیر الحدیث تھے۔

عطاء بن سائب رضی اللہ عنہما:

ثقفی ہیں۔ ابو یزید کنیت ۳۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ ان سے متفقہ میں روایت کرتے ہیں۔ آخری عمر میں ان کے حافظہ میں فرق آ گیا تھا۔

ابن علیہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ لیث سے زیادہ ضعیف ہیں اور لیث ضعیف ہیں انہی سے روایت ہے کہ میں نے عطاء سے سن کر صرف ایک تختی لکھی تھی۔ اور اس کی ایک جانب کو میں نے منادیا تھا۔ میں نے ان کے بارے میں شعبہ رضی اللہ عنہما سے پوچھا: انہوں نے کہا: جب تم ایک شخص سے حدیث بیان کرو تو وہ ثقہ ہے اور جب تم زاذان، میسرہ اور ابو الہتیری کو بھی جمع کرو کہ اس روایت سے بچو۔ یہ بوڑھے ضعیف تھے۔ ان کے حواس میں تغیر آ گیا تھا۔

حصین بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

سلمیٰ ہیں۔

عبد اللہ بن ابی السفر رضی اللہ عنہما:

ہمدانی ہیں۔ مروان بن محمد کی خلافت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ زیادہ حدیث بیان نہ کرتے تھے۔

ابونسان ضرار بن مرہ رضی اللہ عنہما:

شیبانی ہیں۔

عباد العبدی کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب کا بیان ہے کہ کوفہ میں چار شخص بڑے جھگڑالو تھے۔ ضرار بن مرہ، عبدالملک بن ابجر، محمد بن سوقة اور مطرف بن طریف۔ ضرار بن مرہ نے اپنے مرنے سے ۱۵ سال پہلے اپنی قبر کھود رکھی تھی۔ اس قبر میں آ کر ختم قرآن کرتا۔ ثقہ اور محفوظ تھا۔

ابویحییٰ القنات رضی اللہ عنہما:

یحییٰ بن جعدہ بن عمیرہ کے غلام۔ اور یہ ضعیف تھے۔

ابوالہیثم العطار رضی اللہ عنہما:

اسدی ثقہ تھے۔

عمر و بن قیس رضی اللہ عنہما:

ماصرکندہ کا غلام۔ یہ عقیدہ ارجاء کے بارے میں بحث و کلام کرتے تھے۔

موسیٰ بن ابی کثیر رضی اللہ عنہما:

انصاری ہیں۔ ابوالصباح کنیت ہے۔ ان کے باپ کا نام کثیر الصباح تھا۔ یہ عقیدہ ارجاء میں بحث و کلام کرنے والوں میں سے تھے اور اس وفد میں سے تھے جو عقیدہ ارجاء کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما کے پاس آیا تھا۔ حدیث میں ثقہ تھے۔

معاویہ بن اسحاق رضی اللہ عنہما:

ابن طلحہ بن عبداللہ التیمی۔ ثقہ تھے۔

قابوس بن ابی ظبیان الحسنی رضی اللہ عنہما:

یہ ضعیف ہیں۔ ان کی کوئی روایت قابل حجت نہیں۔

عبید المکتب رضی اللہ عنہما:

ابن مہران۔ بنی ظلیہ کے غلام۔ ثقہ تھے اور قلیل الحدیث۔

محمد بن سوقة رضی اللہ عنہما:

آپ بحیلہ کے غلام ہیں۔ یہ خزا ایک قسم کے کپڑے کے باجر تھے اور بڑے تھقی تھے۔ سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میرے پاس رقیبہ بن مصقلة آئے۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ محمد بن سوقة رضی اللہ عنہما کے پاس آنے کا ارادہ کرتے تو کہتے کہ آؤ ہمارے ساتھ محمد بن سوقة رضی اللہ عنہما کے پاس چلو اس لیے کہ میں نے کوفہ میں طلحہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ ”دو شخص ہیں ارادہ کرتے ہیں محمد بن سوقة رضی اللہ عنہما اور عبدالجبار بن وائل کا“۔

صیب بن ابی عمرہ رضی اللہ عنہما:

قصاب الازدی۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے۔ قلیل الحدیث۔ ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں۔

یزید بن ابی زیاد رضی اللہ عنہما:

ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ عبد اللہ بن الحارث بن نوفل ہاشمی کے غلام ہیں۔ ۳۱ھ میں وفات پائی۔ بذات خود ثقہ تھے۔ لیکن آخری عمر میں حافظ خراب ہو گیا تھا اور عجیب و غریب روایتیں کرتے تھے۔

عمار بن ابی معاویہ رضی اللہ عنہما:

دحی۔ امس کے غلام ہیں۔ کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

حسن بن عمرو رضی اللہ عنہما:

قصبی ہیں۔

یہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے والد سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما کے پاس لے گئے، میں اس وقت بچہ تھا اور ان سے کہا کہ اس کو قرآن کی تعلیم دیجئے۔

یہ کہتے ہیں کہ مجھے ابراہیم رضی اللہ عنہما نے اپنے کپڑوں کے بارے میں وصیت کی۔

انہوں نے ابی جعفر کی خلافت کے شروع میں وفات پائی۔

عاصم بن کلیب رضی اللہ عنہما:

ابن شہاب جری۔

ابی جعفر کی خلافت کے شروع میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ ان کو حجت و سند میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ بہت زیادہ حدیثیں بیان نہ کرتے تھے۔

ربیع بن حکیم رضی اللہ عنہما:

بنی کامل کے اسدی ہیں۔

ابو مسکین رضی اللہ عنہما:

ابراہیم رضی اللہ عنہما کے مصاحب میں سے ہیں۔ ان کا نام حر ہے، بنی اود کے غلام ہیں۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابو اسحاق ابراہیم بن مسلم رضی اللہ عنہما:

عرب کے ہجری ہیں۔ جو عرب سے ہجرت کر کے کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ حدیث و روایت میں ضعیف تھے۔

اعمش رضی اللہ عنہما:

ان کا نام سلیمان بن مہران ہے۔ ابو محمد الاسدی کنیت ہے۔ بنی کامل کے غلام ہیں۔ اعمش کے لقب سے مشہور ہیں۔ بنی

سعد کے بنی عوف میں قیام پذیر تھے۔ بنی سعد کی مسجد حرام میں نماز پڑھتے تھے۔

اعمش رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے باپ کے بھائی کے مرنے کے بعد مسروق رضی اللہ عنہ اس کے وارث ہوئے۔ محمد بن سعد کہتے ہیں کہ ان کے والد حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے۔ اعمش رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے دن۔ یعنی عاشورہ الایہ میں پیدا ہوئے۔

قرأت قرآن میں بے مثال مہارت:

آپ کتاب اللہ کے بڑے قاری احادیث کے بڑے حافظ اور علم فرانس کے ماہر تھے۔ قرآن کے ساتھ ان کو خاص عشق تھا۔ علوم قرآنی میں وہ راس العلم شمار کیے جاتے تھے۔ ہشیم کا بیان ہے کہ میں نے کوفہ میں اعمش رضی اللہ عنہ سے بڑا قرآن کا قاری نہیں دیکھا۔ قرآن کا مستقل درس دیتے تھے۔ لیکن آخر عمر میں بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا۔ پھر بھی ماہ شعبان میں لوگوں کو تھوڑا قرآن ضرور سناتے تھے۔ لوگ ان کے پاس اپنے اپنے قرآن لاتے ان کے سامنے پیش کرتے اور ان کی تصحیح کراتے اور علم قرأت سیکھتے۔

ابو حیان بھی ان کے سامنے اپنا قرآن پیش کرتے اور اس کی تصحیح کراتے۔ قرأت میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پیرو تھے۔ ان کی قراءت اتنی مستند تھی کہ لوگ اس کے مطابق اپنے قرآن درست کرتے تھے۔

اعمش رضی اللہ عنہ نے یحییٰ بن دثاب رضی اللہ عنہ سے بھی علم قرأت حاصل کیا۔ یحییٰ بن دثاب نے عبید بن نصیبہ رضی اللہ عنہ سے علم قراءت حاصل کیا۔ انہوں نے علقمہ رضی اللہ عنہ سے اور علقمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے۔

محمد شین میں امتیازی حیثیت:

قرآن کے علاوہ حدیث رسول میں ان کی معلومات کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ حافظ ذہبی انہیں شیخ الاسلام لکھتے ہیں باوجود اس وسعت معلومات کے احتیاط کا یہ عالم تھا کہ کثرت روایت کو زیادہ پسند نہ کرتے تھے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ جب تم لوگ حدیث سننے کے لیے کسی کے پاس جاتے ہو تو اسے جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتے ہو۔ خدا کی قسم یہ لوگ شر الناس ہیں۔

عراق میں چار ہزار محدث تھے۔ امام زہری رضی اللہ عنہ ان کے علم کے قائل نہ تھے۔ ان کے علم کو ضعیف بتلاتے تھے۔ اسحاق بن راشد نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ کوفہ میں اسد کا ایک غلام (اعمش) ہے جس کو چار ہزار حدیثیں یاد ہیں۔ زہری نے بڑے تعجب سے پوچھا چار ہزار؟ اسحاق نے کہا ہاں چار ہزار۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ان کا کچھ حصہ لاکر پیش کروں؟ چنانچہ میں لے آیا۔ زہری رضی اللہ عنہ اس کو پڑھتے جاتے تھے اور حیرت سے ان کا رنگ بدلتا جاتا تھا۔ مجموعہ ختم کرنے کے بعد فرمایا: خدا کی قسم علم اسے کہتے ہیں مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ کسی کے پاس احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ بھی محفوظ ہوگا (اس کا علم آج ہی ہوا کہ ہمارے یہاں ایسے ایسے ماہر نامزد محدث بھی موجود ہیں)۔

ابو عوانہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اعمش رضی اللہ عنہ کا کچھ علمی ذخیرہ موجود تھا۔ میں کہتا کہ آپ نے بڑا سرمایہ جمع کیا ہے۔ آپ فرماتے کہ مجھے اس سرمائے کے علاوہ کسی اور سرمایہ کی ضرورت نہیں۔

اعمش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں اور ابو اسحاق رضی اللہ عنہ جمع ہوتے تو ہم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث کو محفوظ کیا

کرتے تھے۔

فقر و استغناء:

قاسم بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ کوفہ میں اعمش رضی اللہ عنہ سے زیادہ عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی احادیث کا جاننے والا کوئی نہیں۔ ابوبکر عیاش کا بیان ہے کہ ہم لوگ اعمش رضی اللہ عنہ کو سید المحدثین کہا کرتے تھے۔ باوجود اس علمی عظمت و شان کے آپ فقر و استغناء کے بادشاہ تھے۔ امام شعرانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعمش رضی اللہ عنہ کو روٹی تک میسر نہ تھی۔ امراء و سلاطین کو خاطر میں نہ لاتے تھے ایک مرتبہ حجاج بن ارطاة نے اعمش رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضری کی اجازت چاہی آپ نے اس کو اجازت نہ دی۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اعمش رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ ہم جو کچھ آپ سے پوچھتے ہیں ہم نے اس کا ذکر ابو محمد سے کیا۔ انہوں نے ہمیں کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا: اے حسن بن عیاش اس کو خبر دے دو کہ اس نے دین میں بدعت نکالی ہے۔ اعمش رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں نے زہری رضی اللہ عنہ سے آپ کا ذکر کیا۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس حدیث کا علم ان سے زیادہ کچھ نہیں۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اعمش رضی اللہ عنہ مجھ سے عیاض و ابن عجلان کی حدیث کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اہل علم میں سب سے زیادہ اعمش رضی اللہ عنہ کی حدیثوں کے جاننے والے تھے اگر کبھی اعمش رضی اللہ عنہ کو کوئی غلط فہمی ہوتی تو سفیان رضی اللہ عنہ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔

آپ کا انتقال ۸۸ سال کی عمر میں ۱۲۸ھ میں ہوا۔

اسماعیل بن ابی خالد رضی اللہ عنہ:

بجیلہ میں سے احس کے غلام۔ کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ابراہیم انصاری رضی اللہ عنہ سے عمر میں دو سال بڑے تھے۔ عامر کہتے ہیں کہ یہ علم کا سمندر پی گئے۔ یعنی بڑے عالم تھے۔ انہوں نے ان سات ہستیوں کو دیکھا ہے جنہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا اور وہ محترم ہستیاں یہ تھیں: انس بن مالک، عبد اللہ بن ابی اوفی، ابو کمال، ابو جحیفہ، عمرو بن حریث، اور طارق بن شہاب رضی اللہ عنہم۔ انہوں نے ۱۲۸ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ حفاظ حدیث ہمارے نزدیک چار ہیں۔ عبد الملک بن ابی سلیمان، اسماعیل بن ابی خالد، عاصم الاحول اور یحییٰ بن سعید الانصاری۔

فراس بن یحییٰ رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ شععی رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں۔ ثقہ تھے۔

جابر بن یزید رضی اللہ عنہ:

جعفی۔

فضل بن دکین کہتے ہیں میں نے سفیان رضی اللہ عنہ کو جابر بن یزید جعفی کا ذکر کرتے سنا۔ آپ نے فرمایا: جب وہ تم سے یہ کہے

کہ مجھ سے بیان کیا۔ یا میں نے سنا تو اسے لے لو اور جب وہ اپنی طرف سے کچھ کہے تو اعتبار نہ کرو۔ وہ تدلیس کیا کرتے تھے۔
ان کا انتقال ۱۲۸ھ میں ہوا۔

وہ حدیث بیان کرنے اور اپنی رائے میں بہت ضعیف تھے۔

ابو اسحاق الشیبانی رضی اللہ عنہ

ان کا نام سلیمان بن ابی سلیمان ہے۔ ان کے غلام ہیں۔

۱۲۸ھ میں وفات پائی۔ ابی جعفر کی خلافت کے دو سال گزرے تھے۔

مطرف بن طریف رضی اللہ عنہ

حارثی۔

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ مطرف ملا۔ وہ گدھے پر سوار تھا اس نے کہا آپ ہمارے یہاں کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا۔ آپ کے پاس صدقے کی کوئی چیز نہیں یہ سن کر وہ رو پڑے۔ اور کہا آپ ہم سے غفلت برتتے ہیں۔ گویا سفیان رضی اللہ عنہ نے مطرف کی یہ تعریف بیان کی۔

سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مطرف کہا کرتے تھے۔ آپ ہمیں گھروالوں سے زیادہ پیارے ہیں۔

انہوں نے ابی جعفر کی خلافت میں وفات پائی۔

اسماعیل بن سمیع الحنفی رضی اللہ عنہ

ثقفہ ہیں۔

علاء بن عبد الکریم رضی اللہ عنہ

ہمدان کے یامی۔ زبید کے پچازاد بھائی ہیں۔ ابی جعفر کی خلافت میں وفات پائی۔

عیسیٰ بن المسیب رضی اللہ عنہ

بجلی ہیں۔

یہ کوفہ میں خالد بن عبد اللہ قسری کی طرف سے قاضی تھے۔ جابر بن یزید جعفی فیصلے کرتے وقت ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے۔

ابی جعفر کی خلافت میں وفات پائی۔

محمد بن ابی اسماعیل رضی اللہ عنہ

سلمی۔ ابی اسماعیل کا نام راشد تھا۔ یہ تین بھائی تھے۔ ان سے روایت کی گئی ہے۔ ان میں سے عمر میں زیادہ اسماعیل راشد

تھے اور پہلے انہی کی وفات ہوئی۔ ان سے حمین اور ان کے بھائی محمد بن ابی اسماعیل روایت کرتے ہیں۔ ان کا انتقال خلافت ابی

جعفر میں ۱۲۲ھ میں ہوا۔ ثوری رضی اللہ عنہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔ عمر ابن راشد سے حفص بن غیاث رضی اللہ عنہ، عبد اللہ بن نمیر رضی اللہ عنہ

بجلی القطان رضی اللہ عنہ اور ثوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

خالد بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

ابن العاص بن ہشام الحزومی۔ جب بنی عباس کی دعوت کا دور شروع ہوا تو یہ کوفہ سے بھاگ کر واسطہ میں آ گئے تھے اور ابن ہبیرہ کے ہمراہ وہیں قتل کیے گئے۔ کہا جاتا ہے ابو جعفر نے ان کی زبان کٹوا کر پھر ان کو قتل کیا۔ اس کی اولاد کوفہ میں رہی۔

بکیر بن عتیق رضی اللہ عنہ:

انہوں نے سترج کیے۔ ثقہ تھے۔

جعده بن ذکوان رضی اللہ عنہ:

یہ سترج قاضی رضی اللہ عنہ کے غلام تھے۔ ان کا گھر شہار سوچ کندہ میں تھا۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔

غلام بن صالح رضی اللہ عنہ:

عسلی ہیں۔ حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت عبداللہ بن مسعود ہی ان کے اصحاب سے روایت کرتے ہیں۔

ابو الہیثم رضی اللہ عنہ:

بہار القصب المرادی۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔

زبرقان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

العبدی۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

ابو یعفر الراعی رضی اللہ عنہ:

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو یعفر نے کہا: کہ کوفہ میں مجھ سے بڑا آدمی اور کوئی موجود نہیں رہا۔

محمد بن بشر العبدی کہتے ہیں کہ میں نے ابو یعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے وہاں ان کا مصلیٰ تھا۔ ثقہ تھے۔

عسلی بن ابی عزہ رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے غلام ہیں۔ ثقہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

علاء بن المسیب رضی اللہ عنہ:

ابن رافع الاسدی۔ ثقہ تھے۔

ہارون بن عثمان رضی اللہ عنہ:

ثقہ تھے۔

حسن بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ:

نخعی ہیں۔ ثقہ تھے۔ ابی جعفر کی خلافت میں فوت ہوئے۔

مجالد بن سعید رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ کنیت ابو عمیر ہے۔ ۳۲ھ میں ابی جعفر کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔ علم حدیث و روایت میں ضعیف تھے۔

سعید القطان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ مجالہ مجھ سے رضی اللہ عنہ عن مسروق سے کوئی حدیث بیان کرے باوجود اس کے یحییٰ بن سعید القطان ان سے روایت کرتے ہیں اور ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ و شعبہ رضی اللہ عنہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔
لیث بن ابی سلیم رضی اللہ عنہ:
ان کی کنیت ابا بکر ہے۔

عنسد بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ کے غلام ہیں۔
معر کہتے ہیں کہ میں نے ایوب کو یہ کہتے سنا کہ انہوں نے لیث سے کہا: کہ جو کچھ تو دو شخصوں طاؤس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے سنے تو اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ اچھی طرح یاد رکھ۔

کہتے ہیں اس نے ابی جعفر کی خلافت میں وفات پائی۔ اس کا گھر جبانہ عرزم میں تھا اور اس کا باپ ابوسلیم جامع کوفہ کے بڑے عبادت گزاروں میں تھا۔ جب ثیب خارجی کوفہ میں داخل ہوا تو مسجد میں آیا۔ جتنے لوگوں کو مسجد میں سوتا پایا ان کو قتل کر دیا انہی میں ابوسلیم بھی تھا۔ جو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے ان کو چھوڑ دیا۔

لیث بڑا صالح عالم اور عابد تھا لیکن حدیث و روایت میں ضعیف تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ عطاء رضی اللہ عنہ طاؤس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے کچھ پوچھتا تو وہ اس میں اختلاف کرتے۔ مگر وہ روایت کرتا تو وہ اتفاق کرتے۔
الحج بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

کندی ہیں۔ کنیت ابو حنیفہ ہے۔ جب خلافت ابی جعفر میں محمد ابراہیم عبداللہ بن الحسن بن حسن نے خروج کیا تو اس وقت ان کا انتقال ہوا۔ ان دونوں نے ۱۴۵ھ میں خروج کیا تھا۔ یہ حدیث و روایت میں بہت ہی ضعیف تھے۔
عبدالملک بن ابی سلیمان رضی اللہ عنہ:

عرزی فرازی ہیں۔ اور ان کے غلام کنیت ابو عبداللہ ہے۔ ان کے باپ ابی سلیمان کا نام میسرہ ہے۔ اس پر اتفاق ہے کہ ان کا انتقال ۱۰ ارزی الحج ۱۴۵ھ کو خلافت ابی جعفر میں ہوا اللہ تھے۔ حدیثیں اچھی طرح یاد تھیں۔ جو صحیح ثابت ہوتی ہیں۔
قاسم بن الولید رضی اللہ عنہ:

ہمدانی ہیں۔ ثقہ تھے۔
عبداللہ بن شبرمہ رضی اللہ عنہ:

افسی۔ بڑے ثقہ فقیہ تھے۔ حدیث کم روایت کرتے تھے۔
یزید بن ہارون کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن شبرمہ کو دیکھا ہے۔ ان کی کنیت ابو شبرمہ تھی۔ مرد عربی تھے۔ بڑے خلق کے مالک تھے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے ان کو ارض خراج کا قاضی بنا دیا تھا۔

معر کہتے ہیں کہ ابن شبرمہ وہاں ہمارے نزدیک یمن کے والی تھے۔ پھر معزول کر دیئے گئے۔ جب ان سے لوگ پھر گئے۔ وہ اکیلے رہ گئے۔ کوئی بھی ان کے ساتھ نہ رہا۔ تو میری طرف دیکھا اور کہا اے ابو عمرو! میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں۔ میں

نے جب سے یہ قیص اپنی ہے کوئی دوسری قیص نہیں بدلی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہے اور کہا: میں تم سے حلال کے بارے میں کہتا ہوں۔ رہا حرام کا معاملہ اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں۔

کہتے ہیں کہ عبداللہ بن شبرمہ کا انتقال ۱۲۴ھ میں ہوا۔ یہ شاعر تھے۔ یہ اور محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ عیسیٰ بن موسیٰ ہر رات آتے اور کہانیاں کہتے۔ جب یہ دونوں آتے تو کھڑے ہو کر اجازت مانگتے۔ کبھی تو عیاض حاجب گھر سے نکل آتے اور کہتے کہ لوٹ جاؤ۔

عمارة بن القعقاع رضی اللہ عنہ:

ابن شبرمہ الضمی۔

سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمارة بن القعقاع، عبداللہ بن شبرمہ رضی اللہ عنہ کے بھتیجے ہیں اور عبداللہ بن عیسیٰ، محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ کے بھتیجے ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں افضل ہیں اپنے چچا سے عمارة ثقہ تھے۔

یزید بن القعقاع رضی اللہ عنہ:

ابن شبرمہ الضمی۔ وہ بھی ان سے روایت کرتے ہیں۔

حسین بن حسین رضی اللہ عنہما:

کندی۔ کوفے کے قاضی تھے۔ اور ثقہ تھے۔

غیلان بن جامع رضی اللہ عنہ:

مخاربی۔ یہ بھی کوفہ کے قاضی تھے۔ یزید بن عمر بن ہمیرہ کی ولایت میں وفات پائی۔ ان کو سوقیہ نے واسطہ اور کوفہ کے درمیان قتل کر دیا تھا۔ ثقہ تھے۔

ابراہیم بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابن المستشر الہمدانی۔ ثقہ تھے۔

مخول بن راشد رضی اللہ عنہما:

ابن ابی راشد النہدی۔ ان کے غلام تھے۔ ابن ابی جعفر کی خلافت میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔

عمیر بن یزید رضی اللہ عنہما:

ابن ابی العریف۔ الہمدانی۔ ابن ابی جعفر کی خلافت میں فوت ہوئے۔

حجاج بن عاصم رضی اللہ عنہما:

مخاربی۔

کوفے کے قاضی ہوئے تھے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو جمعہ کے دن تخت پر دیکھا۔ بنی امیہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا۔

ابو حیان النعمی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام یحییٰ بن سعید ہے۔ ثقہ تھے۔ چند صحیح احادیث ان سے مروی ہیں۔

موسیٰ الجہنی رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ ثقہ تھے اور قلیل الحدیث۔

حسن بن الحر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو عمر ہے۔ بنی اسد بن خزیمہ میں سے بنی الصیداء کے غلام تھے۔ ان کا انتقال مکہ میں ۱۳۳ھ میں ہوا۔ ثقہ

تھے۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

ولید بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن جمیع الخزاعی۔ ثقہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

صلت بن بہرام رضی اللہ عنہ:

بنی ایم اللہ بن ثعلبہ سے۔ ثقہ تھے۔

خش بن الحارث رضی اللہ عنہ:

ابن قیظ النعمی رضی اللہ عنہ۔ ثقہ تھے اور قلیل الحدیث۔

وقاء بن ایاس رضی اللہ عنہ:

اسدی۔ کنیت ابو یزید ثقہ تھے۔

بدر بن عثمان رضی اللہ عنہ:

آل عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے غلام تھے۔ ان کا گھر باب الفیل کی مسجد کے قریب تھا۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔

سعید بن المرزبان رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو سعد البقال تھی۔ یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہم کے غلام تھے۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

سلیمان بن یسیر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو الصباح ہے۔

حجاج بن ارطاة نخعی کے غلام ہیں۔

عبیدہ بن معتب رضی اللہ عنہ:

فسی۔ ابو عبد الکریم کنیت۔ حدیث و روایت میں بہت ضعیف تھے۔ تاہم ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔

زکریا بن ابی زائدة رضی اللہ عنہ:

محمد بن المستنیر ہمدانی کے غلام ہیں۔ خلافت ابی جعفر میں ۱۳۸ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ بہت سی احادیث کے راوی

ہیں۔

ابان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما:

ابن صخر بن العیلة۔ الجلی۔ کنیت صخر ابو حازم ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے۔ خلافت ابی جعفر میں ابان نے وفات پائی۔

صباح بن ثابت رضی اللہ عنہما:

بجلی ہیں۔ مسجد جریر بن عبد اللہ کے امام تھے۔ بڑے عاقل و بالغ نظر عالم دین تھے۔ خلافت ابی جعفر میں فوت ہوئے۔

عبد الرحمن بن زبید رضی اللہ عنہما:

الیامی۔ کنیت ابو اللاحث۔

خلافت ابی جعفر میں ۱۴ھ میں وفات پائی۔

سعید بن عبید رضی اللہ عنہما:

طائی ہیں۔ کنیت ابو الہذیل ہے۔ بنو اسد بن خزیمہ۔ انہیں میں ان کا گھر تھا۔ اور ان کی امامت کرتے تھے۔ خلافت ابی جعفر میں وفات پائی۔

موسیٰ الصغیر رضی اللہ عنہما:

ابن مسلم الطحان۔

عبد اللہ بن یونس کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ موسیٰ الصغیر الطحان نے سجدے کی حالت میں مقام طحان کے نزدیک وفات پائی۔

معرف بن واصل رضی اللہ عنہما:

بنی عمرو بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم میں سے۔

یہ بنی عمرو بن سعد کی مسجد کے امام تھے۔ مرض فقہ کے مریض تھے۔ سفر میں ہوں یا حضر میں تین دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ ستر سال انہوں نے اپنی قوم کی امامت کرائی نماز میں کبھی کوئی بھول چوک نہیں کی کیونکہ بڑے فکر و احتیاط سے نماز پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔

عیسیٰ بن المغیرہ رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو شہاب۔

محمد بن عبید کہتے ہیں میں ان سے ملا تھا۔

ابو بحر الہلالی رضی اللہ عنہما:

ان کا نام احف ہے۔

ابو بحرؓ:

یہ وہ ہیں جن سے حسن بن صالح روایت کرتے ہیں۔
 وکیعؓ کہتے ہیں وہ ہمارے بھانجے تھے میں نے ان کو دیکھا ہے ان کا نام برید بن شداد ہے۔

شوذب ابو معاذؓ:

ابو الحدیسؓ:

ان کا نام منیع ہے۔

ابو العتیسؓ:

یہ وہ ہیں جن سے مسعر روایت کرتے ہیں۔ ان کا نام الحارث ہے۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا پانچواں طبقہ

محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہ:

ابن ابی ملیکی بن بلال بن بلبل بن اجمیہ بن الجلاح الانصاری۔ پھر بنی نجیہ بن کلفہ بن عمرو بن عوف قبیلہ اوس میں سے ایک۔ اس پر اتفاق ہے کہ انہوں نے کوفہ میں ۱۲۸ھ میں وفات پائی۔ یہ بنی امیہ کی طرف سے کوفہ کے قاضی بھی رہے ہیں پھر بنی عباس نے ان کو اور عیسیٰ بن موسیٰ کو کوفہ کا والی بھی بنایا۔ وفات کے وقت ان کی عمر ۷۲ سال تھی۔

یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتا کہ ان کی دو بیویاں جو ان کو بہت پیاری تھیں۔ ایک رات ایک کے یہاں رہتے اور دوسری رات دوسری کے یہاں۔ اشعث بن سوار رضی اللہ عنہ:

ثقفی اور ان کا غلام۔

ان کا مکان نخیج میں مسجد حفص بن غمیث کے سامنے تھا۔ خلافت ابی جعفر کے اوائل میں ان کا انتقال ہوا۔ حدیث و روایت میں ضعیف تھے۔

محمد بن السائب رضی اللہ عنہ:

کلبی بن بشیر بن عمرو بن الحارث بن عبدالمحارث بن عبدالعزیٰ ابن امراء القیس بن عامر بن النعمان بن عامر بن عبدود بن کنانہ بن عوف بن عذرة بن زیدالات بن رفیدة بن ثور بن کلب۔ ان کی کنیت محمد بن السائب الکلبی ابو النضر ہے۔ ان کا دادا بشر بن عمرو تھا۔ اور اس کے لڑکے السائب رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تھے جو جنگ جمل میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ شریک ہوئے۔ سائب بن بشر مصعب بن الزبیر کے ہمراہ قتل ہوا۔

سفیان اور محمد سائب رضی اللہ عنہ کے لڑکے تھے۔ محمد بن السائب رضی اللہ عنہ ہماجم کے معرکہ میں عبد الرحمن بن محمد الاشعث کے ہمراہ شریک ہوئے۔ یہ محمد بن السائب رضی اللہ عنہ علم تفسیر، علم انساب عرب اور ان کی باتوں کے عالم تھے۔ خلافت ابی جعفر میں ۱۲۷ھ میں کوفہ میں فوت ہوئے۔

محمد بن سعد کہتے ہیں کہ مجھے ان باتوں کی خبر ان کے بیٹے ہشام بن محمد بن السائب رضی اللہ عنہ نے دی اور وہ عرب کے انساب اور ایام جاہلیت کے عالم تھے۔

محدثین کہتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ ان کی روایتوں میں بڑا ضعف ہے۔

حجاج بن ارطاة رضی اللہ عنہ:

ابن ثور بن مہیرہ بن شراحیل بن کعب بن سلمان بن عامر بن حارث بن سعد بن مالک بن النخع مدح میں سے۔ ان کی کنیت حجاج ابو ارطاة ہے۔ یہ بڑے شریف آدمی تھے۔ ابی جعفر کے اصحاب میں سے تھے ان کو مہدی کے ساتھ شریک کر دیا تھا ہمیشہ اسی کے ساتھ رہے اور رے میں وفات پائی۔ مہدی اس وقت ان کے ساتھ تھا۔ خلافت ابی جعفر میں۔ حدیث میں ضعیف تھے۔

ابو جناب الکلی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام یحییٰ بن ابی حنیہ ہے۔ حدیث میں ضعیف تھے۔ کوفہ میں خلافت ابی جعفر کے دوران ۱۲ھ میں وفات پائی۔

ابان بن تغلب رضی اللہ عنہ:

رضی۔

خلافت ابی جعفر میں جب کہ عیسیٰ بن موسیٰ کوفہ کے گورنر تھے وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ ان سے شعبہ روایت کرتے ہیں۔

محمد بن سالم رضی اللہ عنہ:

ابو ہبل العسبی۔ علم فرائض کے عالم تھے۔ ضعیف تھے۔ کثیر احادیث کے راوی ہیں۔

ابو کبران المرادی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام حسن بن عقبہ ہے۔

بشیر بن سلمان رضی اللہ عنہ:

نہدی اور ان کے غلام۔

کنیت ابو اسماعیل تھی۔ ان کا گھر ہمدان میں تھا۔ بوڑھے تھے۔ قلیل الحدیث ہیں۔

بشیر بن المہاجر رضی اللہ عنہ:

غلام تھے۔ ان کا گھر غنی میں تھا۔ ان کا کوئی غلام نہ تھا۔

بکیر بن عامر رضی اللہ عنہ:

بجلی۔ کنیت ابو اسماعیل۔ ثقہ تھے۔

محل بن محرز رضی اللہ عنہ:

ضعی۔ ابو یحییٰ کنیت۔ بازرگھے گئے تھے۔ کیونکہ حدیث و روایت میں ضعیف تھے۔

محمد بن قیس رضی اللہ عنہ:

اسدی۔ بنی دالیہ میں سے۔ ابو نصر کنیت تھی۔ ثقہ تھے۔

طلحہ بن یحییٰ رضی اللہ عنہما:

ابن طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عمرو بن کعب بن سعد بن تیمم ابن مرة۔ ثقہ تھے۔ ان سے بہت سی صحیح احادیث مروی ہیں۔

عبدالرحمن بن اسحاق رضی اللہ عنہما:

ان کی کنیت ابوشیبہ ہے۔ حدیث میں ضعیف تھے۔ ان سے شععی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں یہ وہ ہیں جن سے ابومعاویہ الضریہ اور کوئی روایت کرتے ہیں۔ اور عبدالرحمن بن اسحاق المدینی حدیث میں ان سے زیادہ مضبوط تھے۔ اور یہ وہ ہیں جن سے اسماعیل بن علیہ اور بصری روایت کرتے ہیں۔

اسحاق بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن عمرو بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص بن امیہ۔ ان کے پاس کچھ احادیث تھیں وہ ان سے روایت کی گئی ہیں۔

عمر بن ذر رضی اللہ عنہما:

ابن عبد اللہ الہمدانی۔ بنی مرہبہ میں سے ایک۔ ان کی کنیت ابازر ہے۔ یہ قصہ گو تھے۔ یہ خلافت ابی جعفر میں ۱۵۳ھ میں فوت ہوئے۔ عقیدہ مرجی تھے۔ ان کے جنازے میں نہ سفیان الثوری شریک ہوئے اور نہ حسن بن صالح۔ ثقہ تھے۔ ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

عقبہ بن ابی صالح رضی اللہ عنہما:

ان سے روایت کی گئی ہے۔

عقبہ بن ابی العیزار رضی اللہ عنہما:

قبیلہ مذحج کے بنی اود کے غلام۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

عبدالعزیز بن سیاہ رضی اللہ عنہما:

اسدی ہیں اور ان کے غلام۔

نیک لوگوں میں سے تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔ ان کی رہائش حبیب بن ابی ثابت کے ہمراہ انہی کے گھر میں تھی۔

خلافت ابی جعفر میں انتقال فرمایا۔

یوسف بن صہیب رضی اللہ عنہما:

ابو نعیم کہتے ہیں کہ یہ بنی کندہ کے بنی بداء میں سے تھے۔ میرا خیال ہے وہ ان کے غلام تھے۔

یونس بن ابی اسحاق رضی اللہ عنہما:

سبھی ہیں۔ ابواسرائیل کنیت ہے۔ یہ بڑی عمر کے تھے۔ اپنے والد کے عام راویوں سے روایت کرتے ہیں۔ ۱۵۹ھ میں

وفات پائی، کوفہ میں۔ ثقہ تھے۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

داؤد بن یزید رضی اللہ عنہ:

ابن عبدالرحمن ندح کے اودی ہیں۔ بوڑھے تھے۔ کئی صحیح احادیث کے راوی ہیں۔

ادریس بن یزید رضی اللہ عنہ:

یہ داؤد کے بھائی ہیں۔ ابن عبدالرحمن الاودی۔ اور وہ ابو عبداللہ بن ادریس ہیں۔ کئی احادیث ان سے مروی ہیں۔

عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ:

ابن ابی ثابت۔ بوڑھے تھے۔ ان سے ابو نعیم اور قیس بن عقبہ روایت کرتے ہیں۔

فطر بن خلیفہ رضی اللہ عنہ:

حناط۔ کنیت ابا بکر۔ کوفہ میں علی بن حنفی کے تھوڑے عرصے کے بعد وفات پائی۔ خلافت ابی جعفر میں ۱۵۵ھ میں۔ ثقہ تھے۔

چند اہل علم ان کو ضعیف بتلاتے ہیں۔ ان سے وکیع رضی اللہ عنہ اور ابو نعیم وغیرہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے پاس کسی کو لکھنے نہ دیتے تھے۔ انہوں نے بڑی عمر پائی اور یہ ابو وائل رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ابو حمزہ الثمالی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام ثابت بن ابی صفیہ ہے۔ خلافت ابی جعفر میں وفات پائی۔ ضعیف تھے۔

مسعر بن کدام رضی اللہ عنہ:

ابن ظہیر بن عبید اللہ بن الحارث بن عبداللہ بن عمرو بن عبد مناف ابن ہلال بن عامر بن صعصعہ ابو سلمہ کنیت تھی۔

انہوں نے کوفہ میں ۱۵۲ھ میں وفات پائی۔ خلافت ابی جعفر میں۔

سقیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ مسعر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص آتا، ان کو کوئی حدیث سناتا اور وہ

اس حدیث کو اس سے زیادہ اچھی طرح جانتے پھر بھی اس کی بات سنتے اور خاموش رہتے (یہ عجز و انکسار کی اعلیٰ صفت تھی)۔

آپ علمی اور مذہبی دونوں کمالات کے اعتبار سے ممتاز ترین تابعین میں سے تھے۔ آپ کی ذات علم و ورع دونوں کی جامع

تھی۔ حدیث کے اکابر حفاظ میں سے تھے۔ مسجد میں آپ کا حلقہ درس تھا۔ عبادت کے معمولات کے بعد روزانہ مسجد میں بیٹھ جاتے

تھے اور تشنگان علم حدیث آپ کے ارد گرد حلقہ باندھ کر استفادہ کرتے تھے۔ آپ ہمیشہ مسجد میں ہی درس حدیث دیتے تھے۔

ان کی والدہ ماجدہ بھی بڑی عابدہ و زاہدہ تھیں، یہ انہی کی تعلیم تربیت کا اثر تھا کہ مسعر بھی بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ ان کی

والدہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتی تھیں۔ اکثر دونوں ماں بیٹے ایک ساتھ مسجد جاتے۔ مسعر نمدہ لیے ہوئے ہوتے تھے، مسجد میں جا کر

ماں کے لیے وہ نمدہ بچھا دیتے، جس پر کھڑی ہو کر وہ نماز پڑھتی تھیں۔ مسعر رضی اللہ عنہ علیحدہ علیحدہ مسجد کے اگلے حصہ میں نماز میں مشغولہو جاتے۔ نماز تمام کرنے کے بعد ایک مقام پر بیٹھ جاتے اور شائقین حدیث آ کر ارد گرد جمع ہو جاتے، مسعر رضی اللہ عنہ انہیں حدیثیںسناتے، ان کا مفہوم اور اسرار و رموز بتلاتے اتنے میں ان کی والدہ عبادت سے فارغ ہو جاتیں۔ مسعر رضی اللہ عنہ اپنا درس ختم کر کے وہ نمدہ

اٹھاتے اور ماں کے ساتھ گھر واپس آ جاتے۔

آپ کے ٹھکانے صرف دو ہی تھے۔ گھر یا مسجد۔ مگر آپ مرجئی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان کے جنازے میں سفیان ثوری رضی اللہ عنہ اور حسن بن صالح رضی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔
مالک بن مغول رضی اللہ عنہ:

ابن عاصم بن مالک بن غزویہ بن حارث بن خدیج بن جابر بن معوذ ابن الحارث بن صہبہ بن انمار اور وہ بچیلہ تھے۔ ابو عبد اللہ کثرت تھی۔ آخر ماہ ذی الحجہ ۱۵۸ھ میں کوفہ میں وفات پائی اسی مہینے میں ابو جعفر منصور امیر المومنین بنے۔
 ثقہ تھے۔ ان کی روایتیں محفوظ تھیں۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں اور بڑے فاضل و عالم ہیں۔
ابوشہاب الاکبر رضی اللہ عنہ:

ان کا نام موسیٰ بن تافع ہے۔ بنی اسد کے غلام ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عطاء رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور خود ان سے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ، شریک رضی اللہ عنہ، حفص رضی اللہ عنہ، وکیع رضی اللہ عنہ اور ابن نمیر روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔
ابو عیسیٰ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عتبہ بن عبد اللہ بن مسعود الہذلی ہے۔ بنی زہرہ کے حلیف۔ ثقہ تھے۔
المسعودی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عبد الرحمن بن عبد اللہ بن عتبہ بن عبد اللہ بن مسعود بنی مسعود ہے۔
 بغداد میں وفات پائی۔ ثقہ ہیں۔ کثیر الحدیث ہیں لیکن آخری عمر میں قوت حافظہ خراب ہو گئی تھی۔ غلط اور صحیح میں اختلاط ہو گیا تھا۔ وہ معتدین سے روایت کرتے ہیں۔
عبد الجبار بن عباس رضی اللہ عنہ:

ہمدان کے شہابی ہیں۔ ان میں ضعف تھا۔ تاہم ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔
امی بن ربیعہ رضی اللہ عنہ:

صیرفی۔

ابو اسامہ کہتے ہیں ان کی کثرت ابو عبد الرحمن تھی۔ ثقہ تھے۔ کم روایت کرتے تھے۔
بسام الصیرفی رضی اللہ عنہ:

ابی جعفر محمد بن علی سے روایت کرتے ہیں۔
 ابو نعیم کہتے ہیں۔ میرا گمان یہ ہے کہ وہ غلام تھے۔ میں ان کے والد کو نہیں جانتا۔
 ان کی رہائش حمام عنترہ کے پاس تھی۔ ان کی کثرت ابو عبد اللہ تھی۔

موسیٰ بن قیس رضی اللہ عنہ

بذات خود حضری ہیں۔ ابو محمد کنیت ہے۔ خلافت ابی جعفر منصور میں فوت ہوئے۔
کم روایت کرتے تھے۔

داؤد بن نصیر رضی اللہ عنہ

قبیلہ طے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابوسلمیان کنیت ہے۔ انہوں نے حدیث سنی ہے۔ یہ فقیہ بھی تھے۔ علم نحو میں بھی درک رکھتے تھے۔ لوگوں کے حالات کا علم رکھتے تھے۔ لیکن ان علوم میں سے کسی علم کے متعلق گفتگو نہ کرتے تھے۔
داؤد طائی کہتے ہیں میں ان کے پاس چالیس راتیں آتا رہا۔ وہ حدیث کو بیان کرتے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہا اس علم کے بارے میں آپ سے مذاکرہ کیا کرتا تھا۔ اب مجھ سے اس کے بارے میں کبھی مذاکرہ نہ کرنا۔
زفر کہتے ہیں کہ میں اور داؤد طائی دونوں اعمش رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ داؤد نے کہا: فضل بن دکین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں داؤد طائی کو دیکھتا تھا تو میں اس کو قاریوں کے مشابہ پاتا تھا۔ وہ طویل سیاہ عمامہ باندھتے تھے جیسا اکثر تاجر باندھتے ہیں۔ یہ تقریباً بیس سال گھر میں بیٹھے رہے یا کم۔ یہاں تک کہ وفات پا گئے۔ میں ان کے جنازے میں شریک ہوا کثرت کے ساتھ لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے۔

خلافت مہدی کے زمانہ میں ۵۷ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

سوید بن نجیح رضی اللہ عنہ

ابو قطبہ۔ یہ بنی حرام میں رہتے تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہ کے پڑوسی تھے۔ خلافت ابی جعفر میں وفات پائی۔

محمد بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ

عززی الفزازی۔

یہ بہت زیادہ احادیث سنتے تھے اور لکھ لیتے تھے۔ مگر انہوں نے اپنی کتابیں دفن کر دیں اس کے بعد وہ حدیثیں بیان کیا کرتے تھے حالانکہ ان کی کتب احادیث ضائع ہو چکی تھیں۔ اس وجہ سے اہل علم نے ان کی حدیثوں کو ناقابل توجہ اور ضعیف سمجھا۔ اور انہوں نے ابی جعفر کی خلافت کے آخری ایام میں وفات پائی۔

حسن بن عمارہ رضی اللہ عنہ

بجلی ہیں اور ان کے غلام۔

کنیت ابو محمد۔ خلافت ابی جعفر میں ۱۵۳ھ میں وفات پائی۔ حدیث میں ضعیف تھے۔ اور ان میں سے تھے جو اپنی حدیثیں

کہتے نہ تھے۔

ہارون بن ابی ابراہیم رضی اللہ عنہ

ثقفی۔ وہ ہارون البربربری ہیں۔

عبداللہ بن ادریس وغیرہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ ان کے پاس احادیث صحیحہ تھیں۔
مجمع بن یحییٰ رضی اللہ عنہما۔

آل جاریہ بن العطف کے انصاریوں میں سے ہیں۔ لیکن کوفہ میں آباد ہو گئے تھے۔ ان کا اصل وطن مدینہ تھا۔ ان سے
کوفہ کے اہل علم روایت کرتے ہیں اور ان کی کئی احادیث ہیں۔
ابو حنیفہ رضی اللہ عنہما۔

ان کا نام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہما ہے۔ بنی تیم اللہ بن ثعلبہ بکر بن وائل کے غلام ہیں یہ اصحاب الرائے میں سے ہیں۔ اس
بات پر اتفاق ہے کہ ان کی وفات بغداد میں خلافت ابی جعفر کے دوران ۱۵۰ھ میں ہوئی۔
وفات کے وقت ان کی عمر ستر سال تھی۔

محمد بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن ہم کوفہ میں ان کی آمد کے منتظر تھے۔ مگر بجائے ان کے ان
کے مرنے کی خبر آئی۔

اور یہ حدیث میں ضعیف تھے۔

ابوروق رضی اللہ عنہما۔

ان کا نام عطیہ بن الحارث الہمدانی ہے۔

جن میں سے یہ تھے ان کو نوٹن کہا جاتا تھا اور یہ صاحب تفسیر ہیں۔ ضحاک بن مزاحم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

ابو یوسف رضی اللہ عنہما۔

یہ وہ ہیں جن سے عبداللہ بن نمیر، حفص بن غیاث، محمد بن الفضیل ابن غزوان، یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ روایت کرتے
ہیں۔

ان کا نام عبدالرحمن بن عبید بن نسطاس البکائی ہے۔

منصور بن المحسن رضی اللہ عنہما ان کے باپ عبید بن نسطاس سے روایت کرتے ہیں۔

سری بن اسماعیل رضی اللہ عنہما۔

ہمدانی صاحبین میں سے ہیں۔

یہ امام شعبی رضی اللہ عنہما کے کاتب تھے۔ اور ان سے فرانس وغیرہ کی احادیث روایت کرتے ہیں۔ یہ کوفہ کے قاضی بھی رہے

ہیں۔ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے۔

اسماعیل بن عبدالملک رضی اللہ عنہما۔

ابن رفیع۔ عبدالعزیز بن رفیع کے بھتیجے۔ بنی اسد بن خزیمہ کے بنی والیہ کے غلام۔ خلافت ابی جعفر میں وفات پائی۔

سلمہ بن نبیط رضی اللہ عنہما۔

ابہم بن صالح رضی اللہ عنہما:

کنزی، خلافت ابی جعفر میں فوت ہوئے۔

محمد بن علی رضی اللہ عنہما:

سہمی۔ وہ اس سے روایت کرتے ہیں۔

عیسیٰ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہما:

سہمی۔ یہ قدیم الموت ہیں۔ خلافت ابی جعفر میں وفات پائی۔

سعد بن اوس رضی اللہ عنہما:

عجسی ہیں۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا چھٹا طبقہ

سفیان بن سعید رضی اللہ عنہ:

ابن مسروق بن حبیب بن رافع بن عبد اللہ بن موہبہ بن ابی بن عبد اللہ بن معاذ بن نصر بن الحارث بن ثعلبہ بن عامر بن
مکان ابن ثور بن عبد مناة بن اذبن طابخہ بن الیاس بن مضر بن نزار۔ کنیت ابو عبد اللہ۔

محمد بن عمر کہتے ہیں کہ سفیان سلیمان بن عبد الملک کی خلافت کے زمانے میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ یہ بڑے مامون
و محفوظ ثقہ راوی تھے۔ ان کی احادیث قابل حجت و سند ہیں اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ بصرہ میں ماہ شعبان لکھنے میں فوت ہوئے۔ یہ
خلافت مہدی کا زمانہ تھا۔

علم، تبلیغ و اشاعت:

قیصہ بن عقبہ کہتے ہیں کہ مجھے سفیان کے ایک شخص نے خبر دی کہ انہوں نے فرمایا: ”علم دین سیکھو جب تم علم دین حاصل
کرو تو اس کو یاد رکھو جب تم اس کو اچھی طرح حاصل کرو اور محفوظ کرو تو اس پر عمل کرو جب تم اس پر خود بھی عامل ہو جاؤ تو پھر اس کی
تبلیغ و اشاعت کرو“ (یعنی علم دین عمل کرنے کے لیے حاصل کرو، اس کو ذریعہ معاش بنانے اور دنیا کمانے کے لیے حاصل نہ کرو۔ علم
ذریعہ ہے اور عمل مقصود۔ دونوں کا فرق و امتیاز ملحوظ رکھو۔ جب تم خود عملی نمونہ بن جاؤ تو پھر اس کی تبلیغ و اشاعت کرو)۔
سفیان ثوری اکثر کہا کرتے تھے کہ اے اللہ! سلامت رکھ اور سلامتی دے۔

ایک مرتبہ آپ نے کسی والی سے مال قبول کر لیا۔ اس کے بعد آپ نے یہ معاملہ ترک کر دیا اس کے بعد کسی سے کچھ نہ لیا
کرتے تھے۔ کسی سے کوئی صلہ یا معاویہ نہ لیتے۔ ان کا ذریعہ معاش بین میں تجارتی کاروبار تھا۔ اپنے مال کا جائزہ لیتے رہتے کہ اس
میں ناجائز کمائی نہ شامل ہونے پائے ہر سال اصل راس المال اور منافع کا حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے۔ ان کا صرف ایک بیٹا تھا۔ اس
کے متعلق وہ کہا کرتے تھے۔ مجھے دنیا میں اس سے زیادہ پیاری چیز اور کوئی نہیں۔ اس کا انتقال ہو گیا تو آپ نے اس کی تمام دولت
و جائیداد کا مالک اس کی بہن اور اس کے لڑکے کو بنا دیا۔ ان کی بہن کا لڑکا عمار بن محمد تھا۔ اس میں سے اپنے بھائی مبارک ابن سعید کو
کچھ نہیں دیا۔

خليفة مہدی اور سفیان بن سعید رضی اللہ عنہ:

ہمارے لیے یہ بات بڑے افسوس کی ہے مسلمانوں میں جتنے بھی آئمہ اسلام اور علمائے حق گزرے ہیں۔ جنہوں نے دنیا
میں حق پرستی و بلندی کردار کی اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں ہمارے بادشاہ و حکمران ہمیشہ ان کے دشمن اور درپے آزار رہے ہیں۔ اس
روایت کے مطابق مہدی اور سفیان بن سعید رضی اللہ عنہم میں بھی ان میں تھی۔ جب ان کو طلب کیا گیا تو وہ مکہ کو روانہ ہو گئے۔ مہدی نے مکہ

کے حاکم محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہما کو لکھا کہ سفیان کو ہمارے دربار میں حاضر کرو۔ محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہما نے سفیان کو اس حکم سے آگاہ کر دیا اور کہا کہ اگر آپ اپنی قوم میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ان میں پہنچا دوں۔ اگر آپ یہ نہیں چاہتے تو کہیں روپوش ہو جائیں (تاکہ میری جان چھوئے)۔

اس پر سفیان روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد محمد بن ابراہیم رضی اللہ عنہما نے مکہ میں منادی کرا دی کہ جو سفیان کو لائے گا اس کو یہ یہ انعام ملے گا۔ مگر آپ مکہ میں ہی روپوش رہے۔ ان سے صرف اہل علم اور بے خوف لوگ ہی آگاہ تھے۔

زائد اندازہ زندگی:

فقرو زہد، استغناء اور شان توکل ہمیشہ اہل حق کا طرہ امتیاز اور شیوہ رہا ہے۔ وہ بقدر کفاف دنیا سے تعلق رکھتے ہوئے دنیا سے بے تعلق اور دولت و جائیداد کی حرص و ہوس سے بے نیاز رہتے ہیں۔ چنانچہ ابی شہاب الحناط کہتے ہیں کہ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی بہن نے میرے ہاتھ سفیان بن سعید رضی اللہ عنہ کے لیے ایک توشہ دان میں روئی روٹی بھیجی وہ مکہ میں آئے لوگوں سے ان کا پتہ پوچھا۔ معلوم ہوا کہ آپ کبھی کبھی کے پیچھے باب الحناطین میں بیٹھا کرتے ہیں۔

میں وہاں آیا۔ میرے ہمراہ میرا ایک دوست تھا۔ میں نے وہاں ان کو کروٹ کے بل لیٹے ہوئے پایا میں نے ان کو سلام کیا مگر انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کی بہن نے آپ کے لیے ایک توشہ دان بھیجا ہے جس میں روئی روٹی ہے۔ آپ فوراً میری طرف متوجہ ہوئے اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا: ابو عبد اللہ! میں آپ کا دوست تھا آپ کے پاس آیا۔ آپ کو سلام کیا مگر آپ نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ اور جب میں نے یہ کہا کہ آپ کی بہن نے آپ کے لیے روئی روٹی بھیجی ہے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ہم سے ہم کلام ہوئے (اس بے زحمتی کا سبب؟) آپ نے فرمایا: اے ابوشہاب! مجھے اس بے زحمتی پر ملامت نہ کرو۔ میں تین دن سے بھوکا ہوں۔ کچھ نہیں کھایا۔

جب آپ کو مکہ میں گرفتاری کا خوف پیدا ہوا تو آپ وہاں سے بصرہ میں آ گئے اور یحییٰ بن سعید القطان رضی اللہ عنہ کے مکان کے قریب ٹھہرے۔ گھر والوں میں سے کسی نے ان کو خبر دی کہ آپ کے گھر کے قریب اہل حدیث کا ایک عالم ٹھہرا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ آپ کو لے آئے۔ آپ نے کہا میں یہاں سات دن سے قیام پذیر ہوں۔ یحییٰ بن سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنے قریب ہی جگہ دے دی۔ اور درمیان میں ایک دروازہ کھول لیا۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان کے پاس آتے، ان کو سلام کرتے اور ان سے احادیث سنتے ان کے پاس جو لوگ حدیث سنتے آتے تھے۔ وہ یہ تھے جریر بن حازم، مبارک بن فضالہ، حماد بن سلمہ، عطار اور حماد بن زید رضی اللہ عنہم وغیرہ۔

عبدالرحمن بن مہدی بھی ان کے پاس آتا تھا۔ یہ اور یحییٰ دونوں ان سے احادیث سن کر لکھ لیتے تھے اور جب کبھی ان کے پاس ابوعموانہ رضی اللہ عنہ آنے کی اجازت طلب کرتے تو آپ انکار کر دیتے اور فرماتے کہ جس شخص کو میں نہیں جانتا اس کو کیسے آنے کی اجازت دے دوں۔ اسی طرح مکہ میں بھی جب کبھی یہ ابوعموانہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آتا۔ سلام کرتا تو آپ اس کے سلام کا جواب نہ دیتے۔ اصل میں آپ کو اس سے یہ ڈر تھا کہ یہ کسی کو میرے یہاں ہونے کی اطلاع نہ دے دے۔

اسی ڈر سے آپ نے وہ جگہ چھوڑ دی اور بنہم بن منصور الاعرجی کے مکان کے قریب آگئے اور وہیں ہمیشہ رہے۔ ایک دفعہ حماد بن زید رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا کہ آپ سلطان کے ڈر سے چھپتے کیوں پھرتے ہیں یہ تو اہل بدعت کا طریقہ ہے؟ آخر آپ ان سے ڈرتے کیوں ہیں؟ نتیجہ یہ کہ حماد اور سفیان دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ وہ دونوں دار الخلافہ بغداد میں آئیں اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیں۔ چنانچہ سفیان نے مہدی کو لکھ کر اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔

آپ کو اس سے ڈرایا بھی گیا کہ خلیفہ غضب ناک ہوگا مگر آپ نے اس کی پروا نہ کی۔ الغرض اس طرح مہدی کو علم ہو گیا اس نے آپ کی خطا معاف کر دی اور عزت و تکریم سے پیش آیا۔ اور دونوں کا معاملہ صاف ہو گیا۔

آپ کو بخار ہو گیا اور مرض شدت اختیار کر گیا اور موت کا وقت قریب آ گیا اور آپ بزرع و فزع کرنے لگے۔ مرحوم بن عبد العزیز نے کہا: اے ابو عبد اللہ آپ کیوں گھبراتے ہیں آپ نے تمام عمر اپنے رب کی عبادت و بندگی کی ہے۔ وہ آپ پر اپنی رحمت و مغفرت نازل کرے گا اس سے آپ کو اطمینان و سکون ہوا۔ اور کہا کہ یہاں میرے کوفہ کے ساتھیوں میں سے کوئی ہے؟ ان کے پاس عبد الرحمن بن عبد الملک، حسن بن عیاض اور ان کے بھائی ابی بکر بن عیاش کو لے آئے آپ نے عبد الرحمن بن عبد الملک کو وصیت کی کہ وہ ان کے جنازے کی نماز پڑھائیں یہ سب لوگ آپ کے پاس رہے حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔

انتقال پر ملال:

آپ کی وفات کی خبر بصرہ میں ہر طرف پھیل گئی ہر شخص کو آپ کی وفات کا صدمہ ہوا۔ بے شمار مخلوق آپ کے جنازے میں شریک ہوئی۔ آپ کی نماز عبد الرحمن نے پڑھائی۔ یہ بڑے نیک آدمی تھے۔ سفیان رضی اللہ عنہما ان سے بڑے خوش تھے عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اور خالد بن الحارث رضی اللہ عنہما وغیرہ نے ان کو قبر میں اتارا۔ اور ان کو دفن کیا۔ پھر عبد الرحمن رضی اللہ عنہما اور حسن بن عیاش رضی اللہ عنہما نے کوفہ میں آ کر ان کی وفات کی خبر دی۔

اللہ ان پر اپنی رحمت نازل کرے۔

اسرائیل بن یونس رضی اللہ عنہما:

ابن ابی اسحاق السبعمی۔

ان کی کنیت ابو یوسف ہے۔ کوفہ میں ۷۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ لوگ ان سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

ان میں سے بعض ضعیف بھی ہیں۔

یوسف بن اسحاق رضی اللہ عنہما:

ابن ابی اسحاق السبعمی۔

ان سے روایت کی گئی ہے۔ خلافت ابی جعفر میں فوت ہوئے۔ بہت کم روایت کرتے تھے۔

علی بن صالح رضی اللہ عنہما:

ان کا نام صالح بن صالح بن مسلم بن حیان بن شفی بن حمی ابن رافع بن قملی بن عمرو بن مانع بن صہلان بن زید بن ثور

بن مالک ابن معاویہ بن دومان بن بکیل بن ہشتم بن ہمدان۔

کنیت ابو محمد، فضل بن دکین کہتے ہیں علی و حسن دونوں صالح کے لڑکے ہیں تو ام پیدا ہوئے تھے، علی پہلے پیدا ہوا تھا۔ میں نے کبھی نہیں سنا کہ حسن کو اس کے نام کے ساتھ پکارا گیا ہو۔ ان کو ابو محمد ہی کہا جاتا تھا۔ محمد بن سعد کہتے ہیں۔ علی صاحب قرآن تھا۔ عبد اللہ بن موسیٰ کہ میں نے اس سے قرآن پڑھا تھا، ان کی وفات خلافت ابی جعفر میں ۱۵۴ھ میں ہوئی۔ ثقہ تھے۔ قلیل الحدیث۔
حسن بن حمی رضی اللہ عنہما:

یہ صالح بن صالح ہیں۔ علی بن صالح کے بھائی۔ ان کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ یہ بہت بڑے عابد و زاہد اور فقیہ تھے۔ فضل بن دکین رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے حسن رضی اللہ عنہما کو کبھی چار زانو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ ان سے کسی سائل نے آ کر سوال کیا (آپ کے پاس اس وقت کچھ نہ تھا) اپنی جرابیں اتار کر اس کو دے دیں۔ کہتے ہیں میں نے ان کو جمعہ میں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہفتے کی رات کو وہ چھپ گئے اور سات سال تک چھپے رہے۔ حتیٰ کہ آپ وفات پا گئے۔ یہ ۷۷ھ تھا۔ کوفہ میں ہی چھپے رہے۔ اس زمانے میں کوفہ کا گورنر روج بن حاتم بن قبصہ بن المہلب تھا اور یہ مہدی کی خلافت کا دور تھا۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ حسن بن حمی رضی اللہ عنہما تھے، عیسیٰ بن زید علی نے اپنی لڑکی کا نکاح ان سے کر دیا تھا، کوفہ میں وہ بھی ان کے ہمراہ اسی مکان میں چھپے رہے۔ اسی حالت میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ مہدی ان دونوں کی تلاش میں تھا مگر وہ اس پر قابو نہ پاسکا۔ پہلے اسی روپوشی کے عالم میں حسن بن حمی رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا اور ان کے چھ ماہ بعد عیسیٰ بن زید کا انتقال ہو گیا۔

وفات کے وقت حسن بن حمی رضی اللہ عنہما کی عمر ۷۳ سال تھی۔ ثقہ تھے۔ ان سے بہت سی صحیح احادیث مروی ہیں مگر شیعہ تھے۔

اسباط بن نصر رضی اللہ عنہما:

بذات خود ہمدانی ہیں۔ مشہور مفسر سدی کے راوی ہیں۔ ان سے تفسیر مروی ہے۔ نیز وہ منصور وغیرہ سے بھی روایت کرتے ہیں۔

یعلیٰ بن الحارث رضی اللہ عنہما:

حارثی ہیں۔

محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما:

ہمدان میں سے ابن مصرف الیامی۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ خلافت مہدی میں ۷۷ھ میں وفات پائی۔

ان کی احادیث منکر ہیں (جن کا محدثین نے انکار کیا ہے)۔

عنان کہتے ہیں یہ محمد بن طلحہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد مرچکے تھے گویا لوگ ان کی تکذیب کرتے تھے۔ مگر یہ کسی میں جرأت نہ تھی کہ ان سے کہتا آپ جھوٹ کہتے ہیں۔

زہیر بن معاویہ رضی اللہ عنہما:

ابن حدیق بن الرخیل بن زہیر بن خیمثہ بن ابی حمران۔ ان کا نام حارث بن معاویہ بن الحارث بن مالک بن عوف بن سعد

بن حریم بن جعفی بن سعد العشرہ مدح میں سے ہیں۔ ابو خیمثہ کنیت ہے۔

جزیرہ میں جا کر آباد ہو گئے تھے اور وہیں وفات پائی۔

عمرو بن خالد المصری کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن منصور کو ان کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے یہ جزیرہ میں ۳۷ھ میں آئے تھے۔ یہ زمانہ ہارون کی خلافت کا تھا۔ قابل اعتماد ثقہ تھے ان سے بہت سی احادیث مروی ہیں۔

رحیل بن معاویہ رضی اللہ عنہ:

ابن حدیج بن الرحیل۔ ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

حدیج بن معاویہ رضی اللہ عنہ:

یہ بھائی ہیں رحیل بن معاویہ رضی اللہ عنہ کے ابن حدیج بن الرحیل۔ ان سے بھی روایت کی گئی ہے مگر یہ حدیث میں ضعیف تھے۔

شیبان بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابو معاویہ نحوی ہے۔ بنی تمیم کے غلام ہیں۔ ان کا اصل وطن بصرہ تھا۔ داؤد بن علی بن عبد اللہ بن عباس کے

لڑکے کے معلم تھے۔ خلافت مہدی میں ۳۷ھ میں فوت ہوئے بغداد میں اور مقبرہ خیزران میں دفن ہوئے۔ ثقہ تھے۔ کثیر الروایت۔

قیس بن الربیع رضی اللہ عنہ:

حارث بن قیس کے لڑکے اور اسدی ہیں۔ حارث بن قیس مسلمان ہوئے تھے۔ ان کی نو بیویاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو

حکم دیا کہ ان میں سے صرف چار رکھ لیں اور باقی چھوڑ دیں۔ ان کی کنیت ابو محمد ہے۔

قیس کو ان کی کثرت سماع اور کثرت علم کی وجہ سے حوالہ کہا جاتا تھا۔ خلافت مہدی کے آخری ایام میں ۸۷ھ میں وفات

پائی۔ کوفہ میں۔

قیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ:

اسدی ہیں۔

یہ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں لیکن حدیث میں ضعیف تھے۔

زابد بن قدامہ رضی اللہ عنہ:

ثقفی ہیں۔ کنیت ابو الصلت ہے۔

انہوں نے ارض روم میں وفات پائی۔ اس سال جس میں حسن بن قحطبة الصاکفہ نے جنگ کی۔ یہ ۱۷۷ھ کی بات ہے۔ اہل

سنت و الجماعت میں سے ثقہ راوی تھے۔

ابو بکر الغمشلی رضی اللہ عنہ:

بنی تمیم میں سے ہیں۔ وہ ابن عبد اللہ بن قطاف ہیں۔ عقیدہ مرجئی تھے۔ بڑے عبادت گزار تھے۔ ان سے بہت سی

حدیثیں مروی ہیں۔ ان میں سے بعض کو ضعیف بتلایا جاتا ہے۔

شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن ابی شریک اور وہ حارث بن اوس بن الحارث بن الازہل بن وھبیل بن سعد بن مالک بن النخع ندح میں سے ہیں۔ شریک کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔

خراسان کے قصبہ بخاری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا دادا جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے۔ شریک ابی معشر سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ قاضی ہونے سے پہلے۔

یہ بعض مشائخ سے روایت کرتے ہیں۔ خود کہتے ہیں میں شریک بن عبد اللہ بن ابی شریک ہوں اور میرے دادا ابو شریک جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے۔ شریک کوفہ کے بڑے لوگوں میں سے تھے۔ ان کو ابو جعفر منصور نے بلا کر کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوفہ کا قاضی بناؤں انہوں نے عرض کیا: امیر المؤمنین! مجھے اس اہم ذمہ داری سے معاف رکھیں۔ اس نے کہا میں آپ کو اس سے معاف نہ کروں گا۔ آپ کو کوفہ کا قاضی بنا پڑے گا۔ آپ نے پھر بھی انکار ہی کیا۔ بالآخر مجبوراً قاضی بنا دیئے گئے۔ اس عہدے پر ہمیشہ قائم رہے یہاں تک کہ ابو جعفر نے وفات پائی۔ اور اس کی جگہ مہدی خلیفہ ہوا۔ اس نے پہلے تو ان کو اس عہدے پر قائم رکھا پھر معزول کر دیا۔

شریک نے کوفہ میں ہفتے کے دن کے عہدے میں وفات پائی۔ امیر المؤمنین ہارون حیرہ میں تھا اور اس وقت موسیٰ بن عیسیٰ بن محمد بن علی کوفہ کا گورنر تھا۔ وہ آپ کے جنازے میں شریک ہوا اور نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ہارون بھی حیرہ سے آیا۔ جب اس نے سنا کہ ان کو دفن بھی کر دیا گیا ہے تو لوٹ گیا۔

ثقت تھے۔ کثیر الحدیث تھے۔ اور صحیح احادیث کے ساتھ غلط احادیث بھی روایت کر دیتے تھے۔

عیسیٰ بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ:

ابن عبد اللہ بن ابی لیلیٰ انصاری۔

انہوں نے محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلیٰ اور بکر بن عبد الرحمن قاضی کوفہ سے حدیث سنی۔

ابوالاحوص رضی اللہ عنہ:

ان کا نام سلام بن سلیم ہے۔ بنی حنفیہ کے غلام ہیں۔ خلافت ہارون کے دوران کوفہ میں ۱۶۹ھ میں وفات پائی۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں جو صحیح ہیں۔

کامل بن العلاء رضی اللہ عنہ:

تمیمی ہیں۔ کنیت ابوالعلاء۔ قلیل الحدیث ہیں۔ وہ بھی کچھ نہیں۔

عمرو بن شمر رضی اللہ عنہ:

حطی ہیں۔ ستر سال حطی کی مسجد کے امام رہے ہیں۔ قصہ گو تھے۔ ان کے پاس کچھ احادیث تھیں۔ مگر بہت ضعیف تھے۔

ان کی احادیث کو قبول نہیں کیا گیا۔ خلافت ابی جعفر میں فوت ہوئے۔

محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

ابن کھیل حضری۔

ان سے سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اور محمد بن سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور وہ ضعیف تھے۔

یحییٰ بن سلمہ رضی اللہ عنہ:

یہ محمد بن سلمہ کے بھائی ہیں۔

خلافت موسیٰ میں وفات پائی۔ روایت میں بہت ضعیف تھے۔

ابو اسرائیل الملائکی رضی اللہ عنہ:

عسکی ہیں۔ ان کا نام اسامعیل بن ابی اسحاق ہے۔ کہتے ہیں یہ صدوق تھے۔

جراح بن ملیح رضی اللہ عنہ:

ابن عدی بن الفرّس بن سفیان بن الحارث بن عمرو بن عبید بن رؤاس بن کلاب بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ۔ وہ ابو کعب بن الجراح ہیں۔ خلافت ہارون میں مدینہ میں بیت المال کے افسر اعلیٰ تھے۔ حدیث پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ اس کی ذمہ داری کو مشکل سمجھتے تھے۔

مفضل بن یونس رضی اللہ عنہ:

خلافت ہارون کے دوران ۸۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔

مفضل بن مہاہل رضی اللہ عنہ:

ثقہ تھے۔ ان سے ابو اسامہ اور حماد بن اسامہ وغیرہ روایت کرتے ہیں۔

حبان بن علی رضی اللہ عنہ:

غزوی ہیں۔ کنیت ابو علی۔ وہ اپنے بھائی مندل سے بڑے ہیں۔ خلیفہ مہدی ان دونوں کو دیکھنا چاہتا تھا۔ کوفے کے حاکم کو لکھ کر ان دونوں کو بلایا۔ وہ دونوں مہدی کے دربار میں آئے اور سلام کیا۔ پوچھا: تم دونوں میں سے مندل کون ہے؟ مندل نے کہا: امیر المؤمنین یہ حبان بن علی ہے اور میں مندل۔ حبان نے خلافت ہارون میں ۱۷۷ھ میں وفات پائی اور یہ حدیث میں اپنے بھائی مندل سے بہت زیادہ ضعیف تھے۔

مندل بن علی رضی اللہ عنہ:

غزوی۔ حبان کے بھائی۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ یہ اپنے بھائی سے زیادہ مجتہد اور قابل ذکر تھے اور اس سے چھوٹے تھے۔

اپنے بھائی حبان سے پہلے۔ خلافت ہارون میں ۱۶۰ھ میں وفات پائی ان میں ضعف تھا۔ باوجود اس کے بعض اہل علم ان کی حدیثوں کو پسند کرتے تھے اور ان کی توثیق کرتے تھے اہل السنۃ و الجماعت میں سے بڑے عالم و فاضل تھے۔

ابوزبید الثعلبی:

ان کا نام عبثر بن القاسم قبیلہ مذحج کے بنی زبید میں سے ہیں۔ کوفہ میں خلافت ہارون میں ۸۷ھ میں انتقال ہوا۔ ثقہ تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

ابو کلدینہ الثعلبی:

ان کا نام یحییٰ بن المہلب بجلی ہے۔ بنی ربیعہ میں سے۔ ثقہ تھے۔

ہریم بن سفیان الثعلبی:

بجلی ہیں۔ ثقہ ہیں۔

بانی بن ایوب الثعلبی:

جعی ہیں۔ ان کے پاس کچھ ضعیف حدیثیں تھیں۔

منصور بن ابی الاسود الثعلبی:

بنی لیث کے غلام۔ تاجر تھے۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

صالح بن ابی الاسود الثعلبی:

یہ منصور کے بھائی ہیں۔

یہ بھی حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔

عبدالرحمن بن حمید الثعلبی:

رواسی اور وہ ابوحمید بن عبدالرحمن ہیں ثقہ تھے۔ کئی احادیث کے راوی ہیں۔

ابراہیم بن حمید الثعلبی:

عبدالرحمن کے بھائی ہیں۔ اسماعیل بن ابی خالد کے ساتھی۔ ان کی اکثر روایتیں اسماعیل سے ہیں۔

مسلم بن جعفر الثعلبی اور جعفر بن زیاد الثعلبی:

تیم الرباب کے مزاحم بن زفر کے غلام الاحمر۔ جعفر خلافت ہارون میں ۱۷۷ھ میں فوت ہوئے۔

عمرو بن ابی المقدام الثعلبی:

بجلی ہیں۔ خلافت ہارون میں فوت ہوئے۔ ابی المقدام کے باپ کا نام ثابت ہے۔ ان کے عمرو حدیث میں کچھ نہیں۔

بعض اہل علم ان کے ضعف کی وجہ سے ان کی حدیثوں کو لکھتے نہیں تھے۔ علاوہ ازیں وہ سخت قسم کے شیعوں تھے۔

سلمۃ بن صالح رضی اللہ عنہما:

احمر الجعفی۔ کنیت ابواسحاق۔ انہوں نے علم حدیث حاصل کیا۔ ان کو اچھی طرح یاد نہ رکھ سکے اس لیے اہل علم نے ان کو ضعیف کہا، کچھ عرصہ یہ واسطہ کے قاضی رہے۔ پھر معزول کر دیئے گئے۔ خلافت ہارون میں بمقام بغداد ۱۸۸ھ میں فوت ہوئے۔

حشر بن نباتہ رضی اللہ عنہما:

ان کی کنیت ابوکریم ہے۔ یہ سعید بن جہان سے روایت کرتے ہیں۔

قاسم بن معن رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالرحمن بن عبداللہ بن مسعود المہذلی۔ قریش کے بنی زہرہ کے حلیف۔ ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، تھوڑے ہی دن کوفہ کے قاضی رہے اور وفات پا گئے۔ علم حدیث کے ثقہ عالم تھے، فقہ، شعر اور تاریخ میں بھی درک رکھتے تھے۔ ان کو اپنے زمانہ کا شععی کہا جاتا تھا اور بڑے سخی تھے۔

ابوشیبہ رضی اللہ عنہما:

ان کا نام ابراہیم بن عثمان العنسی ہے۔ ابی سعید کے بیٹے۔ اور ابی سعید ہی سے حدیث روایت کرتے ہیں اور ابوسعیدہ حضرت ابن عباسؓ سے روایت کرتے ہیں۔ یہ واسطہ کے قاضی بھی رہے تھے۔ خلافت ہارون میں وفات پائی۔ حدیث میں ضعیف تھے۔

یزید بن ہارون ان سے روایت کرتے ہیں۔

ابوالحیاء رضی اللہ عنہما:

ان کا نام یحییٰ بن یعلیٰ بن حرملہ بن الجلید بن عمار بن ارطاة بن زہیر بن امیہ بن جشم بن عدی بن الحارث بن تیم اللہ بن ثعلبہ ہے۔ خلافت ہارون میں ۱۷۸ھ میں وفات پائی ۷۷ سال کی عمر میں۔

مبارک بن سعید رضی اللہ عنہما:

مسروق رضی اللہ عنہما کے بیٹے۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے بھائی۔ کوفہ میں ۱۸۵ھ میں فوت ہوئے۔ ان کے پاس کچھ احادیث تھیں۔

اسماعیل بن ابراہیم رضی اللہ عنہما:

ابن المہاجر بجلی۔

حمزۃ الزیات رضی اللہ عنہما:

ابن عمارہ، کنیت ابوعمارہ آل عکرمد بن ربیع التیمی کے غلام۔ یہ کوفہ سے روغن زیتون جلو ان کو لے جاتے اور وہاں سے پیڑ اور اخروٹ لاتے۔ یہ قاری بھی تھے اور فرائض کے عالم بھی۔

سفیان ثوری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان سے کہا: ”اے ابن عمارہ ہمیں آپ کی قرأت اور علم فراغ پر کوئی اعتراض و کلام نہیں، خلافت ابی جعفر کے دوران حلوآن میں ان کا انتقال ۶۵ھ میں ہوا۔ یہ بڑے نیک آدمی تھے۔ ان کے پاس کچھ احادیث تھیں، صدوق تھے اور صاحب سنت تھے۔“

محمد بن ابان رضی اللہ عنہ:

ابن صالح بن عمیر بن عبید، عبداللہ بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبد شمس کے غلام۔ کنیت ابو عمر، یہ بھی حدیث کے راویوں میں سے ہیں۔ یوم الردوں میں ہفتے کے دن ۱۱۰ھ میں خلافت ہارون کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کی عمر ۸۱ سال تھی۔ ان کی بیوی عصیمہ بنت حسین بن علی جعفی تھیں۔ ان کے تین لڑکے تھے عمر ابان اور ابراہیم ان کی اولاد کوفہ میں جعفی میں آباد رہی۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا ساتواں طبقہ

ابوبکر بن عیاش رضی اللہ عنہ:

واصل بن حیان الاحدب الاسدی کے غلام۔ وہ اس طبقے سے پہلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ پہلے طبقے کے گزرنے کے بعد باقی رہے اور بڑی عمر پائی۔ حتیٰ کہ ان سے نئی کتابیں لکھی گئیں۔ یہ عابدوں میں سے تھے۔
 کعب کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن امام کے سلام پھیرنے کے بعد سے لے کر عصر تک ان کو دیکھتا رہا وہ نماز ہی پڑھتے رہے۔ میں اس شیخ کو اس نماز کی خصوصیت سے چالیس سال سے جانتا ہوں۔

یہ کوفہ میں ماہ جمادی الاولیٰ ۱۹۳ھ میں فوت ہوئے۔ اسی مہینے میں امیر المومنین ہارون کا انتقال ہوا۔ یہ ثقہ اور صدوق تھے علم حدیث کے جاننے والے تھے مگر غلطی بہت کر جایا کرتے تھے۔
سعیر بن الخمس رضی اللہ عنہ:

بنی عمرو بن سعد بن زید مناۃ بن تمیم میں سے۔ بڑا شریف آدمی تھا۔ ان کے چاروں طرف ان کے دوست و احباب کا مجمع لگا رہتا تھا۔ اور سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے تھے اہل سنت والجماعت میں سے تھے ان کے پاس چند احادیث تھیں۔
عبدالسلام بن حرب رضی اللہ عنہ:

طائی۔ کنیت ابوبکر۔ خلافت ہارون میں ۱۸۷ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔
 یہ علم حدیث میں ضعیف تھے۔

مطلب بن زیاد رضی اللہ عنہ:

ابن ابی زہیر القرشی۔ کنیت ابو محمد۔ وہ ثقیف میں رہتے تھے جابر بن سمرۃ السوائی کے غلام تھے۔ جابر قریش کے بنی زہرہ کے حلیف تھے اس لیے مطلب بن زیاد کو بھی قرشی کہا جاتا تھا۔ حدیث میں بہت ضعیف تھے۔ خلافت ہارون میں ۱۸۵ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

سیف بن ہارون رضی اللہ عنہ:

برجمی ہیں۔ بنی تمیم میں سے۔ ان سے روایت کی گئی ہے۔

سنان بن ہارون رضی اللہ عنہ:

یہ بھائی ہیں سیف کے۔ ان سے بھی روایت کی گئی ہے۔

عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہما:

ظنسی - کنیت ابو حفص - ایاد بن نزار بن معد کے غلام - خلافت ہارون میں ۱۸۵ھ میں کوفہ میں انتقال فرمایا - بوڑھے تھے - اور ثقہ تھے -

زفر بن الہذیل رضی اللہ عنہما:

عزبری ہیں - کنیت ابو الہذیل - انہوں نے حدیث سنی، مگر ان پر رائے کا غلبہ ہو گیا - ان کی وفات بصرہ میں ہوئی اور خالد ابن الحارث اور عبد الواحد بن زیاد کو وصیت کی - ان کا باپ ہذیل اصہبان میں تھے - ان کے بھائی صباح بن الہذیل بنی تمیم کا صدقہ وصول کرنے پر مقرر تھا - اور زفر علم حدیث میں کوئی شے نہیں -

عمار بن محمد رضی اللہ عنہما:

سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے بھانجے ہیں - محرم ۱۸۲ھ میں خلافت ہارون میں وفات پائی - ثقہ تھے - ان سے روایت کی گئی ہے -

علی بن مسہر رضی اللہ عنہما:

عائذہ قریش میں سے ہیں - کنیت ابو الحسن ہے - موصل کے قاضی رہے ہیں - ثقہ تھے بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں -

مسعود بن سعد رضی اللہ عنہما:

حصبی - ان سے بھی روایت کی گئی ہے -

عمر بن شیبیب رضی اللہ عنہما:

مدح کے مسلی ہیں - ان سے بھی روایت کی گئی ہے -

عمار بن سیف رضی اللہ عنہما:

ضعی دالیہ میں سے ہیں - سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے وصی - انہوں نے اپنی کتابیں ان کے پاس رکھی تھیں اور ان کو وصیت کی تھی

کہ جب میں مر جاؤں تو ان کو دفن کر دیں -

محمد بن الفضیل رضی اللہ عنہما:

ان غزو ان الضعی کے غلام - کنیت ابو عبد الرحمن ہے -

سلیم العبدی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن الفضیل رضی اللہ عنہما کو کہتے سنا ہے کہ میرے دادا اپنے غلام کے ساتھ قادسیہ میں

شریک ہوئے - میں نے پوچھا: غزو ان کن میں سے تھے؟ فرمایا: رومی تھے یہ کوفہ میں ۱۹۵ھ میں فوت ہوئے - وکیع بن الجراح

ان کے جنازے میں شریک ہوئے تھے ثقہ اور صدوق تھے - بہت سی حدیثوں کے راوی تھے - شیعہ تھے - بعضے ان کی احادیث کو

حجت نہیں سمجھتے -

عبداللہ بن ادریس رضی اللہ عنہما:

ابن یزید بن عبد الرحمن الاودی مدح سے - کنیت ابو محمد -

یہ خلافت ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں آخر خلافت ہارون کے دوران ۱۹۲ھ میں فوت ہوئے۔

ثقفہ تھے۔ حدیث و روایت کی غلطی سے محفوظ تھے۔ بہت سی احادیث کے راوی ہیں جو حجت کبھی جاتی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔

موسیٰ بن محمد رضی اللہ عنہما؛

انصاری ہیں۔ ان سے روایت کی گئی ہے۔

حفص بن غیاث رضی اللہ عنہ؛

ابن طلق بن معاویہ بن مالک بن الحارث بن ثعلبہ بن عامر بن ربیعہ ابن شہم بن ونبیل بن سعد بن مالک بن النخع مذبح سے۔

یہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت میں ۱۱۵ھ میں پیدا ہوئے۔ ابو عمر کنیت تھی۔ امیر المؤمنین ہارون نے ان کو بغداد کا قاضی بنا دیا تھا۔ پھر کوفہ کا قاضی بنایا۔ قضاء کوفہ پر ہی فائز رہے آخر شدید مرض میں مبتلا ہوئے اور خلافت ہارون میں ۱۹۲ھ میں فوت ہوئے۔ بڑے قابل اعتماد ثقہ تھے مگر تدریس کر دیتے تھے۔

ابراہیم بن حمید رضی اللہ عنہما؛

ابن عبد الرحمن الرواسی۔ کنیت ابو اسحاق۔ خلافت ہارون میں ۸۷ھ میں وفات پائی۔

قاسم بن مالک رضی اللہ عنہما؛

مزنی ہیں۔ کنیت ابو جعفر تھی۔ ثقہ تھے۔ صحیح احادیث کے راوی ہیں۔

عبد الرحمن بن عبد الملک رضی اللہ عنہما؛

ابن ابجر کنانی۔ خلافت ہارون میں ۱۸۱ھ میں انتقال فرمایا۔ انہوں نے بصرہ میں سفیان ثوری رضی اللہ عنہما کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی۔ بڑے نیک اور عالم و فاضل اور صاحب سنت تھے۔

عبدۃ بن سلیمان رضی اللہ عنہما؛

ابن حاجب بن زرارة بن عبد الرحمن بن صرد بن سمیر بن ہلیل ابن عبد اللہ بن ابی بکر بن کلاب صرد نے اسلام قبول کیا تھا اسی سے عبدۃ نے اسلام پایا۔ ان کی کنیت ابو محمد تھی اور اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کا لقب عبدۃ تھا۔ یہ لقب ہی اس کے نام پر غالب آ گیا خلافت ہارون میں ۳ رجب ۱۸۸ھ میں انتقال ہوا۔ ان کے جنازے کی نماز محمد بن ربیعہ کلابی نے پڑھائی۔ ثقہ تھے۔

ابو خالد الاحمر رضی اللہ عنہما؛

سلیمان بن حیان۔ بنی جعفر بن کلاب کے غلام۔ خلافت ہارون میں ماہ شوال ۱۸۹ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کئی

احادیث کے راوی ہیں۔

یحییٰ بن الیمان رضی اللہ عنہ:

بذات خود عجلی ہیں۔ کنیت ابو زکریا تھی۔ کوفہ میں خلافت ہارون کے دوران ماہ رجب ۱۸۹ھ میں وفات پائی۔ بہت حدیثیں روایت کیا کرتے تھے مگر غلطیاں بھی بہت کیا کرتے تھے اس لیے ان کو حجت و سنت میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔
ابوشہاب الحنات رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عبد ربہ بن نافع ہے۔

ثقفہ تھے بہت سی احادیث کے راوی ہیں۔

عبد اللہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ:

اجعی ہیں۔ ثقفہ تھے۔

علی بن غراب رضی اللہ عنہ:

ولید بن صخر الفرازی کے غلام۔ یہ وہ ہیں جن سے اسماعیل بن رجا حدیث اگمش روایت کرتے ہیں عثمان بن عوف کے بارے میں۔ کنیت ابو الحسن ہے۔ خلافت ہارون میں ۱۸۴ھ میں فوت ہوئے۔ اگرچہ یہ روایت میں سچے تھے مگر ان میں فہم و استعداد کا ضعف تھا یعقوب بن داؤدان کا ساتھی تھا۔ اس کو لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔

ابو مالک الجنبی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن ہاشم ہے۔ سچے تھے مگر بہت زیادہ غلطیاں کیا کرتے تھے۔

علی بن ہاشم رضی اللہ عنہ:

ابن البرید۔ خلافت ہارون میں ماہ رجب یا شعبان ۱۸۱ھ میں فوت ہوئے۔ سچے ہیں۔ صحیح احادیث روایت کرتے ہیں۔

عبد الرحمن بن محمد رضی اللہ عنہ:

مباربی۔ کنیت ابو محمد۔ خلافت ہارون میں ۱۹۵ھ میں وفات پائی۔ بوڑھے تھے۔ مگر غلطی بہت کرتے تھے۔

عثام بن علی رضی اللہ عنہ:

بنی الوحید میں سے۔ کنیت ابو علی ہے۔ خلافت ہارون میں ۱۹۵ھ میں فوت ہوئے ثقفہ تھے۔

ابومعاویہ الضری رضی اللہ عنہ:

ان کا نام محمد بن خازم ہے۔ بنی عمرو بن سعد بن زید مناۃ بن حمیر بن سعیر بن الحکم کے گروہ کے غلام ہیں۔ ثقفہ تھے۔ مگر حدیث

میں تدلیس کرتے تھے۔ عقیدہ مرجی تھے۔ کوفہ میں ۱۹۵ھ میں فوت ہوئے کعب لکن کے جنازے میں شریک نہیں ہوئے۔

عبد الرحمن بن سلیمان رضی اللہ عنہ:

داری۔ جائے پیدائش رے تھی۔ مگر کوفہ میں پرورش پائی۔ حدیث سنی۔ کنیت ابو علی تھی۔ کوفہ میں ہی ۱۸۴ھ میں وفات

پائی۔ بنی کنانہ کے غلام تھے۔

ان سے روایت کی گئی ہے۔

یحییٰ بن عبد الملک رضی اللہ عنہ:

ابن ابی عقیبہ - کنیت ابو زکریا - بنی سعد بن حمام میں رہتے تھے۔ خلافت ہارون میں ۱۸۷ھ میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ صحیح احادیث کے راوی ہیں۔

یحییٰ بن زکریا رضی اللہ عنہ:

ابن ابی زائدہ - کنیت ابو سعید - یہ مدائن کے قاضی تھے۔ وہیں خلافت ہارون میں ۱۸۳ھ میں وفات پائی۔ امیر المؤمنین ہارون ان سے فیصلے کرایا کرتے تھے۔ ثقہ تھے۔

اسباط بن محمد رضی اللہ عنہ:

قرشی - کنیت ابو محمد - خلافت عبداللہ المامون کے دوران ۲۰۰ھ میں وفات پائی۔ ثقہ اور صدوق تھے لیکن فن حدیث کے ان میں بعض ضعف ہیں۔ ان سے حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔

محمد بن بشر رضی اللہ عنہ:

ابن مرفصہ عبیدی - کنیت ابو عبداللہ - خلافت مامون میں کوفہ میں ۲۰۳ھ میں وفات پائی ماہ جمادی الاولیٰ میں۔ ثقہ تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

عبداللہ بن نمیر رضی اللہ عنہ:

ابن عبداللہ بن ابی حنیہ بن سرح بن سلمہ بن سعد بن الحکم ابن سلمان بن مالک -

کنیت ابو ہشام - ماہ ربیع الاول ۱۹۹ھ میں وفات پائی۔ محمد بن بشر عبیدی نے ان کے جنازے کی نماز پڑھائی۔ وہ ان کے دوست تھے۔ یہ خلافت مامون کا زمانہ تھا۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

وکیع بن الجراح رضی اللہ عنہ:

ابن یلیح بن عدی بن الفرس بن سفیان بن الحارث بن عمرو بن حمید بن رؤاس بن کلاب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کنیت ابو سفیان -

۱۹۷ھ میں حج کیا۔ جب حج سے لوٹے تو حالت احرام میں ہی فوت ہو گئے۔ یہ خلافت ہارون کا زمانہ تھا۔ ثقہ تھے۔ بڑے بلند مرتبہ عالم تھے۔ ان کی بہت سی حدیثیں مجت ہیں۔

ابو اسامہ رضی اللہ عنہ:

ان کا نام حماد بن اسامہ بن زید بن سلیمان بن زیاد ہے۔ یہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کے غلام حسن بن سعد کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ بعض کہتے ہیں ان کو زیاد نے آزاد کیا۔ یہ حسن بن سعد کی اولاد کے ساتھ ایک ہی محلے میں سکونت رکھتے تھے۔ ان کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ زید بن سلیمان نے کہا کہ ہم اور آپ برابر ہیں۔ وہ وہاں سے منتقل ہو گئے۔ حسن بن سعد کے لڑکے نے

دعویٰ کیا کہ وہ ہمارے غلام ہیں اس لیے لوگوں نے انہی کی طرف ان کو منسوب کر دیا۔ لیکن مجھے ابو اسامہ کے بیٹے اور ان لوگوں نے جو اصل حقیقت سے باخبر تھے خبر دی ہے کہ اس نے کچھ نہیں سنا۔

یہ خلافت مامون میں ۱۰۱۰ شوال ۲۰ھ میں کوفہ میں فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر ۸۰ سال تھی ان کے جنازے کی نماز محمد بن اسماعیل بن علی بن عبد اللہ بن عباس ہاشمی نے پڑھائی جب ان کا جنازہ لایا گیا تو لوگوں نے عمر میں بڑے ہونے اور بلند مرتبہ ہونے کے اعتبار سے انہی کو آگے کر دیا ان دنوں میں کوئی والی نہ تھا۔ یہ ثقہ تھے۔ اہل سنت و الجماعت میں سے تھے۔
حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ:

بنی تغلب میں سے۔ ابن الزور کار سے مشہور و معروف تھے۔ کنیت ابو علی تھی۔ عبد اللہ بن ادریس کے ساتھیوں میں سے تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ پھر ان کو حدیث بیان کرنے سے روک دیا گیا اس کے بعد مرتے دم تک انہوں نے کوئی حدیث بیان نہیں کی حالانکہ علم حدیث میں مشہور تھے۔
عقبہ بن خالد رضی اللہ عنہ:

سکونی۔ یہ روایت کرتے ہیں اعمش رضی اللہ عنہ، اسماعیل بن ابی خالد، عبد الملک بن ابی سلیمان، ہشام بن عروہ، عبید اللہ بن عمر اور موسیٰ ابن محمد بن ابراہیم سے روایت کرتے ہیں۔ خلافت ہارون میں ۱۸۸ھ میں وفات پائی۔
زیاد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن الطفیل بکتائی بنی عامر بن صعصعہ سے۔ کنیت ابو محمد انہوں نے منصور بن المعتمر، مغیرہ اعمش، اسماعیل بن ابی خالد اور کوفہ کے دیگر علماء سے حدیث سنی تھی۔ فرائض کا علم محمد بن سالم سے حاصل کیا تھا اور سنن و مغازی کا علم محمد بن اسحاق سے حاصل کیا تھا۔ بغداد میں جا کر علم حدیث اور علم فرائض کی تبلیغ و اشاعت کی پھر کوفہ کو لوٹ آئے اور خلافت ہارون میں ۱۸۳ھ میں وفات پائی۔ محدثین کے نزدیک یہ ضعیف تھے۔ حالانکہ ان سے حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔
احمد بن بشیر رضی اللہ عنہ:

ان کی کنیت ابا بکر ہے۔ بنی شیبان کے غلام ہیں۔

اعمش رضی اللہ عنہ، ہشام بن عروہ، اسماعیل بن ابی خالد اور عبد الملک بن ابی سلیمان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

جعفر بن عون رضی اللہ عنہ:

ابن جعفر بن عروہ بن حریت مخزومی۔ کنیت ابو عون۔ ۱۱۱ شعبان ۲۰ھ میں خلافت مامون میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔ کثیر

الحدیث ہیں۔

حسین بن علی رضی اللہ عنہ:

جعفی۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ اس کو اور اس کے بھائی محمد کو تو امین کہا جاتا تھا کیونکہ یہ دونوں تو ام پیدا ہوئے تھے محمد نے تو نکاح کیا اور اس کی اولاد بھی ہوئی۔ مگر حسین نے کبھی شادی نہیں کی۔ نہ اس کو کبھی خوشحالی میسر آئی۔ مسجد جعفی میں ستر سال اذان دیتے

رہے۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ بہترین قاری تھے۔ قرآن بہت ہی اچھا پڑھتے تھے۔ لوگ ان کا قرآن بڑے شوق سے سنتے تھے۔ یہ لیث بن ابی سلیم، موسیٰ الجعفی، اعمشؒ اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ سفیان بن عیینہؒ ان کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔

ایک ایسے شخص نے جس نے حسین کو دیکھا تھا مجھے خبر دی کہ ایک مرتبہ حسین مکہ میں حج کرنے آئے سفیان بن عیینہؒ سے بھی ملے ان کو سلام کیا۔ انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر چوم لیا۔ عبداللہ بن ادریس، ابواسامہ اور دیگر مشائخ کوفہ ان کی بڑی عزت کرتے، ان کے پاس آتے اور ان سے علم حدیث حاصل کرتے تھے۔

آپ کے پاس طالبان قرآن و حدیث کا جمگھٹا لگا رہتا تھا۔
کوفہ میں ماہ ذی القعدۃ ۲۰۳ھ میں خلافت مامون میں وفات پائی۔

عائذ بن حبیبؒ:

بیاض الہروی۔

کنیت ابواحمد۔ بنی عیس کے غلام۔ یہ عبید اللہ بن موسیٰ کے پڑوسی تھے ان کے گھر سے ان کا گھر ملا ہوا تھا۔ ثقہ تھے۔

یعلیٰ بن عبیدؒ:

ابن امیہ الطنافسی۔ کنیت ابو یوسف۔ ایاد کے غلام۔

یہ ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے الیہ میں پیدا ہوئے اور کوفہ میں ۵ ر شوال ۲۰۹ھ میں فوت ہوئے۔ یہ خلافت مامون کا زمانہ تھا۔ ثقہ تھے، بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

محمد بن عبیدؒ:

یہ یعلیٰ بن عبید کے بھائی ہیں۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ ہمیشہ بغداد میں رہے پھر کوفہ میں لوٹ آئے تھے اور وہیں فوت ہوئے۔ یہ یعلیٰ سے پہلے ۲۰۴ھ میں۔ خلافت مامون میں ثقہ تھے۔ کثیر احادیث ان سے مروی ہیں۔ اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔

عمران بن عیینہؒ:

سفیان بن عیینہ کے بھائی ہیں۔ کنیت ابواسحاق ہے۔ ۱۹۹ھ خلافت مامون میں وفات پائی۔ ابو حیان تمیمی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

یحییٰ بن سعیدؒ:

ابن ابان بن سعید بن العاص بن امیہ بن عبد شمس۔ کنیت ابو ایوب اعمشؒ، ہشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید اور اسماعیل بن ابی خالد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں مغازی محمد بن اسحاق سے روایت کرتے ہیں۔ بغداد میں آکر آباد ہو گئے تھے اور وہیں فوت ہوئے۔

عبد الملک بن سعید رضی اللہ عنہ؛

یہ بچی بن سعید کے بھائی ہیں۔

ادیب تھے۔ علم نجوم کے ماہر تھے اور تاریخ کا علم بھی رکھتے تھے۔

محاضر بن المورع رضی اللہ عنہ؛

ہمدانی پھر یامی۔ کنیت ابوالمورع۔ کندہ کے محلے میں رہتے تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہ اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے۔ صدوق تھے۔ حدیث سے منع کیا کرتے تھے اس کے بعد پھر حدیث بیان کرنے لگے۔ خلافت مامون میں ماہ شوال ۲۰ھ میں وفات پائی۔

حمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ؛

ابن حمید الرواسی۔ کنیت ابو عوف۔ وکیع بن الجراح کی مسجد کے امام تھے۔ اعمش رضی اللہ عنہ اور حسن بن صالح سے بہت سی روایتیں کرتے ہیں۔ کوفہ میں خلافت ہارون کے دوران ۸۷ھ میں فوت ہوئے ثقہ تھے۔ ان کے پاس بہت سی حدیثیں تھیں مگر لوگوں نے ان کی حدیثوں کو لکھا نہیں۔

محمد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ؛

کنیت ابو عبد اللہ۔ بغداد میں وفات پائی۔

ان سے روایت کی گئی ہے۔

سعید بن محمد رضی اللہ عنہ؛

ثقفی وراق۔ کنیت ابو الحسن۔ بغداد میں فوت ہوئے۔ ضعیف تھے۔ پھر بھی ان کی روایتیں لکھی گئیں۔

قران بن تمام رضی اللہ عنہ؛

اسدی۔ کنیت ابو تمام۔ بغداد میں آگے تھے اور وہیں فوت ہوئے۔ آپ کے پاس حدیثیں تھیں ان میں بعض ضعیف تھیں۔ جن کو محدثین نے ضعیف بتلایا ہے۔

یونس بن بکیر رضی اللہ عنہ؛

نبی شیبان کے غلام۔ کنیت ابو بکر۔ صاحب مغازی محمد بن اسحاق کے ساتھی ہیں۔ کوفہ میں خلافت مامون کے زمانہ ۱۹۹ھ میں فوت ہوئے۔

عبد الحمید بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ؛

حمانی۔ کنیت ابو یحییٰ۔

علم حدیث میں ضعیف تھے۔

ابن مختار عیسیٰ۔ کنیت ابو محمد۔ انہوں نے عیسیٰ بن عمرو اور علی بن صالح بن جی سے فن قرأت حاصل کیا، قاری تھے۔ اپنی مسجد میں خوش الحانی سے قرآن پڑھا کرتے تھے۔

اعمشؒ ہشام بن عروہ، اسماعیل بن ابی خالد، زکریا بن ابی زائدہ، عثمان بن الاسود اور محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ اور ان سے بھی روایت کرتے تھے جن سے اس زمانہ کے لوگ اسرائیل بن یونس بن ابی اسحاق سے روایت کرتے تھے۔

کوفہ میں بزمانہ خلافت مامون آخر ماہ شوال ۲۱۳ھ میں فوت ہوئے۔ ثقہ اور صدوق تھے کثیر احادیث کے راوی ہیں۔ شیعہ تھے۔ تنبیح کے بارے میں ضعیف اور منکر روایتیں کرتے ہیں اس لیے اکثر محدثین نے ان کو ضعیف بتلایا ہے۔ قاری تھے۔

ابو نعیم التمیمیؒ

فضل بن دکین بن حماد بن زہیر۔ آل طلحہ بن عبید اللہ حمی کے غلام۔

اعمشؒ زکریا بن ابی زائدہ، مسعر بن کدام اور جعفر بن ابی برقان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں، کوفہ میں ۳ شعبان ۲۱۹ھ میں وفات پائی۔

عبدوس بن کامل کہتے ہیں کہ ہم ماہ ربیع الاول ۲۱۶ھ میں کوفہ میں ایک دن ابی نعیم الفضل بن دکین کے پاس تھے ان کے پاس ابی الحاضر بن المورع آئے۔ ابو نعیم نے ان سے کہا میں نے گزشتہ رات آپ کے والد کو خواب میں دیکھا کہ انہوں نے مجھے ڈھائی درہم دیئے ہیں آپ اس کی کیا تعبیر سمجھتے ہیں؟ ہم نے کہا آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ ابو نعیم نے کہا کہ میں تو اس کی یہ تعبیر کرتا ہوں کہ میں ڈھائی دن یا ڈھائی ماہ یا ڈھائی سال اور جیوں گا۔ پھر اپنے آباؤ اجداد سے جاملوں گا (یعنی وفات پا جاؤں گا)۔

چنانچہ آپ نے کوفہ میں ۳ شعبان ۲۱۹ھ میں اس خواب کے پورے تین ماہ بعد انتقال فرمایا۔

مرنے سے ایک دن پہلے آپ نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر کلام کیا اور اپنے بیٹے عبدالرحمن کو وصیت کی رات کو آپ کا انتقال ہو گیا۔ صبح کو جنازہ اٹھا۔ لوگوں کو اس کا علم نہ ہوا۔ جیاناہ میں لے جائے گئے۔ آل جعفر بن ابی طالب میں سے ایک شخص آیا جس کو محمد بن داؤد کہا جاتا تھا عبدالرحمن بن ابی نعیم نے اس کو نماز پڑھانے کے لیے آگے کر دیا۔ اس نے نماز پڑھائی پھر کوفہ کا والی محمد بن عبدالرحمن بن عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی آئے اور ان کو ملامت کی کہ تم لوگوں نے مجھے ان کی وفات کی خبر نہ دی۔ پھر قبر سے الگ ہو کر انہوں نے ان کے ہمراہیوں اور لوگوں نے دوبارہ ان پر نماز پڑھی۔

یہ زمانہ خلافت معصم ابی اسحاق کا تھا۔ ثقہ تھے۔ کثیر احادیث کے راوی ہیں۔

محمد بن القاسم التمیمیؒ

اسدی۔ کنیت ابو ابراہیم۔

کناسہ میں گدھے اور اونٹ کی تجارت کیا کرتے تھے۔ امام اوزاعی وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ کوفہ میں وفات پائی۔

ان کے پاس احادیث تھیں۔
محمد بن عبدالاعلیٰ رضی اللہ عنہما:

ابن کناستہ اسدی۔

وہ ابراہیم بن ادھم زاہد کے بھانجے ہیں۔ اعش اور ہشام بن عروہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ عالم تھے عربی زبان کے۔ تاریخ اور شعر کا بھی علم رکھتے تھے خلافت مامون میں۔ کوفہ میں ۳ شوال ۲۰۹ھ میں وفات پائی۔
علی بن ظہیر رضی اللہ عنہما:

عمسی۔ کنیت ابو الحسن۔ شرقیہ بغداد کے قاضی رہے۔ پھر ہارون نے اپنے لشکر کا ان کو قاضی بنا دیا۔ لشکر جہاں ہوتا مسجد میں بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے۔ جب ہارون خراسان کی طرف متوجہ ہوا تو یہ بھی اس کے ہمراہ تھے۔ قرما سین میں ۱۹۲ھ میں ان کا انتقال ہوا۔

عبید اللہ بن عمرو اور ابن ابی لیلیٰ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا آٹھواں طبقہ

یحییٰ بن آدم رضی اللہ عنہ:

ابن سلیمان، کنیت ابو زکریا۔ خالد بن خالد بن عمارہ بن عقبہ بن ابی معیط کے غلام خلافت مامون کے دوران نصف ماہ ربیع الاول ۲۰۳ھ میں وفات پائی۔ ثقہ اور صدوق تھے سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کی بہت سی حدیثوں کے راوی ہیں۔

زید بن الحباب رضی اللہ عنہ:

عکلی کے غلام۔ کنیت ابو احسین۔ خلافت مامون کے زمانہ کوفہ میں ۲۰۳ھ میں وفات پائی۔

ابو احمد الزبیری رضی اللہ عنہ:

ان کا نام محمد بن عبداللہ بن الزبیر ہے۔ بنی اسد کے غلام۔ وہ فضل الرمائی کے بھتیجے تھے خلافت مامون۔ ماہ جمادی الاولیٰ ۲۰۳ھ ہوا میں وفات پائی۔ صدوق تھے اور کثیر الحدیث۔

ابوداؤد الحنفی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عمرو بن سعد ہے۔ ان کے والد مؤدب تھے۔ یہ بڑے عابد و بااخلاق تھے اور سفیان ثوری رضی اللہ عنہ کے اصحاب میں سے تھے۔

مامون کی خلافت کے دوران ماہ جمادی الآخر ۲۰۳ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

قبیصہ بن عقیقہ رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو عامر۔ بنی سوؤاقہ بن عامر بن صعصعہ میں سے ہیں۔ کوفہ میں بزمانہ خلافت مامون ماہ صفر ۲۱۵ھ میں وفات پائی۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ سفیان ثوری سے بہت سی حدیثیں روایت کرتے ہیں۔

عمرو بن محمد رضی اللہ عنہ:

عمقزی۔ عمقز کی تجارت کرتے تھے۔ آل زیاد بن ابی سفیان کے غلام تھے۔ ان کے پاس احادیث انبیاء تھیں۔ ابوداؤد حنفی کے پڑوسی تھے۔ حضرت اسمعیل کی مسجد میں جوان کے گھر سے قریب تھی نماز پڑھا کرتے تھے۔

معاویہ بن ہشام رضی اللہ عنہ:

قصار۔ بنی اسد کے غلام۔ کنیت ابو الحسن۔ کوفہ میں وفات پائی۔ صدوق تھے اور کثیر الحدیث۔

عبد العزیز بن ابان رضی اللہ عنہ:

قرشی۔ سعید بن العاص کے بیٹے۔ کنیت ابو خالد۔ واسطہ کے قاضی تھے۔ پھر ان کو قضاء سے معزول کر دیا گیا۔ بغداد میں آ کر آباد ہو گئے۔

خلافت مامون میں بدھ کے دن ۱۴ ماہ رجب ۲۰ھ میں بغداد میں وفات پائی۔ سفیان ثوری رضی اللہ عنہ سے بہت روایت کرتے تھے۔ غلط اور صحیح میں تمیز نہ کرتے تھے اس لیے ان کی حدیث کی روایت سے روک دیا گیا تھا۔

علی بن قادم رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو الحسن۔ خلافت مامون میں کوفہ میں ۲۱۳ھ میں فوت ہوئے۔ کثر شیعہ تھے۔ مکر حدیثیں روایت کرتے تھے۔

ثابت بن محمد رضی اللہ عنہ:

کنانی۔ کنیت ابو اسماعیل۔ عابد و زاہد تھے۔ مسخر بن کدام سے روایت کرتے ہیں۔ خلافت مامون میں۔ ماہ ذی الحجہ

۲۱۵ھ میں وفات پائی۔

ہشام بن المتقدم رضی اللہ عنہ اور ابو غسان رضی اللہ عنہ:

ان کا نام مالک بن اسماعیل بن زیاد بن درہم ہے۔ کلیب بن عامر النہدی کے غلام ہیں۔ بنی خزاعہ میں سے ایک۔ ابی غسان کی والدہ اسماعیل بن حماد بن ابی سلیمان کی بیٹی تھیں اور حماد بن ابی سلیمان اسماعیل بن ابی غسان کے خالو تھے۔

کوفہ میں خلافت ابی اسحاق معتمد کے دوران ماہ ربیع الاخر ۲۱۹ھ میں وفات پائی۔ ثقہ صدوق اور شدید قسم کے شیعہ تھے۔

احمد بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ:

ابن یونس۔ کنیت ابو عبد اللہ۔ بنی حمیم میں سے بنی ربیع کے غلام تھے۔ کوفہ میں جمعہ کے دن ۲۵ ماہ ربیع الآخر ۲۲۲ھ میں

وفات پائی۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ اہل سنت والجماعت میں سے تھے۔

طلق بن غنام رضی اللہ عنہ:

ابن طلق بن معاویہ بن مالک بن الحارث بن ثعلبہ بن عامر بن ربیعہ بن عامر بن شہم بن وہیل بن سعد بن مالک بن النخ

ندج سے۔ کنیت ابو محمد۔ یہ چچا زاد بھائی ہیں حفص بن غیاث قاضی کے محکمہ قضا میں کاتب تھے۔

یہ کہتے ہیں میرے دادا مالک بن الحارث جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے تھے اور میرے دادا طلق بن معاویہ خلافت ابی

العباس کے آخری دنوں میں ۱۰۴ھ میں پیدا ہوئے تھے۔

انہوں نے ماہ رجب ۲۱۱ھ میں وفات پائی۔ یہ خلافت مامون کا زمانہ تھا۔ ثقہ اور صدوق تھے۔ ان کے پاس احادیث تھیں۔

اسحاق بن منصور رضی اللہ عنہما:

سلولی اور ان کے غلام۔ مامون کی خلافت میں کوفہ میں ۲۰۵ھ میں فوت ہوئے۔

بکر بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن عبداللہ بن عیسیٰ بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ انصاری۔ حدیث عیسیٰ بن المختار بن عبداللہ بن ابی لیلیٰ سے سنی تھی۔ مصنف محمد بن عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ۔ انہی سے حدیث بیان کرتے تھے۔ یہ دس سال کوفہ کے قاضی رہے ہیں۔ پھر معزول کر دیئے گئے۔ بعد میں کوفہ ہی میں وفات پائی۔

خالد بن مخلد رضی اللہ عنہما:

قطالی۔ جو بخیلیہ کہا جاتا ہے۔ کنیت ابو الہیثم۔ ان کے پاس رجال مدینہ کی احادیث تھیں شیعہ تھے۔ خلافت مامون کے زمانے میں کوفہ میں ۱۵/ ۱۶ ماہ محرم ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔ تشیع کے بارے میں حدیثیں بیان کیا کرتے تھے۔ ضرورۃً ان سے حدیثیں لکھ لی گئیں۔

اسحاق بن منصور رضی اللہ عنہما:

ابن حیان بن الحصین بن مالک ابی الہیان اسدی کے بھتیجے ہیں۔ بڑے عالم و فاضل تھے شریک اور ابی الاحوص وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

سعید بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن ابان بن سعید بن العاص بن امیہ۔ سفیان وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

عنسہ بن سعید رضی اللہ عنہما:

ابن ابان بن سعید بن العاص بن سعید بن العاص۔ کنیت ابو خالد۔ ثقہ تھے۔ عبداللہ بن المبارک سے کثیر روایتیں کرتے ہیں۔

رباح بن خالد رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو علی ہے۔ زہیر، حسن بن صالح، قیس اور شریک سے روایت کرتے ہیں۔ کثیر الحدیث تھے۔ اس سے پہلے کہ ان کی حدیثیں لکھی جاتیں کوفہ میں وفات پا گئے۔

نوفل رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو مسعود ضعی۔ زہیر، ابی الاحوص، شریک اور ابن المبارک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان کی

حدیثیں لکھی جائیں کوفہ میں وفات پائی۔

عبدالرحیم بن عبدالرحمن رضی اللہ عنہما:

ابن محمد محارب بن کثیر ابو زیاد۔ زائدہ بن قدامہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ بزمانہ خلافت مامون کوفہ میں ماہ شعبان ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔ ثقہ اور صدوق تھے۔

ذکر یا بن عدی رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یحییٰ۔ بنی تیم اللہ کے غلام۔ خلافت مامون کے دوران بغداد میں ماہ جمادی الاخریٰ ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔ نیک اور سچے آدمی تھے۔

عبدالرحمن بن مصعب رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یزید۔ بڑے عابد و زاہد تھے۔ ان کے پاس کچھ احادیث تھیں۔

علی بن عبدالحمید رضی اللہ عنہما:

ازد سے۔ بڑے عالم و فاضل تھے۔ وہ عبدالرحمن ابن مصعب کے پچازاد بھائی ہیں۔ ان کے پاس بھی کچھ احادیث تھیں۔

عون بن سلام رضی اللہ عنہما:

قریش کے غلام۔ کنیت ابو محمد۔ اسرائیل زہیر اسباط ابن نصر، منصور بن ابی الاسود۔ اور عیسیٰ بن عبدالرحمن سلمیٰ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

سوید بن عمرو الکلی رضی اللہ عنہما اور یحییٰ بن یعلیٰ رضی اللہ عنہما:

ابن الحارث محارب بن کثیر۔ خلافت مامون میں کوفہ میں ۲۱۳ھ میں وفات پائی۔

عمرو بن حماد رضی اللہ عنہما:

ابن طلحہ قنارہ۔ کنیت ابو محمد۔ صاحب تفسیر ہیں۔ اس سلسلے میں اسباط بن نصر عن سدی سے روایت کرتے ہیں۔ کوفہ میں ماہ ربیع الاول ۲۲۲ھ میں وفات پائی۔ ان کا اصل وطن اصہبان تھا۔ ان کے دادا کوفہ میں آ گئے تھے۔ ہمدان کے والی تھے۔ شہار سوچ ہمدان میں آباد ہو گئے تھے۔ خلافت ابی اسحاق میں وفات پائی۔ ثقہ تھے۔

محمد بن الصلت رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو جعفر۔ بنی اسد بن خزیمہ کے غلام تھے۔

اسماعیل بن ابان رضی اللہ عنہما:

وراق۔ کنیت ابواسحاق۔ کندہ کے غلام تھے۔

حسن بن الربیع رضی اللہ عنہما:

کنیت ابوعلی۔ مطیر صاحب البواری کے بھائی تھے۔ یہ عبداللہ بن المبارک کے اصحاب میں سے تھے کوفہ میں ہفتے کے دن ماہ رمضان ۲۲۱ھ میں وفات پائی۔ یہ خلافت ابی اسحاق کا زمانہ تھا۔

عبدالحمید بن صالح رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو محمد۔ کوفہ میں بنی شیطان میں رہتے تھے۔ زہیر و حریم وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حسن بن بشر رضی اللہ عنہما:

ابن سلم بن المسیب بجلی۔ کنیت ابوعلی۔

احمد بن الفضل رضی اللہ عنہما:

قریش کے غلام ہیں۔ عمرو القفزی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلافت نامون میں ماہ ذی قعدہ ۲۱۵ھ میں وفات پائی۔ اسباط بن نصر سے روایت کرتے ہیں۔

عثمان بن حکیم رضی اللہ عنہما:

اودی۔ شریک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ ثقہ تھے۔

علی بن حکیم رضی اللہ عنہما:

اودی۔

کنیت ابو الحسن۔ شریک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

شہاب بن عباد رضی اللہ عنہما:

عبدی۔

ہفتہ کے دن ۲ ماہ جمادی الاولیٰ ۲۲۳ھ میں وفات پائی۔ یہ خلافت ابی اسحاق کا زمانہ تھا۔

یہتم بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما:

قریش میں سے ہیں۔ کنیت ابو محمد۔

یحییٰ بن عبدالحمید رضی اللہ عنہما:

ابن عبدالرحمن ہمدانی۔ کنیت ابو ذکریا۔ سامراہ میں ماہ رمضان ۲۳۰ھ میں وفات پائی۔

یوسف بن الہبلول رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یعقوب۔ بنی ابان بن دارم بنی تمیم میں سے ہیں۔ یہ صاحب مغازی ہیں۔
عبداللہ بن ادریس کے واسطے سے محمد بن اسحاق سے بھی روایت سنی تھی۔ خلافت مامون میں کوفہ میں ماہ ربیع الآخر ۲۱۸ھ
میں وفات پائی۔

سعید بن شریحیل رضی اللہ عنہما:

کندی۔ کنیت ابو عثمان۔ انہوں نے مصر میں آ کر ابن لہیعہ وغیرہ سے حدیثیں لکھیں۔

عثمان بن زفر رضی اللہ عنہما:

ابن الہذیل۔ کوفہ میں خلافت مامون کے زمانہ میں ماہ ربیع الآخر ۲۱۸ھ میں وفات پائی۔

یحییٰ بن بشر رضی اللہ عنہما:

ابن کثیر۔ کنیت ابو زکریا اسدی حریری۔ ان کا مکان مسجد سماک کے نزدیک تھا۔ تاجر تھے دمشق میں آ کر سعید بن عبد العزیز
سعید بن بشیر، معاویہ بن سلام اور یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث سنی۔ ہارون الواثق کی خلافت میں کوفہ میں ماہ جمادی الاولیٰ ۲۲۹ھ میں
فات پائی۔



تابعین رضی اللہ عنہم کا نوال طبقہ

اسماعیل بن موسیٰ رضی اللہ عنہما:

اسماعیل بن عبدالرحمن مدنی کی بیٹی کے لڑکے ہیں۔ کنیت ابو محمد۔ شریک بن عبداللہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حمدان بن محمد رضی اللہ عنہما:

سلیمان اصہبانی کے بیٹے۔ شریک وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔ کوفہ میں وفات پائی۔

مخاب بن الحارث رضی اللہ عنہما:

حسبی۔ کنیت ابو محمد۔ شریک اور علی بن مسہر وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

عثمان بن محمد رضی اللہ عنہما:

ابراہیم بن عثمان عسی کے بیٹے۔ کنیت ابوالحسن ولد ابی سعدہ۔ یہ عثمان ابی سعدہ سے روایت کرتے ہیں ابوسعدہ حضرت ابن

عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں اور عثمان شریک ابی الاحوص اور علی بن مسہر سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے جریر کی کتابیں

لکھی ہیں اسی مقصد کے لیے انہوں نے رے کا سفر کیا اور ان کی کتابیں سنیں۔

عبداللہ بن محمد رضی اللہ عنہما:

عثمان کے بھائی: ابی شیبہ کے بیٹے۔ کنیت ابو بکر۔ شریک، علی بن مسہر اور کوفین سے روایت کرتے ہیں۔ بصرہ کا سفر کیا اور

وہاں کے مشائخ سے حدیثیں حاصل کر کے لکھیں۔

احمد بن اسد رضی اللہ عنہما:

عاصم بن مغول بجلی کے بیٹے۔ یہ مالک بن مغول کی بیٹی کے لڑکے ہیں۔ کنیت ابو عاصم۔ خلافت ہارون واثق باللہ میں کوفہ

میں ماہ صفر ۲۲۹ھ میں وفات پائی۔

عمر بن حفص رضی اللہ عنہما:

غیاث مخفی کے بیٹے۔

خلافت ابی اسحاق معصم باللہ میں کوفہ میں ربیع الاول ۲۲۲ھ میں وفات پائی۔

ثابت بن موسیٰ رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو یزید۔ ہارون واثق باللہ کی خلافت میں کوفہ میں ۲۲۹ھ میں وفات پائی۔

محمد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ:

نمیر ہمدانی پھر خانی کے بیٹے۔ کنیت ابو عبد الرحمن ۲۳۲ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

ہارون بن اسحاق رضی اللہ عنہ:

ہمدانی۔

کنیت ابو القاسم۔

محمد بن العلاء رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو کریب۔ کوفہ میں مطبوعہ میں رہتے تھے۔ ابی اسامہ کے مکان کے قریب رہتے تھے۔

عبید بن بعیش رضی اللہ عنہ:

کنیت ابو محمد۔ خلافت ہارون بن ابی اسحاق کے دوران کوفہ میں ماہ رمضان ۲۳۹ھ میں وفات پائی۔

یوسف بن یعقوب رضی اللہ عنہ:

صفار۔ کنیت ابو یعقوب۔

لیث بن ہارون رضی اللہ عنہ:

عسلی۔ کنیت ابو عتبہ۔ زید بن الحباب ان کا غلام تھا۔ خلافت ہارون بن ابی اسحاق میں کوفہ میں ۲۲۸ھ میں وفات پائی۔

فروہ بن ابی المغراء رضی اللہ عنہ اور ابو ہشام الرقاعی رضی اللہ عنہ:

ان کا نام محمد بن یزید بن کثیر بن رفاعہ ہے، بنی عجل میں سے ہیں۔

ابو سعید الارش رضی اللہ عنہ:

ان کا نام عبداللہ بن سعید کنڈی ہے۔

سعید بن عمرو رضی اللہ عنہ:

اشعث بن قیس کنڈی کے لڑکے ہیں۔ کنیت ابو عثمان۔ ابی عوانہ اور عشر وغیرہ سے حدیث سنی یہ ثقہ صدوق اور مامون تھے۔

کوفہ میں خلافت ہارون بن ابی اسحاق کے دوران ۲۳۰ھ میں وفات پائی۔

جبارہ بن اممجلس رضی اللہ عنہ:

ماکی۔ بنی حمان کی مسجد کے امام تھے۔ حدیث و روایت میں ضعیف تھے۔

ضرار بن صرد رضی اللہ عنہ:

طمان۔ کنیت ابو نعیم۔ خلافت ہارون بن ابی اسحاق میں کوفہ میں ۱۵ رزی الحج ۲۲۹ھ میں وفات پائی۔

اسماعیل بن محمد رضی اللہ عنہ:

ابی الحکم ثقفی کے بیٹے۔ ولد مختار بن ابی عبید ثقفی۔ ان کے دادا ابو الحکم ہیں۔ اعمش رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

اسماعیل بن بہرام رضی اللہ عنہما:

اشجعی سے روایت کرتے ہیں۔

عبداللہ بن براد رضی اللہ عنہما:

اشعری ہیں۔ ولد ابی موسیٰ۔ کنیت ابو عامر۔ ۲۳۳ھ میں کوفہ میں وفات پائی۔

علاء بن عمر الحنفی رضی اللہ عنہما اور حسین بن عبدالاول رضی اللہ عنہما:

احول۔ کنیت ابو عبداللہ۔

یزید بن مہران رضی اللہ عنہما:

کنیت ابو خالد خباز۔ ابی بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں۔ کوفہ میں خلافت ہارون بن ابی اسحاق کے دوران ماہ شوال

۲۲۸ھ میں انتقال ہوا۔

مروان بن جعفر رضی اللہ عنہما:

ابن سعد بن سرۃ بن جندب القرازی۔ ابی بکر بن عیاش سے روایت کرتے ہیں۔

سروقی بن المرزبان رضی اللہ عنہما:

کندی۔ کنیت ابو سعید۔ یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ وغیرہ سے روایت کرتے ہیں۔

تمت بالخیر

